



فوائد القواد

ملفوظات سلطان المشايخ محبوب الهی زری زرخش
حضرت خواجہ نطفہ ام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ



فوائد الفوائد

ملفوظات سلطان المشائخ محبوب الہی نوری زرخش
حضرت خواجہ نطف ام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ

برصغیر میں مسلم تمدن، تہذیب و ثقافت کی صورت گری کرنے والی ایک
اہم اور عظیم المرتبت روحانی شخصیت کے ملفوظات، تعلیمات تصوف کی
دل میں اتر جانے والی تشریح، مُردہ قلب کے احیاء اور پراگندہ دلوں کی
آطہیر اور تزکیہ کا موثر ذریعہ ہے ایک انتہائی معتبر مجموعہ جسے اولیاء و
عارفین نے ہمیشہ عزیز جاں بنائے رکھا۔ روان سادہ اور سلیس ترجمہ۔

مترجم

حضرت امیر حسن بھٹو

مترجم

خواجہ حسن ثانی نظامی دہلوی

marfat.com

Marfat.com



جملہ حقوق بحق زاویہ فاؤنڈیشن محفوظ

زیر اہتمام

محمد رضا الدین صدیقی

زاویہ

8-C دربار مارکیٹ لاہور

(042)7113553-(0303)6410692

نوٹ:- اس کتاب کے جملہ محاصل زاویہ فاؤنڈیشن (رجسٹرڈ) کے علمی و تحقیقی مصارف کیلئے وقف ہیں۔

سال اشاعت	تعداد	حد یہ
2003ء	110۴	150

مرکز سٹریٹ

مکتبہ زاویہ

(۱) 10 مرکز الاولیٰ (سٹا ہوٹل) دربار مارکیٹ لاہور۔ فون 042-7117152

(۲) خالد ایجوکیشنل سنٹر ۴۴ اردو بازار لاہور۔ فون 042-7244157

marfat.com

Marfat.com

فہرست مضامین فوائد الغواد

مقدمہ پروفیسر نثار احمد فاروقی فریدی

پہلی جلد

(۳۴ مجلسیں۔ ۳ شعبان ۱۴۰۷ھ سے ۲۹ ذی الحجہ ۱۴۰۸ھ تک)

- پہلی مجلس۔
خواجہ حسن بجزیؒ کی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءؒ کی
خدمت میں حاضری۔ تجدید بیعت اور وظیفوں کی
تلقین۔ نائب اور متقی کا ذکر۔ مردان خدا کا خود کو پوشیدہ
رکھنا۔ مناجات خواجہ ابو الحسن نوری۔ حکایت (خواجہ)
حمید الدین سوائیؒ مشائخ کبار اور ابدال۔ حکایت حضرت
شیخ عبدالقادر جیلانیؒ۔ پیر کا ادب۔ حکایت خواجہ جنید
بغدادیؒ۔ تزکیہ۔ مرد کا کمال جد واجتہاد۔
دوسری مجلس۔
ملیح نامی غلام کی آزادی اور بیعت۔ خواجگی اور غلامی۔
غزنین کے پیر اور زیرک غلام کا ذکر۔ نیت دو گانہ ارادت
جو القی کی آمد۔ عام میں خاص بھی ہوتے ہیں۔ حکایت
حضرت بہاء الدین زکریاؒ۔ جو القیوں اور ایک بزرگ کا ذکر
نماز اور اوابین، روزہ ایام بیض، نماز چاشت، صلوٰۃ

الساعات

پانچویں مجلس۔ تراویح میں ختم قرآن کا ثواب۔ حکایت حضرت شیخ بہاء

الدین زکریا۔ ایک رکعت میں اور آغاز صبح سے طلوع تک ختم قرآن کا ذکر۔ حکایت قاضی حمید الدین ناگوری۔ دن میں سات سو بار ختم قرآن کا ذکر۔ طاعت مشائخ۔ فیض ایزدی کے ساتھ خود بھی جدوجہد کرنی چاہیے۔

چھٹی مجلس۔ ترک و تجرید اور حکایت خواجہ محمود پیٹھ "قناعت اور لالچ۔

حکایت شیخ علی "سلوک کی اصل اور خواجہ اجل کا ذکر۔ نماز و روزہ اور تسبیح و اور ادیگ کے مسالے ہیں۔ ترک دنیا کی تحقیق

ساتویں مجلس۔ آداب تصوف اور مشائخ کی اصطلاحات اور اشارات شیخ

جمال الدین، سطائی اور کوزہ لقمائی

آٹھویں مجلس۔ نماز و حضور امام و مقتدیاں۔ حکایت خواجہ حسن افغان۔

استغراق ذوق نماز۔ حکایت خواجہ کریم۔ دنیا اور اس کی لذتوں کا ترک

نویں مجلس۔ جو غیب سے ملے اچھا ہوتا ہے۔ صحبت کا اثر۔ ترک دنیا

دسویں مجلس۔ کھانا پیش کرنا اور روزے کو نہ پوچھنا

گیارہویں مجلس۔ نیک قدم آدمیوں کی برکت۔ جامع مسجد کے کنگوروں پر

آنے جانے والے بزرگ کی حکایت۔ اپنے احوال کو

چھپانے کی حکمت۔ حضرت خواجہ ابو سعید ابوالخیر کا ذکر۔

مرتبہ اصحاب صحو

بارہویں مجلس۔ قبول نفس۔ ترک اختیار۔ شیخ ابو سعید ابوالخیر کی حکایت۔

گھر اور وطن کی محبت کا ترک

- تیرہویں مجلس۔ طاعت اور طاعت لازمی اور طاعت متعدی
- چودھویں مجلس۔ ولایت اور ولایت۔ شیخ ابو سعید ابوالخیر کے انتقال اور ان کی ولایت شمس العارفین کو دینے کا ذکر۔ میر جمہو کی بیعت اور دوسرے مریدوں کا ذکر۔ حضرت شیخ نجیب الدین متوکلؒ کی حکایت۔ اصحاب نعمت کی مجلسیں
- پندرہویں مجلس۔ مردان غیب۔ حکایت شیخ شہاب الدین سروردیؒ۔ حکایت شیخ علیؒ۔ مردان غیب کا آواز دینا اور ملاقات کرنا
- سولہویں مجلس۔ سلوک کا ذکر۔ سالک اور وافق اور راجع۔ راہ سلوک کی لغزشیں۔ اعراض، حجاب، تقاضا، سلب مزید، سلب قدیم، تسلی عداوت
- سترہویں مجلس۔ کھانا کھلانے کی فضیلت۔ خواجہ علیؒ اور چنگیز خاں کی حکایت۔ خطرہ و عزیمت و فصل۔ حکایت شیخ ابو سعید ابوالخیرؒ۔ استقامت توبہ۔ حیدر زادہ کا ذکر۔ ذکر میرک گرامیؒ
- اٹھارہویں مجلس۔ روزے کا ذکر۔ صائم الدہر۔ بیان احادیث۔ داؤدی روزہ
- انیسویں مجلس۔ صلوٰۃ الخضر۔ سنت نمازوں میں سورتوں کا تعین
- بیسویں مجلس۔ صبر جمیل۔ حکیم بقراط کی حکایت۔ مجنوں کا ذکر۔ عورتوں کی صلاحیت کا ثمرہ۔ تذکرہ حضرت بی بی فاطمہؑ۔ پارساؤں کی فضیلت
- اکیسویں مجلس۔ شیخ ابو سعید ابوالخیرؒ کا شعر۔ احوال بیان کرنے میں مشائخ کا

طریقہ۔ فضیلت لیلۃ الرغائب۔ نماز خواجہ اولیس قرنی۔
 حکایت مولانا زین الدین۔ درازی عمر کی نماز۔ شیخ
 بدرالدین غزنوی کے انتقال کا ذکر

بائیسویں مجلس۔ کعبے اور اس کی عمارت کی خرابی کا ذکر۔ حدیث رسول
 ﷺ

تیسویں مجلس۔ مشائخ کی کتابیں پڑھنے اور عبادت و طاعت کی تلقین
 چوبیسویں مجلس۔ تلاوت قرآن اور مسجد میں شب بیداری و نماز پڑھنے

والے گروہ کا ذکر۔ دمشق کی جامع مسجد میں شیخ الاسلامی
 حاصل کرنے کے لئے عبادت کرنے والے شخص کا ذکر۔

پچیس سال روزے رکھنے والے نبی کا ذکر۔ اچھی نیت
 درویشوں کا اشتیاق رکھنے والے شخص کا ذکر۔ کچا اور پکا

پچیسویں مجلس۔ اعتقاد۔ پیر کے فرمان کی نگہداشت۔ خدمت پیر کے
 آداب۔ حکایت شیخ الاسلام فرید الدین۔ پیر کی خدمت

میں حضرت (محبوب الہی) کی ایک جرأت۔ پیر مرید کا
 مشاطہ ہوتا ہے

چھیسویں مجلس۔ طاعت کی کوشش۔ شیخ نجیب الدین متوکل کی حکایت
 بسلسلہ کتاب شیخ نجیب الدین متوکل کے مناقب۔ بخشش

کا ذکر۔ حدیث شریف
 ستاسویں مجلس۔ ایک دروازہ پکڑو اور مضبوط پکڑو۔ ایک دیوانے کی
 حکایت۔ کم کھانا۔ دعائے ماثورہ

اٹھائیسویں مجلس۔ حضرت کے ملفوظات جمع کرنے کا ذکر۔ حضرت خواجہ کے

شیخ الاسلام فرید الدینؒ سے بیعت ہونے اور دہشت کا قصہ۔ شیخ الاسلام کے ملفوظات لکھنے کا ذکر۔ میرے لکھے ہوئے فوائد کا مطالعہ۔ فضل و رحمت باری تعالیٰ۔ پیر کی بخشش اور مرید کی قابلیت کا ذکر

انتیسویں مجلس۔ حکایت شیخ حسینؒ ”حرب آبادی۔ اشعار حکیم سنائی۔ کشف و کرامت حجاب راہ ہیں

تیسویں مجلس۔ شیخ جلال الدین تبریزیؒ اور قاضی حمید الدین ناگوریؒ کا ذکر کہ وہ مرید کم کرتے تھے۔ کم مرید کرنا بزرگی کی کمی کی علامت نہیں ہے

اکتیسویں مجلس۔ سماع اور وجد۔ شیخ شہاب الدین سروردیؒ اور ان کے استغراق کا ذکر۔ لاہور کے مزارات کا ذکر۔ شیخ حسین زنجانی اور شیخ علی ہجویریؒ کا ذکر۔ نظم کا تذکرہ۔ نماز اشراق کی تلقین

تیسویں مجلس۔ پیر کی خدمت میں حاضری اور آداب مجلس کا ذکر۔ حکایت رسول علیہ السلام

تیسویں مجلس۔ تلاوت قرآن اور ترتیل۔ تلاوت اور سماع کی سعادت۔ صدقہ، ہمدقہ اور صدقہ۔ حکایت امیر المومنین ابو بکر صدیقؓ۔ صدق کا ذکر۔ تصدق کے معنی۔ کھانا کھلانے کی فضیلت۔ فقراء کے لین دین اور خرید و فروخت کا ذکر

چونتیسویں مجلس۔ حضرت ابراہیم ادھمؒ کے مناقب اور مراتب۔ اولیاء کی

کرامت۔ لقمے کی نگہداشت اور اس کا اثر۔ مجاہدے کا پھل۔ دنیا کا جمع خرچ۔ بیان حدیث۔ بعض مشائخ نقدی قبول نہیں کرتے۔ آدمی کسی سے کچھ نہ چاہے۔ انبیاء علیہم السلام

فوائد الفوائد کی دوسری جلد

(۳۸ مجلسیں۔ ۲۹ شوال ۱۴۰۹ھ تا ۱۳ شوال ۱۴۱۲ھ)

ویباچہ

- پہلی مجلس۔ خلق سے میل جول جوڑنا
 دو سری مجلس۔ پیر کی زیارت کو جانے والے مرید۔ حکایت شیخ بہاء الدین زکریا۔ شیخ زکریا کی بزرگی
 تیسری مجلس۔ طاعت و مشغول حق میں پابندی۔ مشغول بحق رہنے والے ایک بزرگ کی حکایت۔ کہیں بھی رہو کھرے رہو۔ ایک جگہ کا دوسری جگہ پر شرف
 چوتھی مجلس۔ ایک عزیز کے احوال۔ مولانا شہاب الدین خطیب ہانسوی کی حکایت۔ سماع اور اہل سماع۔ ایمان بانس
 پانچویں مجلس۔ کتب مشائخ۔ کشف المحجوب جویری۔ انتقال کے وقت ایمان کی علامت۔ سلامتی ایمان کی نماز صلوٰۃ البروج اور صلوٰۃ النور۔ بیان حدیث۔ اولیاء کی موت۔ حضرت احمد کا ذکر۔ جو القیوں کا تذکرہ۔ جنگ احد

- چھٹی مجلس۔ دولت جمع کرنے والوں کا ذکر۔ راحت روپے کے خرچ میں ہے
- ساتویں مجلس۔ قدم اصحاب ولایت۔ آسمان کی ارادی، طبعی اور قسری حرکت
- آٹھویں مجلس۔ شیخ الاسلام فرید الدین کی بیماری اور انتقال کا ذکر
- نویں مجلس۔ دعا شیخ فرید الدین عطار کا ذکر۔ صبر و رضا کا ذکر۔ قاضی حمید الدین ناگوری کی حکایت۔ توکل۔ حکایت شیخ جمال الدین خطیب ہانسوی۔ کھانا لانے کا ذکر۔
- دسویں مجلس۔ بزرگ مرد کی حکایات۔ دنیا کی بے سرو سامانی کا غم نہیں کرنا چاہیے۔
- گیارہویں مجلس۔ امیر عالم ولوالحی
- بارہویں مجلس۔ امیر عالم ولوالحی کی بزرگی
- تیرھویں مجلس۔ ماہ رجب کی فضیلت۔ نقل نماز۔ امام اعظم ابو حنیفہ
- چودھویں مجلس۔ استقرار توبہ
- پندرہویں مجلس۔ روزگار کی تنگی دور کرنے کی دعا
- سولہویں مجلس۔ تجدید بیعت۔ بیعت رضوان۔ حسن اعتقاد
- سترھویں مجلس۔ زیارت قبور
- اٹھارھویں مجلس۔ صاحب تفسیر ناصری کی حکایت۔ یاد حق میں مستغرق رہنے والوں کا ذکر۔ حضرت شیخ قطب الدین بختیار کی حکایت۔ دعا کا ذکر۔ مریدوں کے عقیدے کے بارے میں حکایت۔ مریدوں کا حسن اعتقاد

انیسویں مجلس۔ نظم و نثر۔ سماع کا ذکر

بیسویں مجلس۔ صدق ارادت

اکیسویں مجلس۔ درویشی جامع خیرات ہے۔ پردہ پوشی درویشی کی ایک

صفت ہے۔ مریدوں کے احوال پر پیر کی نظر۔ تلاوت

قرآن اور اس کے حفظ کی برکات۔ حدیث شریف۔

درویش صفت علماء کا ذکر۔ مولانا احمد کی حکایت مولانا

کیتھلی کی بزرگی کے بارے میں حکایتیں

بائیسویں مجلس۔ خواجہ شمس الملک کا تذکرہ

تیسویں مجلس۔ نظر اور جادو برحق ہیں۔ معجزہ اور کرامت۔ اطوار کا ذکر۔

معتزلہ کے قول کا ذکر۔ گناہگار تین باتوں میں اطاعت گزار

ہوتا ہے۔ اشعریہ مذہب۔ حضرت ابو حنیفہؒ کی حکایت۔

دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھو۔ حضرت خواجہ حسن

بھریؒ کی حکایت۔ تلاوت قرآن۔ مراتب قرآن

چوبیسویں مجلس۔ ترک دنیا۔ شیطان اور اس کے وسوسے اور اولاد آدم علیہ

السلام پر اس کا غلبہ

پچیسویں مجلس۔ قرآن شریف کی قال۔ شیخ بدر الدین غزنویؒ کی حکایت۔

شیخ الاسلام فرید الدینؒ کا ذکر

چھیسویں مجلس۔ فاتحہ۔ امام محمد غزالیؒ کا ذکر۔ حضرت شیخ شہاب الدین

سہروردیؒ کی کتاب عوارف۔ بزرگ اور صاحب نعمت

کی بات میں کچھ اور ہی لذت

ستائیسویں مجلس۔ ایک خواب کا ذکر۔ محمد نیشاپوریؒ کی حکایت

اٹھائیسویں مجلس۔ کھانا کھلانا

انتیسویں مجلس۔ کھانے کا ذکر۔ حضرت شیخ ابو سعید ابوالخیرؒ کی حکایت۔

شب معراج کا ذکر۔ بیعت کا طریقہ نہ جاننے والوں کی حکایت

تیسویں مجلس۔ خواب کا ذکر۔ مجلس کی حکایت۔ حضرت شیخ نجیب الدینؒ

کے احوال اور حضرت شیخ کبیر فرید الدینؒ کے مناقب۔

حضرت شیخ بدرالدین غزنویؒ کی حکایت۔ حضرت شیخ

قطب الدین بختیارؒ کی بزرگی کی حکایت۔ اولیاء کی رحلت

کا ذکر

اکتیسویں مجلس۔ عالم طریقت اور ان لوگوں کا ذکر جو یاد حق میں مستغرق

رہتے ہیں۔ اس گروہ کا تذکرہ جو بحث و تکرار میں لگا رہتا

ہے۔ شریف الدین تاجی متعلم کی حکایت۔ پیران راہ میں

سے ایک پیر کی حکایت۔ خواب اور اس کی تعبیر کا ذکر۔

حضرت ابن سیرینؒ اور ان کی تعبیروں کی حکایت۔ دنبل

اور نارو کی بیماری

تیسویں مجلس۔ ترک دنیا کی حکایت۔ تذکرہ حضرت خضر علیہ السلام۔ دنیا

اللہ تعالیٰ کی مبغوض ہے

تیسویں مجلس۔ مشائخ کی نوشتہ کتابوں کا ذکر۔ عین القضاہ حمدانی کا ذکر۔

حضرت شیخ کبیرؒ کی خدمت میں آنے والے ایک جوگی کا

تذکرہ۔ ترک دنیا

چونتیسویں مجلس۔ حضرت خواجہ عثمان حرب آبادی کی بزرگی کا ذکر۔ خلق

سے میل جول چھوڑنا۔ گھمنڈ اور دکھاوے کا روزہ رکھنے
والے

پیتیسویں مجلس۔ درویشوں کا جھگڑا اور اس حال میں ان کی اچھی گفتگو۔
تخل اور بردباری

چھتیسویں مجلس۔ دینی دوستوں کی محبت۔ اخوت کی دو قسمیں
سیتیسویں مجلس۔ نفل نماز۔ وہ نمازیں جو محافظت نفس کے لئے ادا کی جاتی
ہیں

اڑتیسویں مجلس۔ حدیث شریف کا بیان۔ مومن ہرگز نجس نہیں ہوتا۔
حضرت خواجہ نوحؒ کا ذکر۔ مسئلہ اس کے عالم سے پوچھنا
اچھا ہوتا ہے۔ ضیاء الدین نامی عالم کی حکایت

تیسری جلد

(۱۷ مجلسیں۔ از ۲۷ ذی القعدہ ۱۲۷۲ھ تا ۲۱ ذی الحجہ ۱۲۷۳ھ)

ویباچہ

پہلی مجلس۔ امت کے طبقات کا ذکر۔ مشغول حق۔ حضرت شیخ

ابوسعید ابوالخیرؒ کی حکایت

دوسری مجلس۔ خواجہ کی محفل کے اندر دھوپ میں بیٹھنے والوں کا ذکر۔

حضرت شیخ شاہی موئے تاب کا ذکر۔ ان کی بزرگی کے

بارے میں دوسری حکایت۔ انبیاء اور اولیاء کی عصمت کا

ذکر

marfat.com

Marfat.com

تیسری مجلس۔ قرآن یاد کرنے کی نیت سے فاتحہ۔ حضرت شیخ بدر الدین غزنویؒ کی حکایت۔ قدرت باری تعالیٰ۔ اصحاب کف کی حکایت

چوتھی مجلس۔ نوافل اور اوراد۔ حدیث شریف کا بیان بدگو کو معاف کرنا اور دشمنی نہ رکھنا۔ چھبوں کی حکایت۔ پانچویں مجلس۔

سماع میں مزامیر کی ممانعت۔ قاضی اجودھن کی حکایت۔ سماع میں سنے جانے والے اشعار کی تمہیل و تاویل۔ معجزات رسول ﷺ کا ذکر۔ اسم اعظم۔ کھانا نمک سے شروع کرنا۔ خواجہ شمس الملک کی حکایت

چھٹی مجلس۔ رسم مشائخ۔ ذکر حج۔ خدمت اور مراعات رضا کا ذکر۔ حسن معاملہ

ساتویں مجلس۔ باغ و زمین قبول نہ کرنے کا تذکرہ۔ سلطان غیاث الدین کی حکایت۔ حدیث شریف کا بیان۔ حضرت شیخ جلال

الدین تبریزیؒ کا ذکر۔ اوراد

آٹھویں مجلس۔ نظم اور تمہیلات غزل کا ذکر۔ حضرت شیخ الاسلام فرید

الدین اور حضرت شیخ بہاء الدینؒ کا ذکر۔ توکل۔ حضرت

ابراہیم خواص کی حکایت۔ کفن چور اور حضرت خواجہ

بایزید۔ سطایؒ کی حکایت۔ رزق کی چار قسمیں۔ رزق

مضمون۔ مقسوم۔ مملوک و موعود

نویں مجلس۔ باجماعت نماز کی فضیلت۔ سخی اور جواد کا فرق۔ حدیث

شریف کا بیان۔ زکوٰۃ کی تین قسمیں۔ حضرت مولانا رضی

الدین صنعائی کی بزرگی کا ذکر۔ ثرید کی دوسرے کھانوں پر
فضیلت

دسویں مجلس۔

جماعت کی نماز۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا
تذکرہ۔ تین عباد اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی
حکایت۔ حضرت شیخ قطب الدین اور رئیس نامی صاحب
کی حکایت۔ حضرت شیخ قطب الدین کی بزرگی

گیارہویں مجلس۔

تفسیر کشاف کا ذکر۔ الحمد کی تفسیر۔ صاحب تفسیر اور ان
کے عقیدے کا ذکر۔ مولانا صدر الدین قونیوی کا ذکر۔
کشاف اور ایجاز الازعمہ اور مفصل کا مطالعہ

بارہویں مجلس۔

ہود علیہ السلام کی قبر۔ مولانا برہان الدین کابلی کا ذکر
عدل و ظلم۔ مذہب اشعریہ۔ دنیا سے بے توبہ رخصت
ہونے والے مومن کا ذکر

تیرہویں مجلس۔

بشیر نامی غلام کی بیعت۔ حضرت شیخ علی جزئی کی خانقاہ میں
وارد ہونے والے بہاری درویش کی حکایت

چودھویں مجلس۔

خرچ کا ذکر۔ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل کا قول
کھانا کھاتے وقت مردان حق کی نیت

پندرہویں مجلس۔

سولہویں مجلس۔

درویش وہ ہے جو زمان و مکان کی قید سے نکل جائے۔
مولانا عماد الدین سنائی کی حکایت۔ حضرت شیخ جلال الدین
تبریزی کا ذکر۔ سماع کا ذکر۔ ہاجم اور غیر ہاجم سماع کی دو
قسمیں

سترہویں مجلس۔

چوتھی جلد

(۶۷ مجلسیں۔ از ۲۳ محرم ۱۴۱۲ھ تا ۲۳ رجب ۱۴۱۹ھ)

ویباچہ

پہلی مجلس۔ فوائد الفوائد کی پہلی جلد کی پیش کش۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور احادیث کی روایت۔ صحابہ رسول ﷺ کا ذکر۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مناقب۔ موافقت صحابہ کی حکایت

دوسری مجلس۔ ایک درویش کی حکایت۔ لاہور کی خرابی کی حکایت کرامت کا دعویٰ کرنے والے گروہ کا ذکر۔ خدمت کرنے کا ذکر۔ میزبان کو چاہیے کہ مہمان کے ہاتھ خود دھلائے۔ حضرت امام شافعیؒ کی حکایت۔ دعوت اور مہمانوں کی خاطر داری کھانا کھلانے کا ذکر۔ حوض سلطان کے میٹھے پانی اور اس کی برکتوں کا ذکر

چوتھی مجلس۔ آخری چہار شنبہ۔ بعض لوگوں کے تغیر مزاج کا ذکر۔ بادشاہوں کے مزاج کا تغیر۔ حدیث شریف کا بیان۔ قبچہ اور حضرت شیخ بہاء الدین زکریاؒ کی حکایت۔ پیر کے محب اور معتقد کا ذکر۔ اولیاء پر انبیاء کی فضیلت۔ بنی اسرائیل کے ایک زاہد کی حکایت

بیسویں مجلس۔ سورہ اخلاص کی فضیلت۔ ختم قرآن۔ حدیث رسول علیہ

السلام۔ غائبانہ نماز جنازہ۔ حضرت شیخ جلال الدین تبریزیؒ کی حکایت۔ متحیر رہنے والی جماعت کی حکایت۔ انتقال کے وقت شیخ الاسلام حضرت قطب الدین بختیارؒ کے تحیر کی حکایت

اکیسویں مجلس۔ مشائخ سے خلقت کی رغبت کا ذکر۔ حضرت شیخ فرید الدینؒ کی حکایت۔ حسن خلق اور تواضع۔ عمرو عاص کی حکایت

بائیسویں مجلس۔ پیر کی طرف سے معافی۔ مرید کو پیر کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ معافی اور کئے ہوئے جرم کو ناکرہ سمجھنے کے سلسلے میں حکایت۔ پیر کے حکم اور مرید کی طرف سے اس کی تعمیل کی حکایت۔ حضرت شیخ الاسلام فرید الدینؒ کا ذکر اور حضرت خواجہ کے دہلی آنے کا قصہ۔ حضرت شیخ الاسلام فرید الدینؒ کے ذوق سماع کی حکایت۔ حضرت شیخ قطب الدین بختیارؒ اور حضرت شیخ جلال الدین تبریزیؒ کی ملاقات کا ذکر

تیسویں مجلس نماز عید کا ذکر۔ استخارے کی نماز

چوبیسویں مجلس۔ مخدوم کی خدمت میں ٹیکٹ بچے کو دعا کے لئے پیش کیا گیا۔ رسول اللہ ﷺ کی حدیث۔ ایک قوم ہے جسے زنجیروں سے چکڑ کر بہشت میں لیجائیں گے۔

پچیسویں مجلس۔ قناعت اور دنیا طلب کرنے میں غلو نہ کرنا

پھیسویں مجلس۔ جماعت خانے میں چھری کے ساتھ پکڑے جانے والے

کی حکایت۔ حضرت شیخ الاسلام فرید الدینؒ کی حکایت۔

مولانا حسام الدین نیسہ شمس العارفین کی حکایت

ستائیسویں مجلس۔ قرآن اور اس کے حفظ کی برکت۔ قاری شادی کی حکایت

اٹھائیسویں مجلس۔ کمزور اعتقاد اور ایسے لوگوں کا ذکر جو کعبے کی زیارت کو

جاتے ہیں اور واپس آکر دنیا کے دھندوں میں لگ جاتے

ہیں۔ حج کو وہ جائے جس کا پیر نہ ہو

انتیسویں مجلس۔ حضرت رسالت ماب ﷺ کی حکایت۔ محمد گوالیوریؒ کا

تذکرہ۔ آداب مریدان۔ علیؑ کی حکایت

تیسویں مجلس۔ مخدوم کے خاص مریدوں کو عام مجموعوں میں مزاحم نہیں

ہونا چاہئے۔ مولانا برہان الدینؒ کی حکایت۔ مخدوم کی

خدمت میں مخلوق کا سرزمین پر رکھنا۔ ایک بزرگ

زادے کی حکایت۔ ایک لڑکے اور مولانا شہاب الدینؒ کی

حکایت

اکتیسویں مجلس۔ دنبل اور نارو کا دفعیہ۔ سرمنڈانے کا فائدہ ایک اعرابی

(عرب بدو) کی حکایت

بیسویں مجلس۔ رسول اللہ ﷺ کی حدیث۔ شمس دبیر کی حکایت۔ نماز

تراویح۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر کا شیخ کبیر قدس سرہ کی

خدمت میں قرآن پڑھنا

تیسویں مجلس۔ تراویح۔ امام اعظم ابو حنیفہؒ کوئی کی حکایت

چونتیسویں مجلس۔ رسول اللہ ﷺ کی حدیث۔ حضرت مولانا علاء الدین

اصولی کے مناقب۔ ایک عالم اور بحث میں ان کے انصاف پیش نظر رکھنے کا ذکر۔ معنوی ذوق۔ مولانا ملک یار کا ذکر

چیتیسویں مجلس۔ صدقہ اور مروت اور وقایت کا ذکر۔ لشکر میں قرآن شریف کی حفاظت، سلطان محمود کی حکایت۔ جہاں آدمی مرے وہیں دفن کر دینا چاہیے۔ خوش اعتقاد بادشاہوں اور نیک امراء کا ذکر۔ حکماء کی حکایت۔ فاراب حکیم۔ نام رکھنے کی حکایت۔ رسول اللہ ﷺ نے بہت نام بدل دیئے۔ لوگوں کے مزاج میں تغیر کا ذکر۔ حضرت خواجہ شاہی موئے تاب کی حکایت

چھتیسویں مجلس۔ ان کے بھائی حضرت خواجہ ابوبکر موئے تاب کا ذکر۔ حضرت شیخ احمد نسرانی کا ذکر۔ بدایوں کے درویشوں کا تذکرہ۔ حضرت خواجہ شاہی موئے تاب کی ایک حکایت۔ بدایوں کے کوتوال خواجہ عزیز کی حکایت۔ مشلخ کے اقوال۔ اظہار کرامت نہیں کرنا چاہئے۔ ایک درویش اور شیخ علی شوریدہ کی حکایت

سیتیسویں مجلس۔ آیت اکلہا دائم کا بیان۔ ایک بچے کی تختی لکھی۔ ایک درویش اور پینچے ہوئے دیوانے کی حکایت

اڑتیسویں مجلس۔ یاروں کے احوال کی رعایت۔ حضرت ابراہیم خواص کی حکایت۔ حضرت خواجہ ذکر اللہ بالخیر کی بیماری کا قصہ۔ شرفاسات۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ حضرت

- انتالیسویں مجلس۔ حضرت شیخ شہاب الدین سروردیؒ اور حضرت شیخ جلال الدین تبریزیؒ کی حکایت۔ حضرت شیخ ابو سعید تبریزیؒ کا ذکر۔ حضرت شیخ شہاب الدینؒ کی وفات
- چالیسویں مجلس۔ شعر کا ذکر۔ مخدوم کی خدمت میں ایک ہندو کی آمد۔ حضرت عمر خطابؓ اور بادشاہ۔ عراق کی حکایت۔ اسلام اور مسلمانوں میں صدق و دیانت
- اکتالیسویں مجلس۔ بیٹیوں کا ذکر۔ ابو البنات مرزوق۔ روزے نماز کا ذکر۔ حضرت شیخ فرید الدینؒ اور حضرت شیخ بہاء الدین زکریاؒ کا ذکر
- بیالیسویں مجلس۔ بچوں سے محبت کا ذکر۔ رسول علیہ السلام کی حکایت۔ حضرت امیر المومنین عمرؓ کی حکایت
- تینتالیسویں مجلس۔ بغداد کی حکایت۔ اولیائے حق اور ان کا کمال محبت۔ محبت اور قرب حق تعالیٰ
- چوالیسویں مجلس۔ فضیلت علم۔ حضرت عاصم کے اوصاف علم۔ حضرت شیخ الاسلام فرید الدینؒ کا نعمت پا کر واپس ہانسی جانا
- پینتالیسویں مجلس۔ مریدوں کے حسن عقیدہ اور پیر کے احکام کا دھیان رکھنے کا ذکر۔ حضرت قاضی حمید الدین ناگوریؒ کے نبیے حضرت مولانا شرف الدینؒ کی حکایت
- چھیالیسویں مجلس۔ دنیا کی محبت اور عداوت کا ذکر۔ لوگوں کی تین قسمیں۔ حضرت رابعہؒ کا ذکر۔ شیخ صوفی بدھنی کی حکایت۔ لسان

حال کے بغیر لسانِ قال مؤثر نہیں ہوتی۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردیؒ کی حکایت۔ حضرت شیخ الاسلام فرید الدینؒ کے خرقے کی حکایت۔ دنیا کے جمع خرچ کا ذکر۔ حضرت مولانا نور ترکؒ کا ذکر۔ درویشوں کے مکارم اخلاق۔ حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیرؒ اور بوعلی سینا کی ملاقات کی حکایت۔ قاضی منہاج الدین کی حکایت۔ حضرت شیخ نظام الدینؒ ابوالموئید کے وعظ اور بزرگی کا ذکر

سینتالیسویں مجلس۔ نماز کا ذکر

اڑتالیسویں مجلس۔ درویشوں کی دست بوسی کا ذکر۔ درویشوں کے منہ سے نکلی ہوئی بات کا تذکرہ۔ مردانِ حق کی حکایت۔ برہان کاشانی کا تذکرہ

انچاسویں مجلس۔ حضرت خواجہ اویس قرنیؒ کی بتائی ہوئی نمازیں۔ حق تعالیٰ کے ناموں کا ورد۔ مشائخ کے احوال کا ذکر۔ حضرت خواجہ بایزید سہامیؒ۔ رسول اللہ ﷺ کے احوال۔ فقر اور خرقے کا ذکر۔ شب معراج میں حضرت مصطفیٰ ﷺ کو عطا کیا گیا خرقہ فقر۔ حضرت امیر المؤمنین علیؑ کے مناقب اور ان کے انصاف اور سخاوت کا ذکر۔ حضرت خواجہ خیر نساج کی حکایت۔

پچاسویں مجلس۔ رسول اللہ ﷺ کی حدیث۔ بال بچوں میں پھنسے ہوئے درویشوں کا ذکر۔ صبر کی تین قسمیں

اکیاونویں مجلس۔ حضرت مولانا نور ترکؒ کا تذکرہ۔ تعویذ لکھنے اور دینے کی

حکایت۔ بزرگوں کا ہاتھ سے چھو لینا بھی معنی رکھتا ہے
جو بھی مسکین مخدوم کی خدمت میں آتا کچھ نہ کچھ ضرور
پاؤنویں مجلس۔

پاتا اسراف اور حد اسراف۔ حدیث شریف کا ذکر۔ ہمت
کا ذکر۔ صدقہ فطر کا بیان۔ بیح کی خرید کر وہ ایک بچہ
لونڈی کی حکایت۔ حضرت مولانا علاء الدین اصولی کی
حکایت۔ طاعت کا بیان۔ سعادت کے قفل کی بہت سی
کنجیاں ہیں

ترپنویں مجلس۔ احتیاط وضو۔ نماز اور اس میں حضوری کا ذکر۔ حضرت شیخ
الاسلام فرید الدین کی حکایت

چونویں مجلس۔ نوکر پیشہ اور کاروبار میں مصروف لوگ۔ خواجہ حمید کی
حکایت

پچپنویں مجلس۔ استقرار توبہ اور استقامت بیعت۔ حضرت خواجہ کے شیخ
الاسلام فرید الدین سے مرید ہونے اور واپس آنے کی
حکایت۔ حضرت خواجہ حمید کی حکایت

چھپنویں مجلس۔ ایام بیض کے روزے۔ رسول اللہ ﷺ کی حدیث

ابوالیاس کے سلسلے میں گفتگو

اٹھاونویں مجلس۔ کھانے کا ذکر۔ رسول اللہ ﷺ کی احادیث۔ حضرت

ابراہیم علیہ السلام کی حکایت۔ سعید قریشی اور شرف پیادہ
کی حکایت۔ معراج شریف کا ذکر۔

انسٹھویں مجلس۔ بدایوں کے اطراف مدفون بزرگ حضرت قاضی جمال
ملتان کا ذکر

ساتھویں مجلس۔ روزے کی فضیلت۔ رسول اللہ ﷺ کی احادیث۔ صبر کا

بیان۔ اصبروا الصابروا اقلوا القاتل۔ رسول اللہ ﷺ کے

وعدہ فرمانے کا ذکر

اکٹھویں مجلس۔ عصمت اور توبہ کا بیان۔ پیرہری کا قول۔ توبہ اور تقویٰ۔

دو آدمیوں کے درمیان مباحثے کا ذکر۔ دنیا اور اس پر

مغرور ہونے والوں کی حکایت۔ مالدار لوگوں اور ان کی

مال سے محبت کا ذکر۔ عطا کرنے والا خدا (ہی) ہے۔

سلطان شمس الدین کی حکایت۔ ترک دنیا۔ شیخ الاسلام

فرید الدین کی حکایت۔ ترک دنیا کی مناسبت سے گفتگو

باٹھویں مجلس۔ شاعری سے رغبت رکھنے والے بادشاہوں کی حکایت۔

سلطان شمس الدین اور ناصر شاعر

ترہسٹھویں مجلس۔ روزہ اور سحری کا بیان۔ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی۔

پاک چیزوں کا ذکر

پینسٹھویں مجلس۔ حج اور زیارت کعبہ کا ذکر۔ لاہور کے ایک واعظ کی حکایت

چھیاٹھویں مجلس۔ پیری مریدی کے آداب۔ پیر کو مرید سے کوئی لالچ نہیں

رکھنا چاہئے۔ حضرت مخدوم کی خدمت میں مریدوں کا

سرزمین پر رکھنا۔ حضرت شیخ ابوالخیر کی حکایت۔ ان

درویشوں کا ذکر جن کے لئے حضرت شیخ الاسلام

فرید الدین نے خلافت کا حکم فرمایا۔ عارف کی حکایت

سڑسٹھویں مجلس۔ گھمنڈیوں کا اور ان لوگوں کا ذکر جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے

ہیں۔ فرزدق اور حضرت خواجہ حسن بھری کی حکایت۔

(قبر جتنی خستہ اور پرانی ہو رحمت کی امید بھی اتنی ہی ہوتی ہے۔ ان لوگوں کی حکایت جو بزرگوں اور پیروں کے پائنتی دفن کی جگہ چاہتے ہیں۔ مولانا سراج الدین ترمذی کی حکایت

پانچویں جلد فوائد الفواد

(۳۲ مجلسیں۔ از ۲۱ شعبان ۱۹۷۱ء تا ۲۰ شعبان ۱۹۷۲ء)

ویباچہ

علم اور علماء سے محبت۔ توبہ جوانی میں اچھی معلوم ہوتی پہلی مجلس۔

ہے۔ آوارہ گانے والی اور ایک توبہ کرنے والے کا ذکر۔

حضرت رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال فصاحت کا بیان

خبروں کے بارے میں دریافت فرمایا۔ حضرت شیخ بہاء دوسری مجلس۔

الدین زکریا اور ان کی بندگی کی حکایت۔ حضرت شیخ بہاء

الدین زکریا کے انتقال کا ذکر۔ حضرت شیخ سیف الدین

باخرزی اور ان کے انتقال کا حال

مخدوم زادہ نظام الدین کی حکایت۔ حضرت شیخ بہاء الدین تیسری مجلس۔

زکریا کی حکایت ان کی اعلیٰ عظمت شہس۔ ترک دنیا کا ذکر۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکایت

قرآن مجید کی قرات 'ورد' وظیفے کا نامہ سوت کے برابر چوتھی مجلس۔

ہے۔ ورد کی پابندی کا ذکر۔ مسبغات عشر کی فضیلت۔

قاضی جلال الدین جعفری "کا ذکر۔ ابراہیم تیمی" پانچویں مجلس۔
رنج و مشقت کا ذکر۔ حضرت عائشہؓ کی مناجات۔
بزرگوں کی خدمت میں کون سی نذر پیش کرنا بہتر ہے۔
ایک دوسرے کو عیب لگانا۔ سماع کا ذکر۔ دشمنی درویشوں
کی صفت نہیں ہے

چھٹی مجلس۔
مقررہ طاعت نہ کرنے والوں کا ذکر۔ ایک بزرگ کی
حکایت جو پیٹ کی بیماری میں مبتلا تھے۔ بیماری بھلائی کی
دلیل ہے۔ اعرابی (بدو) کا قصہ۔ فقیروں اور بیماروں کا
درجہ

ساتویں مجلس
درویشوں کا تکبیر پڑھنا۔ رسول اللہ ﷺ کی حدیث۔
ذکر صبر

آٹھویں مجلس۔
سلام اور اس کا جواب۔ حضرت شیخ بہاء الدین زکریاؒ کی
حکایت۔ پیر کے لئے مرید کا پکا اعتقاد۔ رسول اللہ ﷺ
کی حکایت۔ حضرت شیخ شبلیؒ کی حکایت۔ نماز جمعہ۔
سلطان غیاث الدین بلبن کی حکایت۔ جمعے کی پابندی
نماز اور بسم اللہ۔ نفس مشائخ اور ان کی دعائیں۔ محمد شاہ
غوری کی حکایت

نویں مجلس۔
دسویں مجلس۔
پانی پینے کے بارے میں حدیث شریف۔ احادیث کا بیان۔
حدیث شریف کی فضیلت۔ حضرت مولانا رضی الدین
نیشاپوریؒ کی حکایت۔ تسلیم و رضا

گیارہویں مجلس۔ توبہ کے بعد غلطی کا امکان۔ قمر نام کی گلے والی اور ہمدان

- کے ملک کا قصہ
- بارہویں مجلس۔ حضرت قاضی قطب الدین کاشانیؒ کا علم و دیانت۔ چھری بنانے والے بزرگ کی حکایت۔ حضرت شیخ جلال الدین تہریزیؒ کی حکایت۔ فقراء جب تک عرش کا دیدار نہ کر لیں نماز نہیں پڑھتے
- تیرہویں مجلس۔ تحمل۔ خلقت کے معاملات کی تین قسمیں
- چودہویں مجلس۔ کون سے نام اچھے ہیں؟
- پندرہویں مجلس۔ محبت کا اثر۔ سفیر نامی طالب علم کی حکایت۔ قبر اور کفن پر قرآن مجید لکھنا
- سولہویں مجلس۔ حضرت مولانا برہان الدین بلخیؒ کی بزرگی۔ سماع کا ذکر۔ حضرت قاضی حمید الدین ناگوریؒ و حضرت قاضی حمید الدین مارہلیؒ کی حکایت
- سترہویں مجلس۔ اولیائے حق اور لوگوں سے ان کے کھرے معاملات اور اس کا ثمرہ۔ ابوالعباس قصاب کی حکایت
- اٹھارویں مجلس۔ سیدوں کا ذکر۔ صاحب کتاب نافع کی حکایت۔ بدایوں کے ایک سید صاحب کا ذکر۔ شاعلم درویشوں کی حکایت۔ درویشوں کا ذوق شوق اور سالکوں کا غلبہ اشتیاق۔ عشق میں مشورت نہیں ہے
- انیسویں مجلس۔ کشف و کرامت۔ حضرت بی بی فاطمہؑ سام کا تذکرہ
- بیسویں مجلس۔ سماع کے نکات۔ سمع و مسموع و سمع اور آلہ سماع
- اکیسویں مجلس۔ درویشوں کے اخلاق اور دشمنوں سے ان کا برتاؤ۔ ایک

بادشاہ اور حضرت سیف الدین باخرزی کی حکایت۔ خیر و شر کا بیان۔ حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر کی حکایت

نعمت رویت کا ذکر

بائیسویں مجلس۔

حضرت امیر المومنین عمرؓ کی حکایت اور مہابت۔ شعر کی حکایت

تیسویں مجلس۔

حسد کا ذکر۔ حسد اور غبطہ

چوبیسویں مجلس۔

حیدر زادہ کے احوال۔ حضرت شیخ قطب الدین بختیار۔

پچیسویں مجلس۔

حضرت شیخ محمود مومینہ دوز کی حکایت۔ حضرت شیخ

الاسلام فرید الدین کی حکایت۔ حضرت خواجہ فرید الدین

عطار کی حکایت۔ خواجہ حکیم سنائی کی حکایت۔ حضرت

شیخ سیف الدین باخرزی کا قول

قاضی منہاج سراج اور ان کے وعظ کا ذکر۔ اولیاء ابدال

بھیسویں مجلس۔

اور اوتاد۔ ولایت کی دو قسمیں۔ ولایت ایمان اور ولایت

احسان

ستائیسویں مجلس۔ سیدی احمد کا تذکرہ

اٹھائیسویں مجلس۔ درویشوں کا حسن اخلاق۔ حضرت شیخ احمد نہروانی کی

حکایت

حضرت کی خدمت میں لایا گیا ایک آسیب زدہ بچہ۔ ایک

انتیسویں مجلس۔

بچے کی حکایت جس کو پرہیز ستاتی تھیں۔ حضرت شیخ

سیف الدین باخرزی اور شیخ نجم الدین کبریٰ کی حکایت

حضرت شیخ ابوالحق گازرانی اور حضرت شیخ عبداللہ خفیف

تیسویں مجلس۔

کی حکایت۔ حضرت شیخ احمد معشوق کی حکایت
 اکتیسویں مجلس۔ حضرت شیخ نظام الدین ابوالمؤید کی بزرگی کے بارے میں
 حکایات
 تیسویں مجلس۔ شیخ احمد محمد معشوق کا تذکرہ

مقدمہ

مقدمہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

اے تو روز و شب جہان روشن بر رخت چشم عاشقان روشن
بحدیث تو کام دل شیرین بجمال تو چشم جان روشن
سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس اللہ سرہ العزیز کی ذات
گرامی ہندوستان کی روحانی اور تہذیبی تاریخ میں ایک ایسی جامع کمالات شخصیت ہے کہ ایسی
دلاویز ہستیاں تاریخ بشریت میں خال خال ہی پیدا ہوئی ہیں۔ آپ ایک صوفی باصفا ہی نہیں تھے
جس نے تصوف اسلامی کی تمام خوبیوں کو اپنی سیرت کے آئینے میں دکھا دیا بلکہ ایک نکتہ رس
فقیہ، محدث، مفسر، محقق اور ادبیات عربی و فارسی کے تبحر عالم، شاعر اور تاریخ و سیر پر گہری نظر
رکھنے والے نہایت وسیع المطالعہ اور باخبر انسان تھے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ان کی
مبارک زندگی کی بہت سی تفصیلات تاریخ میں محفوظ رہ گئیں اور ان کے خدام و خلفاء کی
بدولت دوسرے بزرگان سلسلہ کے حالات و ملفوظات بھی آج کی نسل تک پہنچ گئے۔

حالات زندگی: حضرت نظام الدین اولیاءؒ کے دادا خواجہ علی بخاریؒ اور نانا خواجہ

عربؒ بخاری وسط ایشیاء میں بخارا کے رہنے والے تھے، اس علاقے پر

منگولوں کا تسلط ہونے کے بعد بہت سے خاندان ہجرت کر گئے تھے (۱) اور اکثر ہندوستان کا رخ

marfat.com

Marfat.com

کرتے تھے کیونکہ یہاں نسبتاً ایک مضبوط اور پر امن ماحول تھا، ان دونوں بزرگوں کا پیشہ تجارت تھا، اور آپس میں گہری برادرانہ دوستی تھی، ممکن ہے نسبی علاقہ بھی رہا ہو۔ بعض تذکرہ نگاروں نے دونوں کو بھائی بتایا ہے، ہجرت کے بعد یہ دونوں پہلے لاہور آئے، مگر یہ بھی سرحدی علاقہ تھا، اور یہاں آئے دن یورش ہوتی رہتی تھی اس لئے وہاں سے نقل سکونت کر کے مغربی یوپی کے شہر بدایوں میں آئے جو اس وقت نہایت اہم شہر تھا اور صوبہ کا صدر مقام بنا ہوا تھا، یہاں مسلمانوں کی آبادی خوب ہو چکی تھی اور یہ ”قتبہ الاسلام“ کہلاتا تھا۔

خواجہ عرب کے ایک فرزند خواجہ عبداللہ اور ایک بیٹی بی بی زینبؑ تھیں اور خواجہ علی کے بیٹے خواجہ احمد تھے، بی بی زینبؑ انہیں سے منسوب ہوئیں، اور ان کے بطن سے ہمارے حضرت نظام الدینؒ کی ولادت ہوئی جن کا اصلی نام محمد بن احمد ہے۔ آپ کی ولادت سے قبل ہی آپ کے والد ماجد سخت بیمار ہوئے اور آپ کی والدہ محترمہ نے خواب دیکھا کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے کہ یہ بچہ قطب ارشاد ہو گا اور اس سے بہت سی مخلوق فائدہ اٹھائے گی، مگر اپنے شوہر اور بچے سے کسی ایک کو اختیار کر لو (۲)۔ بی بی صاحبہ کو حضرت کے مراتب دکھا دیئے گئے تھے۔ اس لئے انہوں نے فرمایا کہ میں اس بچے ہی کو اختیار کرتی ہوں۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اب ان کے شوہر خواجہ احمد کے دنیا سے کوچ کرنے کا زمانہ قریب آ گیا ہے، اس لئے بیماری میں ان کو پرہیز بھی زیادہ نہیں کراتی تھیں، اور جو کچھ وہ کھانے کے لئے طلب فرماتے وہ ان کو دیتی تھیں، کچھ ہی مدت کے بعد، اور مولف قوام العقائد کا بیان ہے کہ اگلے دن ہی خواجہ احمد کا انتقال ہو گیا (۳)۔ پروفیسر محمد حبیب نے لکھا ہے کہ ”بی بی زینبؑ کے خواب کے بیان کی ذمہ داری کلیتاً مصنف سیر الاولیاء پر ہے۔ یہ بیان بے لطف تکلیف وہ اور بے سند ہے۔ کسی عورت سے یہ کہنا کہ اپنے شوہر اور بیٹے کی زندگی میں کسی ایک کو چننا اس پر ظلم ہے۔ دوم اگر بی بی زینبؑ نے اپنے خواب کے بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہا تو ایک صدی کے بعد امیر خرد کو اس کے بارے میں کس طرح علم ہوا؟ یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ اگر ان خاتون بزرگ سے یہ سوال کیا گیا ہوتا تو وہ اپنے بیٹے کے فلسفہ زندگی کے مطابق جواب دیتیں کہ اس معاملے کا تعلق مشیت ایزدی اور امور غیبی سے ہے۔ میں خدا کے حکم پر راضی ہوں۔“ (محمد حبیب حضرت نظام الدین اولیاء حیات اور تعلیمات صفحہ ۷۴ حاشیہ)

مگر اس بیان کی ذمہ داری مولف سیر اولیاء پر نہیں ہے، قوام العقائد کے حوالے سے

جو کچھ ہم نے لکھا ہے وہ سیر الاولیاء سے بھی قدیم تر بیان ہے، اس کے علاوہ خود حضرت نظام الدین نے فرمایا:

”میری والدہ کا بارگاہ خداوندی میں بڑا رسوخ تھا، جب کوئی کام آپ کو درپیش ہوتا اس کو خواب میں دیکھ لیتیں اور اس کی بابت آپ کو اختیار دیا جاتا، اور جس طرح آپ پسند کرتیں اسی کے موافق ظہور ہوتا۔ جب میں شیرخوار بچہ تھا میری والدہ نے مجھ کو اختیار کیا اور انہی ایام میں والد صاحب بیمار ہوئے، والدہ ان کو کھانے پینے کی ہر ایک چیز کھلاتیں اور کسی چیز کا پرہیز نہ کراتیں، اور فرماتیں کہ چند روز کے مسمان ہیں، آخر ایسا ہی ہوا اور میں نے یہ حکایت اپنی بڑی بہن سے سنی ہے۔“ (محمود بن جاندار: ذریر نظامی صفحہ ۲۶۱۔ اردو ترجمہ دہلی ۱۹۶۵ء)

حضرت کا نام محمد رکھا گیا تھا۔ لقب نظام الدین کے بارے میں حضرت برہان الدین غریب (متوفی ۵۷۳۵ھ / ۱۱۳۳ء) نے فرمایا: ”ہمارے خواجہ نظام الدین ایک دن بدایوں میں اپنے گھر میں بیٹھے تھے، کسی شخص نے آپ کے سامنے آکر آواز دی: مولانا نظام الدین! حضرت نے سوچا کہ میرا لقب تو نظام نہیں ہے، اور اس گھر میں کوئی دو سرا نظام الدین بھی نہیں ہے، پھر یہ کسے پکار رہا ہے؟ اس کے بعد جب آپ گھر سے باہر نکلے تو جو بھی ملتا تھا وہ نظام الدین کہہ کر خطاب کرتا تھا، اس دن سے نظام الدین ہمارے خواجہ کا لقب ہو گیا۔ جو لقب کسی کاروانج ہو جائے وہ (نہی اشارے سے) دیا ہوا ہوتا ہے، اور کبھی نہیں بدلتا، جو لوگ اپنی رائے سے ملک الاولیاء یا قطب المشرق جیسے القاب اختیار کر لیتے ہیں، وہ چل نہیں پاتے۔ (غاس الاغاس قلمی ”نسخة ندوة العلماء لکھنؤ“ لمخوط ۱۰ محرم ۷۳۳ھ)

بعد کے زمانے میں آپ کا لقب نظام الدین والملت نظام الاولیاء ہوا اور آخری ترکیب میں صرف لفظ اولیاء آپ کے اسم گرامی کا جزو بن کر رہ گیا۔

حضرت کے خاندان کے بارے میں قدیم اور ہم عصر ماخذوں میں کوئی واضح بیان نہیں ہے۔ سب سے قدیم اور اہم ماخذ سیر الاولیاء بھی اس بارے میں خاموش ہے (چرخی لال ایڈیشن مطبع محب ہند ۳۰۲ صفحہ ۱۰۳-۱۰۵) اس میں جو شجرہ خاندان دیا ہوا ہے (ص ۱۰۶) وہ

درگاہ سلطان المشائخ کے ایک پیرا زادے برکت اللہ نوری نے اضافہ کر دیا ہے، اور اس کے بارے میں کہا ہے کہ ”از بزرگان خود بند رسیدہ“ لیکن اس سند کی نوعیت اس سے زیادہ بیان نہیں کی۔ مولانا عبدالرحمان جامی (متوفی ۸۹۸ھ / ۹۳ / ۱۲۹۲ء) نے اپنی تالیف نجات الانس (تالیف ۸۸۰ھ / ۱۳۷۵ء) میں آپ کو خالدی لکھا ہے۔ اس کتاب کا ایک بہت قدیم اور مستند قلمی نسخہ درویش قاسم اودھی کے ہاتھ کا لکھا ہوا، حضرت خواجہ حسن نظامی کے کتب خانے میں موجود ہے، اس میں بھی اسی طرح درج ہے۔ قطعیت کے ساتھ یہ کہنا مشکل ہے کہ نسبت خالدی کس طرف راجع ہے۔

ولادت — آپ کی ولادت کامہینہ اور دن تو قطعیت کے ساتھ معلوم ہے کہ ماہ صفر کے آخری چار شنبے کو ولادت ہوئی۔ اس کی جانب خود حضرت نے بھی ایک ملفوظ میں اشارہ فرمایا ہے (فوائد الفواد جلد چہارم مجلس چہارم) اکثر تذکرہ نگاروں نے ۶۳۶ھ / ۱۲۳۸ء کو سال ولادت مانا ہے، (تکملہ سیر الاولیاء صفحہ ۲۳۰) بعض نے صفر ۶۳۴ھ / اکتوبر ۱۲۳۶ء لکھا ہے۔ (انوار المجالس قلمی ورق ۷۰ الف) احسن القصص (قلمی) میں اس طرح درج ہے:

”وقت طلوع آفتاب روز آخرین چہار شنبہ ماہ صفر ستہ اثنا و ثلاثین و

ستماہ (۶۳۶ھ / ۱۲۳۴ء) عقیدہ جمع ستہ اربع و ثلاثین و ستماہ“

اگر ۶۳۶ھ کو ہم درست مانیں تو آخری چہار شنبہ ۲۳ صفر ۶۳۶ھ کو واقع ہوا تھا اور یہ اکتوبر ۱۲۳۸ء کے مطابق ہوتا ہے۔

ابتدائی تعلیم — آپ کی ابتدائی تعلیم کا زمانہ بچپن میں ہی گزرا اور آپ کی والدہ ماجدہ نے تربیت فرمائی۔ پہلے حضرت نے قرآن کریم ناظرہ پڑھا پھر صرف و نحو کی ابتدائی کتابیں محلے کی مسجد میں پڑھیں، اوسط درجے کی کتابوں کا درس آپ نے شہر کے ممتاز علماء سے لیا، ان میں سب سے نمایاں شخصیت حضرت علاء الدین اصولی کی ہے، یہ غالباً اصول فقہ کے ماہر تھے اس لئے اصولی کہلاتے ہیں۔ ان کی دوسری کتابوں کے علاوہ فقہ کی کتاب ”قدوری (۴)“ کا درس بھی لیا۔ جب قدوری ختم ہوئی تو مولانا اصولی نے فرمایا کہ اب تمہیں بڑی دستار باندھنی چاہئے۔ اس زمانے میں حضرت کے مالی حالات اچھے نہ تھے، تنگی

ترشی سے گزر ہوتی تھی، کمانے والا کوئی نہ تھا، خود ابھی زیر تعلیم تھے، اور گھر میں والدہ کے علاوہ ایک بہن اور ان کے بچوں کی ذمہ داری بھی تھی۔ حضرت نے اپنی والدہ سے دستار کے لئے عرض کیا، والدہ نے بازار سے روئی منگوائی اور اسے خود چرنے پر کاتا۔ آدمی روئی اپنی کینر سے کتوائی پھر محلے میں ہی ایک نورباف کو دستار بننے کے لئے وہ سوت دیا، اس نے دو تین دن میں دستار تیار کر دی۔ حضرت وہ دستار اور ”چہل خوردہ“ (شاید چالیس چھوٹے سکے) لے کر استاد کی خدمت میں حاضر ہوئے، مولانا اصولی نے کچھ سکے اپنے پاس سے اضافہ کئے، کھانا پکایا گیا، اور مولانا نے اس موقع پر علی مولانا نامی ایک بزرگ کو بھی مدعو کیا۔ اس وقت بدایوں میں دو علی مولانا تھے ایک خرد اور دوسرے بزرگ کہلاتے تھے۔ علی مولانا بزرگ نفس گیرا رکھتے تھے، (یعنی جو ان کی زبان سے نکلتا تھا وہی وقوع میں آتا تھا) کھانے سے فارغ ہوئے تو مولانا اصولی کی دستار کھولی اور حضرت نظام الدین سے فرمایا: لو دستار باندھو، حضرت دستار بندھواتے ہوئے ہر بار مولانا کے قدموں میں سر رکھ دیتے تھے۔ یہ حال دیکھ کر علی مولانا بزرگ نے ہندوی زبان میں کہا: ”ارے مولانا یہ بڑا ہوسی“ (یعنی ارے مولانا یہ بڑا آدمی بنے گا) پھر مکرر فرمایا ”بہت بڑا ہوسی“ مولانا علاء الدین اصولی نے پوچھا: یہ آپ کس بات سے سمجھتے ہیں؟ فرمایا: میں نے اس میں دو باتیں دیکھی ہیں، ایک تو (ہندوی ہی میں کہا) ”جو منڈا سا باندھے سو پائین نہ پسرے (۵)“ دوسرے انہوں نے فرمایا کہ اس کی دستار ریشم کی نہیں دھوتر کی ہے، تو یہ بزرگ بنے گا“ (خیر الجالس)

بدایوں ہی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ کی عمر کوئی بارہ سال ہوگی اور ”علم لغت“ کی تحصیل کر رہے تھے، ایک شخص جس کا نام ابو بکر خراط تھا اور اسے ابو بکر قوال بھی کہتے تھے آپ کے استاد کی خدمت میں آیا یہ غالباً ملتان کی طرف سے آ رہا تھا، اس نے بیان کیا کہ میں نے حضرت بہاء الدین ملتانی کو سماع سنایا ہے، اور ایک بار ان کے سامنے یہ اشعار گائے ہیں:

بکل صبح و کل اشراق تبکیک عینی بد مع مشاق
لقد لست جتہ الہوی کبدی فلا طیب لھا و لا راق (۶)

پھر حضرت زکریا ملتانی کی خانقاہ کا حال بیان کیا کہ وہاں ذکر ایسے ہوتا ہے، عبادت یوں کرتے ہیں، اور ادایسے پڑھے جاتے ہیں۔ ان کے گھر کی باندیاں بھی آٹا پیستے وقت ذکر کرتی

رہتی ہیں، اسی طرح کی بہت سی باتیں اس نے کہیں، مگر حضرت فرماتے ہیں کہ ان باتوں نے میرے دل میں اثر نہ کیا۔ پھر ابو بکر قوال نے کہا کہ وہ ملتان سے اجودھن گیا، وہاں ایک ایسے درویش کو دیکھا اور اس نے حضرت بابا صاحبؒ کے مناقب بیان کئے جنہیں سن کر حضرت کے دل میں محبت و ارادت پیدا ہوئی اور خدمت میں حاضری کا اشتیاق ہوا۔ رفتہ رفتہ یہ کیفیت ایسی ہو گئی کہ آپ ہر نماز کے بعد دس بار ”شیخ فرید الدین“ اور دس بار ”مولانا فرید الدین“ بطور ورد پڑھنے لگے اور پھر آپ کے سب دوستوں کو بھی اس محبت کا اندازہ ہو گیا۔ جب وہ حضرت کو قسم دلانا چاہتے تو کہتے تھے: ”اچھا شیخ فرید کی قسم کھاؤ (۷)“

یہ اوائل عمر میں حضرت بابا صاحبؒ کے نام سے پہلا تعارت تھا، جو آگے چل کر ایک سردی رشتے میں تبدیل ہو گیا۔ اس کی کچھ جھلکیاں آئندہ سطروں میں بھی آئیں گی۔ یہاں مختصراً یہ عرض کر دوں کہ حضرت بابا فرید گنج شکرؒ حضرت خواجہ بختیار کاکیؒ اور حضرت خواجہ معین الدین اجمیر قدس اللہ اسرارہم کے حالات و ملفوظات جو کچھ ہمیں معلوم ہیں وہ بڑی حد تک حضرت نظام الدین اولیاءؒ اور ان کے صفائش مریدین و خلفاء ہی کی بدولت ہیں ورنہ ہم اپنی ثقافتی تاریخ کے اس روحانی پہلو سے یکسر بے خبر رہ جاتے۔ صرف یہی ایک احسان اتنا بڑا ہے جس کا شکریہ ادا کرنا تو کیا پورا اعتراف کرنا بھی ممکن نہیں۔

بدایوں میں حضرت نظام الدین اولیاءؒ نے اپنی مجلسوں میں جن کا حال آپ کے ملفوظات سے ”نوائد القواد“ میں قلمبند ہوا ہے، اپنے وطن بدایوں کا تذکرہ بڑی محبت سے کیا ہے وہاں کے ابتدائی دور کے بزرگوں کے بارے میں بھی ہماری معلومات صرف وہی ہیں جو حضرت کے ملفوظات سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس وقت بدایوں میں ایسے علماء، صلحاء، اولیاء اللہ، شعراء اور دوسرے ماہرین فن جمع تھے کہ ہندوستان کا دوسرا کوئی شہر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اچھے اچھے خاندان وہاں جا کر بس گئے تھے، اور اولیاء اللہ نے بھی اپنے مسکن کے لئے اسی شہر کا انتخاب کیا تھا، جو قبتہ الاسلام کہلاتا تھا، یہاں بلند مرتبہ چشتی مشائخ بھی تھے، اور سروردی سلسلے کی نمایاں شخصیات بھی اسی مدینہ الاولیاء کی زینت تھیں۔ ان میں سے صرف انہی چند علماء اور بزرگوں کا تذکرہ کریں گے جن کا حوالہ حضرت کے ملفوظات میں بھی ملتا ہے یا حضرت کی سوانح عمری میں ان کے نام آتے ہیں۔ ان میں سے کچھ

بزرگ وہ ہیں جن کا حال ہمیں اور کسی ماخذ میں نہیں ملتا، مثلاً حضرت ہی کے بیان سے معلوم ہوا کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے ایک بھائی بدایوں میں رہتے تھے اور شیخ نجیب الدین متوکل اپنے بھائی سے ملنے کے لئے ہر سال بدایوں تشریف لے جاتے تھے۔ قیاس یہ ہے کہ خود بابا صاحب نے بھی بدایوں کا سفر کیا ہو گا، ان کا اودھ میں پالا موتی تک جانا تو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے۔

حضرت نظام الدین نے ایک واقعہ بیان کیا کہ بدایوں میں حضرت شیخ نجیب الدین متوکل اپنے بھائی کے ساتھ ایک بزرگ شیخ علی سے ملنے گئے تھے۔

ایسے ہی غیر معروف اولیاء اللہ میں ایک علی مکی تھے جو حضرت بابا فرید کے مرید تھے انہوں نے یہ دعائی تھی کہ انہیں گناہی کے عالم میں موت نصیب ہو۔ ایک بار وہ بدایوں کی طرف آرہے تھے، راستے میں بیمار ہوئے اور بجلانہ کے مقام پر انتقال کیا، جہاں انہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہیں مدفون ہوئے (۸)۔

ایک اور روایت کا حضرت نے ذکر کیا جو بارہ مہینے روزہ رکھتے تھے اور ان کا معمول یہ تھا کہ نماز شام کے بعد اپنے گھر کی دہلیز پر بیٹھ جاتے تھے اور راگبیروں کو اپنے گھر میں بلا کر ان کے ساتھ روزہ افطار کرتے تھے (۹)۔

ایک مجلس میں مردان غیب کا ذکر ہو رہا تھا تو حضرت نے فرمایا کہ بدایوں میں ایک جوان نصیر نامی تھا اس نے مجھے بتایا کہ اس کے والد واصلان خدا میں سے تھے، ایک رات کسی نے انہیں دروازے پر آواز دے کر بلایا، وہ باہر گئے اور ہم نے اندر سے علیک سلیک کی آواز سنی اور یہ سنا کہ ہمارے باپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بیوی بچوں سے رخصت ہوں، مگر بلانے والوں نے کہا کہ بالکل فرصت نہیں ہے اس کے بعد کچھ پتا نہیں چلا کہ وہ لوگ میرے والد کو لے کر کہاں گئے (۱۰)۔ مردان غیب کا تذکرہ حضرت بابا صاحب کے چھوٹے فرزند خواجہ محمد یعقوب کے حال میں بھی ملتا ہے کہ انہیں امر وہہ کے قریب مردان غیب نے اچک لیا تھا: ”در اثناے راہ قصبہ امر وہہ آن بزرگ زاہد را مردان غیب بر بودند و غائب کردند (۱۱)“ (ثمرات القدس قلمی ورق ۷۹ اب)

میرا خیال ہے کہ یہ ٹھگوں اور راہزنوں کے طبقے کے پیشہ ور لوگ تھے جو اس طرح کی کاروائیاں کرتے تھے اور سیدھے سادھے مسلمان اسے ”مردان غیب“ کی ملاقات سمجھ لیتے

تھے۔

بدایوں کی ممتاز دینی اور علمی شخصیتوں میں کچھ وہ بزرگ ہیں جو حضرت نظام الدینؒ کی ولادت سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، اور حضرتؒ نے ان کے واقعات اپنے بچپن میں سنے تھے، کچھ وہ حضرات ہیں جو حضرت کے زمانہ طفولیت میں بقید حیات تھے، اور آپ نے انہیں دیکھا تھا۔ جن بزرگوں کے واقعات آپ نے سن رکھے تھے ان میں سب سے نمایاں شخصیت حضرت شیخ جلال تبریزیؒ (۱۱۳) کی ہے۔ وہ غالباً ۶۲۷ھ / ۱۲۳۰-۱۲۲۹ء میں حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانیؒ کے ساتھ سفر کرتے (۱۱۳) ہوئے بغداد سے خوارزم آئے تھے، وہاں چند دن قیام کر کے ہندوستان میں وارد ہوئے تھے۔ دہلی میں شیخ اسلام نجم الدین صغریٰ دوسروں کی مقبولیت سے بہت حسد کرتے تھے، انہوں نے شیخ جلال تبریزی پر تہمت لگائی اور اس کے لئے باقاعدہ علماء کا محضر طلب کیا گیا۔ شیخ کا بے گناہ ہونا تو ثابت ہو گیا، مگر انہوں نے دہلی میں رہنا پسند نہیں کیا، اور بدایوں چلے گئے وہاں ایک دن دریائے سوٹھ کے کنارے بیٹھے تھے، اچانک کھڑے ہوئے اور حاضرین سے فرمایا کہ آؤ شیخ الاسلام نجم الدین کے جنازے کی نماز پڑھ لیں۔ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ شیخ اسلام نے ہمیں دہلی سے نکلا تھا مگر ہمارے شیخ نے انہیں اس جہان سے ہی نکال دیا۔ عہد قصہ ۶۳۳ھ کے بعد کا ہو گا اس لئے کہ ۶۳۳ھ کے آغاز میں جب حضرت خواجہ معین الدین اجمیریؒ دہلی سے رخصت ہوئے ہیں، اس وقت شیخ اسلام زندہ تھے۔ علی مولا بزرگ جن کا اوپر ذکر آچکا ہے شیخ جلالؒ سے تربیت یافتہ تھے، یہ بدایوں کے پاس کٹھیر کے علاقے میں ایک مواس کے رہنے والے تھے اور بدایوں میں وہی بیجا کرتے تھے، غالباً تعلیم یافتہ بالکل نہ تھے اور شیخ جلال کے ہاتھ پر ہی مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت نظام الدینؒ اولیاء کی دستار بندی کے وقت مولانا اصولیؒ نے علی مولا کو غالباً اس لئے بلایا ہو گا کہ وہ شیخ جلال تبریزی کے مرید اور تربیت یافتہ تھے۔

اسی زمانے میں ایک قاضی کمال الدین جعفری تھے شیخ جلال سے ان کا ایک مکالمہ فوائد الفواد میں موجود ہے (۱۱۴) یہ بھی شیخ جلال کے مرید ہو گئے تھے، اور اپنے بیٹے برہان الدین کو بھی ان سے بیعت کرایا تھا، ان قاضی صاحب کا مزار بدایوں کی جامع مسجد میں ہے۔ سیر العارفین میں ان کے ایک فرزند کا نام سیف الدین محمد ملتا ہے اور حضرت نصیر الدین محمودؒ اودھی چراغ دہلی نے قاضی کی ایک تصنیف کا نام ”منفق“ بتایا ہے (۱۱۵)۔

marfat.com

Marfat.com

حضرت کے وصال سے چھ سال قبل ۱۸ محرم ۱۹۷۱ء کو جامع فوائد الفواد امیر حسن علاء بجزی شاہی لشکر کے ساتھ بدایوں کا سفر کر کے واپس آئے، اور وہاں جن بزرگوں کے مزارات پر حاضری دی تھی ان کا ذکر کیا، اور کہا کہ اس لشکر میں بس یہی راحت ملی ہے کہ ان بزرگوں کی زیارت ہو گئی۔ حضرت کے والد محترم خواجہ احمد بخاری "مولانا علاء الدین اصولی" مولانا سراج الدین ترمذی "خواجہ شاہی" موئے تاب "خواجہ عزیز کرکی" خواجہ عزیز کو تو ال خواجہ شادی لکھنؤتی قاضی جمال ملتان ان سب بزرگوں کے نام امیر حسن نے گنائے تو حضرت کی آنکھیں اشک آلود ہو گئیں۔ (جلد پنجم مجلس ۵۹) اس مجلس میں جن قاضی جمال کا ذکر ہوا ہے ان کا لقب حسام الدین تھا اور یہ شیخ صدر الدین عارف کے مرید تھے (۱۶)۔

حضرت نظام الدین "کو بدایوں کے دیوانوں اور مجذوبوں سے بھی محبت تھی۔ چنانچہ اسی فوائد الفواد میں ایک مجذوب مسعود نخاسی "کا ذکر کیا ہے۔ خواجہ عزیز کرکی "بھی مجذوب تھے۔ حضرت چراغ دہلی نے فرمایا کہ ان کا زمانہ قاضی کمال جعفری سے پہلے کا ہے (۱۷)۔

شیخ شاہی موئے تاب اور ان کے بھائی خواجہ ابو بکر موئے تاب کا تذکرہ بھی حضرت کی مجلسوں میں بار بار ہوا ہے۔ قاضی حمید الدین ناگوری سروردی (ف ۵، رمضان ۶۳۳ھ / ۲۵ جنوری ۱۲۳۶ء) شیخ شاہی موئے تاب "کو شاہی روشن ضمیر کہا کرتے تھے، بدایوں میں خلق خدا ان کی طرف بہت رجوع کرتی تھی، وہ جہاں بھی جاتے ایک مجمع سالگ جاتا تھا، خواجہ شاہی کا رنگ سیاہ فام تھا، مسعود نخاسی مجذوب جن کا ذکر اوپر آچکا ہے جب خواجہ شاہی کو خلق کے ہجوم میں دیکھتے تو کہتے: "کالے میار، تم نے اپنا سقابہ خوب گرم کر رکھا ہے، مجھے ڈر ہے کہ جل نہ جاؤ" اور ایسا ہی ہوا شیخ شاہی جوانی میں ہی جل کر مر گئے۔ یہ ۲۴ رمضان ۶۳۲ھ / جون ۱۲۳۳ء کا واقعہ ہے..... سیر العارفین کا بیان ہے کہ ان کے گھر میں آگ لگ گئی تھی، یہ دھوئیں کی وجہ سے باہر نہ نکل سکے۔

شیخ شاہی "کے بھائی خواجہ ابو بکر ۶۵۱ھ / ۱۲۵۳ - ۱۲۵۴ء میں فوت ہوئے، انہیں حضرت نظام الدین نے اپنے بچپن میں دیکھا ہو گا (خیر المجالس ۲۱۰) ان کے ایک مرید سراج الدین حافظ بدایونی تھے، انہیں مولف "تذکرۃ الواصلین" نے غلطی سے اخى سراج سمجھ کر اولیائے بدایوں میں شمار کر لیا ہے۔ (ص ۲۸۹) حضرت نے فرمایا کہ سراج حافظ ایک رات کو اٹھے، تازہ وضو کیا، دو رکعت نماز پڑھی اور جان جان آفریں کے سپرد کر دی، جیسی سبک زندگی

تھی ویسی ہی موت بھی پائی۔ ایک اور مجلس میں حضرت بدایوں کے درویشوں کا تذکرہ کر رہے تھے، فرمایا کہ ایک درویش عزیز بشر تھے۔ وہ دہلی آئے تاکہ مولانا صالح الدین "پسر قاضی حمید الدین" ناگوری سے خرقہ حاصل کریں (۱۸): اس مقصد سے حوض سلطان پر ایک نشست ہوئی، جس میں بعض اور درویش بھی جمع ہوئے اس وقت سب نے حوض سلطان کے پانی کی شیرینی کا تذکرہ کیا، عزیز بشر نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں، حوض ساغر جو بدایوں میں ہے، وہ اس سے اچھا ہے، اس وقت وہاں محمد کبیر بھی موجود تھے انہوں نے مولانا صالح الدین سے کہا: "یہ شخص گزاف گو معلوم ہوتا ہے، اسے خرقہ نہ دیا جائے۔"

بدایوں ہی کے ایک اور بزرگ مولانا سراج الدین ترمذی تھے، یہ مکہ معظمہ کی طرف اس نیت سے گئے کہ وہاں موت آجائے تو وہیں پیوند زمین ہوں، مگر حج کر کے واپس آگئے، اور بدایوں میں رہنے لگے۔ ان سے کہا گیا کہ تم تو اس نیت سے مکہ معظمہ گئے تھے کہ تمہارا مدفن وہیں ہو گا؟ کہنے لگے، ہاں مگر میں نے ایک رات کو خواب میں دیکھا کہ چاروں طرف سے جنازے لائے جا رہے ہیں اور ان جنازوں پر جو مردے ہیں ان کو مکہ معظمہ کے اطراف میں دفن کیا جا رہا ہے، اور جو مردے مدفون ہیں ان کو اکھاڑ کر وہاں سے لے جا رہے ہیں، میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بتایا گیا کہ جن لوگوں میں یہاں دفن ہونے کی اہلیت ہوتی ہے، وہ خواہ کہیں بھی وفات پائیں انہیں یہاں لانے کا حکم ہے اور جو لوگ اس جگہ کے اہل نہیں ہیں خواہ وہ یہاں دفن ہو چکے ہوں انہیں دوسری جگہوں پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ مولانا سراج الدین نے کہا جب مجھے اس بات کی تحقیق ہو گئی تو بدایوں واپس آ گیا کہ اگر وہاں دفن ہونے کا اہل ہو تو میری غرض بہر حال حاصل ہو جائے گی۔

بدایوں کے قاری بھی ایسے تھے کہ قرآن کو ہفت قرات سے پڑھتے تھے۔ ایک ایسے قاری شادی مقری کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ سات قراتوں کے ماہر اور بہت باصلاحیت و صاحب کرامت تھے۔ ان کی ایک کرامت یہ تھی کہ اگر ان کے سامنے کوئی قرآن کا ایک ورق پڑھ لیتا تھا تو خدا اسے سارے قرآن کا حفظ نصیب کرتا تھا۔ حضرت نے بھی شادی مقری سے ایک پارہ پڑھا تھا۔ پھر دہلی آنے کے بعد اس کی برکت سے پورا قرآن حفظ ہو گیا۔

شادی مقری کے ایک آقا لاہور کے خواجگی مقری تھے یہ بھی بہت بزرگ انسان تھے۔

ایک بار کوئی شخص لاہور سے بدایوں آیا شادی نے اس سے پوچھا میرے خواجہ خیریت سے ہیں؟ مسافر نے ان کی وفات کی خبر چھپائی اور کہا ہاں خیریت سے ہیں۔ پھر لاہور کا حال سنانے لگا کہ وہاں سخت بارش ہوئی، ہزاروں گھر ڈھے گئے، ایک بار آگ لگی تو سینکڑوں گھر بھسم ہو گئے، بہت تباہی مچی یہ باتیں سن کر شادی نے کہا: ”ایسا معلوم ہوتا ہے میرے خواجہ رحلت فرما گئے“ تب اس مسافر نے اقرار کیا کہ ہاں وہ ان حوادث سے پہلے ہی گزر چکے تھے۔

دہلی میں سازشوں کا شکار ہو کر قاضی منہاج سراج مصنف طبقات ناصری (ولادت ۵۸۹ھ) بھی ۹ رجب ۶۴۰ھ ۲ جنوری ۱۲۴۲ء کو دہلی سے نکل کر بدایوں پہنچے تھے، وہاں ملک تاج الدین قلیق ان کا قدرداں تھا، یہاں وہ کچھ مدت تک رہے، اس زمانے میں حضرت نظام الدین کی عمر ۶-۷ سال سے زیادہ نہ ہوگی انہوں نے منہاج سراج کے وعظوں میں اپنی شرکت کا ذکر کیا ہے، اس سے ظاہر ہے کہ حضرت ”گو اوا نکل عمر سے ہی دین سے تعلق پیدا ہو گیا تھا“ قاضی منہاج سراج بدایوں سے اودھ ہوتے ہوئے لکھنؤتی (بنگال) کی طرف چلے گئے تھے۔ حضرت نے دہلی میں بھی قاضی منہاج کے وعظ سنے ہیں، ان کا وعظ ہر دو شنبہ کو ہوا کرتا تھا۔ یہ ۶۵۹ھ سے پہلے کی بات ہے کیونکہ اس سنہ کے بعد قاضی کے حالات پردہ گمنامی میں ہیں۔

ایک اور بزرگ جن کے وعظوں میں حضرت نے اپنے بچپن میں شرکت کی خواجہ نظام الدین ابوالموید (۱۹) تھے، ان کا مزار درگاہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی میں درگاہ کی مسجد کی جنوبی دیوار کے پاس بتایا جاتا ہے، مگر اشجار الجمال (قلمی) سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ علی گڑھ میں مدفون ہیں۔ ان کے وعظ میں بڑی تاثیر تھی۔ حضرت نظام الدین فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اتنا خوردسال تھا کہ معانی و مطالب اچھی طرح نہ سمجھ سکتا تھا۔ ایک محفل وعظ کا حضرت نے ذکر کیا۔ حضرت نظام الدین ابوالموید ”مسجد میں داخل ہوئے، جوتیاں اتار کر اپنے ہاتھ میں لیں، اندر آکر دو رکعت نماز (تحتی المسجد) پڑھی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو ان کی طرح نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ دو گانہ بہت اطمینان سے ادا کیا، پھر منبر پر آگئے۔ ایک قاری قاسم تھے انہوں نے چند آیات کی تلاوت کی، پھر شیخ ابوالموید نے اپنا وعظ شروع اور ایک رباعی یہ کہہ کر پڑھی کہ ”میں نے اپنے بابا کے ہاتھ سے لکھی ہوئی دیکھی ہے (۳۰)“ انجھی دو مصرعے ہی پڑھے تھے کہ تمام حاضرین نے ایک نعرہ سر کیا، اور رونے لگے۔ یہ بار بار دو ہی مصرعے پڑھتے رہے:۔

بر عشق توو بر تو نظر خواہم کرد جاں در غم تو زیر و زبر خواہم کرد
(ترجمہ: میں تجھ پر اور تیرے عشق پر نظر رکھوں گا۔ اور تیرے غم میں اپنی جان کو تیرے
بالا کر لوں گا)

پھر کہنے لگے دو مصرعے یاد نہیں آتے، کیا کروں۔ یہ بھی انہوں نے ایسی عاجزی سے
کہا کہ حاضرین پر گہرا اثر ہوا۔ اس وقت قاسم مقری نے باقی دو مصرعے بھی یاد دلادیئے۔
بر عشق توو بر تو نظر خواہم کرد جاں در غم تو زیر و زبر خواہم کرد
پر درد دلے بخاک در خواہم برد پر عشق سرے زگور بر خواہم کرد
ترجمہ:- جب مروں گا تو قبر میں ایک درد بھرا دل ساتھ لے جاؤں گا، اور عشق سے
معمور سر لے کر حشر کے دن قبر سے اٹھوں گا۔

فوائد الفواد میں آخری دو مصرعے نہیں ہیں، مگر درر نظامی میں پوری رباعی ہے اسی
طرح اخبار الجمال (قلمی ورق ۲۰۴) میں یہ حکایت فوائد الفواد کے حوالے سے ہے، اور اس
میں وہ دو مصرعے بھی موجود ہیں جو قاسم مقری نے یاد دلائے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ
فوائد الفواد کا متن جو اب ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ مکمل نہیں ہے (۲۱)۔

بدایوں کے اس عہد کے علماء جن کا حضرت نظام الدین نے اپنی مجلسوں میں ذکر کیا ہے
نہایت ممتاز اور اپنے فن میں شہرہ آفاق لوگ تھے۔ یہاں صرف علامہ رضی الدین نے حسن
صغانی (متوفی ۶۵۰ھ / ۱۲۵۲ء) کا نام لینا کافی ہو گا۔ حضرت نے ان کو دیکھا تو نہ تھا مگر اپنے دور
کے بدایوں میں ان کے علم و فضل کے چرچے ضرور سنے ہوں گے۔ ان کی تالیف ”مشارق
الانوار“ آج تک مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ صحیح بخاری کو متداول شکل میں مرتب کرنے
کی سعادت بھی انہی کو ملی تھی۔ حضرت نے ایک مجلس میں فرمایا: ”در علم حدیث از ہمہ ممتاز
بود هیچ کس مقابل او نبود“ (فوائد الفواد جلد ۳ مجلس ۹) ان کے بارے میں عام شہرت یہ ہے کہ
لاہور میں پیدا ہوئے تھے (آزاد بلگرامی: ماثر الکرام ۱۸۱) مگر سب سے قدیم سند حضرت نظام
الدین کی ہے، انہوں نے فرمایا ”اواز بدایوں بود بعد ازان در کول آمد“ (جلد ۳ مجلس ۹) یعنی
ان کا تعلق بدایوں سے تھا بعد کو علی گڑھ میں جا رہے تھے۔ صغانی کے بارے میں جو باتیں
حضرت نے اپنی مجلس میں بیان فرمائیں، وہ ہمیں کسی دوسرے ماخذ سے حاصل نہیں ہوتیں،
اس لئے بھی بہت قیمتی ہیں۔

حضرت نظام الدین "کابچپن بدایوں میں گزرا" اس زمانے کے واقعات اور تذکرے اپنی مجلسوں میں ایسی محبت سے کرتے ہیں، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت کو اپنے وطن سے کیسا جذباتی تعلق تھا۔ بچپن کے دوستوں میں حضرت "ایک نوجوان کو بھی یاد کرتے ہیں جس سے گہرا قلبی تعلق پیدا ہو گیا تھا۔ اس نوجوان کے والد خواجہ عزیز بدایوں کے کوتوال تھے، یہ درویشوں کو اپنی کچھری میں بلا کر ڈانٹ ڈپٹ بھی کر لیتے تھے۔ ایک دن حضرت نظام الدین "بدایوں میں آموں کے باغ میں گئے جسے "لکھی آلو" کہا جاتا تھا، وہاں دیکھا کہ خواجہ عزیز کو توال ایک درخت کے نیچے دسترخوان بچھائے بیٹھے ہیں، انہوں نے حضرت کو دور سے دیکھ کر آواز دی، یہ ڈر گئے کہ کچھ ایذا نہ پہنچائے، مگر سمجھتے ہوئے ان کے قریب گئے تو عزیز نے بڑی تعظیم سے اپنے پاس بٹھایا اور اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔

بدایوں ہی میں ایک اور دوست تھے، ان کا نام احمد تھا حضرت نے فرمایا کہ بہت صالح اور عبادت گزار ابدال صفت شخص تھے۔ پڑھے لکھے بالکل نہ تھے مگر ہمہ وقت مسائل شرعیہ کی تحقیق میں لگے رہتے تھے، جس سے بھی ملتے تھے کوئی شرعی مسئلہ دریافت کرتے تھے۔ جب حضرت دہلی آگئے تو یہ بھی چلے آئے تھے۔ ایک دن راستے میں ملاقات ہو گئی تو بڑی گرم جوشی سے ملے، حضرت کی والدہ ماجدہ کی خیریت دریافت کی، انہیں علم نہیں تھا کہ حضرت کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت نے بتایا تو دعادی کہ اچھا تم جیتے رہو، "پھر چہرے پر اضطراب کے آثار ظاہر ہوئے رنگ بدل گیا اور رونے لگے۔ یہ قصہ بیان کرتے ہوئے، خود حضرت نظام الدین "اتنے بے قابو ہو گئے کہ ہچکیاں لے کر روئے، الفاظ گلے میں رندھنے لگے، اس وقت حضرت نے یہ دو شعر پڑھے خبر نہیں کہ یہ احمد بدایونی کی روایت کا حصہ تھے، یا حضرت نے بطور خود پڑھے۔

افسوس دلم کہ ہجج تدبیر نکرد شب ہائے وصال رابزنجیر نکرد
گر وصل تو یاری کندویا کمند بارے کہ فراق ہجج تقصیر نکرد
ترجمہ: افسوس کہ میرے دل نے کوئی تدبیر نہ کی اور وصل کی راتوں کو باندھ کر نہ رکھ لیا۔

اب خدا جانے تیرا وصال نصیب ہو یا نہ ہو۔ بارے فراق نے تو کوئی کسراٹھا کر رکھی نہیں۔

آپ نے فرمایا کہ کچھ دن کے بعد احمد بدایونی نے رحلت کی تو میں نے انہیں خواب میں دیکھا وہ حسب معمول مجھ سے احکام و مسائل پوچھنے لگے۔ میں نے کہا کہ یہ باتیں تو زندگی میں کام آتی ہیں آپ کا تو اب انتقال ہو چکا ہے۔ احمد بدایونی نے کہا: ”اچھا تو تم اولیاء اللہ کو مردہ کہتے ہو؟“

اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حضرت کے دوستوں میں بے پڑھے تھے وہ بھی کس کردار کے لوگ تھے۔

حضرت ”جب تک بدایوں میں رہے تنگی ترشی سے گزر بسر ہو رہی تھی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ والد کے انتقال سے اقتصادی نظام درہم برہم ہو گیا تھا، اور ان مرحوم نے ترکے میں کچھ سرمایہ نہیں چھوڑا تھا۔ کبھی گھر میں کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور حضرت سبق پڑھ کر واپس آتے تھے تو ان کی والدہ کہتی تھیں! ”آج ہم اللہ کے مہمان ہیں“ حضرت کو یہ بات بہت اچھی لگتی تھی اور اگر کبھی کئی دن تک مسلسل کھانے کو ملتا تھا تو یہ سوچتے تھے کہ وہ دن کب آئے گا جب ہم پھر اللہ کے مہمان ہوں گے۔ اس سے حضرت کا فقر و درویشی سے فطری لگاؤ معلوم ہوتا ہے۔

بدایوں کو خیر یاد کہنے کے بظاہر دو سبب تھے، ایک تو آپ ۱۶ سال کی عمر تک وہاں کے علماء سے متوسط کتابوں کا درس لے کر فارغ ہو چکے تھے، اور اس وقت دہلی میں ایسے مدارس تھے جن میں نہایت ممتاز علماء اور اساتذہ مسند درس بچھائے بیٹھے تھے، مزید تعلیم ان کی خدمت میں پہنچ کر ہی ہو سکتی تھی، دوسرے یہ بھی خیال تھا کہ دہلی میں معاش کا کوئی سلسلہ پیدا ہو جائے گا۔ بدایوں میں آپ نے زیادہ تر ادب، لغت اور فقہ کا درس لیا اور مقامات حریری کے چالیس مقام زبانی یاد کر لئے تھے۔ جب دہلی آئے تو یہ افسوس کرتے تھے کہ اتنا وقت مقامات حریری کے حفظ کرنے میں ضائع کر دیا اس سے اچھا تھا کہ قرآن کریم حفظ کرتے، چنانچہ آپ نے حدیث شریف کا باقاعدہ درس لینا شروع کیا اور باقی وقت میں کسی تنہائی کے مقام پر جا کر قرآن شریف حفظ کیا کرتے تھے۔ آپ نے حدیث شریف کی کتاب مشارق الانوار بھی پوری طرح حفظ کر لی تھی۔

یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ اپنے مختصر سے خاندان کو بدایوں میں چھوڑ کر خود دہلی میں رہ سکیں ایک بوڑھی والدہ تھیں، جو حضرت کے لئے اس زمین پر سب سے زیادہ شفیق ہستی تھی،

دوسری ایک بہن تھیں، اور ان کے دو چھوٹے بچے تھے، ان کی کفالت بھی حضرت کو کرنی تھی، آپ نے دہلی کے حالات کا جائزہ لینے کے لئے پہلا سفر تنہا کیا اور پہلی بار اس دار الخلافہ کو دیکھا۔ اس بار قیام کی مدت زیادہ نہیں تھی۔ حالات کا جائزہ لے کر بدایوں واپس آگئے، دو سرا سفر پورے خاندان کے ساتھ ہوا اور پھر آپ دہلی ہی کے ہو رہے۔ اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا کہ آپ کو پھر کبھی بدایوں جانے کا موقع ملایا نہیں ملا۔ غالب قیاس یہ ہے کہ پھر آپ کا ادھر جانا نہ ہو سکا، ورنہ کہیں نہ کہیں کوئی ذکر یا اشارہ ضرور ملتا۔

دہلی میں حضرت نظام الدینؒ کا قیام متعدد مکانوں میں مختلف اوقات میں رہا۔ بدایوں سے آئے تو بیچ بازار میں ایک سرائے تھی جسے سرائے نمک کہا جاتا تھا وہاں فروکش ہوئے والدہ ماجدہ اور بہن بھانجے بھی یہیں رہے، حضرت خود ایک کمانگر کے مکان میں رہے، جو اس سرائے کے سامنے تھا۔ اسی محلے میں امیر خسرو کا گھر بھی تھا، ان کے نانا عماد الملک (۲۲) راوت عرض کی حویلی تھی۔ امیر خسرو کے ماموں اپنی جاگیر پر چلے گئے تو یہ مکان خالی رہ گیا تھا، غالباً امیر خسرو کی کوشش سے حضرت کو یہ مکان رہنے کے لئے مل گیا، اور اس میں تقریباً دو سال تک رہے۔ یہ حویلی پل منڈہ کے پاس اور شہر پناہ سے ایسی ملی ہوئی ہے کہ اس کے ایک برج اس حویلی کے اندر شامل ہو گئی تھی۔ حویلی نہایت وسیع اور عالی شان تھی، اس میں بڑے بڑے دالان تھے۔ اسی زمانے میں مولف سیر الاولیاء کے دادا مع خاندان کے اجودھن سے دہلی آئے تو وہ بھی اسی حویلی میں حضرت کے ساتھ رہے تھے۔ اس حویلی کی تین منزلیں تھیں۔ نچلی منزل میں سید محمد محمود کرماتیؒ رہے، اور درمیانی منزل میں حضرت رہتے تھے، سب سے اوپر کی منزل میں حضرت کے دوسرے سالا تھی رہتے تھے۔ کھانا بھی اسی لئے بلائی منزل میں کھایا جاتا تھا۔ اس وقت حضرت کے خادم خواجہ مبشرؒ ساتھ تھے۔ مولف سیر الاولیاء کی دادی کھانا تیار کرتی تھیں، اور سید محمد کرماتیؒ افطار کے وقت کھانا لے آتے تھے، دوسری خدمت مثلاً وضو کرانا، بیت الخلاء میں طہارت کا سامان رکھنا، یہ سب مولف سیر الاولیاء کے والد کرتے تھے جو اس وقت بچے ہی تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا (یعنی ۶۷۰ھ کے بعد) کہ حضرت اجودھن جا کر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر قدس سرہ سے بیعت کر چکے تھے۔ اسی زمانے میں امیر خسرو کے ماموں اپنی جاگیر سے واپس آگئے، اور انہوں نے آنا، فنا، مکان خالی کر لیا، حضرت کو اتنی مہلت بھی نہیں دی کہ وہ کوئی دوسرا مکان تلاش کر لیں۔ مجبوراً حضرت اس مکان سے

فورا نکلے، سامان میں صرف کتابیں ہی تھیں، وہ ساتھیوں نے سر پر رکھیں اور چھپر والی مسجد (۲۳) میں آگئے جو سراج بقال کے گھر کے سامنے تھی، ایک رات تو اسی مسجد میں گزار دی دوسرے دن شیخ صدر الدین ملتانی کے مرید سعد کاغذی کو یہ ماجرا معلوم ہوا تو وہ حضرت کو اپنے گھر لے آئے، اور بلالائی منزل حضرت کے رہنے کے لئے خالی کر دی، سید محمد کرمالی کسی دوسرے مکان میں منتقل ہو گئے۔ حضرت اس مکان میں ایک ماہ تک رہے اور اس مدت میں دوسری جگہ بھی تلاش کرتے رہے، آخر یہاں سے سرائے رکابدار میں آگئے۔ یہ سرائے پل قیصر کے پاس تھی، اور اس کے اندر ایک مکان بھی تھا، اس میں فروکش ہوئے اس سرائے کے ایک حجرے میں سید محمد کرمالی نے اپنے خاندان کو ٹھہرا دیا۔ اس مکان میں حضرت خاصی مدت تک رہے پھر شادی گلابی کے مکان میں آگئے، اسی زمانے میں شمس الدین شرابدار (۲۴) کے بیٹے اور دوسرے اقرباء آئے اور منت کر کے حضرت کو شرابدار کے مکان میں لے آئے۔ یہاں حضرت کو بہت آرام ملا۔ اجودھن سے آنے والے یاران طریقت حضرت کو اسی مکان میں ملتے تھے۔

دہلی میں تعلیم دہلی میں آنے کے بعد تقریباً چار سال آپ مزید تعلیم حاصل کرتے رہے اور یہاں کے جن باکمال استادوں سے آپ نے درس لیا ان کے نام یہ ہیں:

(۱) شمس الدین خوارزمی، خطاب شمس الملک اور نام عبدالرحمان تھا۔ یہ بلبن کے وزیر بھی ہوئے ایک دن شمس الملک نے کہا کہ ”میں ایک شعر پڑھوں گا شرط یہ ہے کہ تم میں سے کوئی اسے یاد کر لے مگر دوبارہ نہیں پڑھوں گا“ یاران مجلس خاموش رہے۔ حضرت نظام الدین اس مجلس میں حاضر تھے آپ نے فرمایا میں یاد کر لوں گا۔ شمس الملک عبدالرحمان نے یہ شعر پڑھا:

دولت چکنم دولت تو دولت ماست نعمت چکنم نعمت تو نعمت ماست
(نفائس الانفاس) (قلمی ملفوظ ۱۰ جماد الاولیٰ ۷۳۳ھ)

(۲) برہان الدین محمود بن ابی الخیر سعد بخاری بلخی۔ بلبن کے زمانے

marfat.com

Marfat.com

میں بقید حیات تھے وہ رضی الدین حسن الصغانی (ف ۶۵۰ھ) کے شاگرد تھے اور ان سے مشارق الانوار کی سند حاصل کی تھی دہلی میں مشارق الانوار کا درس شروع کرنے والے وہ پہلے محدث تھے اور غالباً وہی یہ کتاب لے کر آئے تھے۔ انہیں مرغینان (وسط ایشیا) میں کتاب الہدایہ کے مصنف برہان الدین مرغینانی (ف ۵۹۳ھ) سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا تھا سلطان بلبن ان کی بہت عزت کرتے تھے انہوں نے ۶۸۷ھ / ۱۲۸۸ء میں دہلی میں وفات پائی اور حوض شمش کے مشرقی کنارے کی طرف مدفون ہوئے۔

(دیکھئے اخبار الاخبار ۶۸ / رخصت علی ۳۳۔ نزہۃ الخواطر۔ حدائق الحنفیہ

(۲۶۳

(۳) امین الدین محدث تبریزی:

ان کا حال زیادہ معلوم نہیں ہے، ان کا انتقال قطب الدین مبارک شاہ کے عہد حکومت میں دہلی میں ہوا۔ حضرت نے ان سے بھی حدیث کی سماعت کی تھی۔

(۴) محمد بن احمد بن محمد المارہلی معروف بہ کمال الدین زاہد (ف ۶۸۲ھ / ۱۲۸۵ء)

مارہلہ (گجرات) کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے رضی الدین حسن الصغانی کی تالیف ”مشارق الانوار کا درس برہان الدین محمود (ف ۶۸۷ھ / ۱۲۸۸ء) اور شرح آثار النیرین فی اخبار الصحیحین کے مصنف کے ساتھ لیا تھا۔ حضرت نظام الدین نے گرمی اور برسات کے موسم میں (جون، جولائی، اگست سنہ ۱۲۸۸ء) ان سے نجم الدین ابوبکر التووسی کی مسجد میں حدیث کی سماعت کی، انہوں نے ۲۲ ربیع الاول ۶۷۹ھ کو باقاعدہ سند حدیث لکھ کر حضرت کو عنایت کی جس کا متن سیر الاولیاء میں موجود ہے، مولانا زاہد نے اس میں لکھا ہے:

و اوصیہ ان لا تنسانی و اولادی

فی دعواتہ فی خلواتہ

ترجمہ: میں وصیت کرتا ہوں کہ مجھے اور میری اولاد کو اپنی خلوت کی

دعاؤں میں نہ بھولیں)

برائے تفصیل دیکھئے: سیر الاولیاء: ۱۱۵ اخبار الاخبار ۴۵ خزینہ الاصفیاء ۱ / ۳۱۴ تذکرہ

علمائے ہند: ۲۵ محمد اسحق: ۷۷-۸۲ رسالہ معارف اعظم گڑھ ج ۲۲ ش ۵)

مولف سیر الاولیاء کا بیان ہے کہ جس دن حضرت کو رات عرض کا مکان چھوڑنا پڑا اور ”مسجد چھتر دار“ میں آئے اسی رات کو رات عرض کے مکان میں آگ لگی اور ساری عمارت جل کر خاکستر ہو گئی۔ دہلی میں حضرت کی تشریف آوری اور قیام کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم کچھ آگے تک نکل آئے، اس لئے سلسلہ سخن قائم رکھنے کے لئے کچھ بیان حضرت کی بیعت و ارادت اور اجودھن میں اپنے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر قدس سرہ کی خدمت میں حاضری کا بھی کیا جاتا ہے۔

ہم یہ لکھ چکے ہیں کہ حضرت بابا فرید کے مبارک نام اور درویشانہ صفات کا پہلا تعارف بدایوں میں ایک شخص ابو بکر خراط کے ذریعہ ہوا تھا، پھر دہلی کے سفر میں ایک بوڑے شخص محمد عوض ساتھ ہو گئے تھے جو خوف و خطر کے مقام میں اپنے پیر کی دہائی دیتے تھے اور نعرہ لگاتے تھے کہ ”یا پیر حاضر باش مادر پناہ تو میرویم“ (اے پیر حاضر رہنا ہم آپ کی پناہ میں سفر کر رہے ہیں) حضرت نے محمد عوض سے پوچھا کہ تم کس پیر کو پکارتے ہو؟ تو انہوں نے حضرت بابا فرید کا نام لیا، اس سے حضرت نظام الدین کا ذوق و شوق اور صدق و ارادت جو پہلے ہی زیادہ تھی اور بھی پختہ ہو گئی۔ حضرت بابا فرید کے چھوٹے بھائی اور خلیفہ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل دہلی کی ایک مسجد میں امامت کرتے تھے جو کسی ترک امیر نے بنوائی تھی۔ اتفاق سے حضرت نظام الدین کو شیخ کا پڑوس ملا۔ شیخ نجیب الدین کا گھر چھوٹا سا اور غالباً دو منزلہ تھا، جس کی دوسری منزل پر چھپر پڑا ہوا تھا، اسی حال میں وہ ستر سال تک دہلی میں رہے (مرآة الاسرار قلمی فرق ۲ / ۳۷) اور انیس بار اجودھن کا سفر کیا (سیر العارفين ۱۳۱) ان کا انتقال ۹ رمضان ۶۶۹ھ ۲۱ اپریل ۱۲۷۱ء کو دہلی میں ہوا۔ (ریاض الاولیاء بخاور خان قلمی نسخہ ٹونک) اس وقت حضرت نظام الدین اجودھن گئے ہوئے تھے۔ شیخ کا مزار مبارک دہلی میں ادھ چنی کے مقام پر بچے منڈل کے قریب موجود ہے، یہ صفا جنگ ہسپتال سے مہرولی کی طرف جانے والی سڑک پر دائیں ہاتھ کو پڑتا ہے۔ اس وقت یہی جگہ منڈہ دروازہ کہلاتی تھی اور شہر پناہ کی دیوار بھی یہیں سے گزرتی تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنی مجلسوں میں اکثر شیخ متوکل کا حال بیان کیا کہ میں نے اس شہر میں ان جیسا یاد خدا میں مستغرق کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھا، انہیں دنیا کے معاملات کی مطلق خبر نہیں تھی، اتنا بھی نہیں جانتے تھے کہ گوشت کیسے

بلکہ ہے، یا آٹا کس طرح تیار ہوتا ہے، نہ یہ خبر تھی کہ آج کون سا دن کون سا مہینا ہے یا یہ سکہ کون سا سکہ ہے؟ فقر اور توکل ایسا تھا کہ عید کی نماز کے بعد کچھ قلندر آپ کے گھر آئے آپ انہیں بٹھا کر اوپر کوٹھے پر گئے۔ مگر کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہ تھی، مصلی اٹھا کر دیکھا تو وہ پھٹا ہوا تھا اور بکنے کے لائق نہ تھا۔ اپنی اہلیہ کی اوڑھنی دیکھی کہ شاید وہ ایک آدھ درہم میں بک جائے مگر وہ بھی لیر لیر ہو رہی تھی، آخر ان قلندروں کو ایک پیالہ پانی پلا کر رخصت کر دیا۔

(سیر العارفین اردو ترجمہ ۱۳۵)

حضرت متوکل کے دو بیٹے شیخ احمد اور شیخ محمد تھے، دو پوتوں کے نام محمد عطا اور بہرام معلوم ہیں۔ حضرت شیخ متوکل ہر سال اپنے بھائی حضرت بابا فرید سے ملنے کے لئے اجودھن جایا کرتے تھے۔ ایک بار اپنی بوڑھی والدہ کو ساتھ لے کر جا رہے تھے، راستے میں ماں نے پانی مانگا یہ انہیں ایک درخت کے نیچے بٹھا کر پانی کی تلاش میں نکلے۔ دیر کے بعد کہیں سے پانی لے کر آئے تو والدہ کو اس جگہ پر نہیں پایا۔ پریشانی کے عالم میں گھنٹوں تلاش کرتے رہے اور جنگل میں ہر طرف اپنی بوڑھی ماں کو آوازیں دیں، مگر ساری صدا میں جنگل کے مہیب سناٹے میں گم ہو گئیں۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ کسی درندے نے آپ کی والدہ کو ہلاک کر دیا ہے۔ وہاں سے بہت ہی رنج اور مایوسی کے عالم میں اجودھن پہنچے اور بھائی کو سارا ماجرا سنایا انہوں نے ایصالِ ثواب کے لئے فاتحہ پڑھی اور صبر کر لیا۔

دوبارہ جب شیخ متوکل اجودھن جاتے ہوئے اسی جنگل سے گزرے تو انہوں نے اسی درخت کے نیچے جہاں والدہ کو بٹھایا تھا، کچھ انسانی ہڈیاں پڑی ہوئی دیکھیں۔ آپ کو خیال ہوا کہ شاید یہ والدہ مرحومہ کی ہڈیاں ہوں۔ انہیں جن کر ایک تھیلے میں رکھ لیا۔ اب جو حضرت بابا فرید کی خدمت میں آئے تو عرض کیا کہ اس طرح کچھ ہڈیاں اسی درخت کے نیچے ملی تھیں میں نے سوچا کہ شاید یہ والدہ مرحومہ کی ہڈیاں ہوں انہیں اٹھالیا کہ اجودھن میں دفن کر دوں گا۔ بابا صاحب نے فرمایا لاؤ وہ تھیلا کہاں ہے؟ انہوں نے وہ تھیلا نکال کر ان کے سامنے جھٹکا تاکہ ہڈیاں فرش پر نکل آئیں۔ مگر اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا۔ تھیلے میں ہاتھ ڈال کر بھی خوب ٹٹولا کچھ نہیں ملا۔ یہ معما بدستور باقی رہا، اور حضرت نظام الدین فرماتے تھے کہ یہ واقعہ عجائب روزگار میں سے ہے۔

دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء کے لئے شیخ نجیب الدین متوکل کی ذات گرامی بڑی

نعمت ثابت ہوئی۔ ان کی حیثیت آپ کے شفیق سرپرست کی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے بے مثل کردار، خدا دوستی، توکل، استغنا، شان فقر و درویشی اور محبت علم نے حضرت نظام الدین کے ذہن کی تربیت اور مزاج کی تشکیل میں بڑا حصہ لیا۔

جب کسی بزرگ سے دعا کرانی ہوتی تو فاتحہ کا التماس کیا جاتا تھا، وہ ہاتھ اٹھا کر سورۃ فاتحہ پڑھتا اور مقصد دلی کے لئے دعا کرتا تھا۔ قیام دہلی کے ابتدائی زمانے میں جب حضرت کسی سے بیعت نہیں ہوئے تھے، اور سر پر بال رکھتے تھے، انہوں نے حضرت شیخ نجیب الدین متوکل سے فاتحہ کا التماس کیا۔ شیخ نے سنی ان سنی کر دی۔ شیخ نظام الدین نے تین بار گزارش کی کہ میرے لئے اس نیت سے فاتحہ پڑھ دیجئے کہ میں کہیں قاضی ہو جاؤں۔ شیخ متوکل نے فاتحہ کے لئے ہاتھ نہیں اٹھائے اور مسکرا کر فرمایا: ”تو قاضی مشو چیزے دیگر شو“ (تم قاضی مت بنو کچھ اور بنو)

حضرت بابا فرید گنج شکر کی بارگاہ میں:

حضرت نظام الدین کے دل میں حضرت بابا فرید کی محبت اور ان کی ذات گرامی سے بے پناہ عقیدت تو برسوں سے پرورش پارہی تھی، شیخ نجیب الدین کی صحبت نے اس تعلق کو اور بھی راسخ کر دیا تھا، لیکن ابھی تک اجود دھن جانے کی سبیل نہیں نکلی تھی۔ سب سے بڑا سبب غالباً یہ تھا کہ والدہ ضعیفہ تھیں (۲۵) ایک بہن اور ان کے دو بچے تھے، جن کی دیکھ ریکھ کرنے والا حضرت کے سوا اور کوئی نہ تھا، لیکن ایک صبح کو فجر کے وقت کسی نے مسجد کے منارے سے نہایت خوش الحانی کے ساتھ یہ آیت پڑھی:

الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذكر اللہ O

یہ الفاظ کانوں میں پڑے تو جادو کا سا اثر دکھا گئے، وجد و شوق کی کیفیت صبر و تحمل کی حدوں سے نکل گئی اور اجود دھن کی حاضری کا اشتیاق جو برسوں سے دل میں کروٹ لے رہا تھا قوت سے فعل میں آنے کو مچلنے لگا۔ آپ نے جوش عقیدت میں سفر اجود دھن کے لئے اس طرح احرام باندھا جیسے حج کے لئے باندھا جاتا ہے، (شامل الاتقیاء مطبوعہ حیدر آباد) اور سفر روانہ ہونے سے پہلے مسجد میں نوافل پڑھنے کے لئے آئے (۲۶)۔ اس وقت دل میں یہ خیال گزرا کہ میں نے جو احرام باندھا لیا ہے۔ یہ شریعت کی رو سے جائز بھی ہے یا نہیں؟ اسی مسجد

کے ایک کونے میں پھٹے پرانے کبل میں لیٹے ہوئے ایک مجذوب پڑے تھے جو حضرت کو دیکھ بھی نہیں رہے تھے، وہ اچانک زور سے بڑبڑائے: ”العلم حجاب اللہ الاکبر“ ”علم اللہ (سے ملنے) کے لئے بہت بڑا حجاب ہے“ آپ نے یہ آواز سنی تو دل میں سوچا کہ خیر علم پردہ تو ہو سکتا ہے، مگر حجاب اکبر کیوں ہونے لگا؟ وہ مجذوب اس خطرے سے بھی آگاہ ہو گئے اور پھر بڑبڑائے: بڑا چھوٹا تو وہاں جا کر معلوم ہو گا۔ چنانچہ یہی ہوا، جب آپ اجودھن پہنچے اور یہ بدھ کا دن ظہر کا وقت تھا، رجب ۶۶ھ / مارچ ۱۲۶۹ء کی کوئی تاریخ تھی، ایک دن حضرت بابا صاحب نے خود ہی دریافت فرمایا: ”مولانا نظام الدین ہمارے جمال (شیخ جمال الدین ہانسوی مراد ہیں) کا فرزند ملا تھا؟ عرض کیا: جی ہاں جس دن اجودھن کے لئے روانہ ہونے والا تھا وہ مسجد کے ایک کونے میں پڑے ہوئے ملے تھے“ بابا صاحب نے پھر پوچھا ”کچھ کہتا تھا؟“ حضرت نے وہ گفتگو دہرائی تو بابا صاحب نے فرمایا: وہ ٹھیک ہی کہتا تھا۔ حجاب دو طرح کے ہوتے ہیں ایک حجاب ظلماتی ہوتا ہے کہ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا، دوسرا حجاب نورانی ہوتا ہے کہ (زیادہ روشنی میں بھی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں) علم نورانی حجاب ہے اس لئے حجاب اکبر ہے“

آپ پوری بے سرو سامانی کے عالم ”یا حافظ یا ناصر یا معین“ کا ورد کرتے ہوئے دہلی سے نکلے تھے، کئی دن تک بھوکے پیاسے سفر کرتے ہوئے جب اجودھن پہنچے تو عقیدت و محبت کے نشے میں سرشار تھے، اس سرزمین کے ایک ایک ذرے کو نگاہیں بوسہ دے رہی تھیں، دل قدم قدم پر سجدے کر رہا تھا، راستے کی دھول میں اٹے ہوئے کپڑے میلے ہو کر ہم رنگ زمین ہو گئے تھے، طویل سفر کی مشقت سے چہرہ کملا گیا تھا۔ مگر دل کا کنول کھلا ہوا تھا، اور آنکھیں نور مسرت سے چمک رہی تھیں۔ جب شیخ کا سامنا ہوا تو دل بھر آیا، اور اتنی بات ہی کہہ سکے کہ ”آپ کی قدم بوسی کا اشتیاق مدت سے غالب تھا“ ”اشتیاق پائے بوسی عظیم غالب آمدہ بود“ بابا صاحب نے انہیں دیکھتے ہی خوش آمدید کہا اور شعر پڑھا:

اے آتشِ فرقتِ دلہا کبابِ کردہ

سیلابِ اشتیاقِ جاننا خرابِ کردہ

(اے وہ کہ تمہارے برہ کی آگ نے دل کو کباب بنا رکھا ہے اور تمہارے اشتیاق کے

سیلاب نے جان کو کھنڈر کی طرح شکستہ ویران کر دیا ہے)

marfat.com

Marfat.com

پھر خیر و عافیت اور راستے کی کیفیت دریافت کرتے رہے۔ حضرت نظام الدینؒ فرمایا کرتے تھے کہ بابا صاحبؒ نے فرمایا ”لکل داخل دہشہ“ (یہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا مقولہ ہے کہ ہر نیا آنے والا کچھ مرعوب ہوتا ہے اسے گرم جوشی سے سلام دعا کر کے مانوس بنانا چاہئے۔)

حضرت نظام الدینؒ فرمایا کرتے تھے کہ بابا صاحبؒ کے حسن عبارت، لطافت تقریر، عذوبت بیان اور شیرینی گفتار کا یہ عالم تھا کہ مخاطب کے دل پر اثر ہوتا تھا، حلاوت ایسی تھی کہ الفاظ کانوں میں رس گھولتے تھے اور سننے والا سوچتا تھا کاش غایت ذوق و کیفیت میں اس وقت دم نکل جائے تو کتنا اچھا ہو، شاید اسی لئے حضرت بابا صاحبؒ کو ”منج شکر“ کہا گیا ہے۔

آپ نے خدمت شیخ میں پہنچنے سے پہلے ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ شیخ کی زبان مبارک سے جو کچھ سنوں گا اسے لکھ لیا کروں گا۔ چنانچہ جو کچھ شیخ سے سنا تھا، جماعت خانے میں واپس آکر وہ کسی کانڈ پر لکھ کر رکھ لیا اور اسی طرح باقی مجلسوں میں جو کچھ سنتے رہے، متفرق پرچوں پر لکھتے رہے اور یہ بات شیخ کو بتا بھی دی تھی کہ میں آپ کے ملفوظات لکھ رہا ہوں، چند روز کے بعد کسی نے آپ کو سفید کانڈ کی ایک بیاض جلد بندھی ہوئی دی، آپ نے اسے ایک غیبی اشارہ سمجھا، اور وہ سب فوائد جو متفرق پرچوں پر لکھتے رہے تھے اس میں درج کر لئے۔ اس بیاض پر سب سے پہلے آپ نے اپنے قلم سے لکھا:

”بسم اللہ الرحمن الرحیم ○ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا

اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم ○

پھر ملفوظات شیخ درج کرنا شروع کر دیئے شیخ جب محفل میں کوئی حکایت یا کوئی نکتہ بیان کرنے لگتے تو پوچھ لیتے تھے کہ مولانا نظام الدینؒ موجود ہیں؟ اگر حضرت اس وقت موجود نہ ہوتے تو جب واپس آتے شیخ ان فوائد کا اعادہ کرتے تھے تاکہ حضرت نظام الدینؒ اپنی بیاض میں لکھ سکیں۔ ہمیں علم ہے کہ یہ مجموعہ ملفوظات ۸ شوال ۷۰۸ھ (۲۱ مارچ ۱۳۰۹ء) تک حضرت نظام الدینؒ کے پاس موجود تھا۔

حضرت نظام الدینؒ خانقاہ میں پہنچے ہیں تو بابا صاحبؒ نے اپنے داماد اور خادم خاص حضرت بدر الدین اسحاقؒ (۲۷) کو بلایا اور ان سے کہا: مولانا نظام الدینؒ دہلی سے آئے ہیں

marfat.com

Marfat.com

انہیں جماعت خانے میں ٹھہراؤ اور ان کے لئے چارپائی کا انتظام کرو۔ جماعت خانے میں سب درویش زمین پر سوتے تھے۔ حضرت نظام الدین نے دیکھا کہ کتنے ہی خاصان حق، حافظان کلام ربانی اور عاشقان رحمانی فرش خاک پر سو رہے ہیں تو فرمایا کہ ”میں بھی زمین پر ہی سوؤں گا یہاں چارپائی پر سونا اچھا نہیں لگتا۔“ حضرت بدر اسحاق نے کہا: ”تم اپنا کما کرو گے یا شیخ کا حکم مانو گے؟“ اس پر لاجواب ہو گئے۔ مگر روایت یہ ہے کہ حضرت نے چارپائی کو الٹا بچھا کر آرام فرمایا یعنی اس طرح کہ اس کا جھلنگا زمین سے لگا رہا اور شیخ کے حکم کی تعمیل بھی ہو گئی۔

اسی زمانے میں بابا صاحب نے ایک مجلس میں حاضرین سے فرمایا کہ میں کسی کو نعمت (خلافت) دینا چاہتا تھا۔ مگر میرے دل میں القاء کیا گیا کہ نظام الدین دہلی سے آرہے ہیں ان کا انتظار کرو۔ جب حضرت نے بابا صاحب سے بیعت کرنے کی درخواست کی تو مخلوق ہونے (سرامنڈنے) کی نیت نہیں تھی، کیونکہ مخلوق ہونے کے بعد آپ کو طالب علموں میں رہنے سے شرم آتی تھی، بابا صاحب نے بیعت کی درخواست فوراً منظور کر لی، پہلے سورۃ فاتحہ پڑھوائی پھر سورۃ اخلاص اس کے بعد آمن الرسول شہد اللہ انہ لا الہ الا هو ان الدین عند اللہ الاسلام تلاوت کرائی اور فرمایا کہو: ”میں نے اس فقیر (حضرت بابا فرید گنج شکر) اور اس کے خواجگان اور حضرت رسول خدا ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور عہد کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھ پیر اور آنکھوں کو محفوظ رکھوں گا اور شریعت کا پابند رہوں گا“ حضرت نظام الدین نے یہ الفاظ دہرائے تو بابا صاحب نے قینچی لے کر ان کے بالوں کی ایک لٹ داہنی طرف سے قطع کی اور اپنا ایک کرتا اپنے ہی ہاتھوں سے پہنایا اس وقت آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے:

ولباس التقوی ذلک خیر والعاقبہ للمتقین

اس کے بعد حاضرین سے فرمایا: آج میں نے ایک ایسا درخت لگایا ہے جس کے سائے میں بہت سی خلق خدا آرام پائے گی۔“

آپ نے شیخ سے عرض کیا کہ میں ایک طالب علم ہوں، آپ کا کیا ارشاد ہے تعلیم جاری رکھوں یا اوراد و وظائف میں مشغول ہو جاؤں؟۔ بابا صاحب نے فرمایا: ”میں کسی کو پڑھنے سے نہیں روکتا درویش کے لئے تھوڑا علم بھی ضروری ہے، تم دونوں شغل جاری رکھو اور

دیکھو کون سا غالب آتا ہے؟“

بیعت کے بعد شیخ نے وصیت فرمائی، ایک تو یہ کہا کہ جو اس فقیر کا مرید ہو اسے قرض نہیں لینا چاہئے، دوسرے کئی بار یہ فرمایا کہ اپنے دشمنوں کو خوش کرنا چاہئے اور حقدار کو اس کا حق دینا چاہئے اس وقت حضرت نظام الدینؒ نے دل میں سوچا کہ مجھ پر تو کسی کا حق باقی نہیں ہے، پھر اچانک خیال آیا کہ دہلی میں ایک بزاز سے کپڑا قرض لیا تھا، اس کے بیس جینل باقی رہ گئے اور ایک شخص سے ایک کتاب مستعار لی تھی، جو مجھ سے کھو گئی، دہلی جا کر پہلا کام یہ کروں گا کہ ان دونوں کے حقوق ادا کروں گا۔ شیخ کے ارشاد کی نہ صرف آپ نے دہلی آکر تعمیل کی اور زندگی بھر ادائے حقوق کا خاص خیال رکھا، بلکہ جب اجودھن سے واپس آرہے تھے تو راستے میں ایک کبیل پڑا ہوا دیکھا، آپ وہاں ٹھہر گئے۔ ایک قافلہ ادھر سے گزر رہا تھا جب تک وہ قافلہ پورا نہ گزر گیا آپ کبیل کے پاس کھڑے رہے اور اس کی حفاظت کرتے رہے تاکہ کوئی اور نہ اٹھا لے اور جس کا حق ہے وہ مارا نہ جائے۔ (نفاٹس الانفاٹس ۱۳)

ربیع الاخر ۷۳۳ھ)

دوسرا دن ہوا تو ایک اور شخص آپ کے سامنے بابا صاحبؒ سے مرید ہوا اور اس نے اپنا سر بھی منڈوا دیا۔ بابا صاحبؒ کے حکم سے حضرت بدرا سخیؒ نے اس کا حلق (مونڈن) کیا حضرت نے دیکھا کہ حلق کے بعد اس شخص کے چہرے پر انوار ظاہر ہوئے، آپ کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ مخلوق ہو جائیں۔ اپنی خواہش کا اظہار حضرت بدرا سخیؒ سے کیا۔ انہوں نے بابا صاحبؒ کی خدمت میں معروضہ پیش کیا، انہوں نے فرمایا ”ہاں مخلوق ہو جائیں“ تو سر بھی منڈوا دیا۔“

ایک دن بابا صاحبؒ باطنی کیفیت کے عالم میں بیٹھے تھے اور ایک پرچہ ہاتھ میں تھا۔ خود ہی فرمانے لگے: ”کوئی ہے جو مجھ سے ایک دعا یاد کر لے۔ حضرت نظام الدینؒ حاضر تھے سمجھ گئے کہ شیخ کا اشارہ میری طرف ہے، آگے بڑھ کر ادب سے عرض کیا اگر حکم ہو تو بندہ یاد کر لے۔“

شیخ نے وہ پرچہ آپ کو دے دیا، حضرت نے عرض کیا: ایک بار آپ کے سامنے پڑھ لوں پھر یاد کر لوں گا“ فرمایا پڑھو، جب حضرت نظام الدینؒ دعا پڑھ رہے تھے تو ایک موقع پر آپ نے کوئی اعراب جو شیخ کے لکھے ہوئے اعراب سے مختلف تھا اگرچہ از روئے قواعد وہ

صورت بھی درست تھی اور اس سے بھی معنی نکلتے تھے بابا صاحب نے اس موقع پر ٹوکا اور فرمایا کہ پڑھو۔ آپ نے فوراً اصلاح قبول کر لی، وہ دعا بھی اسی وقت یاد ہو گئی۔ آپ نے عرض کیا اگر مخدوم کا سم ہو تو بندہ ایک بار اور سنا دے۔ فرمایا ”سناؤ“ حضرت نے دعائیں اور جیسے بابا صاحب نے فرمایا تھا اسی طرح اعراب پڑھا، جب باہر آئے تو حضرت بدر اسحاق نے فرمایا ”مولانا نظام الدین تم نے بہت اچھا کیا کہ جس طرح شیخ نے بتایا تھا ویسے ہی پڑھا، اگرچہ تم جیسے پڑھ رہے تھے، وہ صورت بھی درست تھی۔ حضرت نظام الدین نے فرمایا کہ اگر سیویہ جو علم نحو کا بنانے والا ہے، اور اس فن کے تمام جید علماء مل کر بھی مجھ سے یہ کہیں کہ جیسے میں نے پڑھا تھا وہ درست تھا، تب بھی میں اسی طرح پڑھوں گا۔ جیسے شیخ نے فرمایا ہے۔ حضرت بدر اسحاق نے فرمایا کہ یہ ادب اور یہ متابعت کلہ جو تم ملحوظ رکھتے ہو، ہم میں سے کسی کو بھی نصیب نہیں۔ حضرت نظام الدین دہلی سے فارغ التحصیل ہو کر آئے تھے مگر اچھوتوں سے آئے تو: سبق ایسا پڑھا دیا تو نے دل سے سب کچھ بھلا دیا تو نے اب شیخ سے علم ظاہر کا درس بھی لینے لگے۔ علم عقائد میں ابو شکور محمد بن عبدالعزیز الکلبشی السامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”التمہید فی بیان التوحید“ سبقاً پڑھی۔ تصوف میں شیخ شہاب الدین سروردی (متوفی یکم محرم ۶۳۲ھ) کی تصنیف، عوارف المعارف کے چھ ابواب پڑھے (۲۸) اس کے علاوہ قرآن شریف کے دس پارے سنا کر تجوید درست کی۔ حضرت کہتے تھے کہ عربی حرف ضاد کی آواز جیسی بابا صاحب نکالتے تھے وہ ہم میں سے کسی کے بس میں نہیں۔ آپ نے شیخ حمید الدین ناگوری سروردی (ف ۶۳۳ھ / ۱۲۲۵ء) کی تصنیف ”لوائح“ بھی بابا صاحب سے پڑھی۔

حضرت بدر اسحاق اچودھن میں حضرت بدر اسحاق ان کے آرام و آسائش کا بہت خیال رکھتے تھے۔ انہیں بھی شیخ سے جو کچھ کہنا ہوتا تھا حضرت بدر

الدین اسحاق کی وساطت سے کہتے تھے۔ حضرت نے فرمایا: -
 مرابا مولانا بدر الدین اسحاق "محبت سخت بود و در کل امور کہ مرا پیش
 آمدے خدمت مولانا پیش شیخ شیوخ العالم مدد ہا کر دے" و خود نیز
 تربیت ہا نمودے۔

"مجھے مولانا بدر اسحاق سے سخت محبت تھی تمام معاملات میں جو مجھے پیش آتے تھے
 مولانا شیخ کی خدمت میں میری مدد کرتے تھے اور خود بھی میری تربیت فرماتے تھے۔
 حضرت بدر اسحاق کی نیکی اور درویشی کا یہ حال تھا کہ ایک بار کسی کو اپنی شطرنجی فروخت
 کرنے کے لئے بازار بھیجا اور اس سے کہا کہ "اسے درویشانہ نہ چھو" اس نے پوچھا یہ کیسے
 ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ جو قیمت لگ جائے اسی پر دے دینا قیمت بڑھانے کی کوشش نہ کرنا۔
 حضرت بدر اسحاق بابا صاحب کی خانقاہ میں امامت کرتے تھے ایک بار مغرب کی نماز
 پڑھانے کڑے ہوئے تو الحمد کے بعد کوئی سورۃ تلاوت کرنے کی بجائے یہ شعر پڑھنے
 لگے: -

پیش سیاست غمت روح چہ نطق میزند

اے ذہیزان صحوہ کم تو چہ نواہی زنی

ترجمہ: تیرے غم کی مار کے سامنے روح کیا بول رہی ہے؟ ارے تو تو چڑیا سے بھی کم
 ہے تو کیا چمک رہی ہے۔ اسے بار بار پڑھتے رہے اور بے خودی طاری ہو گئی۔ جب عالم صحو
 میں آئے تو بابا صاحب نے دوبارہ نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ حضرت بدر اسحاق اتنے رقیق القلب
 تھے کہ آنکھیں ایک آنکھ کے لئے آنسو سے خالی نہ رہتی تھیں روتے روتے آنکھوں کے
 کوپوں میں ٹالیاں سی بن گئی تھیں ایک دن سید محمد کسان کی اہلیہ نے ان سے کہا: بھائی اگر تم
 تھوڑی دیر کے لئے رونا بند کر دو تو میں تمہاری آنکھوں میں سرمہ لگا کر ان کا علاج کروں۔
 مولانا نے روتے ہوئے کہا: "بہن یہ آنسو میرے اختیار میں کب ہیں؟"

حضرت نظام الدین "اولیا ان کا اتنا احرام کرتے تھے کہ اپنا استاد اور پیر مرشد مانتے

marfat.com

Marfat.com

تھے، (ترہیت ہا فرمودے) جب تک حضرت بدر اسلمیؒ زندہ رہے حضرت نظام الدینؒ نے ازراہ ادب کسی کو مرید نہیں کیا (۲۹)۔

جب اجودھن کے اس پہلے سفر سے واپسی کا وقت آیا تو حضرت نظام الدینؒ، حضرت شیخ جمال ہانسویؒ اور شمس دبیر ایک مختصر سا قافلہ بنا کر نکلے۔ یہ غالباً ذی قعدہ ۶۶۷ھ / جولائی ۱۲۶۹ء کا واقعہ ہے۔ رخصت کے وقت سب نے شیخ کے قدم چومے۔ شیخ جمال ہانسوی نے عرض کیا ہمیں کچھ وصیت فرمائیں تو بابا صاحبؒ نے حضرت نظام الدینؒ کی جانب اشارہ کر کے فرمایا: ”انہیں خوش رکھنا“ اس وصیت کی وجہ سے خصوصاً شیخ جمال نے تمام راستے میں ان کی ہر ضرورت کا بے حد خیال رکھا۔ شمس الدین دبیر اپنے لطیفوں اور چٹکوں سے راستے کی کلفت بھلا دیتے تھے، ہنستے بولتے راہ طے ہو رہی تھی۔ چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے جس کا نام اگروہہ (Agroha) تھا یہاں کا حاکم میران نام شیخ جمال ہانسویؒ کا مرید تھا، وہ گاؤں سے باہر نکل کر استقبال کرنے آیا، اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ مہمان رکھا۔ اگلی صبح کو سب کی سواری کے لئے تازہ دم گھوڑے آگئے، حضرت نظام الدینؒ کو جو گھوڑا ملا۔ وہ کچھ سرکش اور بد لگام تھا، اس نے چلنے میں بہت پریشان کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شمس دبیر اور شیخ جمالؒ تو آگے نکل گئے، اور حضرت کئی میل پیچھے رہ گئے۔ آپ تما سفر کر رہے تھے، موسم سخت تھا پیاس شدید لگ رہی تھی، ایسے میں گھوڑے نے سرکشی کی اور بدک کر آپ کو زمین پر گرا دیا۔ آپ اتنے زور سے زمین پر گرے کہ بے ہوش ہو گئے اور بہت دیر تک وہیں جنگل میں بے ہوش پڑے رہے۔ جب ہوش آیا تو دیکھا کہ آپ حضرت بابا فریدؒ کا نام جپ رہے ہیں۔ اس پر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور سوچا کہ اس سے امید بندھتی ہے کہ ان شاء اللہ مرتے وقت بھی شیخ کا مبارک نام میری زبان پر جاری رہے گا، اجودھن میں حضرت بابا صاحبؒ کی خانقاہ میں رہنا خود ایک مجاہدہ تھا۔ اکثر کریل کے پھول اور ڈیلے پانی میں ابال کر کھائے جاتے تھے اور کبھی ان میں نمک بھی نہ ہوتا تھا۔ حضرت نظام الدینؒ نے بارہا فرمایا کہ:

”دران شب کہ ڈیلہ یا گل کریل درخانہ شیخ سیری خوردیم مارا روز عید

بودے“ (خیرالجالس ۱۵۰)

”جس رات کو ڈیلہ یا گل کریل شیخ کے گھر میں ہم پیٹ بھر کر کھاتے تھے وہ گویا روز

عید ہوتا تھا“

جب ڈیلہ اور کرمل کا موسم نہ ہوتا تھا تو حضرت بابا فرید کی زنبیل گھمائی جاتی تھی۔
سنت شیخ کے اتباع میں حضرت نظام الدین کی خانقاہ (غیاث پور) سے بھی کبھی زنبیل گھمائی گئی
ہے۔

حضرت نظام الدین اولیاءؒ نے اجودھن کا دس بار سفر کیا۔ پہلا سفر تو یہی تھا، دوسرا اگلے
سال ۶۶۸ھ میں ہوا۔ عموماً رجب کے مہینے میں دہلی سے روانہ ہوتے تھے اور رمضان وہیں
گزارتے تھے شوال یا ذی قعدہ میں واپسی ہوتی تھی۔ یہ واقعہ غالباً دوسرے سفر کا ہے
(۶۶۸ھ) کہ اجودھن سے واپسی میں ایک دن بارش ہونے لگی، حضرت ایک درخت کے نیچے
ٹھہر گئے تاکہ بھگنے سے بچ جائیں اس وقت کچھ راہزن تلواریں اور تیر کمان لئے ہوئے آپ
کی طرف بڑھے، آپ کے پاس اور تو کچھ نہ تھا حضرت بابا صاحب کا عطا کیا ہوا لباس اور ایک
کبل تھا، آپ نے دل میں سوچا کہ اگر ان ڈاکوؤں نے مجھ سے یہ چیزیں چھین لیں تو میں پھر
سی آبادی میں نہیں رہوں گا۔ جیسے ہی آپ نے یہ سوچا وہ راہزن آپ کی طرف سے مڑ گئے،
اور دوسری طرف چل دیئے۔ حضرت چراغ دہلی نے بابا صاحب پر جاو کئے جانے کا جو واقعہ
روایت کیا ہے بظاہر وہ بھی اسی دوسرے سفر سے متعلق ہے (خیر الجالس ۷۱) غالباً اسی سفر سے
واپسی کے وقت مولانا داؤد پالا ہی ساتھ تھے۔ حضرت نظام الدینؒ فرماتے ہیں کہ مولانا داؤد
راستے میں تیز چلتے تھے اور آگے نکل کر نماز میں مشغول ہو جاتے تھے (اس سے ظاہر ہوتا ہے
کہ سفر پیدل ہو رہا تھا۔) جب حضرت نظام الدینؒ ان کے پاس پہنچ جاتے تھے تو مولانا داؤد پھر
تیزی سے کوس دو کوس نکل کر نوافل پڑھنے لگتے تھے ایسے گھنے جنگل اور بیابان میں بھی راستہ
نہ بھولتے تھے (خیر الجالس ۸۸)

ایک سفر میں (جو ممکن ہے دوسرا سفر ہو ۶۶۸ھ) یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ حضرت نظام
الدینؒ کے پیر میں سانپ نے ڈس لیا، مگر آپ بالکل نہیں گھبرائے اور یہ سوچا کہ میرے دل
میں اگر پیر کی محبت ہے اور میرے حال پر ان کی توجہ ہے تو سانپ کا زہر مطلق اثر نہیں کر
سکتا اور یہی ہوا کہ زہر کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا۔

تیسرا اور آخری سفر وہ تھا جب آپ کو خلافت ملی (۳۰)۔ (۶۶۹ھ) حضرت بابا صاحب کا
انتقال ۵ محرم ۶۷۰ھ / ۱۳ اگست ۱۲۷۱ء کو ہوا اس وقت حضرت نظام الدینؒ اجودھن میں
موجود نہیں تھے دو ماہ قبل دہلی کو واپس جا چکے تھے۔ بابا صاحب نے انتقال کے وقت حضرت

بدرا سحلیٰ کو وصیت کی اور فرمایا کہ نظام الدین دہلی سے آئیں تو میرا مصلیٰ، عصا، تسبیح، خرقہ اور نعلین ان کو دے دینا۔ چوتھا سفر حضرت نے اس وقت کیا جب پیر و مرشد کے انتقال کی خبر ملی۔ قیاس یہ ہے کہ آخر محرم یا صفر (۶۷۰ھ) ہی میں پھر اجودھن پہنچے ہوں گے اور آپ نے ہی وہ دروازہ تعمیر کرایا جو اب جنتی دروازہ کہلاتا ہے۔ پانچواں سفر اس طرح ہوا کہ آپ کوچ کی شدید تمنا ہوئی اس کا نصاب تو آپ کے پاس نہیں تھا، نہ آپ پر حج فرض تھا، اس لئے آپ اجودھن کے سفر روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر اپنے پیر و مرشد کے مزار مبارک پر حاضری دی۔ فرماتے تھے کہ میرا مقصود کچھ زیادہ ہی (مع شی زائد) مجھے اجودھن کی زیارت سے مل گیا۔ دوسری بار پھر حج کا اشتیاق غالب ہوا تو پھر آپ نے اجودھن کا سفر اختیار کیا، ایک اور سفر اس وقت ہوا جب آپ نے حضرت بابا صاحب کی صاحبزادی اور حضرت بدرا سحلیٰ کی بیوہ حضرت بی بی فاطمہ اور ان کے بچوں کو اپنی نگرانی میں رکھنے کے لئے دہلی بلوایا تھا، اور یہاں بعض بداندیشوں نے یہ شہرت کر دی تھی کہ آپ حضرت بی بی فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اس انواہ سے اتار نچ ہوا کہ دہلی چھوڑ کر فوراً اجودھن کے سفر روانہ ہو گئے۔ (بعد ۶۹۰ھ) ساتواں سفر اجودھن جلال الدین خلجی کے زمانہ حکومت (۶۸۸ھ - ۶۹۵ھ) میں ہوا جب حضرت کو معلوم ہوا کہ بادشاہ بغیر اطلاع کے خانقاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے، باقی تین سفروں کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہیں، اور حضرت کے ملفوظات میں ان سب اسفار کے واقعات اس طرح مخلوط ہو گئے ہیں کہ یہ تمیز کرنا دشوار ہے، کون سا واقعہ کس سفر سے متعلق ہے؟ اجودھن سے خلافت ملنے کے بعد آپ شہر دہلی میں متعدد جگہوں پر رہے، جن میں سے بعض کا تذکرہ اوپر گزر چکا ہے۔ شہر کی گہما گہمی سے نکل کر آپ کسی ایسی جگہ منتقل ہونے کی سوچ رہے تھے جہاں یکسوئی کے ساتھ عبادت کر سکیں، اور خلق کا ہجوم بھی نہ ہو۔ اسی زمانے میں آپ قرآن شریف حفظ کر رہے تھے اور اس کے لئے شہر سے باہر کسی باغ میں جایا کرتے تھے۔ ایک دن حوض رانی کے پاس باغ جسرتھ میں مناجات کر رہے تھے، بہت اچھا وقت تھا آپ نے کہا: یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ اس شہر سے کہیں چلا جاؤں، مگر اپنی مرضی سے جانا نہیں چاہتا، جہاں تو چاہے گا وہاں جانا چاہتا ہوں، اسی وقت کان میں آواز آئی ”غیاث پور“ حضرت نے اس وقت تک غیاث پور نہیں دیکھا تھا، اور یہ بھی علم نہیں تھا کہ وہ کدھر واقع ہے؟ یہ آواز سننے کے بعد حضرت اپنے ایک دوست سے ملنے گئے وہ دوست نیشاپوری کہلاتا تھا (۳۱)۔

اس کے گھروالوں نے بتایا کہ وہ غیاث پور گئے ہیں، حضرت نے سوچا یہ وہی غیاث پور معلوم ہوتا ہے جس کی آواز میرے کانوں میں آئی تھی، غرض آپ غیاث پور آئے۔ یہ جمنہ کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا آبادی بہت تھوڑی تھی، خلق کا آنا جانا بھی کم تھا۔ یہ اسی جگہ بسا ہوا تھا جہاں اب مقبرہ ٹھایوں ہے۔ حضرت اس گاؤں میں آ رہے۔ ابتداء میں ایک کچا مکان تھا جس پر چھپر پڑا ہوا تھا، جوں جوں حضرت کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا گیا، مخلوق خدا کا ہجوم بھی زیادہ ہوتا گیا، اور یہ مکان تنگ محسوس ہونے لگا۔ غیاث پور میں ابتدائی دور بہت سختی اور مجاہدے کا رہا تین چار دن میں انظار کے لئے زنبیل گھماتے تھے اور کئی کئی دن مسلسل روزہ رکھتے تھے۔

(مرآة الاسرار قلمی ۲/۳۳)

۶۸۲ھ / ۱۲۸۵ء کے بعد کسی وقت معز الدین کیقباد (سال جلوس ۶۸۶ھ) نے جمنہ کے کنارے کیلو کھڑی میں اپنا محل بنوایا، اور دوسرے امراء نے بھی عمارتیں بنانی شروع کیں یہ علاقہ خاصا آباد ہو گیا۔ سلطان معز الدین کیقباد بغرا خان کا بیٹا اور بلبن کا پوتا تھا، ۱۷-۱۸ سال کی عمر میں تخت دہلی پر بیٹھا۔ اس کی تربیت سلطان بلبن نے خاص اہتمام سے کرائی تھی، تاکہ وہ بے ہودہ مشغلوں اور لغو باتوں سے بچا رہے، اس کا اخلاق پاکیزہ اور حوصلہ بلند ہو۔ مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تربیت میں کچھ زیادہ ہی سختی روار کھی گئی، اور جب وہ ایک خود مختار سلطان کی حیثیت سے تخت پر بیٹھا تو سارے بند ٹوٹ گئے اور وہ تمام تر عیش و نشاط میں غرق ہو کر رہ گیا (۳۲) ساری تعلیم و تربیت دھری کی دھری رہ گئی، اور اس نے فسق و فجور کو انتہا تک پہنچا دیا۔ اب ہر طرف ساز و آہنگ اور طبلہ و مردنگ شاہان رنگین قبا اور حسینان ہوش ربا کی فرمان روائی تھی، بلبن کے زمانے میں امراء کو بھی اپنی عیش کوشیوں کی حسرت پوری کرنے کا موقع نہ ملا تھا، انہوں نے بھی نوجوان کیقباد کے ساتھ اپنی لے ملا دی، بس پھر کیا تھا کیلو کھڑی ایک مناج گھر اور قحبہ خانہ بن کر رہ گیا۔ جہاں ملک کے کونے کونے سے ارباب نشاط کھنچے چلے آ رہے تھے۔ مثل مشہور ہے کہ جیسار اجا ویسی پر جا۔ عوام کا بھی یہی حال ہو گیا تھا کہ ہر ایک اپنی بساط بھر داد عیش دینے پر تلا ہوا تھا ضیاء الدین برنی نے لکھا ہے:

”سلطان معز الدین شہر کی سکونت ترک کر کے دار الحکومت کے کوشک

marfat.com

Marfat.com

لعل سے باہر چلا گیا اور کیلو کھڑی میں دریائے جمنا کے کنارے ایک بے نظیر محل اور ایک لاجواب باغ بنوایا اور اپنے ملوک امراء خاص مصاحبین و مقربین اور ملازمین درگاہ کو لے کر وہاں چلا گیا اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ کوشک سلطانی سے نزدیک تمام ملوک و امراء اور معتبر و معروف لوگوں نے اور حکومت کے کارکنوں نے چھوٹے چھوٹے مکانات (فرود خانہ ہا) بنوائے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ کیلو کھڑی میں سکونت کی طرف مائل ہے، تو انہوں نے بھی اپنے محلوں میں مکانات اور قصر بنوانے شروع کر دیے۔ ہر طائفہ (گروہ) کے سردار شہر کی سکونت ترک کر کے کیلو کھڑی چلے گئے اس طرح کیلو کھڑی خوب آباد ہو گئی، اور بادشاہ اور اس کے دربار سے منسلک خواص و عوام کے عیش و طرب میں مستغرق اور منہمک ہو جانے کی شہرت تمام (ملک) میں پھیل گئی، اور مملکت کے ہر حصے میں پہنچ گئی ہر علاقے سے مطرب، خوش الحان اور حسین لوگ، ہنسی کرنے والے مسخرے اور بھانڈ دربار میں آ گئے۔ چاروں طرف خوب آبادی نظر آنے لگی، فسق و فجور کا رواج عام ہو گیا۔ مسجدیں نمازیوں سے خالی ہو گئیں اور شراب خانے آباد ہو گئے۔ خانقاہوں میں کوئی باقی نہ رہا، اور مصعبے یعنی نشست گاہیں (گھر کی دہلیزیں) بھرنے لگیں، شراب کا نرخ دس گنا بڑھ گیا اور لوگ عیش و عشرت میں ڈوب گئے۔ رنج و الم غم و فکر، خوف و ہراس، اور محرومی کسی کے سینے میں باقی نہ رہی، ظریف خوش طبع، لطیف گو اور ہنسی دل لگی کرنے والے ایک ایک کر کے سب اسی شہر میں آ کر بس گئے، گویوں اور حسینوں کے سر میں ناز نخروں کا سودا سا گیا، شراب اور عرق بیچنے والوں کی ہمایاں سونے اور چاندی کے تنکوں سے بھر گئیں حسین، بدکار، اور مشہور فاحشہ عورتیں سونے میں اور زیورات میں غرق ہو گئیں، اکابر و مشاہیر کے لئے اب شراب پینے، مجلسیں منعقد کرنے، دوستوں کو جمع کرنے، گانا سننے، جوا کھیلنے،

بچھیس دینے مزے اڑانے، عمر کے ایک حصے کو بے وفا زمانے میں
 اچھی طرح گزارنے اور رات دن عیش و آرام میں بسر کرنے کے سوا
 اور کوئی کام نہ تھا۔ (برنی: تاریخ فیروز شاہی، اردو ترجمہ، ڈاکٹر سیہ
 معین الحق مرکزی اردو بورڈ لاہور ۱۹۶۹ء صفحات ۲۲۰-۲۱۸)

اس ماحول میں حضرت نظام الدین اولیاءؒ سخت ذہنی اذیت اور روحانی کرب میں مبتلا
 تھے۔ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ غیاث پور چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ کبھی یہ بھی خیال آیا کہ
 دہلی کو ہی خیرباد کہ دیں، آپ نے پٹیالی (ضلع ایش) میں جا کر رہنے کا خیال کیا، اس زمانے میں
 امیر خسرو بھی پٹیالی ہی میں تھے، پھر یہ سوچا کہ بسالہ جاؤں، وہ صاف ستھری جگہ ہے آپ بسالہ
 چلے بھی گئے اور وہاں تین دن قیام کیا، مگر سخت کوشش کے باوجود کوئی مکان نہ ملا، نہ کرائے
 پر، نہ گروی رکھنے کو، نہ بیچنے کو، ان تین دنوں میں تین مختلف اصحاب کے مہمان رہے، اور
 کوشش کامیاب نہ ہونے پر واپس آگئے تھے، یہ غیاث پور منتقل ہونے سے پہلے کا قصہ ہے۔
 جب یہاں کا وہ حال ہوا جو اوپر بیان ہوا تو آپ نے پھر دہلی کو خیرباد کہنے کا اس حد تک ارادہ کر
 لیا کہ اسی زمانے میں حضرت کے استاد حدیث شیخ امین الدین محدث تمبرزیؒ کا انتقال ہوا،
 حضرت نے ان کے سوم میں جانے کا ارادہ کیا، اور سوچا کل ان کے سوم میں جاؤں گا تو وہیں شر
 میں رہ پڑوں گا۔ یہ بات دل میں ٹھان لی تھی کہ اسی دن عصر کی نماز کے وقت ایک خوش شکل
 دیلا پتلا جوان آیا، اور آتے ہی حضرت نظام الدینؒ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا۔

آن روز کہ مہ شدی نمید انستی کا نگشت نمای عالمے خواہی شد؟
 امروز کہ زلفت دل خلتے بر بود در گوشہ شستت نمیدارد سودا!
 (جس دن تم چاند بنے تھے کیا یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک دن تمہاری طرف انگلیاں بھی
 اٹھیں گی؟ اب کہ تمہاری زلفوں نے ایک عالم کا دل اچک لیا ہے، تو کونے میں جا کر بیٹھنے سے
 کوئی فائدہ نہیں)

ایسی ہی اور باتیں کہیں، جنہیں حضرت نے کہیں کسی بیاض میں لکھ بھی لیا تھا۔ وہ
 جوان کہنے لگا: ”اول تو مشہور نہیں ہونا چاہئے، اور جب کوئی مشہور ہو گیا تو ایسے رہے کہ
 قیامت کے دن رسول اللہ ﷺ کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ یہ کون سی بہادری اور کیا حوصلہ
 ہے کہ خلق سے منقطع ہو کر گوشے میں جا بیٹھیں؟ اور عبادت میں مشغول رہیں۔ قوت اور

حوصلے کی بات تو یہ ہے کہ غلطی کے ہوتے ہوئے بھی مشغول تھی رہا جائے۔ ”وہ یہ باتیں کر چکا تو حضرت اس کے لئے کچھ کھانا لے کر آئے، مگر اس نے کھایا نہیں۔ حضرت نے اسی وقت دل میں نیت کر لی کہ اب میں یہیں رہوں گا۔ جیسے ہی یہ نیت کی اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور چلا گیا۔ پھر وہ شخص کبھی نہیں ملا۔

آپ نے اس فسق و فجور کے ماحول میں ارشاد و ہدایت کا کام شروع کیا۔ ۱۶۸۶ھ / ۱۲۸۷ء کے بعد کسی سنہ میں آپ کے ایک معتقد ضیاء الدین وکیل نے دریائے جمنہ کے کنارے وسیع رقبے پر بڑی اور کشادہ عمارت بنوادی جس میں جماعت خانہ بھی تھا، مطبخ بھی اسی کے بالائی حصے پر حضرت کا قیام رہا، اور اس کے کچھ آثار اب بھی مقبرہ ہمایوں کے شمال مشرقی گوشے میں موجود ہیں۔ اس جماعت خانے میں اتنا ہجوم رہتا تھا کہ آج اس کا تصور کرنا بھی دشوار ہے۔ حضرت نے بیعت کا دروازہ سب کے لئے کھول دیا تھا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ سارے ماحول میں خرابی آچکی تھی، حضرت نے فرمایا میرا تجربہ یہ ہے کہ بیعت کرنے سے کچھ نہ کچھ اصلاح ضرور ہو جاتی ہے۔ کبھی بطور خوش طبعی یہ بھی فرمایا کہ ”میں نے یہ نعمت آسانی سے پالی تھی، اس لئے آسانی سے لٹا رہا ہوں۔“ کبھی یوں ارشاد ہوا کہ ”میں اس لئے ہر شخص کو دست بیعت دے دیتا ہوں کہ قیامت کے دن بعض مرید بھی اپنے پیر کی بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے۔ بیعت کے لئے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مزید ہے کہ جو قوی بازو ہو گیا وہ دوسرے کو اپنی طرف کھینچ لے گا“

برنی کا بیان اس بیعت عامہ کے اثرات و نتائج کا حال ضیاء الدین برنی ہی کے الفاظ سے سنئے:

”دوسری طرف اسی زمانے ”عمد علانی“ میں شیخ الاسلام نظام الدین نے بیعت عام کا دروازہ کھول رکھا تھا، گناہ گار لوگ ان کے سامنے اپنے گناہوں کا اقبال کرتے، اور ان سے توبہ کرتے اور وہ ان کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کر لیتے۔ خواص و عوام، مالدار و مفلس، امیر و فقیر، عالم و جاہل، شریف و رزیل، شہری و دھقانی، غازی و مجاہد، آزاد و غلام، ان سب سے وہ توبہ کراتے اور ان کو طاقہ (۳۳) (کلاہ ارادت) اور مسواک صفائی کے لئے دیتے۔ ان لوگوں میں کثیر تعداد (جماہیر) جو خود کو شیخ کے مریدوں میں شمار کرتی تھی بہت سے ان کاموں

سے پرہیز کرنے لگتی تھی، جو کرنے کے لائق نہیں ہوتے، اگر شیخ کی خانقاہ میں حاضر ہونے والوں میں سے کسی سے کوئی لغزش ہوتی تو اس کو تجدید بیعت کرنا پڑتی، اور شیخ از سر نو اس سے اقبال گناہ اور توبہ کراتے۔ شیخ سے مرید ہونے کی شرم لوگوں کو بہت سے گناہوں (منکرات) سے ظاہر اور مخفی طور پر باز رکھتی۔ چنانچہ عام لوگ یا دوسروں کی تقلید میں، یا خود اپنے اعتقاد کی بنیاد پر، عبادت اور بندگی کی طرف راغب ہو گئے تھے۔ اور مرد اور عورتیں بوڑھے اور جوان، سوداگر اور عام لوگ غلام اور نوکر، اور کم عمر بچے سب نماز پڑھنے لگے تھے۔ ان کے ارادت مندوں کی اکثریت نماز چاشت و اشراق کی پابند ہو گئی تھی۔ مخیر اور مہربانیاں کرنے والے لوگوں نے شہر سے غیاث پور تک متعدد مقامات پر لکڑیوں کے چبوترے بنوادیئے تھے، یا چھپر ڈال دیئے تھے، اور کونئیں کھدوا دیئے تھے، اور پانی کے گھرے اور مٹی کے لوٹے تیار رہتے تھے اور چھپروں میں بوریئے بچھے رہتے تھے۔ ان چبوتروں اور چھپروں میں حافظ اور خادم مقرر کر دیئے جاتے تھے تاکہ شیخ کے مریدوں اور تائبوں کو اور دوسرے نیک لوگوں کو ان کے آستانے پر آتے اور جاتے وقت وضو کرنے اور وقت پر نماز ادا کرنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ ان چبوتروں اور چھپروں میں سے ہر ایک میں نفل نماز ادا کرنے والوں کا ہجوم رہتا تھا۔ گناہوں کے ارتکاب اور ان کے متعلق لوگوں میں بہت کم بات چیت ہوتی تھی، بلکہ ان میں اکثر و بیشتر جو گفتگو ہوتی تھی وہ نماز چاشت و اشراق کے متعلق ہوتی، اور یہ لوگ ہی دریافت کرتے رہتے کہ زوال، اوابین اور تہجد کی نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ اور ہر رکعت میں قرآن کی کون سی سورۃ پڑھنی چاہئے؟ اور یہ کہ پانچوں وقت کی نماز میں نفلوں کے بعد کونسی دعائیں آئی ہیں؟ آستانہ شیخ میں نئے آنے والے شیخ کے پرانے مریدوں سے دریافت کرتے کہ رات کے وقت شیخ کتنی رکعتیں نماز پڑھتے ہیں؟ اور ہر رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ عشاء کی نماز کے بعد محمد مصطفیٰ ﷺ کی روح پاک پر وہ کتنی مرتبہ درود بھیجتے ہیں؟ اور شیخ فرید اور شیخ بختیار دن رات میں کتنی بار درود بھیجتے تھے؟ اور کتنی بار سورۃ قل ہو اللہ پڑھتے تھے؟ شیخ کے نئے مرید ان کے قدیم مریدوں سے اسی قسم کے سوال دریافت کرتے، اور روزوں نفلوں اور کم کھانے کے متعلق معلوم کرتے رہتے تھے۔ اس نیک زمانے میں کثرت سے لوگ قرآن یاد کرنے کا اہتمام کرتے تھے، نئے مرید شیخ کے قدیم مریدوں کی صحبت میں رہتے، اور قدیم مریدوں کو بندگی و عبادت، ترک و تجرید، سلوک کی کتابیں پڑھنے اور

مشائخ اور بزرگوں کے حالات و واقعات کا ذکر کرنے کے سوا اور کوئی کام نہ تھا۔ نعوذ باللہ کہ یہ لوگ دنیا اور دنیا داروں کا ذکر اپنی زبان پر لاتے 'یا دنیا کے کارخانے کی طرف نظر کرتے' یا دنیا اور اہل دنیا کے قصے سنتے۔ ان سب چیزوں کو وہ معیوب بلکہ معاصی میں شمار کرتے تھے۔ اس بابرکت زمانے میں لوگوں کا کثرت سے نفل پڑھنا اور اس کو قائم رکھنا اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ سلطانی دربار سے مسلک امراء سلاحداروں 'محرروں (نو-سندگان) سپاہیوں اور بادشاہ کے غلاموں میں سے بہت سے لوگ جو شیخ کے مرید تھے چاشت اور اشراق کی نماز ادا کرتے تھے اور ایام بیض اور عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھتے تھے کوئی محلہ ایسا نہ تھا جہاں پہ مہینا میں روز کے بعد نیک لوگوں کی مجلس نہ ہوتی اور صوفیاء کا سماع نہ ہوتا اور اس میں گریہ و رقت نہ ہوتی۔ شیخ کے کئی مرید ایسے تھے جو مسجد میں یا گھروں پر نماز تراویح میں ختم قرآن کراتے اور ان لوگوں میں سے جو مستقیم الحال تھے اکثر و بیشتر رمضان میں اور جمعہ اور موسم (ایام حج) کی راتوں میں قیام کرتے تھے۔ صبح تک جاگتے اور پلک پر پلک نہ مارتے تھے ان بزرگوں میں سے بہت سے حضرات ایسے تھے جو دو تہائی یا تین چوتھائی رات تمام سال قیام اللیل میں گزارتے اور بعض عبادت گزار تو عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے۔ شیخ کے مریدوں میں سے چند کو تو میں جانتا ہوں کہ جو شیخ کی نظر کرم کی بدولت صاحب کشف و کرامات ہو گئے تھے۔ شیخ کے مبارک وجود ان کے مبارک انفاس کی برکت اور ان کی مقبول دعاؤں کی وجہ سے اس علاقے کے اکثر مسلمان عبادت، تصوف اور ترک و تجرید کی طرف مائل اور شیخ سے مرید ہونے کے خواہشمند ہو گئے تھے۔ سلطان علاء الدین بھی مع اپنے خاندان کے لوگوں کے شیخ کا معتقد ہو گیا تھا۔ خواص و عوام کے دل نیکی اور نیکو کاری کی طرف راغب ہو گئے تھے۔ حاشا و کلا کی کہ عہد علانی کے آخری چند سال میں اکثر و بیشتر مسلمانوں میں سے کسی کی بھی زبان پر شراب و شاہد، فسق و فجور، قمار بازی، فحش حرکات، لواطت یا بچہ بازی کا ذکر تک بھی نہ آتا۔ بڑے جرائم اور کبیرہ گناہ لوگوں کے نزدیک بمنزلہ کفر ہو گئے تھے۔ مسلمان ایک دوسرے کی شرم سے سود خوری اور احتکار (ذخیرہ اندوزی) کے مرتکب نہ ہوتے تھے اور خوف و ہراس کی وجہ سے دکانداروں میں جھوٹ، کم تولنا، مکاری و دغا، دھوکا دہی اور نادانوں کا روبیہ مار لینا سب قطعی طور پر ختم ہو گئے تھے۔ علم حاصل کرنے والے اور اشراف و اکابر جو شیخ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے زیادہ تر سلوک کی کتابوں اور ان صحیفوں کا مطالعہ کرتے

رہتے تھے جن میں طریقت کے احکام ہوتے تھے۔ چنانچہ قوت القلوب، احیاء العلوم، احیاء العلوم کا ترجمہ عوارف، کشف المحجوب، شرح تعرف، رسالہ گھیریہ، مرصاد العباد، مکتوبات عین القضاة، لوائح اور لوا مع قاضی حمید الدین ناگوری اور فوائد الفوائد امیر حسن کے شیخ کے ملفوظات کی وجہ سے بہت زیادہ خریدار پیدا ہو گئے تھے۔ لوگ کتاب فروشوں سے زیادہ تر سلوک اور حقائق پر کتابوں کے متعلق دریافت کرتے رہتے تھے، اور کوئی رومال ایسا نظر نہ آتا جس میں مسواک اور کنگھاٹکا ہوا نہ ہوتا۔ صوفیوں کی خریداری کی زیادتی کی وجہ سے لوٹے اور چمڑے کی کشتیاں (طشت چرمی) منگنی ہو گئی تھیں۔

در حقیقت اللہ تعالیٰ نے شیخ نظام الدین کو اس آخری زمانے میں جنید و بایزید کی مثل پیدا کیا تھا، اور اپنی ذات کے عشق سے جس کی کیفیت انسانی عقل میں آسکتی، آراستہ و پیراستہ کیا تھا۔ شیخ ہونے کے کمالات کی ان پر مرگادی تھی، اور ہدایت کے فن کو ان پر ختم کر دیا تھا،

زین فن مطلب بلند نامی
کان ختم شدت بر نظامی

ترجمہ: اس فن میں شہرت کی خواہش نہ کر کیونکہ وہ نظامی پر ختم ہو چکی ہے۔

پنجم ماہ محرم کو جو شیخ الاسلام شیخ فرید الدین کے عرس کی تاریخ ہے، شیخ کے گھر (یعنی خانقاہ) میں دہلی اور مملکت کے دوسرے علاقوں سے لوگ اتنی تعداد میں آکر جمع ہو جاتے اور سماع میں شرکت کرتے کہ اس کے بعد اپنی جمیعت کسی کو یاد نہیں کہ کبھی ہوئی ہو۔ شیخ کے ان عجیب معاملات کی وجہ سے شیخ کا زمانہ ایک عجیب زمانہ گزرا ہے۔ (برنی، تاریخ فیروز شاہی اردو ترجمہ ڈاکٹر سید معین الحق، مرکزی اردو بورڈ لاہور، ۱۹۶۹ء صفحات ۵۰۶-۵۰۰)

یہ عہد سلطنت کے ایک مشہور اور مستند مورخ کا بیان ہے جو حضرت نظام الدین کا مرید بھی تھا۔ غور کیجئے کہ بلبن کا پوتا سلطان معز الدین کی قیادت ۶۸۶ھ میں تخت پر بیٹھا تھا اس کے زمانے میں غیاث پور میں رہ کر آپ نے ارشاد و ہدایت کا کام وسیع پیمانے پر شروع کیا۔ سلطان علاء الدین خلجی ۲۲ ذی الحجہ ۶۹۵ھ / ۲۱ اکتوبر ۱۲۹۶ء کو تخت نشین ہوا حضرت کی اصلاحی کوششوں سے آٹھ سال کی مختصر مدت میں دہلی کے معاشرے میں جو انقلاب آگیا تھا برنی کے بیان کی روشنی میں اس کا اندازہ کر لینا دشوار نہیں ہے۔

حضرت کی خانقاہ سلاطین و امراء، علماء و فقہاء، عوام و خواص، نوکر پیشہ اور اہل حرفہ و

فقراء و مساکین سب کے لئے ایک مرکز کشش بن گئی تھی۔ یہاں قلب و روح کا تزکیہ و تجلیہ بھی ہوتا تھا۔ سیرۃ و اخلاق کی اصلاح بھی کی جاتی تھی، احکام شریعت کی پاسداری کا درس بھی دیا جاتا تھا، دکھ درد کے مارے ہوئے انسانوں کو تسکین اور تسلی بھی ملتی تھی، فقراء و مساکین کے لئے کھانا کپڑا بھی فراہم ہوتا تھا، دعا اور ہمت درویشاں کے طالبوں کو تعویذ بھی دیا جاتا تھا، (۳۳)۔ ہر آنے جانے والے کے لئے ایک عام لنگر بھی کھلا ہوا تھا، قدم قدم پر دھگیری و رہنمائی بھی ہو رہی تھی مختصر یہ کہ حضرت نے ارشاد و ہدایت اور فقر و درویشی کا ایک ایسا معیار قائم کر دیا تھا جس تک پہنچنا بعد کے زمانے میں بھی کسی کے لئے ممکن نہ ہو سکا۔

حضرت کی خانقاہ میں لنگر اور بخشش کا یہ حال تھا کہ بقول چراغ دہلیؒ یہ معلوم ہوتا تھا کہ دریا بہ رہا ہے۔ تاریخ جیبی کا بیان ہے کہ شیخ نظام الدینؒ کو تمام کمالات دین اور دونوں جہاں کی فقیری و درویشی کے باوجود عطاء و بخشش کا بہت اہتمام تھا، اور اتنی نذر و فتوحات آئیں کہ حضرت شیخ فریدؒ کے عرس کے دن ایک دن کے اندر چند لاکھ خرچ ہوئے، (تاریخ جیبی صفحہ ۷۶)

آپ کو اتباع سنت کا اتنا اہتمام تھا کہ کسی وقت کوئی ادنیٰ سا فعل بھی خلاف سنت آپ سے سرزد نہ ہوتا تھا، ایک بار قاضی حمید الدینؒ کے گھر پر محفل سماع میں آپ مدعو تھے۔ قاضی حمید الدین کا انتقال ۶۴۳ھ / ۱۲۴۶ء میں ہوا، آپ ان کے فرزندوں کی دعوت پر ان کے گھر تشریف لے گئے ہوں گے، بہر حال آپ صدر محفل میں تشریف فرما تھے اور لوگ ہاتھ دھو کر کھانے کے لئے بیٹھ چکے تھے، دسترخوان بچھا دیا گیا تھا۔ آپ نے کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوئے تھے، اور یہ سوچ رہے تھے کہ اگر یہاں سے اٹھتا ہوں تو مجمع کو تکلیف ہوگی اور نہیں اٹھتا ہوں تو ایک سنت فوت ہوئی جاتی ہے۔ اگرچہ آپ با وضو تھے، مگر اس سنت کے ترک ہونے پر بھی دل میں تردد ہو رہا تھا۔ کوئی معتقد آپ کے ساتھ تھے، وہ مجمع میں سے اٹھ کر گئے اور اپنی دستار کا ایک گوشہ پانی میں تر کر کے لے آئے، اس سے حضرت نے اپنے ہاتھ صاف کئے اور پھر کھانا شروع کیا (ملفوظات شیخ برہان الدین غریبؒ، نقاشی نقاس، قلمی ۹ رجب ۱۳۴۲ھ روز یکشنبہ)

فتوحات اتنی کثرت سے آتی تھیں کہ ڈھیر لگ جاتے تھے۔ آپ کا اصول یہ تھا کہ لاَ اَخذَ (نذرانہ کی کوئی مقدار مقرر نہ کی جائے) وَلَا اَرَدَ (کوئی کچھ نذر پیش کرے تو رد نہ کی جائے) وَلَا کَدَّ

(کوئی نہ دے تو اس سے بغض نہ رکھا جائے) اور فرماتے تھے کہ دس دس لو اور ایک ایک دو یعنی اگر کسی نے دس روپے نذر کئے ہیں تو انہیں دس ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ جو کچھ نذرانہ آتا تھا وہ اسی دن فقراء میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ اپنے پاس کوئی درہم بچا کر نہ رکھتے تھے۔ ایک بار آدھا درہم بیچ گیا تھا وہ حضرت کے پاس تھا۔ رات کو آپ پر حالت شغل میں ”عروجی“ کیفیت طاری ہوئی۔ مگر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ اوپر اٹھتے ہیں تو کوئی دامن پکڑ کر نیچے کو کھینچ لیتا ہے۔ آپ نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ اس آدھے درہم کا اثر ہے۔ فوراً اسے اپنے پاس سے دور کر دیا۔

داد و دہش کا ابتدا سے عالم یہ تھا کہ کسی ضرورت مند کی حاجت اپنے فقر و احتیاج کے عالم میں بھی پوری کر دیتے تھے۔ حضرت برہان الدین غریب فرماتے ہیں کہ ایام جوانی میں جب حضرت دہلی آئے خبر نہیں اس وقت شیخ الاسلام فرید الدین سے بیعت ہو چکے تھے یا نہیں اس وقت دہلی میں ایک مجذوب سلطان معین الدین تھے یہ حضرت کو ملے اور کہا کہ ہمارے لئے کچھ لاؤ۔ حضرت کے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا۔ آپ سلطان معین الدین (۳۵) کو بازار میں لے گئے اور اپنی عبایا دستار ان لوگوں کے ہاتھ بیچ کر مطلوبہ چیز سلطان معین الدین کو دلا دی۔ (نفائس الانفاس ۳ شوال ۷۳۲ھ / ۲۸ جون ۱۳۳۲ء)

ایک بار ایک طالب علم آپ کی خانقاہ میں آیا یہ وہ زمانہ تھا جب آپ غیاث پور میں تشریف رکھتے تھے اور فتوحات کثرت سے آرہی تھیں پہلے اس طالب علم کو کھانا کھلایا پھر آپ نے اقبال سے فرمایا ”انہیں آدھا تنکا دے دو“ اقبال نے کہا اس وقت موجود نہیں، آپ نے فرمایا کسی سے لے کر دے دو، اس وقت اتفاق سے کسی سے بھی نہیں ملا۔ خانقاہ میں ایک بیل بندھا ہوا تھا، حضرت نے فرمایا جاؤ اس بیل کو بازار میں بیچ آؤ۔ اسے لے کر بازار گئے تو بازار کا وقت گزر چکا تھا، وہ بیل بھی نہیں بکا، اسے واپس لے آئے۔ طالب علم نے کہا یہ بیل ہی مجھے دے دیجئے میں بیچ لوں گا۔ وہ ۴-۵ تنکے کا تھا۔ انہی مبارک نے حضرت کی خدمت میں جا کر عرض کیا۔ ”وہ طالب علم کہتا ہے کہ بیل ہی اس کو دے دیا جائے۔“ آپ نے فرمایا! ہاں اسے دے کر رخصت کر دو“ (نفائس الانفاس ۱۳ ربیع الاخر ۷۳۳ھ / ۲ جنوری ۱۳۳۳ء)

ایک دن ایک شخص حضرت کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا میرے گھر میں دو کنواری

لڑکیاں (عجوزہ) ہیں اور اتنی حیثیت نہیں کہ ان کی ضرورت پوری کر سکیں۔ یہ سن کر حضرت نے خادم سے فرمایا، 'قلم دان لاؤ' پھر ایک رقعہ پر لکھا: "مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرًا مِثَالِهَا"

آپ نے اس شخص کو رقعہ دیتے ہوئے فرمایا ملک قیربک کے پاس جاؤ، ان سے اپنا حال بیان کرو اور یہ رقعہ دے دینا۔ اس شخص نے ملک کو رقعہ جا کر دیا تو ملک نے حضرت کا خط پہچان لیا، اس شخص کا حال غور سے سنا۔ اس زمانے میں ملک قیربک کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی۔ اس کا جینز جمع ہو رہا تھا۔ وہ سب کپڑے اور زیور وغیرہ لے کر آیا اور اس شخص کے حوالے کر دیئے۔ دوسرے دن سلطان علاؤ الدین خلجی کے دربار میں حاضر ہوا تو سلطان نے پوچھا "قیربک کل کا ماجرا کیا تھا؟" قیربک حیران ہوا کہ سلطان کو کیسے خبر ہوئی اس نے شیخ کا رقعہ ملنے کا واقعہ بتایا، تو بادشاہ نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ شیخ نے کیا لکھا تھا؟ اس نے رقعہ کا مضمون بتایا۔ بادشاہ نے قیربک کے عمل کو بہت سراہا اور کہا کہ تم نے جو جینز تیار کر رکھا تھا اس کی فہرست لاؤ۔ قیربک نے فہرست پیش کی، اب یہ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ملوک و امراء کی بیٹیوں کا جینز کیا ہوتا تھا، خاص طور پر ترک امراء جو بہت فیاض بلکہ فضول خرچ تھے۔ بادشاہ نے زیورات کی فہرست اپنے خزینہ دار کو دیتے ہوئے کہا کہ اسے دس گنا کر کے ملک قیربک کو دے دو۔

حضرت کے زمانے میں بھی ان کے بدخواہ اور حاسد تھے جو حضرت کی بے پناہ مقبولیت اور عزت کو دیکھ کر آتش حسد میں کباب ہوتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس مقبولیت کا سبب داد و دہش اور دسترخوان کی وسعت ہے، کھانے پینے اور عطایا لینے کے لالچ میں لوگ ان کی خدمت میں جاتے ہیں۔ مگر یہ بات صرف مساکین کے لئے کہی جاتی تو ایک بات بھی تھی، حضرت کی خانقاہ میں تو امراء کا بھی ہجوم رہتا تھا۔ ان کی عقیدت بھی ایسی تھی کہ کسی زمانے میں طبقہ امراء میں اتنی کثرت سے فقیر دوست پیدا نہیں ہوئے رمضان کے مہینے میں افطاری کا سامان ظہر کے وقت سے بٹنا شروع ہوتا تھا اور دور دور تک امراء کے گھروں میں پہنچتا تھا۔ اور بہت سے ملوک و امراء اسی تبرک سے روزہ افطار کرتے تھے جو شیخ کی خانقاہ سے انہیں ملتا تھا۔ حضرت کے عطا و بخشش کے انداز بھی نرالے تھے، کسی کو یہ علم نہ ہوتا تھا کہ کس کو

کیا دیا، مگر کبھی یہ بھید اتفاق سے کھل جاتا تھا۔ ایک بار کسی شخص کے لئے آپ نے خواجہ اقبال سے فرمایا انہیں شکر کی ایک پڑیا دے دو۔ وہ شخص ادب سے سلام کر کے پڑیا لے کر چلا گیا۔ گھر جا کر پڑیا کھولی تو اس میں دس تنکے (اس زمانے کا سکہ) رکھے تھے۔ وہ سمجھا کہ یہ پڑیا مجھے اقبال نے غلطی سے دے دی ہے، پھر خانقاہ میں واپس آیا اور حضرت کی خدمت میں وہ پڑیا پیش کرتے ہوئے ہوئے عرض کیا کہ یہ مجھے بھولے سے دے دی تھی، اس میں تو تنکے نکلے، اس لئے واپس لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضرت نے مسکرا کر فرمایا۔ ”اے خواجہ، یہ تو اللہ تمہیں دے رہا ہے، ہم درمیان میں کون ہوتے ہیں؟ تم انہیں رکھو اور جیسے جی چاہے خرچ کرو“

حضرت خود تو معمولی لباس زیب تن فرماتے تھے مگر نذرانوں میں ملوک و امراء کی طرف سے ہندوستان میں بنا جانے والا بہترین کپڑا حضرت کے پاس آتا تھا اور وہ سب عوام میں تقسیم ہو جاتا تھا، کپڑے کے تھانوں کی تہ میں بھی تنکے چھپا کر رکھ دیئے جاتے تھے۔ ایک بار کوئی شخص جسے حضرت نے ولایتی کپڑے کا تھان مرحمت فرمایا تھا، حاضر ہوا اور اس نے سونے کے چند سکے حضرت کو واپس دیتے ہوئے یہی کہا کہ غلطی سے یہ تھان میں لپٹ کر چلے گئے تھے۔ حضرت نے اس سے بھی یہی فرمایا۔ جب خدا تمہیں دے رہا ہے تو میں کون ہوں؟ یہ تمہارے ہیں خرچ کرو۔

اللہ نے اس فقر و درویشی کے ساتھ داد و دہش میں برکت بھی ایسی دی تھی کہ دیکھنے والوں کی عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ حضرت کا معمول تھا کہ جمعہ کی صبح کو یا جمعرات کو نماز عشاء کے بعد ”تجرید“ کرتے تھے اور خانقاہ میں جو کچھ سامان ہوتا تھا سب نکلوا کر فقراء، مساکین اور ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دیتے تھے، اس کا قاعدہ یہ تھا کہ شہر سے آئے ہوئے جو لوگ موجود ہوتے تھے انہیں دس دس بیس بیس آدمیوں کے حصے دے کر فرما دیتے تھے کہ انہیں تقسیم کر دو، اس طرح خانقاہ میں کچھ بھی باقی نہیں بچتا تھا، مگر صبح کو فجر کی نماز کے بعد واپس جانے والے مسافروں کو رخصت کرنے کے لئے حضرت تشریف رکھتے تھے تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے کر ہی رخصت فرماتے تھے اور دیکھنے والوں کو حیرت ہوتی تھی کہ رات تو سب کچھ بٹ چکا تھا اب یہ کہاں سے آرہا ہے۔

حضرت کی خانقاہ کے دو دروازے دریا کی طرف تھے۔ دریا پر پلانی بھرنے والوں کا ہجوم

ہوتا تھا اور اس کھینچا تانی میں لوگوں کے گھرے ٹوٹ جاتے تھے، انہیں فوراً حضرت کی خانقاہ سے کورا گھڑا مل جاتا تھا، اس طرح روزانہ متعدد گھرے بھی تقسیم ہوتے تھے، مگر کبھی کسی کو خانقاہ میں پانچ سات نئے گھرے بھی رکھے ہوئے نظر نہ آتے تھے، اور اس پر حیرت ہوتی تھی کہ یہ نئے گھرے فوراً کہاں سے آجاتے ہیں۔

بخشش و عطا کے لئے حضرت نے کچھ قاعدے بھی مقرر کر رکھے تھے، غیاث پور اور قرب و جوار کے رہنے والوں کو روزینہ ملتا تھا، جو لوگ شہر میں رہتے تھے انہیں ہفتہ وار وظیفہ دیا جاتا تھا، آس پاس کے قصبات سے آنے والوں کے لئے ماہانہ مقرر تھا اور دور دراز کے علاقوں مثلاً گجرات، راجستھان، دکن وغیرہ سے آنے والوں کے لئے شش ماہی یا سالانہ مقرر کر دیا تھا۔ حضرت کو نذرانوں اور فتوحات میں جو کچھ ملتا تھا وہ تو سب کا سب اس طرح تقسیم ہو جاتا تھا مگر آپ نے اپنے خلفاء کے لئے فتوح لینے اور اسے خرچ کرنے کے قواعد بھی مقرر فرمادیئے تھے۔ کسی پر ثلث (۳/۳) کسی پر ربع (۱/۴) کسی پر خمس (۱/۵) اور کسی پر عشر (۱۰/۱) مقرر تھا۔ چنانچہ مولانا جمال الدین فتوح کا تیسرا حصہ مساکین کو دیتے تھے، ان کے پاس جو فتوح آتی تھی، اسے تین حصوں میں تقسیم کرتے تھے، ایک حصہ اپنی بیوی کے پاس بھیجتے، دوسرا یاران سلسلہ پر خرچ کرنے کے لئے رکھتے اور تیسرا حصہ فقراء میں بانٹ دیتے تھے۔ مولانا حسام الدین ملتانی پر خمس مقرر تھا وہ پانچواں حصہ مساکین کے لئے رکھتے تھے۔

حضرت کی آمدنی کا کوئی مستقل ذریعہ نہیں تھا، اسی طرح حضرت کے خلفاء اور ممتاز مریدین کا بھی کوئی متعین ذریعہ آمدنی نہیں تھا۔ حضرت بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے دہلی میں حضرت نظام الدین کا وظیفہ ایک نکاسفید (چاندی کا سکہ) ماہانہ مقرر تھا، یہ علم نہیں کہ یہ کہاں سے ملتا تھا، جب آپ اچودھن سے بیعت ہو کر آئے تو اسے ترک کر دیا تھا بعض عقیدت مند کسی خاص دن پر (مثلاً جمعہ کو) معمولاً نذر پیش کرتے تھے، یا نئے چاند پر سلام کرنے حاضر ہوتے اور نذر دیتے تھے، اگر کسی نے تین بار کسی مقررہ وقت پر مقررہ نذر پیش کی تو چوتھی بار حضرت قبول نہیں فرماتے تھے۔ توکل ایسا تھا کہ فرماتے تھے اپنا حال کسی سے صراحت تو کیا کنائے میں بھی بیان نہیں کرنا چاہئے کہ یہ بھی درخواست ہے، اسی طرح کسی کی چیز یا سامان کی اس کے سامنے تعریف نہیں کرنا چاہئے۔ کہ یہ بھی ”خواہش“ ہے، اور اگر تعریف سن کر وہ شخص اپنی چیز بطور ہدیہ پیش کرے تو قبول نہیں کرنا چاہئے۔ کسی ایسے

شخص سے بھی اپنا حال بیان نہ کرے جس کے بارے میں یہ احتمال ہو کہ وہ امداد کے لئے کسی کو آمادہ کر دے گا یا کہیں سفارش کر دے گا یہ بھی ”سعی“ ہے۔ درویش کو لازم ہے کہ خطرات قلب کی نگہداشت کرے مثلاً ”دل میں یہ خیال نہ گزرے کہ فلاں شخص آئے گا تو میرے لئے یہ چیز لائے گا“ اس اندیشہ کو دل سے بار بار دور کرے اور اگر وہ شخص کچھ لے کر آئے تو قبول نہ کرے۔ پھر کبھی خطرہ نہ گزرے گا۔ جب یہ مقام حاصل ہو جائے تو اب جو کچھ آئے گا وہ من جانب حق آئے گا اور مرتبہ تسلیم و توکل حاصل رہے گا۔

اپنے زمانے کے سلاطین سے تعلقات

حضرت نظام الدین اولیاءؒ کی مبارک زندگی میں دہلی کے تخت پر جو بادشاہ بیٹھے ان کے نام یہ ہیں۔

(۱) جب حضرت ”اس عالم وجود میں تشریف لائے ہیں اس وقت تخت دہلی پر سلطانہ رضیہ بنت سلطان شمس الدین التمش رونق افروز تھی اس نے ۶۳۴ھ / ۱۲۳۶ء سے ۶۳۷ھ / ۱۲۳۹ء تک حکومت کی۔

حضرت کا قیام جب تک بدایوں میں رہا دہلی میں دو بادشاہ اور تخت نشین ہوئے یعنی معز الدین بہرام شاہ (۶۳۷ھ / ۱۲۲۹ء سے ۶۳۹ھ / ۱۲۴۱ء) اور علاؤ الدین مسعود شاہ (۶۳۹ھ / ۱۲۴۱ء تا ۶۴۴ھ / ۱۲۴۶ء)۔

(۲) حضرت ”بدایوں سے دہلی کب تشریف لائے اس کا قطعی سنہ معلوم نہیں ہے“ بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ آپ ۱۶ سال کی عمر میں یہاں وارد ہوئے اسے صحیح مانا جائے تو ۶۵۲ھ / ۱۲۵۴ء ہو گا۔

کچھ تذکرہ نگاروں کا قول ہے کہ ۲۵ سال کی عمر میں دہلی آنا ہوا اس حساب سے تقریباً

marfat.com

Marfat.com

سنہ ۶۵۷ھ / ۱۲۵۸ء ہوتا ہے یہاں سلطان ناصر الدین محمود شاہ ۶۴۴ھ / ۱۲۴۶ء میں تخت پر بیٹھا تھا اس کی وفات کے بعد سلطان غیاث الدین بلبن ۶۶۳ھ / ۱۲۶۵ء میں سر پر آئے دہلی ہوا۔ گمان غالب یہ ہے کہ حضرت "سلطان ناصر الدین کے عہد حکومت میں دہلی میں وارد ہوئے" اور بلبن کے زمانے میں اجودھن کا سفر ہوا اور حضرت بابا صاحب "سے بیعت اور پھر خلافت ملی۔

(۳) بلبن کے بعد ۶۸۹ھ / ۱۲۸۷ء میں سلطان معز الدین کی تہنود تخت نشین ہوا اور اس نے اپنا مستقر کیلو کھڑی کو بنایا جو غیاث پور کے پاس واقع تھا۔ یہ زمانہ بہت فسق و فجور اور عیش و نشاط کا تھا اور اس عہد میں حضرت کی خانقاہ تعمیر ہوئی۔ کیلو کھڑی کی آبادی کی تکمیل جلال الدین خلجی کے زمانے میں ہوئی اب اسے شہر نو کہا جانے لگا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے چار جانب بلند و رفیع عمارتیں کھڑی ہو گئیں اور بازار بھر گئے۔ (برنی ص ۱۷۶)

(۴) ۳ جمادی الثانی ۶۸۹ھ / ۱۲ جون ۱۲۹۰ء میں فیروز شاہ خلجی کی تخت نشینی سے خاندان خلجی کی حکومت کا آغاز ہوا، یہ حضرت کا معتقد تھا مگر اسے خانقاہ میں آنے کی اجازت نہیں ملی اور اس نے بھیس بدل کر آنے کا ارادہ کیا تو حضرت خانقاہ چھوڑ کر اجودھن کے سفر پر روانہ ہو گئے اس کے زمانے میں ۶۹۰ھ / ۱۲۹۰ء سے حضرت نے دست بیعت لینا شروع کیا۔ غالباً اسی سال ۶ جمادی الثانی ۶۹۰ھ حضرت بدرا سلیخ کا انتقال ہوا۔

(۵) جلال الدین خلجی کے بعد مختصر وقفے کے لئے رکن الدین ابراہیم شاہ خلجی تخت پر بیٹھا۔

(۶۹۵ھ / ۱۲۹۵ء) پھر اسی سال علاؤ الدین خلجی محمد شاہ اول تخت نشین ہوا۔ اس کے زمانے میں حضرت کی مقبولیت اپنے نقطہ عروج تک پہنچ گئی، جماعت خانے میں ہر وقت بھیڑ رہنے لگی، اس کی خبر دربار تک بھی پہنچی۔ علاؤ الدین بہت بدگمان بھی تھا اور یہ پسند نہیں کرتا تھا کہ کھینچ کسی بہانے سے دس بیس آدمی جمع ہوں۔ اس نے حضرت کی خانقاہ میں اپنے منبر اور جاسوس تعینات کر دیئے، ان میں سے بعض حضرت کے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے۔ ایک دن دسترخوان کے کنارے پر اور حضرت سے ذرا دور ایک شخص بیٹھا تھا، خواجہ سید محمد امام، حضرت کے نزدیک تھے انہوں نے چپکے سے اشارہ کر کے حضرت کو بتایا کہ دسترخوان کے سرے پر جو فلاں شخص بیٹھا ہے یہ سلطان کا منبر ہے۔ حضرت نے بلند آواز سے فرمایا

ہوا کرے یہاں سے لے کیا جائے گا، ہم اپنے عزیزوں اور یاران سلسلہ کے ساتھ بیٹھے کھانا ہی تو کھا رہے ہیں“ اس زمانے میں سلطان نے امراء پر بھی پابندی لگا رکھی تھی کہ وہ خانقاہ میں نہ جائیں، اس کا خیال تھا کہ جماعت خانے کا یہ شاہانہ خرچ امراء کے نذرانوں سے چل رہا ہے، وہ نہ جائیں تو شیخ کی آمدنی کم ہوگی، اور لشکر ہلکا پڑے گا تو خود ہی زائرین کا رجوع بھی گھٹ جائے گا۔ حضرت نے اسی مخبر کے سامنے قصداً ذرا بلند آواز سے اپنے خادم مبشر سے فرمایا کہ دسترخوان پر تو رومہ روٹی ہوتی ہے ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو یہ مرغوب نہ ہو تم لشکر میں طاہری اور بڑھا دو۔ اور دو مہمانوں کے سامنے ایک صحنک رکھ دیا کرو۔ پھر فرمایا ”خلق خدا کے لئے یہ لشکر ہم صرف زبان کے چٹکارے کے لئے نہیں کرتے بلکہ یہ ہمارے خواجہ (حضرت بابا فرید) کی نعمت ہے میرا تو جی چاہتا ہے یہاں سے شہر دہلی تک ہر جگہ تنور لگوادوں اور طرح طرح کی نعمتیں ہمہ وقت موجود رہیں جن سے بے واسطہ و وسیلہ بندگان خدا فائدہ اٹھائیں۔ کھائیں اور ساتھ میں باندھ کر بھی لے جائیں“

یہ ارشاد بھی سلطان کے کانوں تک پہنچا مگر اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا اور صبر و تحمل سے حالات کا جائزہ لیتا رہا، مگر ایسی خبریں سن کر اس کے چہرے کا رنگ ضرور متغیر ہو جاتا تھا۔ اس بدگمانی کا سبب یہ تھا کہ عہدِ غلجی میں سیدی مؤئلہ کا واقعہ پیش آچکا تھا ”مارگزیدہ از رسمان تبرسد“ والی بات تھی۔

ایک دن پھر حضرت نے دیکھا کہ کوئی مخبر موجود ہے تو خواجہ مبشر کو بلایا اور پوچھا! ”جماعت خانے میں جو درویش روزہ رکھتے ہیں، ان کی سحری کا کیا انتظام ہے؟ مبشر نے بتایا تو فرمایا کہ صوفہ پراٹھا اور سمو سے میں اضافہ کر دو اور ہر درویش کو ایک پراٹھا اور دو سمو سے دیا کرو“ یہ خبر بھی سلطان کو پہنچی۔ مگر سلطان نے سوچا کہ حضرت نے یہ سب کچھ محض رضائے حق کے لئے کر رہے، اگر کوئی اور غرض ہو تو یہ برکت حاصل ہو نہیں سکتی، اب وہ بھی آپ کا معتقد ہو گیا۔ اور اپنے دو فرزندوں خضر خان (۳۶) و شادی خان کو حضرت کی خدمت میں بھیجا اور عرض کیا کہ ان بچوں کو اپنی غلامی میں قبول فرمائیے۔ حضرت نے کچھ دنوں تک سکوت رکھا۔ یہ دونوں بار بار بیعت ہونے کے لئے اصرار کرتے تھے حضرت ٹال دیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ تم بادشاہزادے اور صاحبِ چتر و تاج ہو تمہارا کام لشکر کشی کرنا اور امور سلطنت کو چلانا ہے، یہ سب فقیری کا رخا نہ ہے تمہارے بس کا نہیں، یہاں فقر و مسکنت اور عاجزی و بیچارگی

کے سوا کیا رکھا ہے؟ تم ان سب کا تحمل کہاں کر سکو گے؟ مگر خضر خان اور شادی خان دونوں برابر التماس بیعت کرتے رہتے تھے۔ جب اصرار بہت بڑھا تو حضرت نے فرمایا: ”اچھا تم باپ سے مشورہ کر لو اور اجازت لے لو“ سلطان نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی دن یہ درخواست کی تھی کہ حضرت ان بچوں کو اپنی غلامی میں قبول فرمائیں۔ اس بار سلطان نے ایک امیر کو اپنا وکیل بنا کر حضرت کی خدمت میں بھیجا اور انہوں نے سلطان کی طرف سے اجازت ہونے کی باضابطہ اطلاع حضرت کو دی، تب حضرت نے دونوں شاہزادوں کو بیعت کیا اور دونوں کو خرقہ بھی عنایت فرمایا۔

بیعت ہونے کے بعد دونوں شاہزادوں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا اگر اجازت ہو تو ہم اس نعمت کے حاصل ہونے کی خوشی میں جماعت خانے کے درویشوں کی دعوت کریں۔ حضرت نے اجازت دے دی۔ دوسری بار جب دونوں آئے تو سارا ساز و سامان ساتھ تھا۔ غیاث پور کے صحرا میں دور دور تک خیمے لگ گئے اور بہت بڑے بڑے شامیانے نصب کئے گئے ایسا شاندار لنگر ہوا کہ ایک ہفتہ تک دن رات جشن منایا گیا، ہر قسم کی نعمت کھانے کے لئے موجود تھی اور صبح و شام سماع کی مجلسیں گرم رہتی تھیں۔ ان تاریخوں کا تعین خود حضرت نے کیا تھا اور سلطان علاؤ الدین نے اپنے تمام درباری امراء کو درویشوں کی خدمت کرنے کے لئے غیاث پور بھیج دیا۔ شہزادوں کو تاکید کر دی تھی کہ وہ باب داخلہ پر موجود رہیں ہر ایک مہمان کا خود استقبال کریں، دعوت کے بعد ان کے ہاتھ خود دھلائیں خادموں سے نہ دھلوائیں، شربت اور پان اور عطر بھی درویشوں کی خدمت میں خود پیش کریں۔ چلتے وقت ہر مہمان کو نذر دینے کے لئے رومالوں میں سونے اور چاندی کے سکے بند ہوا کر دیئے تھے جو لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے۔ رخصت کرتے وقت بادشاہ نے پھر شاہزادوں اور امراء سے کہا کہ یہ خدمت تو میں خود کرتا مگر مجبور ہوں کہ مجھے اس محفل میں باریابی کی اجازت نہیں ہے۔ دعوت کے لئے تین بڑے شامیانے لگائے گئے تھے۔ دونوں شاہزادے سارے انتظامات مکمل کرنے کے بعد شیخ کی خدمت میں آئے اور ان سے تشریف لے چلنے کی درخواست کی۔ حضرت ڈولے میں سوار ہو کر جلسہ گاہ میں رونق افروز ہوئے۔

بادشاہ کے پانچوں بیٹے، ملک نائب، خوانین و امراء سب ادب سے دست بستہ کھڑے تھے۔ حضرت تشریف فرما ہو گئے تو ان سے اجازت لے کر شہزادوں نے اور ملوک و امراء نے

محفل کے ہاتھ دھلانے شروع کئے۔ بڑے اور قیمتی دسترخوان بچھے ہوئے تھے جن پر الوان نعمت موجود تھی۔ ہر قسم کا خشک میوہ پھل، مٹھائیاں وغیرہ بے شمار سامان تھا کہ سب کو تھوڑا تھوڑا ہی چکھیں تو پیٹ بھر جائے۔ کھانا ہو چکا تو شہزادوں نے سماع کی اجازت طلب کی، حضرت نے اجازت دی، بہترین قوالوں نے سماع شروع کر دیا، یہ جلسہ ظہر کی آذان ہونے پر ختم ہوا۔

اس محفل میں بعض خوشامدی بھی تماشا کر رہے تھے کہ اتنے بڑے اور عظیم المرتبت شہزادے اور امراء معمولی درویشوں اور فقیروں کی خدمت کر رہے ہیں اور انہیں اس پر سخت تعجب ہوا۔

ملک نائب بد بخت جس کا ذکر اوپر آیا وہی ہے جس نے بعد کو خضر خان اور شادی خان کو قید کر کے قلعہ گوالیار میں بند رکھا اور انہیں اندھا کر دیا تھا۔ حضرت کے کسی حاسد نے اس زمانے میں خضر خان سے کہا کہ تم بڑے اعتقاد کے ساتھ شیخ کے مرید ہوئے تھے اور خود کو ان کی غلامی میں دے دیا تھا۔ پھر یہ کیا حال ہو گیا؟ شہزادے نے کہا: ”یہ تو حضرت کا عین کرم اور ان کی غلامی کی برکت ہے کہ مجھے دنیوی اقتدار سے بچالیا، ورنہ نہ جانے کتنے ظلم کرتا، کسی کا مال اور حق مارتا کسی کو ناحق ستاتا“ حضرت نے مجھے اس وعید سے بھی بچالیا، کہ ”مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَقَبِّدًا فَجَزَاءُ ۖ جَهَنَّمَ“ ترجمہ۔ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کا ٹھکانا جہنم ہے۔ اور قرآن کریم کے اس حکم سے بھی خارج کر دیا کہ ”اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا اِنَّهُمْ يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَّ سَيَصْلُوْنَ سَعِيْرًا“ ترجمہ: جو یتیموں کا مال ظلم کر کے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔

اگر میری ظاہری بینائی چھین لی تو کیا ہوا، حضرت نے میرے باطن کی آنکھیں تو کھول دی ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ سب حضرت کا دامن مبارک ہاتھ آجانے کی برکت ہے اور مجھے امید ہے کہ قیامت میں بھی ان شاء اللہ حضرت شیخ کے جھنڈے کے نیچے میرا حشر ہو گا“ (قوام العقائد قلمی)

ایک بار سلطان علاؤ الدین کو بعض خوشامدی امیروں کی چغل خوری سے یہ شبہ ہو گیا تھا کہ کہیں اس مقبولیت سے میری سلطنت کو تو کوئی خطرہ پیش آنے والا نہیں ہے اس نے

سوچا کسی ترکیب سے معلوم کیا جائے حضرت کے عزائم کیا ہیں؟ بادشاہ نے ایک خط لکھا کہ اللہ نے دنیا کا مال و متاع مجھے بخشا ہے اور آپ مخدوم عالماں ہیں، میرے لئے عین سعادت یہ ہے جو کوئی مہم پیش آئے یا جن امور میں عامتہ الناس کی بھلائی ہو ان میں آپ کے مشورے اور ہدایات کی روشنی میں کام کروں۔ چند مہمات مسائل درپیش ہیں وہ آپ کی خدمت میں لکھتا ہوں ان کے بارے میں جس بات میں مملکت کی بھلائی مضمر ہو وہ آپ قلمبند فرمادیں۔ یہ خط دے کر خضر خان کو بھیجا کہ حضرت کی خدمت میں ادب سے پیش کرے اور جو کچھ جواب وہ مرحمت فرمائیں وہ لے کر آئے۔ خضر خان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ بادشاہ نے دل میں کیا سوچ رکھا ہے۔ اس نے وہ خط حضرت کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے اس پر اچھتی ہوئی نظر بھی نہیں ڈالی اور اسے لے کر بغیر پڑھے ایک طرف کو رکھ دیا۔ خضر خان سے فرمایا: ”درویشوں کو بادشاہوں سے کیا لینا دینا ہے میں درویش ہوں ایک گوشے میں پڑا ہوں، مسلمانوں اور بادشاہ کی دعا گوئی میں مشغول ہوں اگر اس (امور سلطنت کے) بارے میں آئندہ بادشاہ مجھ سے کچھ کہے گا تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔“ ”ملک خدا تک نیست“ یہ جواب سن کر خضر خان نے بادشاہ کو جا کر بتایا تو وہ خوش ہوا اور کہا کہ سلطان المشائخ سے اسی جواب کی توقع تھی، یہ بدخواہ مجھے خواہ مخواہ ان سے بدظن کر کے مردان خدا سے برسرِ خصومت کر دینا چاہتے تھے۔ اس نے اب حضرت کو معذرت کا پیغام بھیجا اور خانقاہ میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ حضرت نے فرمایا کہ آنے کی کچھ ضرورت نہیں، میں غائبانہ دعائیں مشغول ہوں اور ایسی دعائیں زیادہ اثر ہوتا ہے۔ جب علاؤ الدین نے زیادہ الحاح کیا تو حضرت نے کہلا بھیجا کہ میرے گھر میں دو دروازے ہیں ایک سے بادشاہ داخل ہو گا تو میں دوسرے سے نکل جاؤں گا۔

سلطان علاؤ الدین کی عقیدت پھر آخر تک قائم رہی، اور اس کے زمانے میں شیخ کی اصلاحی کوشش کے جو ثمرات برآمد ہوئے ان کا تذکرہ ہم ضیاء الدین برنی کے الفاظ میں لکھ چکے ہیں۔ ملک نائب جس کا اوپر تذکرہ ہوا پچاس ہزار سوار لے کر درنگل کی طرف گیا ہوا تھا اور وہاں سے بہت دنوں تک کوئی خیر خبر نہیں ملی اس سے بادشاہ تو متفکر تھا ہی سارے شہر پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس لئے کہ ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد اس لشکر میں شامل تھا۔ سلطان نے قاضی حمید الدین صدر جہاں کو حضرت کی خدمت میں بھیجا اور یہ التماس کیا کہ شیخ اس لشکر کی

سلامتی کے لئے توجہ فرمائیں۔ حضرت نے اقبال کو اشارہ کیا کہ قاضی صدر جہاں کے لئے کچھ کھانے کو لاؤ۔ قاضی کھانے لگے تو حضرت نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں اور بطور حکایت فرمایا کہ فلاں شہر میں ایک بادشاہ تھا اس نے کسی طرف اپنا لشکر ایک مہم پر بھیجا اور ایک عرصے تک اس لشکر کی خبر نہ ملی تو اس شہر میں ایک بزرگ سے رجوع کیا۔ اس بزرگ نے حاجب سے کہا کہ لشکر کی خبر چالیس دن کے بعد آجائے گی۔ اس کے بعد حضرت نے کچھ اور باتیں کہیں یہاں تک کہ قاضی صدر جہاں کھانے سے فارغ ہو گئے اور اقبال نے پان بھی پیش کر دیا۔ یہ واپس جانے لگے، مگر سخت حیران اور متفکر تھے کہ شیخ نے کوئی جواب نہ دیا اگر بادشاہ پوچھے گا تو کیا کہوں گا؟ شیخ کی ہیبت سے یہ مجال نہ ہوئی کہ اپنا معروضہ دوبارہ پیش کر دیں۔ اگلے دن دربار میں سلطان نے پوچھا شیخ نے کیا فرمایا؟ تو قاضی نے کہا کہ وہ اور باتیں کرتے رہے اس بارے میں کچھ ارشاد نہ ہوا۔ سلطان نے پھر پوچھا کیا حکایتیں سنائی تھیں؟ قاضی نے بیان کیں۔ بادشاہ نے کہا: ”قاضی جی، شیخ کو جو کچھ کہنا تھا وہ انہوں نے حکایت کے پردے میں فرما دیا مگر تم سمجھے نہیں۔“ جب ایک مہینہ گزر گیا تو بادشاہ نے دہلی سے بیانیہ تک دھاوے کے سوار متعین کر دیئے کہ ملک نائب کا عریضہ آتا ہو گا۔ ٹھیک چالیسویں دن مغرب کے وقت ملک نائب کا عریضہ پہنچا جس میں درنگل کی فتح کا مرثدہ لکھا ہوا تھا۔

سلطان علاؤ الدین ۶۹۵ھ / ۱۲۹۵ء سے ۷۱۵ھ / ۱۳۱۵ء تک حکومت کرتا رہا۔ فوائد الفوائد ابتدا سے تیسری جلد کے آخر تک اسی کے عہد حکومت میں مرتب ہوئی ہے، مگر ان ۸۸ مجلسوں میں سلطان کا کہیں ضمنی اور سرسری حوالہ بھی نہیں آیا اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حاکمان وقت سے آپ کو ذرہ بھر کوئی تعلق نہ تھا۔

(۶) علاؤ الدین خلجی کی وفات ۲ شوال ۷۱۵ھ / ۳ جنوری ۱۳۱۶ء کے بعد ملک نائب نے اس کے چھوٹے بیٹے شہاب الدین عمر شاہ کو تخت نشین کر دیا، یہ صرف پانچ یا چھ سال کا نابالغ بچہ تھا اسے تخت پر بٹھا کہ ملک نائب خود حکومت کرنا چاہتا تھا۔ اسی سال اس نے خضر خان اور شادی خان کو قید کیا پھر ملک سنبل کو بھیج کر دونوں شہزادوں کی آنکھیں نکلوائیں۔ شہاب الدین عمر شاہ کی سلطنت صرف ۳۵ دن تک رہی، ملک نائب کو علاؤ الدین کے وفادار خادموں نے قتل کر دیا اور قطب الدین مبارک شاہ کو قید خانے سے نکال کر تخت پر بٹھا دیا۔ شروع میں تو قطب الدین، شہاب الدین کا نائب بن کر کام کرتا رہا پھر ملوک و امراء کو اپنے ساتھ ملا کر

بادشاہ بن بیٹھا اور شہاب الدین کی آنکھوں میں سلائی پھروا کر اسے قلعہ گوالیار میں بھیج دیا۔ جن پائیوں نے ملک نائب کو قتل کر کے قطب الدین کو تخت دلایا تھا انہیں بھی دہلی سے باہر بھیج کر ان کی گردنیں اڑوا دیں۔

قطب الدین مبارک شاہ کی عیاشی اور فسق و فجور کا کچھ حال ہم پہلے لکھ چکے ہیں۔ یہ وہی بد بخت بادشاہ ہے جو حضرت نظام اولیاءؒ سے بغض رکھتا تھا۔ اس نے سوچا کہ شیخ کے اثر کو ختم کیا جائے تو ملتان سے سروردی سلسلے کے بزرگ حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانیؒ کے پوتے حضرت رکن الدین ملتانیؒ (وفات ۹ جمادی الاولیٰ ۷۳۵ھ / ۵ جنوری ۱۳۳۵ء) کو دہلی بلوایا مگر اس نے دیکھا کہ حضرت رکن الدینؒ خود شیخ کے انتہائی معتقد اور ارادتمند ہیں۔ شیخ رکن الدین ملتانیؒ دربار میں تشریف لائے تو قطب الدین مبارک نے کہا: آپ ازراہ مہربانی ملتان سے یہاں تک میری دعوت پر تشریف لے آئے اور ایک شخص (حضرت نظام الدینؒ) یہاں قلعہ کی دیوار کے نیچے بیٹھا ہوا ہے مگر کبھی سلام کرنے بھی نہیں آتا اور مجھے کچھ گردانتا ہی نہیں۔ حضرت رکن الدینؒ نے فرمایا میرے ساتھ تو یہ اسمعیل ہے (شیخ کے برادر خرد عماد الدین اسمعیل مراد ہیں) جو مجھے کھینچ لاتا ہے، حضرت نظام الدینؒ نے ایسا کوئی جھگڑا پالا ہی نہیں تو پھر وہ کیوں اور کس لئے آئیں؟ آپ حضرت کے حق میں بد خواہوں کی باتیں نہ سنا کریں، وہ بہت بزرگ انسان ہیں انہیں دنیاداری کے جھگڑے سے کیا واسطہ؟ سلطان نے یہ سنا تو شرمندہ ہو کر کہنے لگا: معاذ اللہ، مجھے ان سے مخالفت نہیں ہے، میں تو آنے والوں کی حکایت بیان کر رہا ہوں۔

غیاث تغلق جب افغان پور کے چوہی محل میں دب کر مرا ہے، اس وقت شیخ رکن الدینؒ بھی وہاں موجود تھے، دہلی سے ملتان جاتے ہوئے وہ اجودھن گئے اس زمانے میں بابا صاحبؒ کے پوتے علاؤ الدین موج دریاؒ حیات تھے انہوں نے ان کی زیادہ خاطر نہیں کی، نہ قیام کرنے کے لئے اصرار کیا، اس کا سبب یہی تھا کہ وہ بادشاہوں کے دربار سے متعلق رہتے تھے۔ ان سے معانقہ کرنے کے بعد حضرت موج دریاؒ نے غسل کیا اور اپنا لباس تبدیل کیا تھا۔

(سیر الاولیاء)

بادشاہ کے دربار میں نوچندی کے موقع پر تمام امراء، حکام، علماء اور مشائخ نئے چاند کی مبارکباد دینے جایا کرتے تھے حضرت نظام الدینؒ اپنی خانقاہ کی نمائندگی کے لئے اپنے خادم

خواجہ اقبال کو بھیج دیتے تھے لوگوں نے کہا کہ بڑے بڑے علماء اور مشائخ دربار میں سلام کرنے آتے ہیں، حضرت نظام الدین "تشریف نہیں لاتے اپنے ملازم کو بھیج دیتے ہیں، یہ تو بادشاہ کی توہین ہے قطب الدین نے حکم دیا کہ آئندہ چاند رات کو شیخ خود حاضر ہوں، نہ آئیں تو ان کو لایا جائے (مطلب یہ کہ گرفتار کر کے لائیں) حضرت چاند رات سے پہلے اپنی والدہ ماجدہ کے مزار پر گئے اور فاتحہ پڑھ کر اس مشکل مرحلے میں اپنی والدہ ماجدہ کی روح مبارک سے ہمت طلب کی۔ سب لوگ بے حد فکر مند تھے حضرت تو دربار میں جائیں گے نہیں، بادشاہ نوجوان، ناعاقبت اندیش اور گرم مزاج ہے ایسا نہ ہو کہ حضرت کی شان میں گستاخی کرے اور درویشوں کا دل دکھے۔ مگر حضرت کو نفس مطمئنہ حاصل تھا۔ جس دن حضرت کو دربار میں طلب کیا جاتا تھا اسی شب میں بادشاہ کے منظور نظر خسرو خان نے جو گجرات کے قبیلہ براد سے تعلق رکھتا تھا، اور نو مسلم تھا، قطب الدین کو قتل کر دیا اور خود بادشاہ بن بیٹھا۔

قطب الدین مبارک شاہ کو حضرت نظام الدین اولیاء سے عداوت اس لئے تھی کہ وہ جانتا تھا خضر خان اور شادی خان حضرت کے نہایت مخلص مرید اور حلقہ بگوش تھے، اور حضرت کا اس وقت کی سوسائٹی پر گہرا اثر تھا۔ اس نے ایک جامع مسجد تعمیر کرائی جسے مسجد میری کہا گیا ہے، اور سب علماء و مشائخ کو پیغام بھیجا کہ اسی مسجد میں نماز جمعہ ادا کیا کریں، یہ پیغام حضرت نظام الدین کے پاس بھی پہنچا تھا مگر آپ نے جواب دیا کہ جو مسجد میرے گھر سے زیادہ قریب ہے اس کا حق زیادہ ہے۔ اس جواب سے بھی سلطان برہم ہوا۔ ایک بار حضرت نظام الدین اولیاء "شیخ ضیاء الدین رومی (۳۷۱) کے سوم کی فاتحہ میں شرکت کے لئے تشریف لے گئے وہاں اس بادشاہ کا سامنا بھی ہو گیا، حضرت نے اسے سلام کیا مگر اس نے ادب بے نصیب شخص نے منہ پھیر لیا اور سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ وہ اپنے درباری امراء کو سختی کے ساتھ روکتا تھا کہ حضرت کی خانقاہ میں نہ جائیں اور سر دربار حضرت کے لئے ناشائستہ کلمات زبان پر لاتا تھا۔ اس نے یہاں تک اعلان کر دیا تھا کہ جو حضرت کا سر کاٹ کر لائے گا اسے ایک ہزار اشرفیاں انعام دوں گا۔ وہ اپنے درباریوں سے حضرت کے قتل کے منصوبے پر گفتگو کرتا تھا، مگر امراء نے کہا کہ تمام دہلی حضرت کی مرید ہے انہیں کوئی بھی نہ مارے گا تب اس نے دہلی کے پاس کسی قصبہ کے کچھ لوگوں کو بلایا تاکہ ان کے ہاتھوں سے شیخ کو قتل کرادے ایک وزیر کو یہ منصوبہ معلوم تھا اس نے چپکے سے آکر حضرت کو آگاہ کر دیا کہ آپ کہیں

تشریف لے جائیں، مگر آپ نے نہایت اطمینان اور دل جمعی کے ساتھ فرمایا: ”وہ ظالم ہے اور ہرگز مجھ پر غلبہ نہ پاسکے گا۔“ وزیر نے کہا کہ ”آپ حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ کی روح مبارک کی جانب توجہ فرمائیں“

حضرت نے فرمایا: ”پانچ سال ہو گئے ہیں میں نے شیخ کو بھی خواب میں نہیں دیکھا۔“ آخر وہ واقعہ پیش آیا کہ اس نے نوچندی کے سلام کے لئے شیخ کو طلب کیا اس بار ارادہ تھا کہ اگر شیخ بذات خود تشریف نہیں لائے تو انہیں گرفتار کیا جائے گا، مگر اسی زمانے میں وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا اور نہایت بیدردی سے قتل ہوا۔ اس کی مدت حکومت چار سال چار ماہ رہی۔

(۷) قطب الدین مبارک شاہ کو قتل کر کے خسرو خان تخت پر بیٹھا تو اس نے اپنا لقب ”ناصر الدین خسرو شاہ“ اختیار کیا (۷۲۰ھ / ۱۳۲۰ء) چونکہ وہ دغا کر کے اور اپنے آقا کو قتل کر کے بادشاہ بنا تھا اور ابھی دہلی کی سوسائٹی میں ایسے ہزاروں افراد موجود تھے جنہوں نے علاؤ الدین کا زمانہ دیکھا تھا اور اس کے عہد کی خیر و برکت انہیں یاد تھی اب جو خاندان علانی کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہے تھے ان پر وہ سخت کڑھ رہے تھے اس لئے خسرو خان نے تخت نشین ہوتے ہی علماء اور مشائخ کی زبان بند کرنے کے لئے خزانے کا منہ کھول دیا اور ہر ایک کو بے دریغ انعام دیا۔ ایک بڑی رقم حضرت کی خانقاہ میں بھی بھیجی جو آپ نے رکھ لی۔

اس زمانے میں غازی ملک دہپال پور میں تھا اور سرحدی چوکیوں کی حفاظت کر رہا تھا یہ علاقہ اس کی جاگیر بھی تھا۔ اسے یہ پرچہ مل چکا تھا کہ خاندان علانی پر مظالم توڑے جا رہے ہیں اور خسرو خان بادشاہ بن بیٹھا ہے۔ ادھر اس کا بیٹا جو ناخان دہلی میں تھا اور یہ تاک لگا رہا تھا کہ کسی طرح بھاگ کر اپنے باپ کے پاس پہنچ جائے ایک دن موقع پا کر وہ اپنی جمعیت کے ساتھ نکل بھاگا۔ خسرو خان نے اس کے تعاقب میں فوجی دستے روانہ کئے مگر وہ اسے پکڑ نہ سکے۔ جو ناخان کے صحیح سلامت آٹنے پر غازی ملک نے صدقات تقسیم کئے اور خسرو خان سے انتقام کی تیاری شروع کر دی۔ ادھر خسرو خان نے صوفی خان کو فوج دے کر دہپال پور کی سمت روانہ کیا تاکہ غازی ملک کو شکست دے کر گرفتار کر لائیں۔ مگر یہ ساری فوج ناتجربہ کار تھی۔ غازی ملک ایک منجھا ہوا اور کار آزمودہ سپاہی تھا جس کی عمر میدان جنگ میں گزری تھی، اس نے ایک ہی لمبے میں اس ناکارہ فوج کا تار و پود بکھیر دیا، جو بقیۃ السیف تھے، وہ بھاگ کر دہلی آگئے یہ

معلوم تھا کہ اب غازی ملک دہلی کا رخ کرے گا، یہاں اس کے مقابلے کی تیاریاں شروع ہو گئیں مگر اندر سے سب کے دل بیٹھے ہوئے تھے اس لئے کہ غازی ملک وہ تھا جس نے منگولوں کے چھکے چھڑا دیئے تھے، خسرو خان کی ناکارہ فوج اس کا کیا مقابلہ کر سکتی تھی۔ خسرو خان میدان میں تو آیا، مگر اس نے ساری فوج کو ڈھائی ڈھائی مہینے کی پیٹنگی تنخواہ ادا کی اور باقی روپیہ رعایا میں تقسیم کر دیا۔ تاکہ لوگوں کی ہمدردی اس کے ساتھ رہے، دیوانی و مال کے بیشتر ریکارڈ جلوا دیئے، اور خزانے میں ایک پھوٹی کوڑی بھی باقی نہ چھوڑی۔ اسے یقین تھا کہ غازی ملک غالب آئے گا، وہ چاہتا تھا کہ اسے خزانہ بالکل خالی ملے، تاکہ ایک دن بھی حکومت کرنا دشوار ہو جائے۔ غازی ملک اندر پت کے قریب (موجودہ انڈیا گیٹ) خیمہ زن ہوا، معمولی جھڑپوں کے بعد ہی لشکر اعداء تتر تتر ہو گیا اور شاہی پترو دور باش غازی ملک کے سامنے پیش کئے گئے۔ خسرو خان ملک شادی علانی کے باغ میں چھپ گیا تھا وہاں سے اگلے دن گرفتار ہوا اور قتل کر دیا گیا۔ ملوک و امراء نے اندر پت میں حاضر ہو کر محل اور خزانے کی کنجیاں غازی ملک کو پیش کر دیں۔ اگلے دن وہ سیری میں آیا اور قصر ہزار ستون میں بیٹھ کر اس نے سب سے پہلے خاندان علانی کا ماتم کیا اور دیکھا کہ اس خاندان کے ایک فرد کو بھی خسرو خان نے زندہ نہیں چھوڑا ہے جو تخت علانی پر بیٹھ سکے جو امراء موجود تھے سب نے اتفاق رائے کے ساتھ غازی ملک سے درخواست کی کہ اب وہ زمام حکومت سنبھالے۔ اس طرح یکم شعبان ۷۲۰ھ / ستمبر ۱۳۲۰ء شنبہ کے دن خاندان تغلق کی بنیاد پڑی۔ اور غازی ملک غیاث الدین تغلق کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ کچھ ہی دنوں میں سیاسی افراتفری بھی کم ہو گئی اور حالات نارمل ہونے لگے۔ مگر جیسا کہ ہم نے پہلے لکھا ہے خسرو خان نے خزانہ میں جھاڑو دلوادی تھی اور سارا آمد و خرچ کار ریکارڈ بھی ضائع کر دیا تھا اس لئے محاصل کی وصولی کا کام سخت دشوار ہو گیا تھا۔ جن علماء و مشائخ کے بارے میں شہرت عام سے معلوم تھا کہ انہیں خسرو خان نے روپیہ دیا تھا ان سب سے غیاث الدین تغلق نے واپس طلب کیا۔ کچھ دورانہیشوں نے وہ روپیہ خرچ نہیں کیا تھا اور یہ دیکھ رہے تھے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے؟ بعض خرچ کر چکے تھے، کسی کے پاس آدھا پونا باقی تھا۔ غیاث الدین تغلق نے سب سے اگلا لیا اور اس بارے میں کچھ سختی بھی ہوئی، وہ بھی اس کے لئے کہ مجبور تھا کہ اتنی بڑی سلطنت کا کاروبار خزانے کے بغیر کیسے چلاتا؟ حضرت نظام الدین اولیاء ان ممتاز مشائخ میں سے تھے جن کے پاس

کثیر رقم آئی تھی۔ آپ سے بھی بادشاہ نے مطالبہ کیا کہ واپس کریں۔ آپ نے جواب دیا کہ وہ بیت المال کا روپیہ تھا جن کا حق تھا ان کے پاس پہنچ گیا۔ مطلب یہ کہ فقراء و مساکین میں تقسیم ہو گیا۔ ممکن ہے اس جواب سے بادشاہ کو ٹکدر ہوا ہو، بہر حال آپ کی خانقاہ سے کچھ واپس نہیں ملا۔

خسرو خان کے قتل ہونے کے بعد تغلق کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اہل اسلام کی حکومت واپس آئی ہے اس لئے علماء کا دربار میں رسوخ بہت بڑھ گیا تھا، شریعت و طریقت کے مباحث پر علماء نے جب بھی شور برپا کیا ہے اس کا حفظ شریعت سے زیادہ اپنے اقتدار اور مفادات کا محفوظ کرنا رہا ہے، ایسے علماء خال خال ہوئے ہیں جنہوں نے خالصتاً "لوجه اللہ محض حفظ شرع کے لئے آواز بلند کی ہو اور قربانیاں دی ہوں۔ غیاث الدین تغلق کے زمانے میں جب ذرا امی جچی ہو گئی تو علماء نے سماع کے خلاف شوشہ چھوڑا۔ یہاں مشائخ کی خانقاہ میں ایک زمانے سے سماع کا رواج تھا (۳۸)۔ اور اس کو قاضی حمید الدین سروردی "ناگوری (متوفی ۶۴۳ھ ۱۲۴۶ء) نے رائج کیا تھا۔ ایک بار دہلی میں خشک سالی ہوئی سلطان التمش نے قاضی حمید الدین سے دعائے باراں کا التماس کیا، انہوں نے محفل سماع منعقد کی جس میں شیخ علی سگری، احمد نہروالی، بدر الدین سمرقندی، قطب الدین غزنوی، نظام الدین ابوالموید اور شیخ محمود مونسہ دوز جیسے بزرگ موجود تھے، جیسے ہی سماع شروع ہوا بارش بھی شروع ہو گئی تھی (خیر المجالس)

خود حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قدس سرہ کا وصال (۱۴ ربیع الاول ۶۳۲ھ / ۱۵ نومبر ۱۲۳۶ء) کو شیخ علی سگری کی خانقاہ میں سماع سنتے ہوئے ہوا تھا، اور یہ محفل ۱۲ ربیع الاول کو حضرت رسالت مآب ﷺ کے عرس مبارک کی تقریب میں منعقد ہوئی تھی۔ تغلق کے زمانے میں مشائخ پر سختی ہونے لگی اور وہ کسی باغ میں یا کم آباد جگہوں پر چھپ کر سماع کی محفل منعقد کرنے لگے تھے۔ (جوامع الکلم)

حضرت عثمان سیاح بھی سروردی تھے مگر انہیں شیخ رکن الدین ملتانی نے حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں رہنے کا حکم دیا تھا۔ یہ بھی سماع کے دلدادہ تھے، انہیں کچھ معافی ملی تھی مگر انہوں نے سماع ترک کرنا گوارا نہ کیا اور جائداد واپس کر دی تھی۔ (قوام العقائد) اسی لئے جو مشائخ سماع کے قائل تھے وہ بھی اپنے موقف میں زیادہ سخت ہو گئے تھے۔ عام

صوفیاء یا کم معروف مشائخ کو تو سماع کرنے سے روکا جاسکتا تھا ان پر قدغن بھی لگائی جاسکتی تھی مگر حضرت نظام الدین اولیاءؒ اس زمانے میں سب سے بزرگ شیخ تھے، حضرت بابا فرید گنج شکرؒ سے خلافت رحمانی رکھتے تھے، علوم معقول و منقول کے زبردست عالم اور محقق تھے، ان پر قدغن لگانا معمولی علماء کے بس کی بات نہیں تھی، اس لئے طے کیا گیا کہ اس موضوع پر ان سے مناظرہ کیا جائے اور سماع کے جواز میں شرعی دلائل طلب کئے جائیں۔ علماء کا خیال تھا کہ حضرتؒ یہ دلیلیں نہ دے سکیں گے تو ان پر غلبہ پانا آسان ہوگا۔ اس مقصد کے لئے ایک محضر طلب کیا گیا جس میں شہر کے تمام مستند علماء اور مشائخ موجود تھے۔ حضرت نے اس محضر یا مناظرے میں جانے کے لئے کوئی تیاری نہیں کی تھی مگر بعض مخلصوں نے جواز کی دلیلیں جمع کرنا شروع کر دی تھیں۔ چنانچہ شیخ علم الدین نبیرہ، حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانیؒ نے بھی کتب قدمات سے جواز کی دلیلیں جمع کر کے حضرت کو بھیجیں اور یہ لکھا کہ آپ سے یہ عبارتیں پوشیدہ تو نہ ہوں گی مگر میں انہیں اپنے اخلاص کا اظہار کرنے کے لئے بھیج رہا ہوں۔ بعد میں انہوں نے اباحت سماع کے موضوع پر ایک رسالہ بھی تصنیف کیا۔

سید علاؤ الدین جیوری بڑے عابد و زاہد بزرگ تھے، منتہی عالم بھی تھے اور سارے شہر کے استاد تھے انہوں نے بھی اباحت سماع میں درجنوں روایات نکالیں اور شیخ کی خدمت بھیجیں۔ مولانا فخر الدین نوزادی دوسرے بزرگ تھے جو محضر میں خود بھی پہنچ گئے تھے، انہوں نے اباحت سماع پر ایک رسالہ بھی لکھا "کشف القناع عن وجہ السماع" اس کا ایک قلمی نسخہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی لائبریری میں موجود ہے (مکتوبہ ۱۲۳ھ / ۱۸۲۱ء) اس میں ۳۳ اوراق ہیں اور چھوٹی چھوٹی دس فصلیں ہیں۔ یہ رسالہ عرصہ ہوا چھپ بھی چکا ہے۔ (اس کا ایک قلمی نسخہ حضرت خواجہ حسن نظامیؒ کے کتب خانے میں بھی موجود ہے)

حضرت نے سماع کی اباحت ثابت کرنے کے لئے احادیث نبوی سے استدلال کیا تو بعض علماء نے غوغا شروع کر دیا اور آوازیں بلند ہونے لگیں۔ ان علماء کا کہنا یہ تھا کہ آپ حنفی ہیں، اگر سماع کے جواز میں امام ابو حنیفہؒ کا کوئی قول یاد ہے تو وہ پیش کیجئے۔ اس سے حضرت کو تکدر ہوا اور آپ نے بڑے رنج کے ساتھ فرمایا کہ وہ شہر ویران کیوں نہیں ہو جاتا جہاں حدیث نبوی کے مقابلے میں قول ابی حنیفہؒ طلب کیا جاتا ہے (۳۹)۔ چند ہی سال کے بعد (۵۷۲ھ) یہ ہوا کہ محمد بن تغلق نے دولت آباد کو ہجرت کرنے کا جبری حکم دیا، ساری دلی میں

الو بولنے لگے اور وہ دلی پھر کبھی آباد نہ ہو سکی اس کے بعد جو دلی بسی وہ دلی گیٹ کے آس پاس تھی۔

حضرت تو کبیدہ خاطر وہاں سے چلے آئے، مگر غیاث الدین تغلق کو یہ اندازہ ضرور ہو گیا کہ یہ علماء حضرت پر غالب نہیں آسکتے۔ حضرت نے ایک موقع پر فرمایا: لوگ سمجھتے ہیں کہ میں یونہی خانقاہ میں بیٹھ گیا ہوں۔ ارے میں کسی کا بٹھایا ہوا بیٹھا ہوں۔“

یہ اسی پس منظر میں تھا کہ حضرت نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ سماع کرتے ہوئے لے جائیں مگر حضرت رکن الدین ملتانی نے وصیت کی تعمیل نہ کرنے کی ذمہ داری خود قبول کر لی اور عام لوگوں کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ اگر سماع ہوا تو شیخ اٹھ بیٹھیں گے اور عالم میں فتنہ پیا ہو جائے گا، سماع کے بارے میں حضرت کے تعلق کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ کبھی قوالوں کو دیکھ کر ہی رونے لگتے تھے۔ کسی نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا: یہ قوال محبوب کے پیغامبر ہیں، انہیں دیکھ کر تو گریہ آنا ہی چاہئے (لطائف اشرفی ۷۶/۲)

جس دن سماع ہوتا تھا ساری محفل کو کھانا بھی کھلایا جاتا تھا، مگر کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کھانے کا سامان میانہ ہوا تو آپ تھوڑے بھنے ہوئے چنے ہی منگوا کر حاضرین میں تقسیم کر دیتے تھے سماع سے پہلے تلاوت قرآن ہوتی تھی پھر سماع، پھر کھانا۔

ایک بار نہ کھانا تھا نہ قوال تھے۔ حضرت نے امیر خسرو سے فرمایا: ”ترک تم قوال بن جاؤ، میں قاری بنتا ہوں“ پھر حضرت نے ۵-۶ آیات کی تلاوت فرمائی اور امیر خسرو نے لحن کے ساتھ اپنی غزل پڑھی:

ماہ ہلال ابرو سے من، عقل مرا شیدا مکن

غمزہ زنان، زان سومیا، آہنگ جان ماکن

حضرت پر ایسی کیفیت طاری ہوئی جس کا بیان کرنا ممکن نہیں۔

تغلق آباد سے تین چار کوس کے فاصلے پر افغان پور نامی گاؤں میں دربار کے امراء اور اکابر شہر نے اس کا استقبال کیا۔ یہاں سلطان کی آمد کے سلسلے میں ایک چوہی محل تین چار دن کی محنت سے تیار کیا گیا تھا۔ جس کی بنیادی بھی ابھی نہیں سوکھی تھیں۔ وہاں کھانے کے بعد سلطان کے سامنے نو وارد ہاتھیوں کی پریڈ کرائی گئی ان کی دھمک سے چھت نیچے آ پڑی اور

سلطان دب کر مر گیا۔ (۶۱۳۲۵/۵۷۲۵)

غیاث الدین کے بعد اس کا بیٹا جو ناخان بادشاہ ہوا جو تاریخ میں محمد بن تغلق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ آخری بادشاہ تھا جس کا زمانہ حضرت نظام الدین اولیاءؒ نے پایا، حضرت اسے تخت نشینی کی خبر پہلے ہی دے چکے تھے۔ جس زمانے میں یہ نائب تھا۔ ایک دن خواجہ جہاں کو ساتھ لے کر حضرت کی قدمبوسی کے لئے حاضر ہوا۔ حضرت اس زمانے میں بیمار تھے، پلنگ پر آرام فرما رہے تھے۔ اقبال (۴۰) حضرت سے اجازت لے کر ان دونوں کو حجرے میں لائے یہ دونوں تعظیم بجالا کر کھڑے رہے، حضرت نے سلطان محمد تغلق سے فرمایا: ”تم اس کھاٹ پر بیٹھ جاؤ“ جو ناخان نے کہا۔ ”حضرت میری کیا مجال ہے کہ آپ کے سامنے کھاٹ پر بیٹھوں۔“ حضرت نے فرمایا: ”ہم تمہیں بٹھا رہے ہیں تو بیٹھ جاؤ“ جو ناخان ارشاد کی تعمیل میں بیٹھ گیا مگر ادب کی وجہ سے ایک زانو پر بیٹھا۔ اب حضرت نے اقبال کو حکم دیا جاؤ ایک کرسی لے کر آؤ۔ اقبال کرسی لائے، تو حضرت نے خواجہ جہاں سے فرمایا ”تم اس کرسی پر بیٹھو“ خواجہ جہاں بھی حضرت کے حکم کو بجالایا شیخ کی خدمت سے باہر آ کر جو ناخان نے خواجہ جہاں سے کہا: ”خدمت شیخ نے مجھے تخت اور تمہیں کرسی عطا فرمائی ہے جو وزارت پر دلالت کرتی ہے، اب اس کا دھیان رکھنا چاہئے اور تیار رہنا چاہئے۔“ جب جو ناخان بادشاہ ہوا تو وزارت خواجہ جہاں کو سونپی۔ جب تک وہ زندہ رہے نہ محمد بن تغلق کی سلطنت میں کوئی تصرف کر سکا، نہ خواجہ جہاں پر غلبہ پاسکا جو بھی ان سے ٹکرایا وہ برباد ہوا۔

محمد بن تغلق کے زمانہ حکومت (۷۲۵ھ / ۱۳۲۴ء تا ۷۵۲ھ / ۱۳۵۱ء) میں ملتان کے حاکم کشلو خان نے بغاوت کر دی، اور اپنا لاؤ لشکر لے کر وہلی کی سمت بڑھنے لگا۔ ادھر محمد بن تغلق نے اپنی فوج کو تیار کیا اور ملتان کی طرف پیش قدمی کی۔ دونوں لشکر آمنے سامنے آگئے جنگ سے پہلے قاصدوں کی آمد و رفت شروع ہوئی، آخر جنگ کا دن طے ہو گیا، جنگ سے ایک دن پہلے سلطان نے ملوک و امراء کو ہتھیار گھوڑے وغیرہ سامان خود تقسیم کیا اور ان سے کہا کہ جی جان سے لڑیں، اس وقت امراء کے درمیان قطب دبیر بھی موجود تھا جو حضرت نظام الدین اولیاءؒ کا مرید تھا اور حضرت اس پر بہت نوازش فرماتے تھے۔ سلطان نے کہا: قطب کیا تمہیں شیخ کا بتایا ہوا کوئی عمل یاد ہے جو اس وقت کام آسکے؟ قطب دبیر نے عرض کیا جی ہاں ہے! سلطان نے کہا: بتاؤ قطب دبیر نے کہا: ایک دن شیخ فرماتے تھے کہ اگر کسی کو ایسی مہم پیش آئے تو چاہئے کہ رات بھر عبادت میں مشغول رہے جب صبح ہونے لگے تو فلاں آیت پڑھے،

اور دشمن کی طرف دم کر دے، اور سوار ہو کر جنگ کے لئے نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ دشمن کو مغلوب کر دے گا اور اسے فتح نصیب ہوگی۔ سلطان نے کہا: اچھا تو فوراً اعلان کر دو کہ سب فوجی اپنے خیموں میں واپس ہو جائیں، اور جنگ کے لئے تیاری کرتے رہیں پھر حکم دیا کہ پانی لائیں۔ سلطان نے وضو کیا اور محلے پر بیٹھ گیا کہتے ہیں کہ تمام رات عبادت کرتا رہا، فجر کی نماز پڑھ کر وہ آیت تلاوت کی جو شیخ نے کسی کو بتائی تھی، اور کشلو خاں کے لشکر کی سمت میں دم کر دیا۔ اب سلطان نے اپنے ہتھیار منگائے۔ اتنے میں قطب دہیر نے فتح کی مبارکباد بھی دے ڈالی۔ سلطان گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ کے لئے نکلا۔ کچھ دیر تک گھمسان کارن پڑا، اور کشلو خاں کا لشکر غالب آگیا، سلطان کی فوج ادھر ادھر بھاگنے لگی، سب ایسے بدحواس ہوئے کہ ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی۔ سلطان کسی گوشے میں قطب دہیر کے ساتھ چھپا ہوا تھا، اپنے لشکر کی اس شکست و ریخت کو دیکھ رہا تھا اور سخت افسردہ تھا۔ سلطان نے قطب دہیر سے کہا: ”قطب یہ تو الٹا معاملہ ہو رہا ہے“ قطب دہیر نے بڑے اطمینان سے کہا خداوند عالم اس شکست کا کچھ اعتبار نہیں، ہونا وہی ہے جو حضرت شیخ کا ارشاد ہے۔ ”ادھر کشلو خاں نے فتح کی خوشی میں اپنے پاؤں رکاب سے نکال کر گھوڑے کی گردن پر رکھ دیئے اور اپنا خود سر سے اتار کر زین میں ایک طرف لٹکا دیا۔ بہت خوش تھا، اور بھاگتی ہوئی فوج کا تماشا دیکھ رہا تھا، قضارا کسی طرف سے ایک تیر زنائے بھرتا ہوا آیا اور کشلو خاں کی شہ رگ میں پیوست ہو گیا، وہ قلابازی کھا کر گھوڑے سے گرا، سلطان کہیں چھپا ہوا یہ سب دیکھ رہا تھا، جھپٹ کر اپنی کمین گاہ سے نکلا اور اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ ان پر ٹوٹ پڑا، کشلو خاں کے ساتھ جو سوار تھے جب انہوں نے دیکھا کہ سردار مارا گیا، اور سلطان از سر نو حملہ آور ہوا ہے، تو وہ بدحواس ہو کر بھاگنے لگے اور حضرت کی تعلیم کی ہوئی دعا کی برکت سے یہ شکست فتح میں بدل گئی۔ یہ واقعہ حضرت کے وصال کے بعد کا ہے۔

سلطان محمد بن تغلق حضرت کے وصال سے چند ماہ قبل ہی تخت نشین ہوا تھا۔ چہار شنبہ ۱۸ ربیع الثانی ۷۲۵ھ / اپریل ۱۳۲۵ء کو حضرت کے وصال کی اطلاع ملی تو وہ تغلق آباد سے سوار ہو کر غیاث پور آیا اور کچھ فاصلے پر گھوڑے سے اتر کر پیدل چلا، جنازے کو بہت دیر تک کندھا دیا اور دیر تک موجود رہا۔ حضرت کے مزار مبارک پر پہلا گنبد محمد بن تغلق نے ہی بنوایا تھا (مرآة الاسرار قلمی ۲/۳۶)

یہ شاہان وقت سے حضرت کے تعلقات کا مختصر سا احوال ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے گیارہ بادشاہوں کا زمانہ پایا مگر صحیح یہ ہے کہ آپ کی ولادت سے وفات تک دہلی کے تخت پر چودہ بادشاہ بیٹھے اور آپ کے دہلی تشریف لانے کے بعد گیارہ تخت نشین ہوئے ان میں کم از کم تین بادشاہ حضرت کے معتقد بھی تھے، مگر آپ نے کبھی دربار کا رخ نہیں کیا، نہ کوئی جاگیر قبول کی، نہ وظیفہ اور منصب لیا لیکن بالواسطہ طور پر آپ بادشاہوں کی اصلاح سے غافل بھی نہیں رہے، بادشاہوں کی کنجی ان کے مصاحب اور درباری امراء ہوتے ہیں، حضرت نے چند ہی برسوں میں معاشرہ پر اتنا گہرا اثر ڈالا تھا کہ امراء کا مزاج بھی درویشانہ ہو گیا تھا۔ مؤلف قوام العقائد کا بیان ہے۔

معلوم جہانیاں بادامراء و خانان و ملوک کہ بخدمت شیخ پیوند داشتند ہر یکے درجامہ قبا سالکان طریقت بودند و حدیث ”وَجَدْنَا فِي الْقَبَاءِ مَا حَلَبْنَا فِي الْكِسَاءِ“ در حق ایشان سالیخ و درین راه جان و مال ہمہ در میان آوردہ و در حق صرف کردہ۔

دنیا والوں کو معلوم ہونا چاہئے کہ وہ امراء خوانین و ملوک جو حضرت شیخ سے بیعت رکھتے تھے لباس امارت میں سالکان طریقت تھے اور یہ قول کہ ”جو ہم گذریوں میں ڈھونڈتے تھے وہ قبائیں پالیا“ ان امراء پر پورا صادق آتا تھا وہ اپنا جان و مال سب خدا کی راہ میں صرف کرتے تھے۔

مراد اہل طریقت لباس ظاہر نیست
 کمر بخدمت سلطان بند و صوفی باش
 ”اہل طریقت کو یہ مطلوب نہیں کہ تم درویشوں کا سا لباس ہی پہنو،
 بلکہ بادشاہ کی خدمت کرو اور صوفی بن کر رہو“
 وایشان ہر یکے ازاں ہا بودند اگر شمشاد از مشغولی باطن و معاملات ایشان
 بیان کردہ آید کتاب مطول گردو۔“

ان میں سے ہر ایک ایسا تھا کہ اس کی مشغولی باطن اور معاملات کا حال لکھا جائے تو ایک طویل کتاب بن جائے۔

طبقہ امراء میں اصلاحی کوششوں کا اثر سب سے خفی اور بہت دیر میں ہوتا ہے جب

اس طبقے کا حضرت کے روحانی فیضان سے یہ حال ہو گیا تھا تو اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ عمد علانی میں حضرت کی تاثیر کا جو حال برنی نے لکھا ہے وہ محض ایک سرسری اظہار ہے۔

حضرت نے اپنے خدام و مریدین کی تربیت ایسی کر دی تھی کہ وہ جہاں بھی گئے وہاں کے باشندوں کی کایا پلٹ دی۔ حضرت برہان الدین غریب "حضرت حسام الدین ملتانی" حضرت اخئی سراج کی کوششوں کے اثرات ان کے علاقوں میں آج تک محسوس کئے جاسکتے ہیں۔

خلفاء

حضرت کے خلفاء کی ایک طویل فہرست ہے اور کوئی بھی فہرست سب ناموں کی جامع نہیں ہو سکتی، یہاں نظامی فیضان کی عمومیت کا اظہار کرنے کے لئے ہم ایک مختصر فہرست درج کرتے ہیں:

حضرت کے ممتاز خلفاء اور مریدین

- | | |
|--|--|
| (1) خواجہ ابو بکر مصطفیٰ دار | (2) خواجہ ابو بکر منندہ (مندوی) |
| (3) خواجہ احمد بدایونی | (4) امیر خسرو |
| (5) امیر خرد کرمانی مولف سیر الاولیاء | (6) بدر الدین ساکن کڑا مانگ پور |
| (7) بدر الدین تولایا فوق | (8) بدر الدین محبوب |
| (9) بدر الدین نوکھ | (10) بدر الدین یار / رفیق |
| (11) برہان الدین حجتہ ملتان | (12) برہان الدین دولت آبادی |
| (13) برہان الدین ساوی | (14) برہان الدین صوفی (مرآة اسرار قلمی ۳۹/۲ ب) |
| (15) برہان الدین غریب ہانسوی | (16) مولانا بہاؤ الدین ادھی یادار الامالی "وطن ملتان |
| (17) شیخ بہاؤ الدین اودھی | (18) ملک بہاؤ الدین گرد |
| (19) بہاؤ الدین مجرد | (20) تاج الدین |
| (21) تاج الدین دادری | (22) تقی الدین "لکھنوتی |
| دولت آباد جاتے ہوئے کتھول میں انتقال ہوا، لاش دہلی لا کر دفن کی گئی) | |
| (23) خواجہ تقی الدین نوح | (24) ملک تلبغ |
| (25) جلال الدین اودھی | (26) قاضی جلال الدین دولت آبادی |
| (27) مولانا جمال الدین اودھی (مخاطب بہ جوان صالح) | (28) جمال الدین نصرت خانی |
| (29) مولانا جمال الدین یاد | (30) جمشید قلندر |

- (31) مولانا حجتہ الدین ملتانئی
(32) مولانا حجتہ الدین شیبانی
(33) حسام الدین گجراتی (وفات ۱۸۸۱ء) امیر حسن علاء مجزی دہلوی جامع فوائد الغواد
(34) سید حسین بن سید محمد کرمائی (ف ۲۱ شعبان ۱۷۵۴ء) (36) حمید قلندر جامع خیر الجالس
(37) شیخ حوصل کیتھون
(38) شیخ حیدر
(39) خواجہ رشید
(40) قاضی رفیع الدین کاشانی
(41) خواجہ رفیع الدین ہارون
(42) رکن الدین چنمر
(43) خواجہ سلار مہین
(44) سراج الدین حفظہ بدایونی
(45) سراج الدین عثمان انخی سراج
(46) سراج الدین ناگوری
(47) سید محمد بن محمود کرمائی
(48) قاضی شاد علی
(49) قاضی شرف الدین فیروز کوی
(50) شرف الدین جہمٹل
(51) خواجہ شمس الدین
(52) شمس الدین دھاری (مدفن ظفر آباد)
(53) شمس الدین دیبانی
(54) شمس الدین ماہر و برادر زادہ حسن علاء مجزی
(55) مولانا شمس الدین بھٹی
(56) شہاب الدین امام
(57) شہاب الدین دیبانی
(58) شہاب الدین کستوری یا کستوری
(59) قاضی شہ پائی
(60) ضیاء الدین برنی مؤلف تاریخ فیروز شاہی وغیرہ
(61) مولانا ظہیر الدین کوتوال
(62) عبدالرحمان سارنگپوری
(63) عبدالعزیز بانگر مو
(64) قاری عبدالکریم قدوائی
(65) شیخ عثمان سیاح (انہیں اجازت محبت حاصل تھی)
(66) خواجہ عزیز الدین (نیز شیخ)
(67) علاؤ الدین اندرپتی
(68) مولانا سید علاء الدین جیوری
(69) مولانا علاؤ الدین نیلی
(70) علی جاندار
(71) عماد الدین مذکر (پسر حسام درویش)
(72) خواجہ عمر
(73) قاضی فخر الدین بجلوری
(74) مولانا فخر الدین حیری (یا خیری)
(75) مولانا فخر الدین زرادنی
(76) مولانا فخر الدین موزی
(77) فخر الدین زاہد میرٹھی
(78) مولانا فخر الدین ہانسوی
(79) شیخ فرید الدین
(80) مولانا فصیح الدین (وفات قبل ۱۷۲۵ء)

- (81) قاضی شاہ پالیؒ
 (82) قطب الدین دیرؒ
 (83) شیخ قطب الدین منور ہانسویؒ
 (84) قوام الدین یکدانہ اودھیؒ
 (85) قوام الدین روہنگیؒ
 (86) قوام الدین قدوائیؒ
 (87) ملک قیربیکؒ
 (88) خواجہ کریم الدینؒ
 (89) مولانا کریم الدین سمرقندی یا کریم الدین بیانہ
 (90) خواجہ کریم اللہؒ
 (91) کمال الدین یعقوبؒ
 (92) شیخ کمال الدین دھاریؒ
 (93) شیخ لطیف الدینؒ
 (94) لطیف الدین کھنڈ سالیؒ
 (95) شیخ ماہن بوندیؒ
 (96) شیخ مبارک گوپا منویؒ
 (97) حضرت خواجہ سعید محمد امامؒ (نیرۃ شیخ شکر)
 (98) شیخ محمدؒ
 (99) محمود بیسالیؒ
 (100) مولانا محمود نوہتیؒ
 (101) قاضی محی الدین کاشانیؒ
 (102) ملک زادہ مسعود بک
 (103) خواجہ معز الدینؒ
 (104) شیخ منتخب الدین ہانسوی ثم
 (105) خواجہ منہاج الدینؒ
 (106) خواجہ موسی دیوگریؒ
 (107) خواجہ متوید الدین انصاریؒ
 (108) خواجہ متوید الدین کڑا
 (109) نجم الدین محبوب عرف شکر خاے تھا۔ (تسری 110) حضرت شیخ نصیر الدین محمود اودھی چراغ
 (110) مولانا نظام الدین پانی پتیؒ
 (111) شیخ نظام الدین شیرازیؒ
 (112) مولانا نظام الدین شیرازیؒ
 (113) مولانا نظام الدین شیرازیؒ
 (114) نظام الدین مولیؒ
 (115) نظام الدین ہاشمی محدث ظفر آبادی
 (116) مولانا وجیہ الدین یوسف کلا کھیریؒ
 (117) شیخ یعقوبؒ
 (118) مولانا یوسف بدایونیؒ
 (119) سید یوسف حسینی دولت آبادیؒ
 (120) مولانا وجیہ الدین پالیؒ

جیسا کہ عرض کیا گیا ہے یہ فہرست مکمل کیا عشر عشر بھی نہیں ہے، یہ تو صرف وہ نام ہیں جو تاریخ و تذکرہ کی کتابوں میں اور ملفوظات میں محفوظ رہ گئے ہیں ان ناموں سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس زمانے کی سوسائٹی کے بہترین افراد کو حضرت نے اپنی خانقاہ میں جمع کر لیا تھا۔ حضرت کی پاکیزہ سیرت اور مکارم اخلاق کا اندازہ تو فوائد الفواد کی مجالس کے مطالعہ کرنے سے ہی ہو جاتا ہے، اور آپ کی تعلیمات کا بھی ان مجلسوں میں بہترین اظہار ہوا ہے،

مناسب ہو گا کہ آپ کی حیات مبارکہ اور معمولات کی چند ایسی تفصیلات بیان کر دی جائیں جو عام طور پر سامنے نہیں آئی ہیں۔

غیر مسلموں سے روابط اور سلوک

حضرت کا سابقہ ہندو جوگیوں سے بھی ہوتا تھا اس کی مثالیں فوائد الغواد میں بھی موجود ہیں (مثلاً جلد ۵ مجلس ۱۹) مگر یہ واقعات آپ کے سفر اجودھن سے متعلق ہیں۔ خود آپ کی خانقاہ میں بھی جوگی آتے تھے۔ ایک بار چھ جوگی آئے اور آپ کے جماعت خانے کی دہلیز پر مراقبہ کرنے بیٹھ گئے وہ کسی سے کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ اقبل نے جا کر حضرت کو اطلاع دی، حضرت نے فرمایا ان کو اندر بلا کر بٹھاؤ۔ ان جوگیوں نے حضرت کی خدمت میں آکر تعظیم پیش کی، حضرت نے بڑی شفقت سے فرمایا: ”بیٹھو وہ سب فرش پر بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک جوگی نے اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ شخص ”کانورو“ میں فلاں پہاڑ کے ایک غار میں چالیس سال تک رہا ہے اور کسی سے ملاقات نہیں کی، پھر دوسرے کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ پچاس سال سے ایک کھوہ میں سلوہ لگائے ہوئے تھے، اسی طرح پانچوں نے اپنا احوال بیان کیا کہ ۳۰-۳۰-۳۰ سال مراقبہ میں رہے ہیں اور خلق سے بالکل آمیزش نہیں کی، مگر اب ہمیں یہی اشارے سے بتایا گیا کہ دہلی میں ایک بڑے بزرگ موجود ہیں تو ہم نے آپس میں مل کر طے کیا کہ شیخ کا دیدار کریں، اور انہیں اپنی عقیدت پیش کریں، اس کے سوا اور کچھ مطلوب نہیں ہے یہاں سے ہم اپنے اپنے ٹھکانوں کو لوٹ جائیں گے۔ حضرت ”بہت دیر تک ان سے اخلاق و محبت کے ساتھ گفتگو فرماتے رہے اور انہیں رخصت کیا۔“

ایک بار حضرت شہر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے ایک برہمن راستے میں ملا وہ بھی بڑا گیلانی اور تپسیا کرنے والا تھا، جب حضرت اس کے سامنے سے گزرے تو خدا جلنے اس نے کیا دیکھا لوگوں سے پوچھنے لگا یہ کون بزرگ ہیں؟ کسی نے حضرت کا نام بتایا، پوچھا کہاں رہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا غیاث پور میں۔ حضرت تو آگے نکل گئے اسے یہ فکر ہوئی کہ ان بزرگ سے کیسے ملاقات کروں؟

marfat.com

Marfat.com

مولانا یوسف کلا کھیڑی وہیں رہتے تھے ان کے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ کچھ دن کے بعد اس نے مولانا یوسف سے پوچھا کہ آپ ہر ہفتہ میں ایک دن رات کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ مولانا نے کہا کہ ہمارے ایک پیر ہیں۔ وہ غیاث پور میں رہتے ہیں۔ ہر ہفتہ میں ایک دن رات ان کی خدمت میں گزارتا ہوں برہمن نے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ آپ مجھے بھی ان کی سیوا میں لے چلیں؟ مولانا نے ہامی بھری، ایک دن برہمن کو ساتھ لے کر غیاث پور آئے، اسے تو پہلے دروازے میں بٹھایا خود حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس وقت خواجہ محمد امامؒ بھی حضرت کے پاس بیٹھے تھے، مولانا باریاب ہوئے تو حضرت کو بتایا کہ برہمن آپ کے دیدار کا مشتاق ہو کر میرے ساتھ آیا ہے دلہیزر بیٹھا ہے۔

حضرت نے فرمایا: ”اندر بلا لو“ اس شخص نے حجرے میں حاضر ہو کر تعظیم پیش کی اور ایک طرف بیٹھ کر مراقبہ میں چلا گیا کوئی بات نہیں کی۔ حضرت نے سید محمد امام سے کہا: ”یہ مشغول ہو گیا“ کچھ دیر کے بعد اس نے آنکھ کھولی اور زمین پر سر رکھ دیا، پھر اٹھا اور سلام کر کے چلا گیا۔ مولانا یوسف کلا کھیڑی بہت حیران ہوئے کہ میں اس شخص کو کہاں لے آیا اس نے تو دو باتیں بھی نہیں کیں۔ یونہی منہ اٹھا کر چل دیا۔ یوسف کلا کھیڑی کی جانب دیکھ کر حضرت ”مسکرائے اور فرمایا: ”مولانا اس قوم میں ایسے لوگ بھی ہیں۔“ اگلے دن مولانا گھر واپس آئے تو برہمن آیا اور مولانا نے کہا عجیب آدمی ہو شیخ کے سامنے جا کر مراقبہ کرنے لگے اور ان سے دو باتیں بھی نہیں کیں یونہی واپس آگئے۔ برہمن نے کہا: میں کیا بات کرتا؟ میں نے مراقبہ کیا تاکہ یہ دیکھوں کہ وہ کون سی نعمتیں ہیں جن کی چھوٹ حضرت کی گفتگو میں پڑتی ہے، میں نے بہت کوشش کی مگر سراغ نہ ملا اور کسی جانب سے ان نعمتوں کی طرف پہنچنے کا راستہ مجھے نہ ملتا تھا، ایٹور ہی جانتا ہے کہ شیخ کے باطن میں کون سی نعمتیں بھری ہوئی ہیں کوئی منس (انسان) نہ ان نعمتوں کو پاسکتا ہے نہ ان کا اٹو بھو (تجربہ) کر سکتا ہے، جب میں نے یہ دیکھا تو اچھنج میں پڑ گیا اب ان سے بات ہی کیا کرتا؟۔ (قوام العقائد)

حضرت کی غذا حضرت ان دنوں کو چھوڑ کر جن میں روزہ رکھنا مکروہ ہے، بارہ مہینے روزے رکھتے تھے۔ آپ کے لئے سحری خواجہ عبدالرحیم لے کر

آتے تھے، حضرت کبھی ایک آدھ لقمہ چکھ لیتے اور کبھی جوں کی توں واپس ہو جاتی تھی، اظہار کے وقت بھی غذا بہت قلیل ہوتی تھی اور اس میں بھی حاضر الوقت لوگوں کو عطا فرماتے رہتے

تھے 'ایک بار کوئی مسافر حضرتؒ کی خدمت میں آیا' آپ اس وقت دسترخوان پر بیٹھے تھے اسے بھی بٹھالیا، دوران گفتگو اس سے پوچھا: اس سفر میں آپ کن درویشوں سے ملے؟ اس نے نام بنام ذکر کرنا شروع کیا اور کہنے لگا ایک درویش تو ایسے ملے جو نہ کبھی پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، نہ پوری نیند سوتے ہیں، جب وہ مسافر یہ بات کہہ رہا تھا ہمارے حضرت لقمہ بنا کر اٹھا چکے تھے اور دہن مبارک تک لے جا رہے تھے کہ اچانک اسے واپس رکھ دیا اور کھانے سے ہاتھ روک لیا۔ (مخائس ۷۲ ذی قعدہ ۱۷۳۲ھ)

آپ کو گنے بہت مرغوب تھے، جن عقیدت مندوں کو یہ بات معلوم تھی وہ جب گنے کی فصل نہ ہوتی اس وقت بھی دور دور سے کھوج کر لے آتے تھے اور حجرے کے کونے میں دو چار گنے ہر وقت رکھے رہتے تھے، ایک دن بے موسم کے گنے حجرے میں رکھے دیکھے، تو خواجہ کریم الدینؒ نے دل میں سوچا آج کل گنے کہاں سے آگئے؟ حضرتؒ نے وہی بات شروع کر دی، اور فرمایا کہ مجھے گنے بہت ہی زیادہ مرغوب ہیں جب دوستوں اور عزیزوں کو یہ معلوم ہے کہ مجھے پسند ہیں تو جانے کہاں کہاں سے کھوج کر لے آتے ہیں، مگر اس سال گنوں کی پوری فصل گزر گئی میں نے صرف ایک پوری "بطور حق نعمت" کھائی ہے۔ "خواجہ کریم الدین نے کہا کہ غور کرو اس سے بڑی ریاضت اور کیا ہوگی کہ جو چیز حضرتؒ کو مرغوب ہو وہ بھی کبھی پیٹ بھر کر نہ کھائیں۔

ایک بار حضرتؒ کی طبیعت کچھ ناساز تھی آپ نے کوئی دوا کھائی جس کے بڈرے کے طور پر دودھ پینا ضروری تھا، آپ نے دوا تو کھالی دودھ نہیں پیا، دوا کا رد عمل ہونے لگا، خدام نے عرض کیا حضرتؒ تھوڑا سا دودھ لے لیں تو دوا کا زور کم ہو جائے گا۔ حضرتؒ نے فرمایا مجھ سے پیا ہی نہیں جائے گا، خدام نے پھر اصرار کیا کہ دو تین چمچے ہی دودھ لے لیں، حضرتؒ نے پھر فرمایا: "یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔" اس وقت کسی نے حضرتؒ کی غذا کا حال پوچھا تو فرمایا کہ افطار کے وقت ایک چپاتی کھا لیتا ہوں، سائل نے پھر پوچھا کیا اتنی ہی بھوک ہوتی ہے؟ فرمایا نہیں ایک چپاتی اور کھا سکتا ہوں مگر کھانا نہیں، یہ چپاتی سات آٹھ تولے وزن کی ہوتی تھی، جو افطار کے وقت تناول فرماتے تھے۔ افطار کے بعد آپ تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، اس مدت میں آپ کے خدام کچھ انار دانے گلاب میں تر کر کے لے آتے تھے، اس میں سے آپ صرف چند دانے منہ میں رکھ لیتے تھے۔ ایک دن ایک صاحب موجود تھے آپ نے کچھ انار

دانے انہیں مرحمت فرمائے ان کا بیان ہے کہ میں حیرت میں رہ گیا کہ کیا یہ اسی دنیا کا اتار ہے یا جنت کا میوہ ہے؟ میں نے ایسی لذت اور اتنی لطافت کبھی اتار میں محسوس نہیں کی تھی۔ یہ بھی ہمارے حضرت دس پانچ دانوں سے زیادہ نہ کھاتے تھے۔

سحری کے لئے عموماً طاہری تیار کی جاتی تھی تو عبدالرحیم یہ کرتے تھے کہ بھنا ہوا چوزہ یا کوئی پرندہ مثلاً "بیریا تیر" چاولوں میں چھپا کر رکھ دیتے تھے اور وہ خاص اہتمام سے بہت لذیذ پکایا ہوا ہوتا تھا، مگر کبھی ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت کی انگلیوں نے اسے چھوا ہو، آپ کنارے سے ایک آدھ لقمہ اٹھا لیتے تھے اور وہ رکابی ویسے ہی واپس آجاتی تھی بلکہ شاید آپ کو یہ احساس بھی نہ ہوتا تھا کہ اس میں کوئی اور چیز بھی رکھی ہے۔

حضرت کا لباس حضرت کا لباس بہت سادہ اور معمولی ہوتا تھا، لوگ طرح طرح کے کپڑے نذر میں لاتے تھے مگر وہ سب تقسیم ہو جاتے تھے، بعض

کپڑے آپ ایک آدھ دن پہن لیتے تھے تاکہ اپنا لباس کسی کو مرحمت فرمائیں تو کام آسکے۔ لباس پہننے سے پہلے یہ ضرور سوچتے تھے کہ ایسا لباس ہمارے مشائخ نے پہنا ہے یا نہیں، اگر شبہ ہوتا تھا تو ہرگز نہ پہنتے تھے اکثر کسی بات پر بڑی محبت اور عقیدت سے فرماتے تھے کہ "ابن سنت خواجگان ماست۔" بارانی ایک لباس تھا جو علماے ظاہر پہنا کرتے تھے، آپ نے وہ کبھی نہیں پہنا۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کی ایک دو تائی تھی جگہ جگہ سے پیوند کی ہوئی جس قسم کا بھی پاک کپڑا ملتا تھا اسی کا پیوند لگا لیا جاتا تھا، حضرت خواجہ اجمیری نے وہ دو تائی خواجہ قطب الدین کو مرحمت فرمائی تھی اور قطب صاحب نے اپنے تبرکات کے ساتھ حضرت بابا فرید گنج شکر قدس سرہ کو عطا فرمائی تھی ان سے یہ ہمارے حضرت گولی تھی اور آپ اسے خاص مواقع پر بہت عقیدت سے زیب تن فرماتے تھے۔ یہ دو تائی اپنے تبرکات کے ساتھ آپ نے حضرت چراغ دہلی کو مرحمت فرمائی تھی۔ جو غالباً ان کے جسد مبارک کے ساتھ ہی دفن کر دی گئی۔ (انوار المجالس قلمی نسخہ آصفیہ ورق ۶۱۔ الف)

آپ کی پاپوش مبارک عموماً لال رنگ کی ہوتی تھی۔ اور کلاہ مبارک کبھی لال کبھی زرد پہنتے تھے۔

آخری علالت اور وصال

نہایت سخت مجاہدات کی وجہ سے حضرت کی صحت کبھی اچھی نہیں رہی مگر اپنی ایمانی قوت اور روحانی برکت سے کمزوری کے باوجود سارے مشاغل پورے اہتمام اور پابندی سے جاری رکھتے تھے۔ اس زمانے میں غلہ کی بیماری بہت ہوتی تھی اس نے بھی حضرت کو بہت پریشان کیا۔ کبھی سر میں درد بھی ہو جاتا تھا یہ مسلسل جاگنے کے سبب سے ہوتا تھا کبھی بو اسیر کی شکایت ہو جاتی تھی ان بیماریوں سے آپ کی بصارت بھی متاثر ہوتی تھی۔ ایک بار آپ بیمار تھے؛ حضرت برہان الدین غریب حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا: مولانا برہان الدین آؤ، یہ کہہ کر مصافحہ کے لئے دست مبارک دوسری طرف بدعائے۔ حضرت غریب سمجھ گئے کہ حضرت کی بصارت کچھ متاثر ہے بہت دکھی ہوئے اور جماعت خانے میں آکر رنجیدہ بیٹھ گئے، پھر انہیں حضرت کا فرمان یاد آیا کہ اگر کسی کو کوئی حاجت پیش آئے تو آیت: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ إِنَّ اللَّهَ بِأَلْعَامِرِ قَدِ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ ۷۵ بار پڑھے ان شاء اللہ وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ حضرت غریب نے یہی ورد شروع کیا، جیسے ہی ۷۵ کا عدد پورا ہوا اوپر سے کسی آنے والے نے بتایا کہ حضرت کو صحت ہو گئی، ہر چیز کو صحیح دیکھ رہے ہیں (نفائس الانفاس)

ایک بار حضرت بیمار ہوئے، خاصی پریشان کن حالت تھی کچھ دن کے بعد صحت ہونے لگی، ایک دن حضرت نے فرمایا کہ ”اس بیماری میں ہمارے ایک مرید نے خود کو ہمارے اوپر قربان کر دیا“ جب حضرت بیمار ہوتے تھے تو خادمان درگاہ یہ کوشش کرتے تھے کہ حضرت کی خدمت میں حاضر رہیں اور اچھی اچھی پر لطف باتیں کریں، جن سے حضرت کو راحت ملے، حضرت خود بھی فرمائش کر کے لطائف سنتے تھے۔ ایک بار آپ بیمار تھے، حضرت برہان الدین غریب اور بہاء الدین دارالامان حاضر خدمت تھے۔ حضرت نے مولانا بہاء الدین سے فرمایا کوئی لطیفہ سناؤ، مولانا بہاء الدین نے کہا کہ ایک شخص بیمار تھا اس سے بیسیوں نے کہا کہ تم آب گوشت کے سوا اور کچھ نہیں کھانا اس کے لئے دو من گوشت منگوایا گیا اور اتنا ہی اس میں پانی ڈالا پھر جب پکتے پکتے وہ ایک پیالہ بھر رہ گیا تو وہ آب گوشت اسے پینے کو دیا گیا۔ طبیب نے اس سے کہا کہ ”آج تم نے دو من گوشت کھایا ہے“ یہ سن کر حضرت نے تبسم

فرمایا۔ (نفاکس الانفاکس ۲۹ صفر ۱۳۴۲ھ)

حضرت کے وصال سے چالیس دن پہلے معمولات میں فرق آنا شروع ہو گیا تھا۔ نماز میں سجدے زیادہ کرتے یا گریہ بہت زیادہ اور بے سبب طاری ہوتا یا تھیر کا عالم پیدا ہو جاتا۔ جمعہ کے دن کو بار بار یاد فرماتے، ایک وقت کی نماز دو دو تین تین بار ادا فرماتے یا مصرع پڑھتے:

ی روم و ی روم و ی روم

اسی حالت میں ایک دن جماعت خانے میں تجرید کرائی اور اقبل سے فرمایا کہ جو کچھ ہے سب مساکین میں تقسیم کر دو ورنہ کل خدا کے سامنے تمہیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس زمانے میں حضرت شیخ رکن الدین ملتانی دہلی میں تھے وہ عیادت کے لئے آئے تو انہوں نے حضرت سے کہا کہ انبیاء کو حیات و موت میں اختیار دیا جاتا ہے، علماء و مشائخ بھی وارثین انبیاء ہیں، آپ بھی اگر کچھ دن اور دنیا میں رہنے کا ارادہ فرمائیں تو اس سے بہت سے طالبوں کو فائدہ پہنچے گا۔ حضرت نے رندھی ہوئی آواز میں فرمایا ”آج کل ہر شب رسالت مآب ﷺ کو خواب میں دیکھ رہا ہوں وہ فرماتے ہیں: نظام اشتیاق تو مارا بیشتر است زود بیا دور کعب ما بیا سا“ (نظام تم سے ملنے کا ہمیں بہت اشتیاق ہے جلدی سے آؤ اور ہمارے پاس آرام کرو)

انتقال سے چالیس دن قبل کھانا پینا مطلق ترک کر دیا تھا، ایک دن انہی مبارک نے تھوڑا سا سویوں کا پانی پیش کیا تو وہ بھی نہیں لیا، اور فرمایا تالی میں پھینک دو۔

حضرت شمس الدین دامغانی نے موقع پا کر عرض کیا کہ آپ کہاں آرام فرمانا چاہیں گے تو حضرت نے فرمایا کہ جنگل میں کھلے آسمان کے نیچے سوؤں گا۔ اسی بیماری کے زمانے میں حضرت کے خدمتکاروں نے دریافت کیا کہ مخدوم کے بعد ہمارا کیا ہو گا؟ فرمایا کہ میرے روضے پر اتنا آتا رہے گا جو تم لوگوں کے لئے کفایت کرے گا، کسی نے پھر عرض کیا کہ اس کی تقسیم کون کرے گا؟ (مراد یہ کہ روضہ کا متولی کون ہو گا؟) حضرت نے فرمایا کہ ”جو اپنا حصہ چھوڑ دے گا“ چنانچہ عہد محمد شاہ تک حضرت بابا فرید گنج شکر کی اولاد روضہ مبارک کی متولی رہی، فتوح کی تقسیم چار حصوں میں ہوتی تھی:

(۱) پہلا حصہ فریق اول نبیرگان کا جن میں حضرت بدر الدین اسحاق کی اولاد یعنی حضرت بابا فرید کے نواسے ہیں، چونکہ حضرت نظام الدین اولیا تمام عمر مجرد رہے، اور آپ کی کوئی مصلیٰ

اولاد نہیں تھی، اور بابا صاحبؒ کے نواسوں کو آپ نے اپنی اولاد کی طرح پرورش کیا تھا اس لئے پہلے فریق وہی قرار پائے۔ حضرت خواجہ حسن ملانی نظامی مترجم فوائد القواد اس خاندان کی نشانی ہیں۔

(۲) فریق ملانی ”ہارونیاں“ یعنی حضرت خواجہ رفیع الدین ہارونؒ کی اولاد۔ اس خاندان کا کوئی فرد اب بقید حیات نہیں ہے۔ بعض حضرات ان کے نواسوں میں موجود ہیں۔ خواجہ حسن نظامی اس نسبت سے اپنے آپ کو ”خواہر زادہ“ لکھا کرتے تھے۔

(۳) فریق ثالث، قاضی زادگان، یہ حضرت قاضی محی الدین کاشانی کی اولاد ہیں، ان کی رشتہ داری ہارونیاں میں ہوئی اور کسی زمانے میں ننھیال سے بھی ان کو وراثت ملی جو اب تک چلی آرہی ہے۔

(۴) چوتھا فریق ”ہندوستانیوں“ حضرت کی تدفین ظہر کی نماز سے پہلے عمل میں آئی، حضرت رکن الدین ملتانیؒ نے خواجہ اقبال سے دریافت کیا کہ حضرت مقابر یاران میں فاتحہ خوانی کے لئے تشریف لاتے تھے تو کس جگہ بیٹھتے تھے، خواجہ اقبال نے ایک جگہ بتائی جہاں نارنگی کا درخت لگا ہوا تھا، اور کہا کہ حضرت کی نشست اس پیڑ کے نیچے ہوا کرتی تھی، حضرت رکن الدین نے وہی جگہ آپ کی لحد کے لئے تجویز فرمائی (قوام العقائد)

سیر الاولیاء کا بیان ہے جہاں آپ کا روضہ ہے یہاں صحرا تھا، اور یہ بلند اور شاندار عمارتیں بعد کو وجود میں آئیں، بعض دوسرے تذکرہ نگار کہتے ہیں خضر خان یہ مقبرہ بنوا چکا تھا (جو اب درگاہ شریف کی مسجد ہے) مگر حضرت کی وصیت کے بعد آپ کو وہاں دفن کرنا مناسب نہ سمجھا گیا، اور اس مقبرے کے سامنے ایک حوض تھا اسے مٹی سے پاٹ کر اس میں لحد تیار کی گئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض اور عقیدتمندوں نے بھی شاندار روضے تعمیر کر رکھے تھے۔

حضرت کا وصال ۱۸ ربیع الثانی ۷۷۲ھ / ۲۱ اپریل ۱۳۲۵ء بدھ کے دن صبح سات بجے کے قریب (بعد طلوع آفتاب) ہوا، اور اسی دن دوپہر میں تدفین عمل میں آئی۔ آپ کو حضرت رکن الدین ملتانیؒ اور حضرت چراغ دہلیؒ نے لحد میں اتارا اور بابا صاحبؒ کے تبرکات آپ کے ساتھ قبر میں رکھے گئے یعنی خرقہ، عصا، مصلیٰ، تسبیح۔

(۶) حضرت نظام الدین اولیاءؒ کے حالات و ملفوظات پر مشتمل کئی کتابیں لکھی گئیں ان میں سے چند قدیم ترین ماخذ یہ ہیں:

marfat.com

Marfat.com

1- فوائد الفواد (ملفوظات حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء) جمع کردہ امیر حسن دہلوی کے پانچ حصے ہیں جن میں ۱۸۸ مجلسوں کا حال ہے ان میں حضرت کے ارشادات و ملفوظات کو قلمبند کیا گیا ہے اس کتاب پر قدرے تفصیلی مکتوبہم آگے چل کر کریں گے۔

2- قوام العقائد مرتبہ محمد جمال قوام نبیرہ شمس العارفین دہلوی۔ یہ کتاب یکم محرم ۱۲۵۵ھ کو لکھنا شروع کی گئی اور ۱۲۵۵ھ کو اختتام تک پہنچی یعنی اس کی جمع و تالیف میں ۱۸۴ دن صرف ہوئے۔ اس میں حضرت کے حالات و ملفوظات ہیں جن کا ایک حصہ تو وہی ہے جو فوائد الفواد 'سیر الاولیاء' درر نظامی اور خیر المجالس میں ملتا ہے، کچھ باتیں اس سے نئی بھی معلوم ہوتی ہیں۔ میں نے عزیز گرامی صاحبزادہ سید محمد خسرو حسینی فرزند اکبر حضرت مخدوم عالمیاں سید محمد محمد الحسینی سجادہ نشین حضرت بندہ نواز گیسو دراز قدس سرہ کے مملوکہ عکسی نسخے سے استفادہ کیا ہے اور اس کرم بے نہایت کے لئے دونوں بزرگوں کا شکریہ صمیم قلب سے ادا کرنا واجب ہے۔ جَزَا هُمْ اللّٰهُ حَيْرَ الْجَزَاءِ فِي الدَّارَيْنِ۔

3- سیر الاولیاء۔ یہ مشہور کتاب سید محمد بن مبارک علوی کرمانی متوفی ۱۲۷۰ھ کی تالیف ہے جو عام طور سے "امیر خرد" کہلاتے ہیں۔ اس خاندان کے روابط حضرت بابا فرید اور حضرت نظام الدین اولیاء سے بہت قدیم اور بہت استوار رہے، امیر خرد کے دادا سید محمد کرمانی اجودھن میں بھی رہے اور دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء کے ساتھ بھی اس وقت سے رہے جب آپ غیاث پور میں منتقل بھی نہیں ہوئے تھے۔

امیر خرد نے جب سیر الاولیاء مرتب کی اس وقت ان کی عمر پچاس سال ہو چکی تھی۔ اس میں اپنے مشاہدات کے علاوہ انہوں نے اپنے دادا، والد اور چچا سے روایات اخذ کی ہیں اور حتی الوسع بہت احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ لکھا ہے، تذکرہ اولیائے ہندوستان کی یہ قدیم ترین اور مستند ترین کتاب ہے اس میں دس ابواب ہیں، آخری باب میں حضرت کے ملفوظات کا انتخاب بھی دیا ہے۔ سیر الاولیاء کے چند قلمی نسخے یہ ہیں: ۱۔ نسخہ ایشیاٹک سوسائٹی کلکتہ مکتوبہ ۱۰۴۰ھ / ۱۶۳۰ء

- ۲۔ نسخہ انڈیا آفس لندن نوشتہ ۱۰۹۳ھ / ۱۶۸۲ء
 ۳۔ نسخہ دارالعلوم دیوبند مکتوبہ سلاطین جلوس اکبری کے مطابق ۹۷۷ھ (مخطوطات دیوبند ۲

(۵۱/

۴۔ نسخہ برٹش میوزیم لندن مکتوبہ درحدود ۱۸۵۰ء
 ۵۔ نسخہ برلین۔ رقم ۵۸۶ (استوری ۱/۹۶۶)
 نسخہ کتب خانہ آصفیہ حیدر آباد دکن رقم ۹۳۹ نوشتہ ۱۲۷۷ھ / ۱۸۴۰ء (فرس):
 ۶۶۶) نسخہ مولانا آزاد لائبریری علی گڑھ (جو اہر میوزیم اٹاوا کلکشن) رقم ۹۲۰ / ۸۹ اور اوراق ۲۷۲۔
 ۱۸۵۰ء میں سید عبداللہ جیو کو ایک نسخہ قدیم سید محمد حسن بن فضل اللہ (یکے از اجداد ایشان) کا
 لکھا ہوا ملا جسے سامنے رکھ کر شیخ محمد کاتب سے ۱۲۰۲ھ مطابق ۱۸۰۲ء جلوس شاہ عالم میں یہ نسخہ
 لکھوایا گیا۔ یہ کتاب شعبان ۱۳۰۲ھ / ۱۸۸۵ء میں چہ نجی لال مالک مطبع محب ہند فیض بازار
 (دریا گنج) دہلی کی توجہ سے پہلی بار شائع ہوئی اور اس کا اردو ترجمہ ۱۹۲۳ء میں لاہور میں چھپا
 تھا۔ اسی ایڈیشن کا عکس مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان نے ۱۹۷۸ء میں شائع کیا تھا۔
 سیر الاولیاء حضرت نظام الدین اولیاء کے حالات میں سب سے مفصل، مستند اور
 قابل قدر کتاب ہے۔

۴۔ دُرِّ نظامی مؤلفہ علی بن محمود جاندار، بھی ایک ماخذ ہے اس میں حضرت کے
 ملفوظات اور تعلیمات کو ۳۰ ابواب میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اس کا بڑا حصہ تو سیر الاولیاء اور
 فوائد الفواد میں مشترک ہے، کچھ مواد ایسا ہے جو صرف اسی کتاب میں ملتا ہے۔ اس کا فارسی
 متن آج تک شائع نہیں ہوا اس کا اردو ترجمہ پیر زادہ محمد یاسین نظامی نے کیا تھا اور یہ بازار
 میں گفتار محبوب کے نام سے بھی ملتا ہے۔

ان کتابوں کے علاوہ حضرت کے حالات و ملفوظات مندرجہ ذیل کتابوں سے بھی ملتے

ہیں۔

۱۔ احسن الاقوال ملفوظات حضرت برہان الدین غریب (اردو ترجمہ از عبدالجید درنگ

آبادی)

۲۔ نفائس الانفاس۔ ملفوظات حضرت غریب۔ (قلمی نسخہ ندوۃ العلماء لکھنؤ) مکتوبہ ۱۳

رجب ۱۲۹۳ھ۔

۳۔ شمائل الاتقیاء۔ مرتبہ رکن محمد کاشانی مابین ۱۷۳۲ء و ۱۷۳۸ء۔
 قلمی نسخے۔ نیشنل میوزیم دہلی۔ ادارہ ادبیات اردو حیدر آباد۔ جامعہ عثمانیہ (مکتوبہ ۱۰۹۰)
 ۵۔ نسخہ ذخیرہ مولانا نسیم احمد فریدی (مکتوبہ ۱۷۳۶ء)
 یہ ایک بار حیدر آباد سے شائع بھی ہو چکی ہے (محرم ۱۷۳۲ء) مگر مطبوعہ بھی کیاب ہے۔

۴۔ خیر المجالس۔ ملفوظات حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلی جمع کردہ حمید قلندر۔
 ۵۔ جوامع العلم: ملفوظات حضرت سید محمد حسینی گیسو دراز قدس سرہ جمع کردہ سید حسن المعروف بہ سید محمد اکبر حسینی (قلمی نسخہ کتب خانہ حضرت خواجہ حسن نظامی دہلوی) یہ محمد حامد صدیقی صاحب کی تصحیح کے بعد ۱۷۵۶ء میں انتظامی پریس کانپور میں چھپ کر درگاہ شریف گلبرگہ سے شائع بھی ہو چکی ہے۔

۶۔ سیر العارفین مؤلفہ جمالی دہلوی اردو ترجمہ از غلام احمد سنہلی شمس المطالع مراد آباد ۱۹۰۱ء نیز مرتبہ ڈاکٹر محمد ایوب قادری شائع کردہ مرکزی اردو پور ڈھلاہور ۱۹۷۶ء۔
 حضرت نظام الدین اولیاءؒ کے ملفوظات کے کچھ اور مجموعے بھی مرتب ہوئے ان میں بعض کی اصلیت مشکوک ہے۔ مثلاً افضل الفوائد اور راحۃ العین۔ اور بعض اب دنیا سے ناپید ہو چکے ہیں۔ ان کا تذکرہ کرنا اس لئے ضروری ہے کہ پڑھنے والوں کو ان کی اہمیت اور قدر و قیمت کا اندازہ ہو اور ممکن ہے کبھی کسی کو ان میں سے کوئی نسخہ کہیں دستیاب ہو جائے۔
 ۱۔ حضرت بدر الدین اعلیٰؒ کے صاحبزادے اور مترجم فوائد الفوائد (خواجہ حسن نظامی نظامی) کے مورث اعلیٰ حضرت خواجہ محمد سید امام نے بھی شیخ کے ملفوظات کا ایک مجموعہ انوار المجالس ترتیب دیا تھا۔ (سیر الاولیاء ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲)

۲۔ تحفہ الابرار کرامتہ الاخیار: مرتبہ خواجہ عزیز الدین صوفی (سیر الاولیاء ص ۲۰۲)
 ۳۔ مجموع الفوائد: مرتبہ عبدالعزیز بن خواجہ ابو بکر مصطفیٰ دار (سیر الاولیاء ص ۳۱۸)
 ۵۔ خلاصۃ اللطائف (عربی) مرتبہ علی بن محمود جاندار مؤلف دربر نظامی (سیر ۳۲۹ و اخبار الاخیار ۹۳)

لیکن ان کتابوں میں سب سے زیادہ اہم، مستند اور مقبول کتاب فوائد الفوائد ہی رہی ہے جو ہر دور میں صوفیائے چشتیہ کا دستور العمل سمجھی گئی ہے۔ اس کی خصوصیات پر ایک

تفصیلی نظر ڈالنے سے پہلے خود جامع ملفوظات امیر حسن بجزی کے مختصر حلات بیان کر دیئے جائیں۔

امیر حسن علاء (۴۱)..... بجزی دہلوی جامع فوائد الفوائد:

امیر حسن کا نام حسن اور لقب نجم الدین ہے مگر وہ امیر حسن علاء کے نام سے مشہور ہیں، اس میں اسم ثانی علاء ان کے پدر بزرگوار کی طرف اشارہ کرتا ہے جن کا لقب علاؤ الدین تھا۔ حسن بدایوں میں پیدا ہوئے۔ وہ نسباً سید ہاشمی قرظی (۴۲) ہیں، ولادت ۶۵۲ھ / ۱۲۵۴ء میں ہوئی اس طرح وہ امیر خسرو (۶۲۵ھ - ۶۶۵ھ) سے ایک سال چھوٹے تھے۔ ابتدائی عمر میں ہی (غالباً "عہد بلبن میں) دہلی آگئے تھے اور تعلیم زیادہ تر یہیں حاصل کی۔ حضرت نظام الدین اولیاءؒ سے ان کی واقفیت پرانی تھی۔ مگر ملاقات دہلی میں ہوئی ہوگی۔ اس لئے کہ بدایوں میں ان کی ولادت سے پہلے حضرت اس شہر کو خیر آباد کہہ چکے تھے۔ امیر حسن نے مبدلہ فیاض سے نہایت حساس ذہن اور لطیف مذاق پایا تھا، فارسی اور عربی پر غیر معمولی قدرت حاصل ہو گئی تھی، اور تیرہ سال کی عمر سے شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ تعلیم سے فارغ ہو کر انہوں نے ملازمت اختیار کی۔ امیر خسرو کے ساتھ وہ بھی سلطان بلبن کے لائق ولی عہد محمد خان شہید کے متوسل رہے جو انہیں دوات دار بنا کر ملتان لے گیا تھا (۶۷۸ھ) اس کی مصاحبت میں پانچ سال تک رہے (برنی ۶۷) شہزادہ محمد کی شہادت پر امیر خسرو نے نظم میں اور امیر حسن نے نثر میں مرثیہ لکھا، شہزادہ محمد علم و ادب کا بڑا قدر دان اور سرپرست تھا وہ منگول لشکر کا مقابلہ کرتے ہوئے ۳۰ ذی الحجہ ۶۸۳ھ / ۸ مارچ ۱۲۸۵ء کو شہید ہو گیا تھا، یہ عہد سلطنت میں تاریخ کا سب سے بڑا المیہ ہے، اگر شہزادہ محمد خان کو تخت بلبن پر بیٹھنے کا موقع ملا ہوتا تو ہندوستانی ادب و ثقافت کی تاریخ دوسرے ہی انداز میں لکھی جاتی۔ اس کی شہادت کے بعد امیر حسن بے روزگار ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جلال الدین خلجی کے دربار میں گویئے امیر حسین کی غزلیں گایا کرتے تھے (بدایوںی ۱ / ۱۸۲) جلال الدین کے بعد رکن الدین ابراہیم شاہ اول چند روز کے لئے بادشاہ بنایا گیا تھا پھر علاؤ الدین خلجی تخت نشین ہوا (۶۹۵ھ / ۱۲۹۵ء) یہ زیادہ بڑھا لکھا بھی نہ تھا، اور اسے شعر و ادب سے بھی کچھ مناسبت نہ تھی، اس لئے امیر حسن

شاید فوج کے غیر محارب عملے میں کسی معمولی خدمت پر لگ گئے تھے۔ شہی لشکر کے ساتھ وہ مشرق میں لکھنؤ تھی اور جنوب میں دیوگیر (دولت آباد) تک گئے جب وہ لشکر کے ساتھ باہر جاتے تھے تو آٹھ آٹھ مہینے کی غیر حاضری ہو جاتی تھی اس لئے مجلسوں کا فصل بڑھ گیا ہے۔ دہلی میں ان کی سکونت خضر آباد چھاؤنی میں تھی، انہوں نے علاؤ الدین خلجی (ف ۱۲۹۷ء) کی مدح میں قصائد بھی لکھے ہیں، مگر بادشاہ نے کوئی خاص قدر دانی کا ثبوت نہیں دیا۔ کبھی کبھی ان کی تنخواہ بھی رک جاتی تھی اور وہ مالی اعتبار سے پریشان رہتے تھے۔ کبھی اپنا سامان اور اسلحہ بھی گروی رکھنا پڑ جاتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے قطب الدین مبارک شاہ اور خسرو خان کے عہد میں وہ خانہ نشین رہے۔ حضرت سے ان کی شناسائی تو ممکن ہے عہد ملین ہی سے رہی ہو، امیر خسرو اور ضیاء الدین برنی ان کے دوست تھے ان کے ساتھ یا اپنے طور پر شاید یہ حضرت کی خانقاہ میں بھی آتے ہوں گے، مگر اصلاً ان کی معاشرت ایک دنیا دار آدمی کی سی تھی، ان کے حال پر حضرت کی جو توجہ ہوئی، اس نے دنیا ہی بدل کر رکھ دی اور ایک درباری ملازم کو خاصان حق کی بارگاہ تک پہنچا دیا، اس کے بارے میں بہت سے افسانے بھی مشہور ہو گئے ہیں جن کا یہاں درج کرنا غیر پسندیدہ طوالت کا باعث ہو گا لیکن مولانا شہاب الدین امام کی یہ روایت بے اصل نہیں ہو سکتی (سیر العارفین اردو ترجمہ ۱۱۷-۱۱۸) کہ ایک دن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءؒ حسب معمول خواجہ قطب صاحبؒ کے مزار پر فاتحہ خوانی کر کے واپس آ رہے تھے، آپ کا گزر حوض شمشیر پر ہوا، جو اس زمانے بڑی بارونق اور پر فضا سیرگاہ تھی، اس کے اطراف میں بھی بعض بزرگوں کے مزارات تھے، حضرت وہاں فاتحہ پڑھنے تشریف لے گئے۔ وہیں کہیں اتفاق سے امیر حسن بجزیؒ اپنے دوستوں کے ساتھ میکشی کا مشغل کر رہے تھے، اچانک حضرت کا سامنا ہو گیا، یہ سٹپٹا گئے اور اسی نشے کی حالت میں لڑکھرائی زبان سے یہ اشعار پڑھے (۴۳):

سالما باشد کہ ماہم مجتہم گرز مجتہماً اثر باشد کجاست؟
 زہد تان فسق از دل ماکم نہ کرد فسق میان، بہتر از زہد شامت!
 ترجمہ: کتنے برسوں سے ہماری ایک دوسرے سے ملاقات ہے، اگر
 محبت میں کوئی اثر ہوتا ہے تو وہاں کہاں ہے؟ تمہارا زہد ہمارے فسق
 پر غالب نہ آسکا، گویا ہمارا فسق تمہارے زہد سے اچھا ہے!

امیر حسن کے لئے سعادت کی گھڑی آچکی تھی، حضرتؒ نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور صرف اتنا فرمایا ”در صحبت اثر ہست ان شاء اللہ روزی باد“ (صحبت میں اللہ چاہے بڑی تاثیریں ہیں خدا تمہیں روزی کرے) یہ الفاظ امیر حسن کے خرمین معاصی پر بکلی بن کر گرے، اس مدہوشی کے عالم میں اور بھی بے اختیار ہو گئے، فوراً اپنے سر سے کلاہ اتاری اور حضرت کے قدموں سے لپٹ گئے۔ حضرتؒ نے سر پر ہاتھ پھیرا کچھ دیر ان کی دلجوئی کے لئے وہاں کھڑے رہے، پھر آپ مزارات پر حاضری دے کر واپس چلے آئے۔ اگلے دن امیر حسن خانقاہ میں حاضر ہوئے، حضرتؒ کے ہاتھ پر بیعت توبہ کی اور خانقاہ کے مستعل حاضر باشوں میں شامل ہو گئے۔ حضرتؒ کے دو لفظوں نے امیر حسن کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیا، اگر وہ لمحہ ان کی زندگی میں نہ آتا تو جیسے سینکڑوں بڑے بڑے باکمال شاعر گمناہی کی گرد میں گم ہو کر رہ گئے، ایسا ہی ان کا انجام بھی ہوتا۔ حضرتؒ نے انہیں اور ان کے فن کو عمر جاوداں بخش دی ایسی ہی صورت حال کے لئے حافظ شیراز نے کہا ہے: -

آنان کہ خاک راز نظر کیا کنند

آیا بود کہ گوشہ چشمے بما کنند

سیر العارفین میں لکھا ہے کہ توبہ کے وقت امیر حسن کی عمر ۷۳ سال تھی، یہ درست نہیں۔ ان کا سال ولادت ۶۵۲ھ ہے تو از روئے حساب یہ واقعہ ۷۲۵ھ میں پیش آنا چاہئے۔ جب کہ فواد الفوائد کا آغاز ۳ شعبان ۷۰۷ھ (۲۸ جنوری ۱۳۰۸ء) تو اب سے ہوتا ہے اور قیاس یہی چاہتا ہے کہ مذکورہ بلا واقعہ اسی سال پیش آیا ہے۔ اس وقت امیر حسن کی عمر ۵۵ سال تھی۔ اس کی طرف امیر حسن نے اپنے ایک شعر میں بھی اشارہ کیا ہے:

اے حسن توبہ آن گمے کردی

کہ ترا طاقت گناہ نماند

ترجمہ: اے حسن تم نے اس وقت توبہ کی جب گناہ کرنے کی طاقت ہی

باقی نہ رہی:

مسعود علی محوی مرتب کلیات امیر حسن دہلوی کو اس قصے کی صحت میں شک ہے اور ان کی دلیل یہ ہے کہ ۶۹۹ھ میں شاہی فرمان کے ذریعہ علاؤ الدین خلجی نے سارے ملک میں شراب کی کشید اور فروخت پر پابندی لگادی تھی، اور اس کے حکم کی خلاف ورزی کسی پبلک

marfat.com

Marfat.com

مقام پر کرنا ناممکن نہ تھا، لیکن اس واقعے کی تصدیق کے لئے کئی داخلی قرینے موجود ہیں۔ اول یہ دیکھنا چاہئے کہ معزالدین کیقبلاو کے زمانے میں فسق و فجور اتنا عام ہو گیا تھا کہ سارا شہر میکرہ اور قجہ خانہ بن کر رہ گیا تھا اور ان حالات سے گھبرا کر یا بدول ہو کر حضرت نے دہلی کو خیر پلوکنے کا ارادہ کر لیا تھا جس کی تفصیل ہم گذشتہ صفحات میں لکھ چکے ہیں۔ اس زمانے میں عوام اور امراء سب عیش و نشاط اور فسق و فجور کی زندگی میں مبتلا تھے، امیر حسن کا تو وہ بھرپور جوانی کا زمانہ تھا، اگر انہیں بھی میکشی کی عادت پڑ گئی ہو تو کچھ تعجب کا مقام نہیں، کیونکہ یہ اس زمانے کے معمولات میں شامل تھی۔ عمد علانی میں پابندیاں بھی اسی لئے لگائی گئیں کہ معاملہ حد سے تجاوز کر چکا تھا۔ لیکن یہ سمجھنا غلط ہو گا کہ اس قدغن کے بعد میکشی کا نام و نشان مٹ گیا تھا۔ رہا پبلک جگہ کا سوال تو چیک ہونے کا احتمال شہر میں زیادہ ہوتا تھا، اسی لئے لوگ شہر سے باہر باغوں اور جنگلوں میں جمع ہو جاتے تھے۔ غیاث الدین تغلق کے دور (۱۳۲۵/۱۳۲۵ھ - ۱۳۲۰/۱۳۲۰ھ) میں سماع پر قدغن تھی تو سماع کی محفلیں بھی شہر کے باہر باغوں میں ہونے لگی تھیں۔ تیسرا قرینہ یہ ہے کہ ”فوائد الفوائد“ کی پہلی ہی مجلس توبہ کی فضیلت کے بیان سے شروع ہوتی ہے، اور حضرت نے فرمایا: توبہ کرنے والا، متقی انسان کے برابر ہو جاتا ہے اس لئے کہ متقی وہ ہے جس نے تمام عمر میں کبھی شراب نہ چکھی ہو یا کوئی گناہ اس سے سرزد نہ ہوا ہو، اور تائب وہ ہے جس نے گناہ کیا اور اس سے رجوع کر لیا۔ یعنی وہ گناہ کی لذت سے آشنا ہو کر اسے چھوڑتا ہے تو یہ زیادہ بڑا مجاہدہ نفس ہے۔ حضرت کے یہ الفاظ خود اشارہ کر رہے ہیں کہ امیر حسن سے خطاب ہے اور انہوں نے اسی زمانے میں توبہ کی ہے۔

بیعت کے بعد امیر حسن ہر جمعہ کو خدمت شیخ میں حاضری دیتے تھے اور جمعہ کی نماز کیلو کھڑی کی جامع مسجد میں حضرت کے ساتھ پڑھتے تھے۔

امیر حسن کی سیرت اور اخلاق سب ہم عصر تذکرہ نگار امیر حسن کے مکارم اخلاق اور حسن سیرت کی شہادت دیتے ہیں،

ضیاء الدین برنی جو امیر حسن کے دوست تھے، اپنے تاثرات یوں بیان کرتے ہیں:

”امیر حسن مذکور باوصاف و اخلاق مرضیہ متصف بودہ است و حضرت

خداوندان مکارم اخلاق کہ در لطائف و طرائف و مجلساواستحضار اخبار

سلاطین و اکابر و علماے بزرگ دہلی و استقامت عقل و زہی و زیست

صوفیہ و لزوم قناعت و اعتقاد پاکیزہ و خوش بودن و خوش گزر دانیدن بے
اسباب دنیا و تجرد و تفرد از علائق دنیا، چھوٹو کسی را کمتر دیدہ ام.... چنان
شیرین مجلس و ظریف و خوش باش و مزاج دان و مؤدب و مہذب بود کہ
مارا راحتے وانے کہ مجالست او می شد از مجالست غیر او نیا قسم
(تاریخ فیروز شاہی)

امیر حسن مذکورہ نہایت پسندیدہ اخلاق و اوصاف سے متصف تھے اور میں نے بہت کم
لوگ دیکھے ہیں جو پاکیزہ اخلاق والوں کی طرح مجلسوں میں لطیف اور ظریفانہ باتیں کرنے دہلی
کے بڑے علماء، اکابر اور سلاطین کی تاریخ سے واقفیت صوفیاء کی سی زندگی اور سمجھ 'قناعت'
پاکیزگی اعتقاد اور دعویٰ ساز و سامان کے بغیر تجرد اور دنیا سے بے تکلفی کی زندگی میں خوش
اور مطمئن رہنے میں ان کی مثل ہوں.... ان کی صحبت اس قدر شیریں ہوتی تھی اور وہ ایسے
ظریف خوش مزاج، پادب اور مہذب تھے کہ ہم لوگوں کو جو راحت اور کشش ان کی ہم نشینی
میں حاصل ہوتی تھی وہ کسی اور صحبت میں نہیں ملتی تھی۔

(اردو ترجمہ از ڈاکٹر معین الحق ص ۲۳ - ۵۲۲)

شائع کردہ

(مرکزی اردو بورڈ لاہور ۱۹۶۹ء)

سیر الاولیاء کا مؤلف امیر خرد کرمانی بھی امیر حسن سے ذاتی طور پر واقف ہے وہ کہتا ہے
کہ لطافت طبع میں ان کا جواب نہ تھا، عشق انگیز اشعار کہتے تھے اور ایسے لطائف و نکات ان
کی گفتگو میں ہوتے تھے کہ بادشاہ اور شہزادے بھی ان کی باتوں کو سننے کے مشتاق رہتے تھے وہ
اس دنیا میں مجرد رہے اور دیوگیر میں دفن ہوئے۔ (سیر الاولیاء ۳۱۸)

محمد قاسم فرشتہ کا بیان ہے کہ وہ فضل و دانش میں باکمال ہونے کے علاوہ حسن و جمال
میں بے مثال تھے، مگر باقی جو داستان فرشتہ نے لکھی ہے وہ بازاری گپ سے زیادہ وقعت نہیں
رکھتی، کسی دوسرے تذکرہ نگار نے ان کے حسن و جمال کا ذکر نہیں کیا ہے۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے امیر حسن کی سیرت اور حسن اخلاق کو چند
لفظوں میں ظاہر کر دیا ہے:

”اور در میان فضلاء عصر عزتے و مکانے دیگر بود، در میان مریدان

marfat.com

Marfat.com

شیخ نظام الدین "بقرب و عنایت شیخ امتیازے داشت و در حسنِ معاملات
صفائے سریت و سایر صفات حمیدہ یگانہ عصر بود و بہ اوصاف تصوف
موصوف۔"

(اخبار الاخیار)

انہیں اپنے زمانے کے فضلاء میں خاص مرتبہ اور عزت حاصل تھی اور حضرت شیخ
نظام الدین کے مریدوں میں شیخ سے قرب اور ان کی خصوصی توجہ سے ممتاز تھے۔ حسن
معاملہ، صفائی باطن اور دوسری سب اچھی صفات میں یگانہ و یکتا تھے۔ اور تصوف کی خوبیوں
سے بھی آراستہ تھے۔

غرض امیر حسن ایک خوش مزاج پاکیزہ اطوار، مرنجاں مرنج، قانع، متوکل، صلاح کوش
اور صوفی منش انسان تھے۔ انہیں دربار سے امیر خسرو کی طرح انعام و اکرم نہیں ملے، بلکہ
اکثر تنگ دستی میں گزر کرتے تھے اپنے افلاس کی طرف انہوں نے بعض اشعار میں اشارہ بھی
کیا ہے وہ آزادانہ مجردانہ اور قلندرانہ زندگی گزارتے تھے۔ اور شیخ کے بتائے ہوئے اعمال و
اوراد و عبادت میں مشغول رہتے تھے، فوائد الفوائد کی ایک مجلس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان
کے پاس طبع نامی ایک غلام تھا جسے انہوں نے حضرت کی مجلس میں آزاد کر دیا تھا۔

تصانیف برنی نے لکھا ہے "اور التالیفات نظم و نثر بسیار است" (ص ۳۶۰) لیکن ان کی
شہرت کو رہتی دنیا تک شاداب رکھنے کے لئے صرف فوائد الفوائد ہی کافی ہے۔

امیر حسن کا ایک مختصر رسالہ "سخ المعانی" علی گڑھ کے ذخیرہ سرشاہ سلیمان میں موجود
ہے (رقم ۵: ۱۱۵) یہ رسالہ صرف ۳۶ صفحات پر مشتمل ہے اور اس کی نقل کسی نے ۱۲۹۷ھ /
۱۸۸۰ء میں کی ہے۔ اس کا موضوع "عشق" ہے فوائد الفوائد جلد ۲ مجلس ۳۳ سے معلوم ہوتا
ہے کہ یہ رسالہ ۲۳ محرم ۷۱۲ھ (چهار شنبہ یکم جون ۱۳۱۲ء) کو امیر حسن نے حضرت کی خدمت
میں پیش کیا اور آپ نے اسے پسند فرمایا۔ غالباً یہ اسی زمانے میں لکھا گیا ہوگا۔

دوسری تصنیف امیر حسن کا دیوان ہے۔ جسے مسعود علی محوی نے اپنے فاضلانہ
مقدمے کے ساتھ ایڈٹ کیا، اور مہاراجہ سرکشن پرشاد شاد نے ۱۳۵۲ھ / ۱۹۳۳ء میں حیدر

آباد دکن سے چھپوایا تھا۔ امیر حسن کی اور کوئی تصنیف موجود نہیں۔ بعض حضرات نے شہزاد محمد خان شہید کے مرثیہ نثر کو بھی علیحدہ تصنیف مانا ہے۔ یہ مرثیہ کلیات میر حسن مرتبہ مسعود علی مجوی کے علاوہ بدایونی کی منتخب التواریخ اور تاریخ مبارک شاہی میں بھی موجود ہے۔ مجوی کا پیش کردہ متن صحت سے زیادہ قریب ہے۔

امیر حسن دہلوی نے شادی نہیں کی، تمام عمر مجرد رہے۔ ان کے رشتہ داروں میں میر چچو اور شمس الدین ماہرو کے نام ہمیں معلوم ہیں اور یہ بھی دریافت ہوتا ہے کہ شمس دبیر سے ان کی قرابت تھی۔ حضرت کے وصال کے بعد انہیں محمد بن تعلق کے زمانے میں دولت آباد کے لئے کوچ کرنا پڑا۔ محمد غوثی شکاری مؤلف گلزار ابرار کے بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امیر حسن کو خواجہ نظام الدین اولیاء نے حضرت برہان الدین غریب کے قافلے کے ساتھ دولت آباد کے لئے رخصت کیا تھا۔ مگر یہ درست نہیں ہے۔ تقریباً دس سال وہاں رہے اور وہیں ۲۹ صفر ۷۳۸ھ / مطابق ۲۶ ستمبر ۱۳۳۷ء جمعہ کے دن انتقال (۴۴) ہوا۔ علاقہ بالا گھاٹ میں دفن ہوئے اسی احاطے میں غلام علی آزاد بلگرامی کا مزار بھی ہے۔ ان کی تاریخ وفات ”مخدوم اولیاء“ سے برآمد ہوتی ہے۔ دولت آباد میں وہ ”حسن شیر“ کے نام سے معروف ہیں اور یہ غالباً حسن شاعر کی خرابی ہے۔ حسن نام کے دوسرے لوگوں سے ممتاز کرنے کے لئے انہیں حسن شاعر کہا گیا ہوگا۔ امیر حسن عربی و فارسی کا بہترین اور راسخ علم رکھتے تھے جیسا کہ ان کی نظم و نثر سے ظاہر ہے نہایت ذہین اور لطیف طبع تھے، جوانی میں خوبصورت اور سڈول رہے ہوں گے، نکتہ آفرینی میں ان کا جواب نہ تھا۔ علم مجلسی سے خوب واقف تھے کہ جوانی بادشاہوں کے دربار میں گزری تھی اور پختگی کی عمر کو پہنچے تو ”شہنشاہ دین (۴۵)“ حضرت نظام الدین کی بارگاہ میں قرب نصیب ہوا۔ بات میں نکتہ پیدا کرنا اور سہل اسلوب میں دل پر اثر کرنے والی نظم و نثر لکھنا ان کا کمال تھا۔ وہ اپنی شاعری میں سعدی شیرازی کی پیروی کرتے تھے اور انہیں ”سعدی ہند“ کہا جاتا تھا۔ مولانا جامی نے ان کے اسلوب کو ”سہل ممتنع“ بتایا ہے کہ دیکھنے میں بہت آسان معلوم ہوتا ہے، مگر ویسا کہنا دشوار ہے۔ مگر حضرت چراغ دہلی نے فرمایا ”امیر حسن اور امیر خسرو نے بہت چاہا کہ خواجہ سعدی کے طرز پر شعر کہیں، میسر نہ ہوا۔ خواجہ سعدی نے جو کچھ کہا ہے وہ ”حال“ سے کہا ہے (۴۶)۔ ابتداء میں انہیں ترتیب دیوان کی طرف کچھ التفات نہیں تھا۔ انڈیا آفس لندن میں ان کے دیوان فارسی کا جو نسخہ ہے

اس کے دیباچے میں انہوں نے لکھا ہے کہ ”میں نے یہ دیوان ۱۵۷۵ھ میں مرتب کیا جبکہ میری عمر ۶۳ سال ہے“

ان کے دیوان فارسی کا ایک نسخہ شاہان اودھ کے کتب خانے میں بھی تھا اس میں اشعار کی تعداد اسی ہزار تھی۔

غزل۔ ۵۳۳۰، قصیدہ۔ ۳۹۰، رباعی۔ ۲۰۷، کل اشعار ۶۰۷
 حیدرآباد سے شائع ہونے والے دیوان میں اشعار کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔
 غزل۔ ۵۳۹۹، قصیدہ ۲۱۲۶، رباعی۔ ۳۵۸، مثنویات ۱۳۰۰، کل
 اشعار۔ ۹۴۸۳

لیکن اس کے علاوہ بھی ابھی ان کا کلام دوسرے ماخذوں میں مل سکتا ہے اور یقین ہے کہ ۱۵۷۵ھ میں ترتیب دیا جانے والا دیوان بھی ان کی آخری روایت نہ ہوگی۔

فوائد الفواد

(۱) صحت زبان، صحت روایت، حسن اسلوب، اور محبت کے اعتبار سے یہ کسی صوفی درویش کے ملفوظات کا پہلا مجموعہ ہے جو ایک خاص نچ پر اور تاریخ وار مرتب ہوا ہے، ایسا کوئی کھل ملفوظ اس سے پہلے موجود نہیں تھا، جسے فوائد الفواد کے لئے نمونہ بنایا جاتا اگرچہ ۵۵۰ھ میں "سخنان ابو سعید ابوالخیر" (اسرار التوحید) اور سخنان احمد الدین کرمانی جیسی کتابیں مرتب ہو چکی تھیں مگر وہ ایک مخصوص حلقے میں رہیں اور ان کے طبقے کی دلچسپی اور ہدایت کا سامان نہیں تھا۔ فوائد الفواد نے پہلی بار ملفوظ لٹریچر کے لئے ایک مثالی نمونہ پیش کیا اور بعد کو جمع ہونے والی ملفوظات کی بہت سی کتابوں کے لئے اس کتاب سے رہنما خطوط ملے۔

(۲) امیر حسن نے حتی الوسع اس کا اہتمام کیا کہ جو لفظ حضرت کی زبان مبارک سے سنیں اسے بعینہ باقی رکھیں، اگر لکھتے ہوئے کوئی لفظ چھوٹ جاتا تھا تو وہ جگہ سادہ چھوڑ دیتے تھے اور جب حضرت "ان لوراق پر نظر ثانی فرماتے تھے تو خالی جگہوں کی خانہ پری بھی کر دیتے تھے۔ اس سے پہلے یہ شرف ملفوظات کے اور کسی مجموعے کو حاصل نہیں ہوا تھا۔ کہ اس میں الفاظ شیخ کو بعینہ لکھنے کا اہتمام کیا گیا ہو، اور پھر شیخ نے اس پر نظر ثانی بھی کی ہو۔ فوائد الفواد شریف کے بعد یہ چلن بھی رائج ہوا اور بعض ملفوظات اس اہتمام کے ساتھ قلمبند کئے گئے۔

(۳) حضرت نظام الدین "اولیاء کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ عربی فارسی ادبیات کا اعلیٰ درجے کا ذوق رکھتے تھے، خود شاعر بھی تھے، بلکہ شاعر گرتے تھے، عربی میں ان کی نثر کے جو نمونے ملتے ہیں، وہ اس پر گواہ ہیں کہ وہ عربی زبان پر حاکمانہ قدرت رکھتے تھے، انہیں تفسیر سے بھی

ذوق تھا، کلام اللہ کے حافظ تھے، قرآن پاک کے دس پارے تجوید کے ساتھ پڑھ کر قرأت بھی درست کی تھی، فقہ اور اصول فقہ کی کتابیں وقت کے بہترین علماء سے پڑھی تھیں، حدیث نبوی ﷺ کی سماعت ایسے بزرگوں سے کی تھی جنہوں نے مشارق الانوار کے جامع رضی الدین حسن صفائی سے ہمراہ راست سند حاصل کی تھی، تصوف میں شیخ شہاب الدین سروردی (متوفی ۶۳۲ھ / ۳۵۱-۱۲۳۳ء) کی تصنیف عوارف المعارف کا درس حضرت گنج شکر سے لیا تھا اور عملی تربیت بھی ان کی خانقاہ میں رہ کر حاصل کی تھی، عقائد کے موضوع پر ابو شکور بلخی کی تمہید المہتدی سبعا پڑھ کر اس کی بھی سند حاصل تھی، یہ وہ علمی کمالات تھے جو ہر صاحب ملفوظ کی شخصیت میں جمع نہیں ہوتے، اور ان کا پرتو ہمیں فوائد الفوائد کے ایک ایک لفظ میں نظر آ رہا ہے اس کتاب میں جو تنوع ہے وہ کسی دوسرے مجموعے میں شاید ہی مل سکے فوائد الفوائد کے متنوع موضوعات میں سے چند یہ ہیں۔

(۱) تفسیر	(۲) حدیث
(۳) فقہ	(۴) اصول فقہ
(۵) تاریخ	(۶) سیرت
(۷) سیر الاولیاء	(۸) ملفوظات شیخ
(۹) تصوف (نظری)	(۱۰) تصوف (عملی)
(۱۱) اعمال	(۱۲) عبادات
(۱۳) اوراد	(۱۴) آداب المریدین
(۱۵) آداب الصوفیہ	(۱۶) تزکیہ نفس
(۱۷) اخلاقیات	(۱۸) اصلاحات صوفیہ
(۱۹) فلسفہ	(۲۰) منطق
(۲۱) آداب معاشرت	(۲۲) تعبیر رویاء
(۲۳) حکایات مشائخ	(۲۴) اصول عقائد
(۲۵) ادب و شعر	(۲۶) سماع
(۲۷) لغت اور فقہ اللغۃ	(۲۸) وعظ و تذکیر
(۲۹) شمسیات	(۳۰) لطائف

ان کے علاوہ بھی فوائد الفواد میں بہت کچھ موجود ہے۔ یہ تو جو اہر ہیں جو ہم جیسے ظاہر بین لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، اس میں حکمت و معرفت و عشق و محبت مشغولی باطن اور روحانی نعمتوں کے جو اسرار ہیں ان سے صاحبان نسبت حسب توفیق فائدہ اٹھاتے رہے ہیں اور اس کتاب کو اگر غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ ایسا ہی اثر کرتی ہے جیسے کوئی شخص حضرت کی خانقاہ میں چھ ماہ تک مسلسل حاضر رہ کر زیر تربیت رہا ہو۔

فوائد الفواد کی پہلی مجلس ۳ شعبان ۱۷۰۷ھ مطابق ۲۸ جنوری ۱۳۰۸ء اتوار کو قلمبند ہوئی ہے اور پانچویں جلد کی ۲۲ ویں اور آخری مجلس ۲۰ شعبان ۱۷۲۲ھ / ۵ ستمبر ۱۳۲۲ء اتوار کو لکھی گئی ہے۔ ان ۱۸۸ مجلسوں میں بعض طویل ہیں اور بعض بہت مختصر ہیں۔ اکثر دو مجلسوں کے درمیان زمانی فصل بھی بہت زیادہ ہے، مثلاً "جلد اول کی ابتدائی مجالس عموماً جمعہ کے دن کی ہیں آگے چل کر یہ فصل بڑھتا جاتا ہے اور کبھی دو مجلسوں کے درمیان کئی ماہ کا فصل واقع ہو جاتا ہے۔ امیر حسن جب دہلی میں ہوتے تھے تو پابندی سے حضرت کی خانقاہ میں حاضر ہوتے تھے اور اس ۱۵ سال کی طویل مدت میں انہوں نے یقیناً ہزاروں صفحات لکھے ہوں گے، بعد کو ان صفحات سے منتخب حصے نکال کر انہیں "فوائد الفواد" میں شامل کیا۔ انہوں نے انتخاب میں اس کا خیال رکھا کہ مضامین کی تکرار نہ ہو اور ان میں تنوع اور تازگی باقی رہے۔ صرف وہی ملفوظات شامل کئے جائیں جن میں حضرت کے بزرگوں کا تذکرہ ہو، آپ کے سوانحی حالات پر روشنی پڑتی ہو، شریعت و طریقت کے رموز و اسرار کی تشریح ہو، یا اس سے تصحیح عقائد کی غرض حاصل ہوتی ہو۔ ساتھ ہی یہ بھی اہتمام کیا کہ حضرت کی زبان مبارک کے نکلے ہوئے الفاظ میں ایجاز و اختصار کے ساتھ اہم نکات کو پیش کر دیا جائے۔ محمد شاہ تغلق کے عہد حکومت میں جب دار الخلافہ دہلی سے دولت آباد (دیوگیر) کو منتقل ہوا (۱۷۲۷ھ / ۱۳۲۷ء) اور شاہی حکم سے ساری آبادی دہلی سے منتقل ہو گئی تو امیر حسن بھی دہلی کو خیرباد کہہ گئے ان کے سامان سفر میں یہی فوائد الفواد کے مسودات تھے جنہیں وہ جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے اپنی وفات سے قبل انہوں نے وصیت کی یا خود اپنی زندگی میں ایسا کیا ہو گا کہ ان مسودات کو ایک قبر میں دفن کیا گیا، اور اس کے متصل حسن بجزی مدفون ہوئے یہ دونوں قبریں آج بھی دولت آباد میں اسی طرح موجود ہیں ایک قبر عرض میں پتلی ہے اور اس سے بالکل متصل حسن دہلوی آسودہ خاک ہیں۔

اگر فوائد الفواد کے وہ سارے مسودات ہمارے زمانے تک پہنچ گئے ہوتے تو حضرت محبوب الہیؑ کی مبارک زندگی اور پرکشش شخصیت کے بارے میں اور بھی ہزاروں نئی باتیں ہمیں پڑھنے کو مل سکتی تھیں۔

فوائد الفواد کی مقبولیت فوائد الفواد ہر دور میں بے حد مقبول رہی اور اسے چشتی نظامی سلسلے کے اولیاء نے ہی نہیں بلکہ دوسرے سلاسل کے درویشوں نے بھی دستور العمل سمجھا ہے۔

ہر دور میں فوائد الفواد کی نقل اور کتابت بھی ہوتی رہی ہے اور اس کثرت نقل سے اس کی بعض روایتوں میں معمولی لفظی اختلافات بھی راہ پا گئے ہیں۔ لیکن شمالی ہندوستان میں پچھلے سات سو برسوں میں اتنے سیاسی انقلابات آئے ہیں کہ بقول شاعر:

چمن اڑ گئے آندھیاں آتے آتے

ہمیں اب فوائد الفواد کا کوئی بہت قدیم نسخہ نہیں ملتا، جو نسخے دستیاب ہیں ان میں اکثر عمد محمد شاہی کے بعد کے ہیں۔

فوائد الفواد کے قلمی نسخے فوائد الفواد کے چند قلمی نسخے جو دستیاب ہیں یہ ہیں۔

(۱) کتب خانہ آصفیہ حیدر آباد۔ قلمی فارسی۔ فن تصوف نمبر ۱۸۷۳ (یہ غالباً سب سے قدیم نسخہ ہے اس پر متعدد مہرس بھی ثبت تھیں جو کسی بدتمیز شخص نے مٹادی ہیں۔ ایک مہر پر الفاظ ”مستند خان مرید شاہجہاں“ پڑھے جاتے ہیں۔

(۲) کتب خانہ سلار جنگ میوزیم حیدر آباد۔ نمبر اندراج ۱۳۰ (فارسی) مکتوبہ ۱۱۶۱ مطابق

۱۷۷۸ء

(۳) نیشنل میوزیم نئی دہلی۔ نمبر اندراج ۲۶۳ / ۷۲ مکتوبہ ۱۲۲۰ / ۱۸۰۵ء

(۴) ایضاً نمبر اندراج ۱۳۱۵ مکتوبہ ۱۲۲۵ / ۳۰ - ۱۸۲۹ء

(۵) ایضاً (ٹونک کلکشن نمبر اندراج ۲۳۸۲ بلا تاریخ) (۳۷)

ان کے علاوہ نیشنل میوزیم کراچی، ندوۃ علماء لکھنؤ اور مولانا آزاد لائبریری علی گڑھ

میں بھی قلمی نسخے موجود ہیں مگر کوئی بھی زیادہ قدیم نہیں ہے۔

بعض قدیم کتابوں میں فوائد الفواد کے حوالے سے جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ اب ہمیں اس کتاب میں نظر نہیں آتیں اس کا مطلب یہ ہے فوائد الفواد کی قدیم روایتوں میں اور موجودہ روایتوں میں مطالب اور موضوعات کا اختلاف بھی رہا ہے مثال کے طور پر ہم صرف سیر العارفین کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ مغلوں کے ابتدائی عہد کی تالیف ہے، اس میں شمس الدین بزاز کا ایک واقعہ فوائد الفواد کے حوالے سے لکھا ہے مگر وہ کتاب میں نہیں ملتا۔ (سیر العارفین اردو ترجمہ ۱۱۲۵) اسی طرح سیر العارفین میں ہے: ”کتاب فوائد الفواد میں لکھا ہے کہ ایک رات میں نے جناب رسول مقبول ﷺ کو ایک مقام پر بیٹھے اور وضو کرتے ہوئے خواب میں دیکھا، صبح کے وقت مولانا حسام الدین اس مقام پر پہنچے اور اس مقام کی زمین تردیکھ کر ارشاد فرمایا کہ بالضرور قبر میری اسی جگہ بنا دیں، چنانچہ اب تک قبر ان کی خطہ بدایوں کی اسی زمین میں واقع ہے۔“ (سیر العارفین اردو ترجمہ از غلام احمد سنبھلی صفحہ ۱۱۰ مطبوعہ شمس المطلع مراد آباد ۱۹۰۱ء)

سیر العارفین کا اردو ترجمہ محمد ایوب قادری مرحوم کا کیا ہوا مرکزی اردو بورڈ لاہور سے شائع ہوا ہے۔ اس میں نان ٹرید کی فضیلت کے بارے میں فوائد الفواد کے حوالے سے کچھ لکھا ہے (صفحہ ۱۸۲) وہ فوائد الفواد میں بہت اختصار کے ساتھ بیان ہوا ہے۔

نافع الساکین میں حضرت احمد پارسا کا ایک قصہ فوائد الفواد کے حوالے سے نقل ہوا ہے وہ اس کتاب میں نہیں ہے۔ اس طرح اور بھی مثالیں ملتی ہیں اور یہ اس کا تقاضا کرتی ہیں فوائد الفواد کے تمام معلوم قلمی نسخوں اور دوسری کتابوں کی مدد سے اس کا متن نہایت دیدہ ریزی کے ساتھ مدون کرنے کی ضرورت ہے۔

فوائد الفواد کے مطبوعہ نسخے گذشتہ سوا سو برس میں فوائد الفواد کئی بار شائع بھی ہوئی ہے۔ اس سے چند ایڈیشن یہ ہیں۔

(۱) ۱۲۸۲ھ / ۶۶ / ۱۸۶۵ء مطبع حسنی دہلی باہتمام احمد حسن خان

(۲) ۱۰ ربیع الاول ۱۲۸۲ھ / ۱۳ اگست ۱۸۶۵ء مطبع ہندو پریس دہلی باہتمام پیارے لال و

بفرمایش لالہ مکھن لال و خلیفہ نبی بخش

(۳) رمضان المبارک ۱۳۲۶ھ / اکتوبر ۱۹۰۸ء (بار چہارم) نو کشور لکھنؤ

(۴) ۱۳۱۳ھ / ۹۶ / ۱۸۹۵ء مسلم پریس دہلی، اردو ترجمہ از غلام احمد بریان اسے جناب

مسلم احمد نظامی نے ”ارشاد محبوب“ کے نام سے چھاپا ہے۔

• (۵) ۱۳۹۳ھ / ۱۹۷۳ء علماء اکیڈمی شعبہ مطبوعات محکمہ اوقاف لاہور پاکستان اردو ترجمہ از پروفیسر محمد سرور (صفحات ۴۹۰) اس سے پہلے محکمہ اوقاف نے ۱۳۸۶ھ / ۱۹۶۶ء میں فوائد الفواد کا فارسی متن جناب محمد لطیف کا مرتب کیا ہوا بہت اہتمام سے شائع کیا تھا اور اب تک شائع ہونے والے متنوں میں یہی سب سے اچھا ہے۔

(۶) ۱۹۷۸ء مدینہ پبلشنگ کمپنی جناح روڈ کراچی (صفحات ۳۹۴) اردو ترجمہ از غلام احمد

بریان مع مقدمہ از شمس بریلوی

فوائد الفواد کے ترجمے کتاب اگر اس اہمیت کی ہو جیسے فوائد الفواد ہے کہ اس میں شریعت و طریقت کے مسائل اور اسرار و دقائق کو

نہایت دلنشین اور مٹوثر پیرائے میں بیان کیا گیا ہے اور یہ چشتی نظامی سلسلے سے وابستہ لاکھوں طالبان حق کا دستور العمل رہی ہے، تو کسی دوسری زبان میں اس کے ترجمے کا معاملہ اور بھی نازک ہو جاتا ہے۔ یہاں مترجم کے لئے صرف فارسی زبان سے واقف ہونا اور اردو زبان میں اظہار پر قادر ہونا ہی کافی نہیں بلکہ تصوف اسلامی کی نظری اور عملی واقفیت بھی درکار ہے اور شریعت اسلامیہ سے باخبر ہونا بھی ضروری ہے اس کے علاوہ اگر وہ خود ایک باعمل درویش اور صاحب نسبت و صاحب سلسلہ بھی ہو تو اس کتاب کے مطالب کو اور بھی اچھی طرح سمجھ سکتا ہے اور سمجھا سکتا ہے۔ ترجمے کی دشواریوں کو میں صرف چند مثالوں سے واضح کرنا چاہوں گا۔

۱۔ فوائد الفواد جلد اول میں ۳ محرم الحرام ۷۰۸ھ کی مجلس ۱۳ کی ایک عبارت کا ترجمہ پروفیسر محمد سرور نے یوں کیا ہے ”متعدی طاعت وہ ہے کہ اس میں دوسرے کو منفعت اور راحت پہنچے۔ اتفاقاً خواہ ازراہ شفقت۔ پھر جسے یہ راحت پہنچے وہ دوسرے پر لطف و کرم کرے اسے متعدی طاعت کہتے ہیں۔ (ترجمہ سرور: ۶۵)

۲: غلام احمد بریان نے اپنے ترجمے میں اس پوری مجلس کو چھوڑ دیا ہے۔ مجلس کا عنوان اور تاریخ تو موجود ہے مضمون نادر ہے۔

۳: محمد لطیف ملک کے مرتب کردہ متن میں اصل فارسی عبارت یوں ہے۔

”اما طاعت متعدیہ آنست کہ از منفعتی و راحتی بدگیری رسد باتفاق و

اشفاتی و بدانچہ دسترس شود لطف در حق غیر ی کند، آن را طاعت متعدیہ
گویند۔“ (فارسی متن: ۲۱)

اس عبارت میں لفظ ”اشفاتی“ غلط ہے، صحیح انفاق ہے، معنی خرچ کرنا اور ترجمہ یوں
ہوگا:

”لیکن متعدی عبادت وہ ہے کہ اس سے دوسرے کو فائدہ یا راحت ملے، خواہ خرچ
کرنے سے یا شفقت کرنے سے۔ اور جو کچھ بھی میسر ہو اس سے دوسروں کے حق میں بھلائی
کرے، اسے طاعت متعدیہ کہتے ہیں۔ اس مثال سے اندازہ ہوا ہو گا کہ اس ایک نقطے کے
فرق سے ترجمہ کیا سے کیا ہو گیا۔

دوسری مثال: اس سے اگلی چودھویں مجلس میں ہے: ”خن در ولایت دولایت افتاد“
می فرمودند کہ شیخ راہم ولایت باشد وہم ولایت۔ ولایت آنست چوں تائب شود و طاعت کند ہر
آئینہ از طاعت ہا ذوق گیرد ممکن آنست کہ مریدان را بخندار ساند آداب طریقت تعلیم
فرماید....“ (ص ۲۲) متن کے مرتب نے حاشیے میں یہ اظہار بھی کر دیا ہے کہ نسخہ نوح میں
الفاظ ”چوں تائب شود و طاعت کند ہر آئینہ از طاعت ہا ذوق گیرد ممکن آنست“ موجود نہیں
ہیں پھر بھی انہوں نے اس جملے کو متن میں شامل رکھا، حالانکہ سیاق و سباق سے ان الفاظ کا
کوئی علاقہ نہیں، یہ پہلی مجلس کے الفاظ ہیں جو لاہور کے مطبوعہ فارسی متن میں صفحہ ۲ سطر ۹۔
۱۰ پر آئے ہیں اور یہاں ۱۲ویں مجلس میں کسی ناقل کی غلطی سے شامل ہو گئے ہیں۔ پروفیسر محمد
سرور اور غلام احمد بریان دونوں نے عبارت کے بے جوڑ ہونے پر غور نہیں کیا اور ترجمہ کر
دیا۔ بریان والا ترجمہ تو غلط اور ناقص بھی ہے۔

۲۔ پندرہویں مجلس میں ایک فقرہ کا ترجمہ پروفیسر محمد سرور نے یوں کیا ہے ”خواجہ علی
کے یہ کہنے کے بعد پھر انہوں نے جو یہ بات کہی تھی کیا اس میں گستاخی کا عمل دخل تھا؟ فرمایا:
بے شک وہ ذرا چوڑے ہوئے تھے لہذا اس دولت کو بھی کھو بیٹھے۔ (سرور: ۷۰)

۲: اجتاب غلام احمد بریان کا ترجمہ یہ ہے: انہوں نے یہ سن کر جواب دیا کہ آگے آؤ اور
غائب ہو گئے خواجہ علی نے ان کو نہ دیکھا اور نہ بعد اس واقعے کے پھر کبھی آواز آئی۔ بندہ
نے عرض کیا کہ خواجہ علی نے گستاخی کی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک گستاخی کی تھی اور
اسی وجہ سے وہ اس دولت سے بھی محروم رہے۔ (ترجمہ بریان: ۷۵-۷۶)

۲:۲ فارسی متن کی اصل عبارت یہ ہے: ”بعد ازان کہ این سخن بگفت پیش ازان آواز ہم نہ شنید درین میان بندہ عرض داشت کردا مگر خواجہ علی آن سخن کہ گفت گستاخی کرد؟ فرمود کہ آرے بدان انبساطے کہ کرد ازان دولت ہم محروم ماند“ (ص ۲۵)

اب غور کیجئے کہ سرور نے ”ابدان انبساطے کہ کرد“ کا ترجمہ کیا ہے ”وہ ذرا چوڑے ہوئے تھے“ اور یہاں خود امیر حسن اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بندے نے عرض کیا تو اس کا ترجمہ ہی ندارد ہے۔ حالانکہ متن بالکل واضح تھا۔ بریان کے ترجمے میں یہ الفاظ کہ ”ذرا آگے آؤ“ متن سے کہیں مستفاد نہیں ہوتے انہوں نے اس سادے سے جملے کو خطا کر دیا ہے کہ این ”سخن بگفت پیش ازان آواز ہم نہ شنید“ یہاں بھی متن میں ایک نقطے کی فرد گذاشت ہے کہ ”پیش“ کہ جگہ ”میشن“ ہونا چاہئے۔ عبارت کا سیدھا ترجمہ وہ ہے جو اس کتاب میں ملے گا۔ انبساط کا مفہوم ”شوخی یا چہل“ ہے۔

۳: سولہویں مجلس کے آخری فقرے کا ترجمہ غلام احمد بریان نے یوں کیا ہے: پس اگر حالت کے لاحق ہونے پر بھی توجہ نہ کی اور عذر تفسیر نہ کیا درجہ تسلی میں جا پڑے گا۔ یعنی دوست اس کی جدائی پر دل دھرے گا۔ (شمس ص ۷۷)

۳:۱: پروفیسر محمد سرور نے اس میں ایک فقرے کا ترجمہ یوں کیا: ”یعنی اس کے دوست کا دل اسے اس کی جدائی پر مطمئن کر لے گا“ (سرور ص ۷۲)

۳:۳ فارسی متن میں یوں ہے۔ پس اگر ا- بنجا ہم در توبہ تفسیرے رود بعد ازان تسلی شود۔ تسلی چہ باشد؟ یعنی دوست اور ابرجدائی او دل بیاراید“ (متن ص ۲۷)

اس میں بھی تل اوٹ پہاڑ والا معاملہ ہے۔ یہاں ”بیاراید“ کی جگہ ”بیارامد“ چاہئے۔ برہان نے ”در توبہ تفسیرے رود“ جیسے سادہ سے جملے کا ترجمہ بھی درست نہ کیا۔

یہ مثالیں بہت طویل اور کثیر ہو سکتی ہیں، میں نے ابتدائی اوراق سے صرف دو تین نمونے یہ ظاہر کرنے کو نقل کئے ہیں کہ ترجمہ کتنا دشوار کام ہے اور فوائد الفواد کے جو تراجم ہوئے ہیں ان میں کس نوعیت کی غلطیاں دانستہ یا نادانستہ سرایت کر گئی ہیں۔ چند اور باتوں کی طرف اختصار کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے زیر نظر ترجمے کی نمایاں خصوصیات کا تذکرہ کروں گا۔ (ذیل میں اشارات میں پہلا نمبر فوائد الفواد کی جلد کا اور دوسرا مجلس کا ہے)

۲۱:۱ ”فرمود کہ رعائب جمع رغیب است یعنی چیز ہائے بسیار است دریں شب“ یہ

اصل میں خیر ہائے بسیار ہونا چاہئے۔ اسی پیرا کے آخر میں ہے ”آن سال تمام نزیت“ سیاق کا تقاضا یہ ہے کہ ”آن سال تمام بزیت۔ یعنی پورے سال وہ زندہ رہا (جس دن غروب آفتاب کے بعد نیا سال شروع ہوتا اس کے آغاز سے قبل ہی انتقال کیا)

۲۵:۱ ”اس سخن بر خاطر گامی ایشان گران آمد ساعتی شد بر لفظ مبارک راند“ یہاں ساعتی شد کی جگہ ”ساکت شد“ کا محل ہے۔

۲۵:۱ فارسی متن میں ایک فقرہ یوں ہے ”گدائے مردہ مردہ گیر“ (مطبوعہ متن ۴۴) اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم تو گدائے مردہ ہو خود کو مردہ ہی سمجھو سرور نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے ”مردہ فقیر کو مردہ ہی جان اور پھر یہ بھی دیکھ کہ مبادا یہ بدنای کسی کے سر تھوپ دی جائے“ اس کو ایک حد تک درست مانا جاسکتا ہے، مگر بریان نے عبارت کی طرف سے آنکھیں موند کر جو دل چاہا لکھ دیا فرماتے ہیں: ”اس خیال کے آتے ہی پھر یہ خیال پیدا ہوا کہ بہت بڑی بدنای ہوگی اور یہ امر طریق درویشی سے بعید ہے“ (بریان: ۹۰)

نظامی صاحب کا ترجمہ بالکل متن کے مطابق ہے: ”پھر میں نے تامل کیا اور اپنے آپ سے کہا کہ تم گدائے مردہ ہو اپنے آپ کو مردہ ہی سمجھو۔ مگر یہ بدنای کسی اور پر نہ آجائے اسی مجلس میں آگے یہ عبارت ہے: ”خدمت شیخ محمد پسر خود را طلب من فرستاد“ اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ شیخ کے کسی فرزند کا نام محمد نہ تھا۔ سب سے چھوٹے بیٹے محمد یعقوب تھے۔ ایک بھتیجے یعنی شیخ نجیب الدین متوکل کے بیٹے کا نام محمد تھا۔ اور ایک آپ کے پوتے بھی محمد تھے جن کی عرفیت من تھی: غور طلب یہ ہے کہ یہاں کون مراد ہے؟

۲۸:۱ مطبوعہ فارسی متن ہے ”از جانب تو نیز استعدادے و قابلیتے می باید و نیز من از آن خودی کنم“ (ص ۵۲)

ترجمہ محمد سرور: نیز میں کوئی خود اپنے پاس سے تھوڑا ہی دیتا ہوں (ص ۹۶) کسی حد تک درست ہے۔ بریان کہتے ہیں اور کسی کو اپنی جانب سے تھوڑی دیتا ہوں۔ (ص ۹۶) نظامی: نیز کیا میں خود کرتا ہوں؟ (مجلس ۲۸)

یہاں متن اس طرح درست ہے: ”و نہ من از آن خودی کنم (اور نہ یہ میں اپنے سے پاس دیتا ہوں)

۲:۱ من در میان شان نخواہم بود (۷۰) یہاں در میان نمایان ہونا چاہئے اور اسی سے

ترجمہ درست ہوگا۔

۴:۴ دو سری جلد کی چوتھی مجلس میں ہے، ”از احوال او حکایت می فرمود کہ مرد نیک بود اخلاق نیکو داشت و اتفاق نیز“ (ص ۷۷)

سرور: ”اس کے حالات بیان کر رہے تھے آپ نے فرمایا: وہ نیک آدمی تھا، اچھے اخلاق کا مالک تھا اور ملنسار تھا“ (۱۴۱)

بریان: ۱۴۶ ”متوفی کے حالات بیان فرما رہے تھے کہ مرنے والا نیک شخص تھا۔ اس کا اخلاق اچھا تھا ملنسار تھا۔ اور دنیا کے نیک و بد سے کچھ کام نہ تھا۔“

یہاں متن میں اتفاق نہیں ”اتفاق“ ہے اور مراد یہ ہے کہ نیک کاموں میں خرچ بھی کرتے تھے۔ نظامی صاحب کا ترجمہ درست ہے۔

۵:۲ ”مرا گفتیہا بسیار گفت“ (۸۱-۸۰) یہاں ”نا گفتیہا“ ہونا چاہئے اور نظامی صاحب کا ترجمہ اس کے مطابق ہے۔

۴:۴ ”سراج الدین لقب مردے بود ساکن قصبہ ابو نہر۔ دقتی من آنجا رسیدم و در خانہ او نزول کردم۔ او قوم اود ہر دو بخدمت شیخ فرید الدین قدس اللہ سرہ ارادت آوردہ بودند“ (۱۴۳)

ترجمہ بریان: ۱۳۵ ”شیخ سراج الدین ساکن ابو ہر ایک بزرگ شخص تھے شیخ الاسلام فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ سے ان کو شرف بیعت حاصل تھا اور اس گاؤں کے کئی آدمی حضرت سے بیعت تھے یہاں جو لفظ ”قوم او“ استعمال ہوا ہے، وہ بیوی کے لئے ہے اور صحیح ترجمہ یہ ہو گا کہ وہ اور ان کی بیوی دونوں....“ نظامی صاحب کا ترجمہ درست ہے۔

۱۸:۴ یہاں متن میں غلطی سے . اللہ المعانی ”چھپا ہے اور کسی مترجم نے اس کی طرف التفات نہیں کیا۔ اللہ المعانی ہونا چاہئے۔ نظامی صاحب نے اپنے ترجمے میں اس غلطی کی اصلاح کر دی ہے۔

۲۱:۲ ”بسیار مسلمانان بدست ہندوان کشتہ شدند“ (۱۱۴) اس موقع پر اور اسی طرح صفحہ ۱۴۹ (متن فارسی) ہندو سے مراد اہل ہند نہیں ہے، فارسی میں ”ہندو“ کا مفہوم بٹ مار ہے جیسے حافظ نے کہا ہے: بخال ہندوش خشم سمرقند و بخارا را۔ البتہ متن فارسی کے صفحہ ۲۰۱ و ۳۰۵ پر یہ لفظ انہیں معنوں میں استعمال ہوا ہے جن سے ہم آشنا ہیں۔ ایسے مواقع پر ترجمے کی

بداحتیاطی غلط فہمیاں پیدا کر دیتی ہے۔ فارسی لفظ ہندو کا ہمارے مستعمل لفظ سے مماثل ہونا محض اتفاق ہے۔

۹:۳ ”روزے این مشرف سخنے گفت مولانا رضی الدین تبسمی کرد“ مشرف دوات جانب او فرستاد و منحرف شد بدو ترسید“ (۱۷۹)

ترجمہ سرور: ایک روز یوں ہوا کہ اس مشرف نے کوئی بات کی جس پر مولانا رضی الدین مسکرا دیئے مشرف نے ان پر دوات کھینچ ماری، انہوں نے منہ موڑ لیا اور مشرف گھبرانے لگے۔

ترجمہ بریان: ایک روز کچھ گفتگو ہو گئی، مشرف نے کچھ بیان کیا آپ نے سن کر تبسم فرمایا، مشرف نے کہا کہ اس کا فیصلہ کر لیجئے، یہ کہہ کر دوات آپ کے پاس بھیجی کہ سوال لکھ دیجئے۔ آپ کو برا معلوم ہوا۔ اور اس جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔“ (۲۰۰)

نہایت غلط اور من مانا ترجمہ ہے۔ سرور تو یہ نہ سمجھے کہ متن میں ”بدو ترسید“ میں ایک نقطہ زائد لگ گیا ہے ”بدونہ رسید“ ہونا چاہئے اور بریان نے ”دوات بدو فرستاد“ کا مطلب نہ سمجھا۔ سید ہا سا ترجمہ یہ ہے کہ ”ایک روز اس مشرف نے کوئی بات کہی، مولانا رضی الدین مسکرا دیئے مشرف نے ان پر دوات کھینچ ماری، یہ ذرا ترچھے ہو گئے، دوات ان کے گلی نہیں“

اس سے اگلی سطر میں پیش ازیں کی جگہ بھی ”بیش ازیں“ (اس سے زیادہ) ہونا چاہئے۔ نظامی صاحب نے صحیح ترجمہ کیا ہے۔

۱۹:۴ ”من بزیارت او بردم وہم در شہر نباشم“ (۲۲۳)

یہاں محل یہ ہے کہ حضرت ”کے استاذ کا انتقال ہوا ہے“ آپ ان کی مجلس سوم میں شرکت کے لئے غیاث پور سے شہر دہلی (سیری) تشریف لے جا رہے ہیں اور اس زمانے میں غیاث پور کیلو کھیری کا علاقہ امراء کی عیاشیوں کا مرکز بنا ہوا ہے، آپ یہ نیت کر رہے ہیں کہ اب فاتحہ سوم کے لئے جلاؤں گا تو وہیں شہر میں رہ پڑوں گا، غیاث پور واپس نہ آؤں گا۔ یہ مفہوم حاصل کرنے کے لئے نباشم کو بباشم پڑھنا ہو گا۔ دوسرے مترجمین کے مقابلے میں یہاں بھی نظامی صاحب کا ترجمہ قرین صحت ہے۔

غیاث پور کے ہی ذکر میں یہ عبارت: ”من ہیج وقت غیاث پور رانیدہ بودم و نمی

marfat.com

Marfat.com

دانستم کہ غیاث پور کجاست؟ چون این آواز شنیدم، بردوستی رفتم آن دوست را نقیسی بود نیشا پوری۔ (۲۴۲)

اس عبارت نے اب تک ہر مورخ اور تذکرہ نگار کو مغالطے میں رکھا ہے نقیسی نیشا پوری نام ہو سکتا ہے مگر عبارت کہتی ہے کہ اس نقیب کا ایک دوست نیشا پوری۔ اب اس کا ترجمہ کرنے والوں نے بھی خوب چکر کھائے ہیں مثلاً "محمد سرور: ۲۸۹ اس کا ایک رازدار تھا جو نیشا پور کا رہنے والا تھا" ترجمہ بریان: ۲۵۰ ایک دوست کے گھر کو گیا جس کو نقیب نیشا پوری کہتے تھے نظامی صاحب کو بھی اس جگہ مغالطہ ہوا، انہیں کیا خود مجھے بھی بارہا غور کرنے کے باوجود اس کا مفہوم سمجھ میں آیا، اچانک ذہن میں یہ بات آئی کہ عبارت یوں ہے "آن دوست را نقیسی بود نیشا پوری" یعنی میں ایک دوست کے گھر گیا جس کا لقب نیشا پوری تھا، اس سے وہ گنجلک دور ہو گئی۔

۱۳۶:۴ مجلس میں شیخ احمد کا نام آتا ہے جنہیں شیخ احمد نہروانی کہا گیا ہے، اور سب اسی طرح لکھتے رہے ہیں، لیکن یہ نسبت وطنی نہروالہ کی طرف ہے، اس نام کا ایک قصبہ پنجاب میں بھی ہے، اور گجرات میں بھی موجود شہر پٹن کا پرانا نام نہروالہ تھا، شیخ احمد کی نسبت گجرات والے نہروالہ کی طرف ہے اور اسے نہروالی ہونا چاہئے۔

۲۶:۴ "وقتی من از خدمت شیخ..... خرقدہ یا فتم از گلیم چشتی و آن ہنوز با من ہست"

ترجمہ سرور: ۲۶۰ "فرمایا جب مجھے شیخ سے خرقدہ ملا یہ گلیم (کبل) چشتی سلسلے کا خرقدہ تھا"

بریان: ۳۰۷ مجھے حضرت شیخ..... نے ایک گلیم عطا فرمایا تھا۔ جو اب تک میرے پاس موجود ہے، یہاں چشتی کی تجنیس خطی نے مغالطے میں ڈال دیا، صحیح متن یوں ہے: "خرقدہ یا فتم از گلیم خرقدہ خشنے" خشن معنی موٹا، کھردرا۔

ان چند مثالوں کے یہاں درج کرنے سے مدعا یہ ہے کہ کتاب میں اصل اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے، باقی سب ثانوی باتیں ہیں، کسی کتاب کا ترجمہ کرتے ہوئے یا کسی عبارت کی تشریح کرتے ہوئے الفاظ کے دائرے سے باہر نکل کر سوچنا ہمیشہ غلطی کا سبب بنتا ہے۔ مذہبی اور اصولی کتابوں میں الفاظ کی رعایت اور بھی ضروری ہو جاتی ہے۔

خواجہ حسن ثانی نظامی صاحب کے ترجمہ فوائد الفواد کو میں پچھلے تراجم سے بہتر کہہ رہا

ہوں تو اس دعوے کی دلیلیں کچھ تو وہ ہیں جو اوپر بیان کی گئیں اور چند اضافی خصوصیات یہ ہیں۔

(۱) وہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ الرحمۃ کے نواسے اور حضرت بدر الدین اسحاق علیہ الرحمۃ کی اولاد ہیں، شمس العلماء حضرت خواجہ حسن نظامی دہلوی کے لائق فرزند اور جانشین ہیں، سلسلہ چشتیہ نظامیہ کی نسبت ان کے گھر کی چیز ہے، اس لئے فوائد الفواد کے اسرار و معانی کی لطافتوں کو ان سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟

(۲) وہ خود ایک باعمل درویش ہیں، اور انکے ہاتھوں سے یہ نعمت ہزار ہا بندگان خدا کو پہنچ رہی ہے، اس زمانے میں شاید ہی کسی بزرگ نے ایسے سلیقے اور اتنے حزم و احتیاط اور روایات سلسلہ کی پاسداری کے ساتھ چشتی نسبت کو شائع کیا ہو، جیسا اللہ تعالیٰ ان کے فیض سے عام کر رہا ہے۔

(۳) برسوں سے ان کا معمول ہے کہ فوائد الفواد اور سیر الاولیاء سفر و حضر میں ان کی رفیق رہتی ہیں اور خواہ ایک دو صفحات ہی مطالعہ کریں، مگر روزانہ کا مطالعہ کرتے ہیں حتیٰ کہ اس کی مجالس کے مفہیم انہیں تقریباً "حفظ ہو گئے ہیں" اور ان کی تقریر و تحریر میں بھی اکثر و بیشتر ان کتابوں کے حوالے ضرور آجاتے ہیں اس تعلق خاطر نے اور مطالعے کی کثرت نے فوائد الفواد کے مضامین پر انہیں اتنا حاوی کر دیا کہ اس کی فارسی جو پہلے بھی زیادہ مشکل نہ تھی، انکے لئے اردو کی طرح سہل اور سہل ہو گئی ہے۔

(۴) اگر میں یہ کہوں کہ وہ فارسی کے باقاعدہ "عالم" ہیں تو یہ مبالغہ ہو گا مگر اتنا بے تکلف کہہ سکتا ہوں کہ ان کی تعلیم اس زمانے میں ہوئی جب فارسی کا آب و دانہ اس ملک میں تھوڑا بہت باقی تھا۔ اور ایسے اساتذہ موجود تھے جن کی صحبت سے علم کا رسوخ حاصل ہوتا تھا اس لئے انہوں نے جتنی فارسی پڑھی ہے اس میں کہیں جھول نہیں ہے۔ سب سے بڑی اور قابل تعریف بات جو ایک عالم کی پہچان ہے، وہ یہ ہے وہ ہمہ وقت سیکھنے کے لئے آج بھی آمادہ رہتے ہیں اور ان کا ذہن جدید ہے زنگ خوردہ نہیں، اس لئے وہ غیر مانوس خیالات سے بھڑکتے نہیں اور ان کی تمہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔

(۵) جس زبان سے ترجمہ ہو رہا ہو اس سے زیادہ قدرت و مہارت کی ضرورت اس زبان میں ہوتی ہے جس میں ترجمہ کیا جائے۔ اردو کے لئے کہنا ہی کیا ہے؟ بطخ کے بچے کو تیرنا

کون سکھاتا ہے؟ وہ خواجہ حسن نظامی کے بیٹے ہیں، یہی ان کی سب سے بڑی اردو کی سند ہے۔

خواجہ حسن نظامی کا اسلوب نثر بہت شیریں اور دلنواز ہے، وہ اس طرح لکھتے ہیں کہ کہیں آوردیا تکلف کا نام نہیں ملتا، حسن ثانی نظامی صاحب نے خواجہ صاحب کے اسلوب کی کامیاب پیروی کی ہے۔ وہ آسان زبان لکھتے ہیں، سامنے کے الفاظ سے کام لیتے ہیں عبارت کو بوجھل نہیں بناتے اس کے آہنگ اور ترم کا لحاظ رکھتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے جملوں میں بھی ایک لے قائم کر دیتے ہیں، یہ خوبیاں اس ترجمے کی عبارت میں بھی موجود ہیں۔

۱۶ بعض مواقع پر آپ کو یہ احساس ہو گا کہ کوئی لفظ ذرا بھاری آگیا اور اس سے زیادہ آسان یا عام استعمال کا لفظ موجود تھا، تو اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے ازراہ عقیدت یہ کوشش کی ہے کہ اصل متن کے جو الفاظ اردو میں رائج ہیں اور سمجھے جاسکتے ہیں انہیں حتی الوسع جوں کاتوں باقی رکھا جائے کیونکہ یہ حضرت محبوب الہی کی زبان مبارک سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ لیکن اس اہتمام سے ترجمے میں کسی طرح کا نقصان واقع نہیں ہونے دیا ہے۔

فوائد القواد کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ سینکڑوں سال سے بزرگوں کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ اگر یہ کتاب بیمار کو سنائی جائے یا کوئی اپنی کسی حاجت کے پورا ہونے کی نیت سے اس کو نقل کرے تو ابھی کتاب کی قرأت یا نقل تمام نہیں ہوگی کہ بیمار شفا یاب ہو جائے گا اور جو اس کی جائز حاجت ہے وہ ان شاء اللہ پوری ہوگی۔ مجھے حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی مدظلہ العالی نے اس کتاب پر مقدمہ لکھنے کا حکم دیا تو اپنی ناہلی اور بے بضاعتی کے باوجود میں نے اسے دین و دنیا کی سعادت سمجھ کر قبول کیا ہے، اور امید کرتا ہوں جتنی دیر میرا قلم حضرت محبوب الہی کے پاکیزہ حالات اور ملفوظات لکھنے میں مشغول رہا ہے، وہ لمحات زندگی کا سب سے اچھا مصرف تھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی کا فیضان جاری رکھے انہیں اور ان کے مخلصین کو بھی علم نافع اور عمل مقبول روزی کرے۔ آمین ثم آمین۔

نثار احمد فاروقی

دہلی یونیورسٹی دہلی

جمعہ ۲۵ جمادی الثانیہ ۱۴۰۹ھ

۳ فروری ۱۹۸۹ء

حواشی

(مقدمہ)

(۱) بخارا پر منگولوں کے حملہ سے مراد اگر چنگیز خان کا حملہ ہے تو یہ ذی الحجہ ۶۱۵ھ کا واقعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گا کہ حضرت نظام الدین کی ولادت کے وقت تک ان کے دادا اور نانا کو ہجرت کئے ہوئے زیادہ زمانہ نہیں ہوا تھا۔

(۲) ایک قدیم کتاب ”قوام العقائد“ (قلمی) سے جو سیر الاولیاء سے بھی پہلے ۷۷۵ھ / ۱۳۵۳ء میں لکھی گئی ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ”کی ولادت سے قبل ہی ان کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا تھا“ اور ان کی والدہ محترمہ ”کو یہ امام وضع حمل سے پہلے ہوا تھا۔“

(۳) مرآة الاسرار قلمی ۳۰۲ ب کا بیان ہے کہ حضرت احمد بخاری ”کو بچپن کی قضا کا عمدہ ملا تھا۔ مگر اس کی تائید کسی اور ماخذ سے نہیں ہوتی۔“

(۴) مختصر القدری فقہ حنفی کی مشہور اور مستند کتاب ہے اس کے مصنف ابوالحسنین احمد بن محمد القدری البغدادی ہیں یہ بغداد کے رہنے والے تھے، وہیں انتقال ہوا۔ عراق میں فقہ حنفی کے امام مانے جاتے ہیں۔ فقہ حنفی کی یہ کتاب صحیح عقائد کے لئے ہر دور میں بہت مقبول رہی ہے۔ دیکھئے وفیات الاعیان ۱/۱۲۱ النجوم الزاهرة ۳۳/۵

(۵) خیر المجالس مطبوعہ ص ۱۹۱ میں یوں ہے ”جو منڈا سا باندھی سو پائے پیری؟ یعنی آں کہ دستار بر سر بند و اور پائے کے احمد؟“ احمد علی سیماب ٹوکی نے اس طرح ترجمہ کیا ہے کہ جیسے ہم نے لکھا ہے اور غالباً یہی صحیح ہے۔

(۶) عوارف العارف میں شیخ شہاب الدین سروردی نے یہ اشعار درج کئے ہیں اور ان کے بارے میں ایک حدیث بروایت حضرت انسؓ لکھی ہے کہ ایک بدو نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے یہ اشعار پڑھے، فتواجد رسول اللہ ﷺ وتواجد اصحابہ معہ حتی سبقتارداہ عن منکبہ (ان اشعار پر رسول اللہ ﷺ نے اور آپ کے ساتھ اصحاب نے وجد کیا، یہاں تک کہ آپ کی چادر مبارک کندھوں سے گر گئی۔

(عوارف العارف ص ۱۳۸ نیز نشاۃ التصوف الاسلامی: ۸۶)

(۷) فوائد القواد جلد ۳ مجلس ۲۲۔ ڈیورنگھائی باب ۱۶ اردو ترجمہ ۱۵۳-۱۵۶ سیر الاولیاء ص ۱۰۰۔

(۸) فوائد القواد جلد ۳ مجلس ۲۹

(۹) فوائد القواد: جلد ۳ مجلس ۵۸

(۱۰) ایضاً جلد ۱ مجلس ۱۵

(۱۱) سیر اولیاء ص ۲۰۱

(۱۲) شیخ جلال تبریزی میں پیدا ہوئے ان کے والد شیخ بدر الدین ابو سعید تبریزی کے مرید تھے، خود انہوں

نے شیخ شہاب الدین سروردی سے بیعت کی اور سات سال تک سروردی کے ساتھ رہے اور سنی بارج کیا اتمش کے زمانے میں دہلی آئے اس وقت نجم الدین مغربی شیخ الاسلام تھے، انہوں نے حسد کی بناء پر ان پر تہمت لگائی جس کے لئے محضر طلب کیا گیا (سیر العارفین ۲۳۵-۲۴۱) آپ دہلی میں بدایوں آئے اور یہاں چند دن قیام کر کے بنگال تشریف لے گئے۔ آپ کا عرس ماہ رجب میں ہوتا ہے دیوطہ دیو محل میں مدنون ہیں، سال وفات ۶۴۱ھ بتایا جاتا ہے (جنرل پاکستان ہسٹریکل سوسائٹی جولائی اکتوبر ۱۹۶۰) پنڈوہ میں شیخ جلال تبریزی کی درگاہ ہے اس میں ایک جامع مسجد ہے جس کے شمال حصے میں شیخ جلال الدین کا چلہ خانہ ہے یہ مقبرہ سلطان علاؤ الدین علی شاہ نے ۱۳۴۲ء میں تعمیر کیا تھا بعض مصادر میں ان کی تاریخ وفات ۷۳۸ھ لکھی ہے اور جلال الدین جلال اللہ جلال عارفان بودا مادہ تاریخ بتایا ہے۔ لیکن ابن بطوطہ نے جو ۱۳۴۶ء میں بنگال پہنچا ہے ان سے کوہ کامرو میں ملاقات ہونا بیان کیا ہے (عجائب الاسفار جلد ۲ ص ۳۵۸) وہ لکھتا ہے کہ ایک یا دو سال کے بعد جب وہ چین میں تھا تو اس نے شیخ کے انتقال کی خبر سنی۔ لیکن یہ غلط فہمی پر مبنی ہے، فوائد الفوائد میں شیخ جلال کا تذکرہ ہر موقع پر اس طرح کیا گیا ہے جیسے ان کے انتقال کو کچھ عرصہ گزر چکا تھا۔ یوں بھی اگر وہ اتمش کے عہد میں دہلی آئے ہیں تو ۱۳۴۷ء تک زندہ رہنے کے لئے ڈیڑھ سو سال سے زیادہ عمر درکار ہے، جب کہ ۱۲۵۸ء میں خلیفہ متعصم باللہ کے انتقال کے وقت شیخ جلال جوان تھے۔ ابن بطوطہ اس نام کے کسی اور بزرگ سے ملا ہو گا (تفصیل کے لئے دیکھئے: فوائد الفوائد جلد ۳ مجلس ۳۹) اخبار الاخیار۔ سیر العارفین ۲۴۰-۲۵۰ عجائب الاسفار ۲/۳۵۸ تذکرۃ الواصلین ۴۳ جرنل آف پاکستان ہسٹریکل سوسائٹی جولائی۔ اکتوبر ۱۹۶۰ء

ABID ALI KHAN: Memorris of Gaur Pandwa P.97

(۱۳) اس کی بنیاد اس مفروضے پر ہے کہ حضرت زکریا ملتانی کو شیخ شہاب الدین سروردی سے اجازت نامہ ۲۱ ذی الحجہ ۲۶۲ھ (۱۰ نومبر ۱۲۴۹ء) کو ملا تھا، اور شیخ جلال تبریزی ان کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے ملفوظات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شیخ تبریزی کا بدایوں میں قیام حضرت کی ولادت سے بہت زمانہ پہلے کی بات نہیں ہے۔ (سیر العارفین ۱۳۸)

(۱۴) فوائد الفوائد: جلد ۵ مجلس ۱۲ سیر العارفین: ۲۸۴۔

(۱۵) خیر المجالس۔ ۲۱۱

(۱۶) فوائد الفوائد جلد ۳ مجلس ۵۹ سیر العارفین: ۱۹۵ تاریخ فرشتہ ۲/۳۱۳ تذکرہ الواصلین ۳۷-۳۰۔

(۱۷) خیر المجالس ۲۱۰۔

(۱۸) قاضی محمد بن عطاء اللہ بن عطاء اللہ بن بخاری ناگوری کو سلطان محمد غوری نے ناگور کا صدر الصدور مقرر کیا تھا، یہ صرف تین سال وہاں رہے مگر ناگوری کہلاتے ہیں، عصای کا بیان ہے کہ عہد اتمش میں دہلی آئے سماع بہت سخت تھے مفتی سہ اور مفتی عماد نے سلطان سے اس کی شکایت کی اور محضر منعقد کرنے کا مطالبہ کیا۔ قاضی ناگوری نے اتمش کو بغداد کی وہ محفل سماع یاد دلائی جس میں چالیس درویشوں کا اجتماع تھا اور مشائخ نے اتمش کو سلطنت ہندوستان کی بشارت دی تھی۔ جب رضی الدین حسن مغانی راجستان پہنچے ہیں اور ناگور میں انہوں نے مصباح الدجی کی قرأت کی تو سماعت کرنے والے علماء میں قاضی ناگوری بھی تھے، دہلی میں انہوں نے عین الدین قصاب کو مرید کیا تھا۔ بدایوں میں شیخ شہابی رسن تاب اور شیخ احمد نیردالی ان کے مرید تھے۔ غالباً یہ اتمش کے زمانے میں ناگور سے دہلی آئے اور حضرت قطب صاحب کی خانقاہ میں رہنے لگے، ۵ رمضان ۶۴۳ھ کو نماز تراویح پڑھ کر انتقال کیا مروہہ کے شاہ ولایت حضرت شاہ شرف الدین سروردی کا سلسلہ بیعت بھی ان سے ہی متصل ہوتا ہے۔ قاضی صاحب کی تصانیف میں لوائح، لوائح، راحۃ الارواح، طوابع الشموس اور رسالہ عشقیہ معلوم ہیں۔ (ریاض الاولیاء قلمی ورق ۴۰)

(۱۹) حضرت نظام الدین ابوالموید اپنے ماسوں شیخ عبدالواحد بن شیخ شہاب الدین غزنوی کے مرید تھے ان کے

دادا شمس العارفین تھے جن کی اولاد میں شیخ جمال کوئی (علی گڑھ) ہیں۔ (مرآة الاسرار قلمی ۲۰/۲ ب) (۲۰) اس زمانے میں عموماً علماء میں یہ اصلاح تھی تاہم ان کے لئے استعمال ہوتی تھی جن سے کسی کا سلسلہ روایت متصل ہوتا تھا انہیں ”بابا“ کہا جاتا تھا۔

(۲۱) اس کی کچھ مثالیں ہم نے آئندہ صفحات میں مجموعاً النوادر کے متن کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھی ہیں۔

(۲۲) عماد الملک روات عرض کے لئے تفصیل دیکھو فیروز شاہی برنی: ۱۱۳، وغیرہ۔

(۲۳) یہ لفظ سیر الاولیاء کے قدیم قلمی نسخوں میں اس طرح لکھا ہے کہ اسے چھتردار بھی پڑھا جاسکتا ہے۔

(۲۴) شای محل میں پانی کے انتظام کی خدمت جس کے سپرد ہوتی تھی اسے شرابدار کہا جاتا تھا۔

(۲۵) رسالہ قوام العقائد (قلمی) تالیف ۷۷۵ھ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ۷۶۷ھ میں حضرت نظام الدین ہلی ہاراجو دھن کے سفر پر تشریف لے گئے ہیں آپ کی والدہ ماجدہ ”حیات“ تھیں اور آپ ان سے اجازت لے کر اجودھن گئے تھے۔

(۲۶) اس زمانے میں دہلی سے اجودھن تک سفر کاراستہ یوں تھا: دہلی سے پالم۔ مسعود آباد ہانسی، فتح آباد حٹینہ سرسہ۔ اجودھن جو ابن بطوطہ نے بیان کیا ہے، دو سراہوں ہے جو برنی نے لکھا ہے۔ یعنی کرام۔ سامانہ اگر وہ۔ نام ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نے دونوں راستوں پر سفر کیا ہے، ابن بطوطہ یہ بھی لکھتا ہے کہ دہلی سے ملتان کاراستہ ۳۰ دن کا ہے۔

(۲۷) خواجہ بدر الدین اسحاق بن علی بن اسحاق بخاری دہلی میں پیدا ہوئے اور وہیں پرورش پائی ان کے والد منہاج الدین علی بن اسحاق بخاری تمام علوم میں فاضل اور ممتاز تھے۔ طویل عرصے تک مدرسہ معزی میں درس دیا، حضرت بدر اسحاق کی تعلیم بھی اسی مدرسہ میں ہوئی اور کچھ دنوں اس میں پڑھایا بھی۔ وہ مقولات و معقولات کے ماہر تھے۔ اعلیٰ تعلیم کے لئے بخارا کی طرف جاتے ہوئے اجودھن سے گزرے تھے، حضرت بابا فریدؒ کی خانقاہ میں آئے تو تمام عمر کے لئے یہیں کے ہو رہے۔ ان کا مزار اچھا کچن کی قدیم جامع مسجد سے متصل حجرہ میں ہے۔ وہاں حضرت خواجہ حسن نکھائیؒ نے جو کتبہ لگوایا تھا اس پر سنہ وفات ۶۹۳ھ کدہ ہے، بعض تذکرہ نگاروں کے بیان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ۶۹۲ھ میں انتقال ہوا۔ عبدالرحمان چشتی نے مرآة الاسرار (قلمی ج ۲ ورق ۳۵) (۲۸ ب) میں ۶۹۰ھ لکھا ہے۔ تاریخ ۶ جمادی الثانی میں اختلاف نہیں۔ مجھے ۶۹۰ھ صحت سے زیادہ قریب معلوم ہوتا ہے یہ عیسوی حساب سے ۶ جون ۱۲۹۱ء ہوتی ہے۔

مزید مطالعہ کے لئے دیکھئے۔ اخبار الاخیار ۲۷ تذکرہ مرآة الاسرار (قلمی) ورق ۳۵-۳۸۔

تذکرہ علمائے ہند میں ۳۱۔ نزہۃ الخواطر جلد ۱/۱۲۲-۱۲۳، مکتبہ سیر الاولیاء ۲۳۱

(۲۸) عوارف المعارف کا پہلا باب علوم صوفیہ کی پیدائش کے بیان میں اور چھٹا باب صوفیہ کی وجہ تسمیہ پر ہے۔ یہ کتاب کا تسمیہ حصہ ہے آپ نے اس کا درس محض حیر کا لیا تھا۔ کتاب میں کل ۱۶۳ ابواب ہیں۔

(۲۹) حضرت بابا فریدؒ ”شکر“ کی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہؒ حضرت سید بدر الدین اسحاق سے منسوب تھیں اور ان کے بطن سے دو فرزند ہوئے، سید محمد اور سید موسیٰ۔ چونکہ حضرت بابا صاحب کے بیٹے بدر اسحاق سے ناراض ہو گئے تھے، اور بچوں کو قرآن شریف پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت سید بدر اسحاق کا انتقال ہوا تو حضرت نظام الدین اولیاءؒ نے ان کی بیوہ حضرت بی بی فاطمہؒ اور دونوں بچوں کو پالنے پوسنے کی ذمہ داری اور انہیں دہلی بلایا تھا۔ جب دہلی میں اہل خاندان ہی نے یہ شہرت کی کہ حضرت نے ان سے نکاح کرنے کو بلایا ہے تو آپ نے اپنی سفید ریش پر ہاتھ پھیرا اور اجودھن کے سفر روانہ ہو گئے واپس آئے تو حضرت بی بی فاطمہؒ کے سوم کا دن تھا، حضرت بی بی فاطمہؒ کا مزار آدھ جٹی (مردلی روڈ) میں حضرت شیخ نجیب الدین متوکلؒ کے مزار کے پاس ہے۔ اس کتاب کے فاضل مترجم حضرت خواجہ حسن ثانی نکھائیؒ حضرت بدر اسحاق کی اولاد میں ہیں۔

marfat.com

تھے و میثانہ ہامر و نشان است

(۳۰) چون سوم در ماہ رمضان صمد تسبیح و تسبیح و ستماہ (۶۶۹ھ) با جود من رقم کہ آخرین ملاقات حضرت منج شکر ہان بود" (مرآة الاسرار قلمی ۲/۳۲)

(۳۱) مطبوعہ نسخہ میں اس موقع پر عبارت واضح نہیں ہے یہ لکھا ہے کہ آن دوست را نقیبی بود نیشاپوری (فوائد الفوائد ۲۳۲) لیکن صحیح عبارت یوں ہے کہ آن دوست را نقیبی بود نیشاپوری یعنی اس کا لقب نیشاپوری تھا۔

(۳۲) تفصیل کے لئے دیکھئے ضیاء برنی: تاریخ فیروز شاہی (فارسی) ۱۳۱-۱۳۲

(۳۳) اس کو طاقیہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کا شکل مخرابی ہوتی تھی، حضرت جو کلاہ عنایت فرماتے تھے اس میں اوپر کی طرف ایک گھنڈی بھی لگی ہوتی تھی جیسا کہ امیر خسرو کے ایک شعر سے معلوم ہوتا ہے۔

زلفش بر کفش
افر شاہان کلاہ او فرہ
ہائے مو اللہ گرہ

(۳۴) کبھی حضرت یا ان کے خلفاء حاجت مندوں سے شکرانہ کہہ کر بھی لیتے تھے یا مثلاً "اس طرح فرماتے تھے کہ ایک بتیل کی مٹھائی لاؤ، تاکہ ہم اپنے پیر کی نیاز دیں اور تمہارے لئے دعا کریں، اس کا سبب یہ تھا کہ عہد سلطنت میں علماء نے یہ بحث بھی چھیڑ رکھی تھی کہ تعویذ دینا یا اس کی اجرت لینا جائز ہے یا نہیں اس سلسلے میں بعض "فتاویٰ فیروز شاہی" وغیرہ میں موجود ہیں۔

(۳۵) ان کے بارے میں حضرت برہان الدین غریب نے ۳ شوال ۷۴۲ھ کی مجلس میں فرمایا کہ ان کا کشف بہت بڑھا ہوا تھا، ایک بار خسرو اپنے بچپن میں مسجد جا رہے تھے، کچھ پڑھتے تھے، سلطان معین الدین دیوانہ مسجد میں آئے اور کچھ (بڑے) امیر خسرو کے منہ میں رکھ دیا۔ کیسی کیسی نعمتیں اس ذرا سے بڑھ سے ملیں۔ (فتاویٰ الانفاس)

(۳۶) علاؤ الدین کی شادی معز الدین کیستباد کی بیٹی سے ہوئی تھی جس کے بطن سے پانچ فرزند تھے۔ خضر خان، شادی خان، ابوبکر خان، قطب الدین مبارک خان، شہاب الدین عمر، ابن بطوطہ کا بیان ہے کہ اس نے ۷۴۸ھ میں خضر خان کی ماں ٹاٹک کو مکہ معظمہ میں دیکھا تھا جہاں وہ حج کرنے گئی تھی۔

(۳۷) شیخ ضیاء الدین رومی کا مزار قطب صاحب کی درگاہ کے راستے مرولی روڈ پر واقع ہے۔ مبارک شاہ ان سے مرید بھی ہو گیا تھا۔ (مرآة الاسرار قلمی ۲/۲۲ ب)

(۳۸) دہلی میں ایک مجذوب تھے، انہیں "آہوئی" کہتے تھے ایک بار حضرت نظام الدین اس کے سامنے سے ہی گزرے تو کہنے لگا: "تم قاضی حمید الدین کا نام روشن کر دو گے" حضرت نے سوچا مجھے قاضی حمید الدین سے کوئی نسبت نہیں ہے، میں تو حضرت شیخ الاسلام فرید الدین کا چاکر ہوں یہ کیا کہتا ہے؟ پھر خیال آیا کہ "ساع" کی طرف اشارہ ہے انہیں ساع سے بہت رغبت تھی اور حضرت غریب نے فرمایا کہ "خواجہ ماہم در ساع غلوے تمام داشت" فتاویٰ الانفاس ۳ شوال ۷۴۲ھ)

(۳۹) جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں حضرت نے حدیث شریف کا گہرا مطالعہ کیا تھا اور مشارق الانوار کے مؤلف سے آپ کی سند حدیث بدو واسطہ متصل ہوتی ہے، اس مطالعہ حدیث کا اثر یہ تھا کہ بعض مسائل میں آپ مجتہدانہ روش رکھتے تھے، مثلاً "طت ساع" قرأت فاتحہ خلف الامام، اور صلوة البجاہ علی الغائب جیسے مسائل میں آپ حنفی مسلک سے ہٹ کر شافعی مسلک کے پیرو تھے۔ (لطائف اشرفی ۲/۷۸)

(۴۰) حضرت کے خادم خاص۔ ناشر

(۴۱) حسن بجزی (ان کی نسبت وطنی بروزن بخجری نہیں، سبزی بروزن چشتی ہے) سگ فارسی قدیم میں محافظ اور سپاہی کو کہتے گستان ایران کا صوبہ ہے جہاں سے غالباً نوبخت میں بھرتی کی جاتی تھی۔ عربی میں گاف جیم سے

بدل گیا اور بھستان ہوا اس سے نسبت وطنی بجزی ہوئی۔ لسانیت کا قاعدہ ہے کہ جیم اور دریائے کی آوازیں بھی ایک دوسرے سے بدل جاتی ہیں (جیسے منا اور جمننا) اسی طرح بھستان سیستان ہو گیا۔

(۳۲) امیر حسن کا شعر ہے

قرشی الاصل باشی نسیم

کز ہوایش برآمد این شجرم

(۳۳) جمالی دہلوی: سیر العارفین (اردو ترجمہ) ۱۱۸-۱۱۷

(۳۴) امیر حسن کا سال وفات ۵۳۸ھ تو معلوم ہے انتقال کی تاریخ تذکرہ اعراس بزرگان (قلمی) سے لی گئی ہے جس میں لکھا ہے کہ ان کا عرس ۲۹ صفر کو ہوتا ہے۔

(۳۵) یہ حضرت نظام الدین اولیاءؒ کی تاریخ وفات بھی ہے جس سے ۵۴۵ھ برآمد ہوتے ہیں۔

(۳۶) خیر الجالس (مجلس ۳۳)

(۳۷) مزید نسخوں کے لئے ملاحظہ ہوں: اسٹوری ۱۹۵۳ء پرشین لزیچر حصہ ۲ ص ۹۳۲۔ ریو فرسٹ پرنس

میوزیم لندن جلد ۳ / ۷۳ - ۹۷۲ (۱۹۶۶ء)

فوائد القواد

جلد اول

جلد اول فوائد الفواد

(چونتیس مجلسیں)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یہ غیبی ہیرے اور موتی اور لارسی (۱) پھول، خواجہ راستین، لقب یافتہ و ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین (۲) فقیروں اور مسکینوں کے بادشاہ شیخ نظام الحق و الشرع والدین متع اللہ المسلمین بطول بقایہم (۳) آئین کے خزانہ تلقین اور نماں خانہ یقین سے جمع کئے جاتے ہیں۔ اور جو کچھ اس شمع محفل ملکوت (۴) سے کانوں تک پہنچا۔ چاہے وہ حضرت کا عین لفظ مبارک ہو یا اس کے معانی، اسے اپنی محدود سمجھ کے موافق لکھ لیا۔ اور چونکہ اس مجموعے سے درد مندوں کے دل بہت فائدے اٹھائیں گے۔ اس لئے اس کا نام فوائد الفواد (دلوں کے فائدے) رکھا ہے اور اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ اور اسی پر بھروسہ ہے۔

پہلی مجلس

اتوار ماہ شعبان (اس کی برکتیں عام ہوں) کی تیسری تاریخ سات سو سات ہجری (۷۰۷ھ) پروردگار کی رحمت کے امیدوار اور بندہ گناہ گار حسن علا ہجری کو جو اس تلقین کا لکھے والا اور ان معافی کا جمع کرنے والا ہے۔ اس شاہ فلک جاہ ملک دست گاہ کی قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی اس وقت اس آفتاب روشن ضمیری کے قطب کی بے نظیر نظر کے فیض سے اس کے باطن نے چہار طبع کی آلائش کا ترک اختیار کیا اور اس کے سر کو اس ناصیہ (۵) اصفیا کی کلاہ چہار ترکی سے زینت ملی **الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ**

اس روز فرض نمازوں اور چاشت کی نماز اور چھ رکعت بعد نماز مغرب اور ایام بیض کے روزوں کی تاکید کے بعد زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ تائب متقی کے برابر ہوتا ہے کیونکہ متقی تو وہ ہوتا ہے کہ مثلاً اس نے ساری عمر کبھی شراب نہ پی ہو یا اور کوئی گناہ اس سے نہ ہوا ہو۔ اور تائب وہ ہوتا ہے کہ گناہ کیا اور پھر توبہ کر لی۔ اس کے بعد فرمایا کہ دونوں اس حدیث کے مطابق برابر ہیں کہ **”التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ“** (گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں) یہ تشریح بھی اسی ضمن میں فرمائی کہ جس نے گناہ کیا اور گناہ سے خوب ذوق پایا جب وہ توبہ کرتا ہے اور اطاعت کرتا ہے تو اس طاعت میں بھی خوب ذوق پاتا ہے اور (عین) ممکن ہے کہ اس راحت کا ایک ذرہ جو اسے طاعت میں حاصل ہوا وہ ذرہ گناہوں کے کھلیان کے کھلیان جلا ڈالے!

پھر ذکر آیا کہ مردانِ خدا خود کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ اور حق تعالیٰ انہیں ظاہر کر دیتا ہے زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ خواجہ ابوالحسن نوری اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے مناجات میں کہا کرتے تھے کہ ائی! مجھے اپنے شہروں میں اپنے بندوں کے درمیان چھپالے۔ انہوں نے ایک ہاتھ سے آواز سنی کہ اے ابوالحسن! **الْحَقُّ لَا يَسْتُرُهُ شَيْءٌ** ”یعنی حق کو کوئی چیز نہیں چھپاتی۔ اور حق ہرگز پوشیدہ نہیں رہتا!“

اسی مناسبت سے یہ حکایت بیان فرمائی کہ خطہ ناگور میں ایک بزرگ تھے، انہیں حمید الدین سہالی کہتے تھے۔ علیہ الرحمۃ والغفران۔ ان سے سوال کیا گیا کہ مشائخ میں سے بعض

انتقال کر جاتے ہیں اور ان کے انتقال کے بعد کوئی ان کا نام (بھی) نہیں لیتا اور بعض جب انتقال کر جاتے ہیں (تو) ان کا نام اور شہرت دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جاتے ہیں۔ احوال کا یہ فرق کیسے ہوتا ہے؟ جواب دیا کہ جو زندگی میں اپنے اشتہار کی کوشش کرتے ہیں۔ وفات کے بعد ان کا نام اور شہرت مٹ جاتے ہیں۔ اور جو زندگی کے زمانے میں خود کو پوشیدہ رکھتے ہیں وفات کے بعد ان کا نام اور شہرت سارے جہان میں پہنچ جاتے ہیں۔

پھر مشائخ کبار اور ابدال پر ان کے ترقی درجات کا ذکر آیا۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ ایک شخص حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کی خانقاہ میں آیا۔ اس نے کسی کو دیکھا کہ ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے اور خراب (حال) خانقاہ کے دروازے پر آڑا ہے یہ شخص شیخ کی خدمت میں گیا اور اس دروازے پر پڑے ہوئے آدمی کا حال سنا کر دعا کی درخواست کی۔ شیخ نے فرمایا خاموش رہو! اس نے بے ادبی کی ہے۔ اس آنے والے نے پوچھا کہ اس نے کیا بے ادبی کی ہے؟ شیخ نے فرمایا کہ وہ ابدالوں میں سے ایک ہے۔ کل وہ لوگ اپنے دوسرے دو ساتھیوں کے ساتھ اس قوت پرواز سے جو ابدالوں کو حاصل ہے ہو میں اڑ رہے تھے۔ جب خانقاہ پر پہنچے تو ان کا ایک ساتھی تو خانقاہ سے ہٹ کر ادب سے داہنی طرف ہو کر گزر گیا۔ دوسرا ساتھی بھی خانقاہ کی بائیں جانب سے نکل گیا۔ یہ چاہتا تھا کہ بے ادبی کے ساتھ خانقاہ کے اوپر سے گزرے (چنانچہ) گر پڑا یہ معافی بھی اسی سلسلے میں بیان فرمائے۔ پیر کے ادب کا دھیان رکھنے اور اس کے سامنے اچھا جواب دینے کے بارے میں زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ خواجہ جنید قدس اللہ سرہ العزیز ایک دفعہ عید کی رات کو اپنی خانقاہ میں تشریف فرما تھے اور چار اشخاص مردان غیب میں سے ان کی خدمت میں حاضر تھے۔ (حضرت نے) ان میں سے ایک طرف رخ کر کے فرمایا کہ تم کل عید کی نماز کہاں پڑھو گے؟ اس مرد نے کہا کہ مبارک میں! اس کے بعد دوسرے سے پوچھا کہ تم کہاں ادا کرو گے؟ وہ مرد بولا کہ مدینہ معظمہ میں! اس کے بعد تیسرے سے دریافت کیا کہ تم کہاں پڑھو گے؟ اس نے جواب دیا کہ بیت المقدس میں! پھر چوتھے سے پوچھا کہ تم کہاں ادا کرو گے؟ وہ آداب بجالایا اور عرض کی بغداد ہی میں! اپنے خواجہ کے ساتھ! خواجہ نے اس کے بارے میں اس طرح فرمایا کہ تو ان سب سے زیادہ زاہد ہے عالم ہے اور افضل ہے!

پھر تزکے کا ذکر نکلا۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ مرد کا کمال چار چیزوں سے ظاہر

ہوتا ہے۔ کم کھانا، کم بولنا، کم سونا اور لوگوں سے کم ملنا جلنا

پھر جدوجہد کی بات آئی۔ بندے نے یہ دو شعر حضرت کی زبان گوہر سے سنے۔

گرچہ ایزد دہد ہدایت دین بندہ را اجتہاد باید کرد
نامہ کان شکر خواہی خواند ہم ازین جا سواد باید کرد
ترجمہ۔ دین کی ہدایت اگر خدا کی طرف سے ہوتی ہے لیکن کوشش بندے کو بھی کرنی
چاہئے وہ نامہ اعمال جو حشر میں تمہیں پڑھنا ہے۔ اس کی مشق ہمیں سے کرنی چاہئے۔

دوسری مجلس

اسی سال ماہ مبارک شعبان کی آٹھویں (تاریخ) جمعے کو نماز کے بعد قدم بوسی کی دولت
حاصل ہوئی۔ بندے کے پاس ایک غلام تھا طبع نام 'اس کو مرید ہونے کے شکرانے میں
ساتھ لایا تھا۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر کی نظر کے سامنے اسے آزاد کر دیا دعائے خیر فرمائی۔
اسی وقت اس غلام نے اپنا سر مخدوم عالمیان کے قدموں میں رکھ دیا اور بیعت کے
شرف سے مشرف ہوا۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ ذٰلِكَ

اسی موقع پر خواجہ ادام اللہ برکاتہ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ اس راہ میں غلامی
اور خواجگی درمیان میں نہیں ہے۔ جو بھی عالم محبت میں کھرا اترتا ہے۔ اس کا کام بن جاتا
ہے۔ اس گفتگو کے دوران فرمایا کہ غزنین میں ایک پیر تھے۔ ان کا ایک غلام تھا۔ زیرک
نام۔ اور یہ زیرک حد درجہ صدق و صلاحیت رکھتا تھا۔ جب ان بزرگوار پیر کا آخر وقت آیا تو
مریدوں نے پوچھا کہ آپ کی جگہ کون بیٹھے گا؟ بولے زیرک! اور ان پیر کے چار بیٹے تھے۔
ہو شیار اور صاحب اختیار زیرک نے عرض کی۔ اے خواجہ مجھے آپ کے بیٹے چھوڑیں گے
تھوڑی کہ آپ کی جگہ بیٹھوں۔ وہ ضرور مجھ سے جھگڑا کریں گے۔ پیر بولے تو خاطر جمع رکھا!
اگر انہوں نے تیرے ساتھ دشمنی کی تو میں ان کے شر کو تجھ سے دور کر دوں گا۔ الغرض جب
پیر رحمت حق کے جوار میں پہنچ گئے تو زیرک خواجہ کی جگہ پر بیٹھا۔ پیر کے بیٹوں نے خصومت
شروع کی کہ تو ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ تیری کیا مجال کہ ہمارے باپ کی جگہ
پر بیٹھے! جب ان کا عناد بہت بڑھا تو زیرک پیر کے روضے پر آیا اور عرض کی کہ اے خواجہ

آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بیٹے تیری مزاحمت کریں گے تو میں ان کے شر سے تجھ کو دفع کروں گا۔ اب وہ مجھے ایذا پہنچانے کے درپے ہیں۔ آپ کو اپنا وعدہ وفا کرنا چاہئے۔ یہ عرض کیا اور اپنی جگہ واپس آگیا۔ اس کے چند ہی روز بعد کافر غزنین کے نواح پر حملہ آور ہوئے۔ مخلوق ان سے لڑنے باہر نکلی۔ پیر کے چاروں بیٹے بھی ان کے ساتھ نکلے اور جنگ میں شریک ہوئے۔ چاروں نے شہادت پائی اور وہ جگہ بلا مزاحمت زیرک کے لئے مقرر ہو گئی۔ ملیح مذکور کو اس کے مرید ہونے کے بعد دو رکعت نماز کا حکم ہوا۔ اس سلسلے میں زبان مبارک سے فرمایا کہ اس دو گانے کی کیا نیت کرنی چاہئے؟ پھر فرمایا کہ نفی ماسوا اللہ کے لئے۔

تیسری مجلس

اسی سال شعبان کے مبارک مہینے کی چند رھویں تاریخ جمعے کو نماز کے بعد قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ ایک جوالتی (ملنگ) اندر آیا۔ کچھ دیر بیٹھا اور پھراٹھا اور چلا گیا خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ اس قماش کے لوگ شیخ بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کم بار پاتے تھے۔ البتہ شیخ الاسلام فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ "واسعہ" کی خدمت میں ہر طرح کے درویش اور غیر (درویش) پہنچ جاتے تھے۔

اس کے بعد فرمایا کہ ہر (مجمع) عام میں ایک خاص بھی ہوتا ہے۔ اس کے باب میں ایک حکایت بیان فرمائی کہ شیخ بہاؤ الدین زکریا سیاحت بہت کرتے تھے۔ ایک دفعہ جوالتیوں (ملنگوں) کے ایک گروہ میں پہنچے اور ان کے درمیان بیٹھ گئے۔ اس مجمعے میں ایک نور پیدا ہوا۔ جب غور سے دیکھا تو ان لوگوں میں ایک شخص نظر آیا کہ نور اس سے نکل رہا تھا۔ (یہ) آہستہ سے اس کے پاس گئے اور بولے کہ تو ان لوگوں میں کیا کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ زکریا! تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ ہر عام میں ایک خاص بھی ہوتا ہے۔

اسی باب میں حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ کوئی بزرگ اسی طرح کے ایک مجمعے میں پہنچے۔ ایک شخص کو دیکھا کہ دو رکعت نماز میں پورا قرآن مجید ختم کرتا ہے۔ یہ بزرگ حیران رہ گئے اور اپنے آپ سے بولے کہ اس طرح کے گروہ میں جس میں کہ یہ مرد ہے۔ اس قسم کی طاعت بہت غیر معمولی چیز ہے مگر اس کام میں استقامت ہو جب بات ہے۔ الغرض جب وہ وہاں سے چلے آئے تو دس سال بعد پھر اسی گروہ پر سے گزر ہوا۔ اس درویش کو اسی طرح پابند

پایا۔ اس وقت کہنے لگے کہ اب حقیقت کھلی کہ ہر عام میں ایک خاص بھی ہوتا ہے!

چوتھی مجلس

اسی سال ماہ مبارک شعبان دامت حرمتہ کی بائیسویں تاریخ جمعے کو نماز کے بعد قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی، دریافت فرمایا کہ مغرب عشاء کے درمیان جو چھ رکعت (نماز) ادا بین بتائی ہے۔ پڑھتے ہو؟ عرض کی جی ہاں۔ اس کے بعد ایام بیض (۶) کے روزوں کے بارے میں پوچھا کہ رکھتے ہو؟ میں نے عرض کی۔ رکھتا ہوں۔ اس کے بعد نماز چاشت کے بارے میں دریافت فرمایا کہ ادا کرتے ہو؟ میں نے عرض کی ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد چار رکعت صلوٰۃ السعادت کا حکم فرمایا اس روز یہ سعادت دوسری سعادت کے ساتھ مل گئی اَوَالْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ

پانچویں مجلس

اسی سال ماہ مبارک رمضان کی تیرھویں تاریخ جمعے کو نماز سے پہلے قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی پوچھا کہ معمول کے خلاف نماز سے پہلے کیسے آئے؟ عرض کیا گیا کہ نماز تراویح مرانا ظمیر الدین حافظ سلمہ اللہ تعالیٰ کی اقتدا میں پڑھتا ہوں اور وہ ہر رات تین سیپارے پڑھتے ہیں۔ بندے کی خواہش ہے کہ دس رات متواتر بلا ناغہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لے تاکہ ختم قرآن کا ثواب حاصل ہو جائے۔ اگر اجازت ہو تو نماز جمعہ کے بعد واپس چلا جاؤں تاکہ تراویح مل جائے۔ ارشاد ہوا اچھی بات ہے!

اس کے بعد اسی معنی کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ شیخ بہاؤ الدین ذکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رات کو حاضرین کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ تم سے کوئی ہے؟ جو رات کو دو رکعت نماز پڑھے اور ایک رکعت میں قرآن مجید ختم کرنے؟ حاضرین میں سے کوئی اس بات کے لئے آمادہ نہ ہوا شیخ بہاؤ الدین آگے بڑھے اور ایک رکعت میں قرآن مجید ختم کر لیا اور چار سیپارے مزید پڑھے اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھ کر نماز پوری کی۔

اس موضوع کی مناسبت سے دوسری حکایت بیان فرمائی کہ شیخ بہاؤ الدین رحمۃ اللہ

علیہ نے فرمایا کہ مجھے جو کچھ ملا نماز سے ملا۔ اور مشائخ اور زاہدوں کے اور ادب میں نے کئے مگر ایک چیز مجھ سے نہ ہو سکی اور وہ یہ تھی کہ مجھے اطلاع دی گئی کہ فلاں بزرگ آغاز صبح سے طلوع آفتاب تک ختم قرآن کر لیتے ہیں۔ ہر چند میں نے بھی چاہا لیکن نہ کر سکا۔

اسی ضمن میں ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ کعبے شریف کا طواف کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک اور بزرگ کو بھی طواف کعبہ میں دیکھا اور ان بزرگ کے پیچھے چلنے لگے۔ جہاں وہ قدم رکھتے۔ قاضی حمید الدین بھی اپنا قدم وہیں رکھتے۔ ان روشن ضمیر پیر کو اس بات کی خبر ہو گئی۔ بولے یہ ظاہری پیروی کیا کرتے ہو۔ اس کام کی پیروی کرو جو میں کرتا ہوں۔ قاضی حمید الدین علیہ الرحمہ نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ پیر نے کہا کہ میں ایک روز میں سات سو مرتبہ ختم قرآن کرتا ہوں۔ قاضی حمید الدین کو بہت تعجب ہوا اور دل میں یہ اندیشہ گزرا کہ شاید قرآن کے معانی کو الفاظ کے بغیر تصور کر لیتے ہوں گے اور خیال میں پڑھتے ہوں گے۔ پیر نے اپنا سر اٹھایا اور بولے لفظ بہ لفظ۔ موہوم نہیں! جب خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے یہ حکایت تمام کی۔ اعز الدین علی شاہ سلمہ اللہ تعالیٰ نے جو خاص مریدوں میں سے ایک تھے پوچھا کہ شاید یہ کرامت ہوگی؟ خواجہ نے فرمایا ہاں کرامت ہوگی۔ ہر معاملہ جو عقل میں آجائے وہ اور ہوتا ہے اور جس میں عقل کو دخل نہ ہو وہ کرامت ہوتی ہے۔

پھر مشائخ کی طاعت کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ شیخ ابو سعید ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت مصطفیٰ ﷺ کی نماز کے سلسلے میں مجھ تک جو کچھ بھی پہنچا میں نے وہ سب کیا۔ یہاں تک کہ مجھے معلوم ہوا کہ حضرت رسالت پناہ ﷺ نے ایک دفعہ نماز معکوس بھی ادا کی ہے۔ میں بھی گیا اور پاؤں رسی سے باندھے اور اپنے آپ کو سرنگوں ایک کنوئیں میں لٹکا دیا اور اسی طرح نماز پڑھی۔ جب یہ حکایت تمام فرمائی اس کینہ بندے کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ جو بھی تمہا حسن عمل سے کسی مقام تک پہنچا۔ اگرچہ خدا کا فیض تو پہنچتا ہی ہے لیکن ہمیں خود بھی جدوجہد کرنی چاہئے۔

چھٹی مجلس

اسی سال ماہ شوال کی پانچویں تاریخ جمعے کو نماز کے بعد قدم بوسی کی دولت حاصل

ہوئی۔ ترک و تجرید کی گنگو آئی۔ اس کے دوران فرمایا کہ ایک درویش تھے۔ حد درجے فقیر اور مسکین۔ ان کا پیٹ بھوک کے مارے کمر سے چپکا ہوا تھا۔ کسی راہ جاتے تھے۔ خواجہ محمود پٹوہ نے جو ہمارے یار (مرید) ہیں ایک دانگ (چھوٹا سکہ) ان کے سامنے رکھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ آج میں نے کھلی پیٹ بھر کر کھالی ہے۔ خوراک کی طرف سے میں نے پوری بے فکری کر لی ہے۔ آج مجھے اس دانگ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے اس کے صدق کی انتہا پر تعجب فرمایا اور ارشاد ہوا کہ زہے قناعت و قوت صبرا

یہ حکایت بھی اسی ضمن میں بیان فرمائی۔ قناعت کے بارے میں اور غیر حق و سچانہ و تعالیٰ سے لالچ نہ رکھنے کے بارے میں فرمایا کہ ایک بزرگ تھے جنہیں شیخ علی کہتے تھے ایک دفعہ وہ اپنا خرچہ سی رہے تھے۔ اور پیر پھیلا رکھے تھے اور الٹا خرچہ ران پر ڈالے بخیہ کر رہے تھے۔ اسی دوران ان سے کہا گیا کہ خلیفہ آتے ہیں۔ انہوں نے اپنی نشست ذرا بھی نہیں بدلی۔ اسی طرح بیٹھے رہے اور بولے آنے دو۔ خلیفہ آیا سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ شیخ نے سلام کا جواب دیا۔ شاید حاجب نے (اے ڈی سی) جو خلیفہ کے ساتھ آیا تھا کہا کہ شیخ پاؤں سمیٹ لیا شیخ نے اس کی بات کی طرف ذرا التفات نہ کیا۔ یہاں تک کہ ایک دو بار حاجب نے اس بات کو دہرایا بھی الغرض جب خلیفہ کی واپسی کا وقت ہوا تو شیخ نے ایک ہاتھ حاجب کا پکڑا اور ایک خلیفہ کا۔ اس کے بعد بولے کہ میں نے اپنے ہاتھوں کو سمیٹ رکھا ہے۔ اب میرے لئے جائز ہے کہ پاؤں کو نہ سمیٹوں یعنی تم سے مجھے کچھ لالچ نہیں ہے۔ نہ کچھ لیا نہ لینا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ سکیٹر لئے ہیں اور مجھے اس کا حق ہے کہ پاؤں نہ سکیٹوں کچھ اس کا ذکر ہوا کہ سلوک کی اصل کیا ہے اور جو مغز معانی ہے وہ کیا ہے اس درمیان ارشاد ہوا کہ ایک شخص خواجہ اجل شیرازی رحمۃ اللہ علیہ والغفران کی خدمت میں آیا اور مرید ہو گیا۔ پھر خواجہ کے فرمان کا منتظر رہا کہ نماز روزے اور اوراد کے سلسلے میں کیا حکم فرماتے ہیں۔ خواجہ نے صرف اتنا کہا کہ جو اپنے لئے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لئے بھی پسند نہ کرو۔ اور اپنے لئے وہی چاہو جو دوسروں کے لئے چاہتے ہو۔ الغرض یہ شخص واپس چلا گیا اور ایک مدت کے بعد پھر خواجہ اجل شیرازی علیہ الرحمۃ کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ میں اس روز حضور سے مرید ہو کر منتظر تھا کہ خواجہ مجھ سے نماز اور اوراد کے بارے میں فرمائیں گے۔ مگر کوئی حکم نہ ہوا۔ آج پھر منتظر ہوں خواجہ صاحب نے پوچھا اس روز تمہارا سبق کیا تھا؟ مرید حیران

ہوا اور کچھ جواب نہ دیا خواجہ نے تبسم فرمایا اور ارشاد ہوا اسی روز میں نے تم سے کہا تھا کہ جو کچھ اپنے لئے پسند نہیں کرتے۔ دوسرے کے لئے بھی پسند نہ کرو اور اپنے لئے وہی چاہو جو کسی غیر کے لئے چاہتے ہو تمہیں یہ بات یاد نہیں رہی۔ پس جب پہلی مشق ہی درست نہیں کی تو دوسری مشق کیسے کراؤں؟

یہ حکایت پوری ہونے کے بعد ارشاد ہوا کہ ایک بزرگ تھے پرہیزگار وہ اکثر کہا کرتے کہ نماز و روزہ اور تسبیح و اوراد سب دیک کے سالے ہیں۔ اصل چیز دیک میں گوشت ہوتا ہے۔ جب تک گوشت نہ ہو ان سالوں سے کچھ نہیں بنتا۔ ان بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ تمثیل اکثر بیان فرماتے ہیں تشریح بھی کیجئے۔ ان بزرگ نے کہا کہ گوشت ترک دنیا اور نماز و روزہ اوراد و تسبیح اس کے سالے ہیں اول آدمی کو چاہئے کہ ترک دنیا اختیار کرے اور اس کا تعلق کسی چیز سے نہ رہے۔ اگر وہ نماز روزہ (نظلی) اوراد وغیرہ کرے نہ کرے مضائقہ نہیں۔ لیکن جب دنیا کی محبت دل میں ہوگی تو دعاؤں اور اوراد وغیرہ سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ اگر کھی اور کلی مرچ لسن پیاز دیک میں ڈالیں اور پانی بھی چھوڑ دیں اور شورباتیار کریں تو اسے شوربائے زور (نظلی شوربا) کہیں گے اور شوربائے مزور بھی یعنی جھوٹا شوربہ پس اصل شوربا وہ ہوگا کہ جو گوشت سے تیار ہو چاہے اس میں سالے ہوں یا نہ ہوں۔

اس کے بعد ترک دنیا کی تحقیق میں یہ لفظ زبان مبارک پر آیا کہ ترک دنیا یہ نہیں کہ کوئی اپنے آپ کو نکال کر لے مثلاً لنگوٹی باندھ کر بیٹھ جائے۔ ترک دنیا یہ ہے کہ لباس پہنے اور کھانا کھائے۔ البتہ جو کچھ آئے اسے خرچ کرنا ہے۔ جمع نہ کرے اور اس سے رغبت نہ رکھے اور دل کو کسی چیز سے اٹکائے نہ رکھے۔

ساتویں مجلس

اسی سال شوال کی انیسویں تاریخ جمعے کو نماز کے بعد قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی ذکر آداب تصوف و اشارات مشائخ اور ان کی اصطلاحات کا نکلنا زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ شیخ جمال الدین سطاوی رحمۃ اللہ علیہ دار السلطنت دہلی میں شیخ الاسلام تھے۔ اہل صفہ کے مراسم اور آداب کو خوب جانتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ ان کے سامنے پانی کا ایک کوزہ لایا گیا

اور اس کوزے کے چار کونے تھے۔ یعنی پکڑنے کی چار جگہیں تھیں۔ کوئی بزرگ تشریف رکھتے تھے۔ دیوالے کہ اسے لقمائی کوزہ کیوں کہتے ہیں وہ بزرگ چپکے ہو گئے اس کے بعد شیخ

جمال الدین نے قصہ سنایا کہ ایک

بزرگ تھے۔ ان کو شیخ لقمان سرخسی کہتے تھے رحمتہ اللہ علیہ۔ ان کے مناقب بہت ہیں۔ چنانچہ ان کے بارے میں روایت ہے کہ شاید کوئی جمعہ ان سے چھوٹ گیا یا شرع کی ظاہری باتوں میں سے کوئی شعار رہ گیا واللہ اعلم اس شہر کے امام ان کے احتساب کے لئے نکلے۔ ان سے کہا گیا کہ شہر کے آئمہ آرہے ہیں تاکہ آپ سے بحث کریں۔ شیخ لقمان نے پوچھا کہ سوار آرہے ہیں یا پیدل؟ عرض کیا گیا سوار آرہے ہیں۔ اس وقت شیخ ایک دیوار پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دیوار سے بولے کہ خدائے عزوجل کے حکم سے چل ادیوار اسی وقت چلنے لگی۔ مقصد یہ کہ انہیں شیخ لقمان نے ایک دفعہ کسی مرید سے پانی کا کوزہ طلب کیا۔ مرید نے کوزہ پیش کیا جس میں کوئی کونا اور پکڑنے کی جگہ نہ تھی۔ شیخ نے حکم دیا کہ ایسا کوزہ لانا چاہئے۔ جس میں کونا ہو اور جسے پکڑ سکیں۔ مرید گیا اور ایک کوزہ ایک کونے والا بنا کر

لایا اور شیخ کی خدمت میں اس طرح پیش کیا کہ اسی کونے کو پکڑے ہوئے تھا۔ شیخ مسکرائے اور بولے کہ اس کونے کو تو تم نے پکڑ رکھا ہے۔ میں کس جگہ سے پکڑوں؟ جاؤ دوہتی کوزہ بنا کر لاؤ۔ مرید پھر واپس گیا اور دوہتی کوزہ بنا کر پیش کیا۔ ایک ہتھ ایک ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا اور دو سرا ہتھ دوسرے ہاتھ سے۔ شیخ نے پھر کہا کہ دونوں طرف سے تو تم نے پکڑ رکھا ہے۔ میں کس جگہ سے تھاموں؟ تین ہتھ کوزہ بنا کر لایا۔ دو ہتھ (اپنے) دونوں ہاتھوں سے پکڑے اور تیسرے ہتھ کو اپنے سینے کی طرف کر لیا۔ شیخ نے تبسم فرمایا اور کہا کہ جاؤ چار ہتھ کوزہ بناؤ۔ اس کے بعد اس مرید نے اسی طرح کا چار ہتھ کوزہ بنا کر پیش کیا۔ غرض یہ کہ اس کوزے کو لقمائی کوزہ اسی سبب سے کہتے ہیں۔

آٹھویں مجلس

اسی سال ماہ شوال کی پچیسویں تاریخ جمعے کو نماز کے بعد قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ نماز کا اور امام اور مقتدیوں کی حضوری (قلب) کا ذکر آیا۔ ارشاد فرمایا کہ نماز کی حضوری کی ابتداء یہ ہے کہ نمازی جو کچھ پڑھے اس کے معانی کو دل پر طاری کرے۔

marfat.com

Marfat.com

اس کے بعد فرمایا کہ شیخ الاسلام بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے ایک شخص تھے۔ انہیں حسن افغان کہتے تھے۔ صاحب ولایت تھے اور انتہائی بزرگ۔ اتنے کہ شیخ بہاؤ الدین فرماتے تھے کہ اگر کل مجھ سے پوچھا گیا کہ ہماری درگاہ میں کیا تحفہ لائے تو میں عرض کر دوں گا کہ حسن افغان کو لایا ہوں۔ ایک دفعہ یہ حسن کسی گلی میں جا رہے تھے۔ ایک مسجد میں پہنچے موزن نے تکبیر کہی۔ امام آگے بڑھے اور ایک خلقت جماعت میں شامل ہو گئی۔ خواجہ حسن بھی آئے اور مقتدی بن گئے۔ جب نماز ختم ہو چکی اور خلقت واپس ہوئی تو خواجہ حسن امام کے پاس گئے اور بولے۔ اے خواجہ تم نے نماز شروع کی اور میں تمہارے ساتھ شامل ہوا۔ تم یہاں سے دہلی گئے اور وہاں سے غلام خریدے پھر واپس آئے اور ان غلاموں کو خراسان لے گئے اور وہاں سے ملتان واپس آئے۔ اور وہاں سے مسجد میں تشریف لائے۔ میں تمہارے پیچھے حیران (پریشان) پھرتا پھرا۔ آخر یہ کیسی نماز ہے؟

اس کے بعد ان کی بزرگی کی شرح میں فرمایا کہ ایک دفعہ کسی گاؤں میں مسجد بنائی جا رہی تھی خواجہ حسن وہاں پہنچے۔ اہل عمارت سے بولے کہ محراب کو یوں سیدھا کرو کیونکہ قبلہ اس طرف ہے! یہ بات کہی اور ایک طرف اشارہ کیا۔ ایک مولوی صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ وہ جھگڑنے لگے کہ نہیں قبلہ کا رخ دوسری طرف ہے۔ الغرض ان کے درمیان خوب بحث ہوئی۔ خواجہ حسن نے مولوی سے کہا رخ اس جانب کرو جدھر میں بتا رہا ہوں غور سے دیکھو۔ مولوی صاحب نے اس جانب رخ کیا تو کعبہ کو اسی رخ دیکھا جدھر خواجہ حسن بتا رہے تھے۔

اس کے بعد ان کے احوال کی تفصیل بتائی کہ وہ امی (بے پڑھے لکھے) تھے۔ کچھ بھی نہیں پڑھا تھا۔ لوگ آتے تھے اور کاغذ اور تختی ان کے سامنے رکھتے تھے۔ چند سطریں اس پر لکھی ہوتی تھیں۔ بعض نظم میں اور بعض نثر میں بعض عربی میں اور بعض فارسی میں ہر موضوع پر چند سطریں لکھتے تھے اور ان سطروں کے درمیان ایک سطر قرآن مجید کی آیت بھی لکھ دیتے تھے۔ پھر ان سے پوچھتے تھے کہ ان سطروں کے درمیان قرآن مجید کی سطر کونسی ہے؟ وہ قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کرتے کہ یہ ہے ان سے کہا جاتا کہ آپ نے تو قرآن پڑھا نہیں ہے۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ قرآن کی آیت ہے فرماتے کہ جو نور اس سطر میں دیکھتا ہوں وہ دوسری سطروں میں نہیں ہے۔

ان بزرگ کے احوال کی مناسبت سے ذوق نماز کے استخراق کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ ایک شخص تھے جنہیں خواجہ کریم کہتے تھے۔ وہ شاید دہلی میں اول اول کلرک رہے تھے۔ آخر میں دنیا کے دھندوں سے منہ پھیر لیا اور واصلوں میں سے ہو گئے۔ چنانچہ اکثر کہا کرتے کہ جب تک میری قبر دہلی میں ہے کوئی کافر غالب نہیں آسکتا ان کی نماز کے حضور کا حال بیان فرمایا کہ ایک دفعہ مغرب کی نماز کے وقت دروازہ کمال کے سامنے نماز میں مشغول تھے شاید اس زمانے میں میواتیوں کا (بڑا) خطرہ تھا۔ کوئی بھی ناوقت اس دروازے کے قریب اور ان اطراف میں جانے کی ہمت نہ کرتا تھا۔ یہ خواجہ کریم نماز میں مشغول ہوئے ان کے ساتھی دروازے پر کھڑے تھے اور آواز دے رہے تھے کہ جلدی شر آ جاؤ اور دروازے کا دربان بھی شور مچا رہا تھا۔ الغرض خواجہ کریم نے اپنی نماز پورے حضور کے ساتھ تمام کی جب وہ اس جگہ سے واپس آئے تو ان سے کہا گیا کہ تم نے ہماری کوئی آواز نہیں سنی؟ جواب ملا نہیں۔ بولے تعجب ہے ہم نے اتنا تو شور مچایا اور تم نے نہیں سنا۔ فرمانے لگے تعجب تو اس پر ہے کہ کوئی نماز میں ہو اور کسی کا شور (اور اودھم) سنے اس کے بعد فرمایا کہ جب سے ان خواجہ کریم نے خدائے عزوجل سے لو لگائی تمام عمر کبھی درہم و دینار کو ہاتھ میں نہیں لیا۔

اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر دنیا اور اس کی لذتوں کے ترک کے سلسلے میں گفتگو فرمانے لگے ارشاد ہوا کہ ہمت بلند رکھنی چاہئے اور دنیا کی آلائش میں نہیں پھنسنا چاہئے۔ خواہشات سے بلند ہو جانا چاہئے۔ اس وقت یہ دو مصرعے زبان مبارک پر آئے۔

یک لحظہ زشوتے کہ داری بر خیز

تا بشیند ہزار شاہد بہشت

ترجمہ۔ لمحہ بھر کو اپنی خواہشوں سے بلند ہو جانا کہ ہزار معشوق تمہارے سامنے بیٹھ جائیں۔

نویں مجلس

اسی سال ماہ ذی قعدہ کی دسویں تاریخ جمعرات کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ ارشاد ہوا کیا بات ہے۔ آج کیسے آگئے۔ یعنی معمول تو جمعے کا تھا۔ بندے نے عرض کی کہ یہ سعادت آج ہی مقدر تھی۔ جب بھی قسمت یادری کرتی ہے۔ قدم بوسی کی سعادت میسر

marfat.com

Marfat.com

آجاتی ہے۔ فرمایا اچھا کیا۔ جو بھی غیب سے آتا ہے اچھا ہوتا ہے۔
اس کے بعد صحبت کے اثر کا تذکرہ آیا۔ فرمایا کہ صحبت کا اثر قوی ہوتا ہے پھر ترک
دنیا پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ کون ہے جس نے گھٹیا چیز کو نہ چھوڑا اور اعلیٰ چیز اس تک خود
نہ پہنچی!

دسویں مجلس

اسی مہینے کی پندرہویں تاریخ منگل کو قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی عزیزوں کی
ایک جماعت جیسے مولانا وجیہ الدین پانکی اور مولانا حسام الدین حاجی اور مولانا تاج الدین یار
اور مولانا جمال الدین اور دوسرے مرید حاضر تھے۔ کھانا سامنے رکھا گیا۔ ارشاد ہوا کہ جس کا
روزہ نہ ہو کھانا کھائے۔ ایام بیض کی وجہ سے اس مجمعے کے اکثر لوگ روزے سے تھے۔ اس
کے بعد کھانا ان دو تین آدمیوں کے پاس بھجوا دیا گیا جو روزے سے نہیں تھے۔ اس وقت
زبان مبارک سے فرمایا کہ جب عزیز آئیں تو کھانا سامنے رکھنا چاہئے مگر کسی سے یہ نہیں
پوچھنا چاہئے کہ تم روزے دار ہو کیونکہ اگر روزے سے نہ ہو گا تو خود کھالے گا۔ اور یہ نہ
پوچھنے میں کہ تم روزے سے ہو کیا حکمت ہے؟ یہ کہ اگر وہ کہے گا کہ میرا روزہ ہے تو
دکھاوے کا دخل ہو جائے گا۔ اور اگر وہ روزے دار ایسا پکا اور سچا مرد ہوا کہ دکھاوے کا اس پر
گزر نہیں اور پھر وہ کہے کہ میرا روزہ ہے تو اس کی طاعت حالی علانیہ دفتر لکھی جائے گی۔ اور
اگر کہے کہ میرا روزہ نہیں ہے تو یہ جھوٹ بولنا ہو گا۔ اور اگر خاموش رہے تو پوچھنے والے
کی تحقیر ہوگی۔

گیارہویں مجلس

اسی مہینے کی اکیسویں تاریخ پیر کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ نیک مردوں کے
قدم کی برکت کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ جو بھی جگہ ہے انہی کے قدموں کی برکت سے راحت
بخش ہے۔ مثال کے طور پر دہلی کی جامع مسجد فرمایا کہ کتنے اولیاء اور بزرگوں کے قدم وہاں
پہنچے ہوں گے۔ کہ یہ جگہ ایسی راحت بخش ہے۔

اس دوران فرمایا کہ میں نے محمود کبیر سے سنا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ایک دفعہ صبح کے

وقت میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جامع مسجد کے طمع شدہ کنگوروں کے اوپر جو محراب کے طاقوں کے اوپر بنے ہوئے ہیں آجار ہے تھے پرندے کی طرح بڑی تیزی سے اور بے خونی سے اس کنارے سے اس کنارے تک کبھی آتے تھے اور کبھی جاتے تھے بیحد دور سے دیکھ رہا تھا جب صبح ہونے لگی تو ان کنگوروں پر سے نیچے اتر آئے۔ میں ان کے سامنے گیا اور سلام کیا مجھ سے کہنے لگے تم نے دیکھا؟ میں نے کہا (جی ہاں) دیکھا۔ بولے کسی سے کہنا نہیں۔

اسی دوران کاتب (حسن علا بجزی) نے عرض کیا کہ بزرگوں میں سے اکثر اپنے احوال کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ ارشاد ہوا کہ اگر راز فاش کر دیں تو دوسرے راز کے محرم بننے کے قابل نہ رہیں۔ اگر ایک آدمی دوسرے سے راز کہتا ہے اور راز سننے والا اس کو ظاہر کر دیتا ہے تو وہ راز بتانے والا پھر دوسرا راز نہیں بتائے گا۔ بندے نے عرض کی کہ یہ کیا بات ہے کہ خواجہ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ بہت دفعہ غیب کی باتیں زبان پر لائے ہیں؟ فرمایا کہ جس وقت اولیاء شوق کے غلبے میں ہوتے ہیں تو بے خودی کے عالم میں کچھ کہہ دیتے ہیں۔ البتہ جو کمال ہیں وہ اسرار میں سے کوئی چیز بھی ظاہر نہیں کرتے اس کے بعد دوبارہ یہ مصرع زبان مبارک پر آیا۔

مرداں ہزار دریا خوردندو تشنہ رفتند

ترجمہ:- مردوں نے ہزار دریا پئے اور پھر پیاسے گئے۔

پھر فرمایا کہ بہت بڑا حوصلہ چاہئے کہ راز کے قابل ہو سکے۔ اور اس کے اہل پوری طرح ہیں تو اصحاب صحو (سالک) ہیں۔ بندے نے پوچھا کہ اصحاب سکر (مجدوب) کا مرتبہ اونچا ہے یا اصحاب صحو کا؟ فرمایا کہ اصحاب صحو کا مرتبہ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

بارہویں مجلس

اسی سال ماہ ذی الحجہ کی چودھویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی زبان کی تاثیر کا ذکر آیا۔ زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ وہ طاعت اور وہ ورد جو کسی صاحب نعمت کی زبان سے ملا ہو اس کے ادا کرنے میں راحت ہی دوسری ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ چند ورد ہیں جو میں نے خود اپنے آپ پر واجب کر لئے ہیں۔ اور چند دوسرے ورد ہیں جو مجھے

marfat.com

Marfat.com

اپنے خواجہ سے عطا ہوئے ہیں۔ ان دونوں وردوں کی ادائیگی کے وقت جو جو راحتیں میسر آتی ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔

پھر بات اختیار کے ترک کی آئی۔ یعنی خود اپنے اختیار سے کوئی کام نہیں کرنا چاہئے۔ زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو دوسروں کے محکوم ہیں ان لوگوں سے بہتر ہیں جو حاکم ہیں (۷)۔

اس کے بعد ارشاد ہوا کہ شیخ ابو سعید ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ جمعے کے روز نماز کے لئے اپنی خانقاہ سے باہر نکلے۔ مریدوں سے پوچھنے لگے کہ جامع مسجد کا راستہ کون سا ہے۔ کس طرح جانا چاہئے؟ حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ راستہ یہ رہا ان سے پوچھا گیا کہ اتنی دفعہ آپ جمعے کی نماز کو گئے ہیں۔ راستہ نہیں جانتے؟ بولے جانتا ہوں لیکن اس وجہ سے پوچھتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لئے دوسرے کا محکوم بن جاؤں۔ اس کے بعد ترک وطن اور مکان و محل وغیرہ کی محبت کے سلسلے میں وعظ فرمایا اور یہ اشعار زبان مبارک پر آئے۔

دشت و کسار گیر ہم چو د حوش خانماں را بہمان بگرہ و موش
قوت عیسیٰ چوز آسمان سازند ہم بداں جاش خانہ پردا زند
خانہ را گر برائے قوت کنند مور و زنبور و عنکبوت کنند
ترجمہ:- پہاڑ اور جنگل کو جنگلی جانوروں کی طرح ٹھکانہ بناؤ۔ گھربار کو چوہے بلی کے لئے چھوڑ دو۔ حضرت عیسیٰ کی روزی آسمان پر تھی۔ زمین ان کا گھر بنا دیا گیا کھانے کے لئے اگر بناتے ہیں تو چوئیاں اور بھڑیں اور مکڑیاں بناتے ہیں۔

تیرہویں مجلس

سات سو آٹھ ہجری ماہ محرم الحرام کی تیسری تاریخ کو قدم بوسی کی دولت میسر آئی۔ طاعت کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ ایک طاعت ہے لازمی اور ایک طاعت ہے متعدی طاعت لازمی تو وہ ہے کہ جس کا فائدہ اسی ایک طاعت کرنے والے کی ذات کو پہنچتا ہے۔ اور وہ نماز ہے اور روزہ ہے۔ اور حج ہے اور اوراد اور تسبیحات اور اسی طرح کی اور چیزیں ہیں۔ لیکن طاعت متعدی وہ ہے کہ جس سے فائدہ اور راحت

دوسروں کو پہنچے۔ خرچ کرنے سے اور شفقت برتنے سے اور جہاں تک ہو سکے دوسروں کے حق میں مہربانی کرنے سے۔ اس طاعت کو متعدیہ کہتے ہیں۔ اور اس کا ثواب بے حد و اندازہ ہے۔ اور طاعت لازمہ میں تو اخلاص ہونا چاہئے تاکہ قبول ہو جائے۔ لیکن طاعت متعدیہ تو جس طرح کی بھی ہو اور جیسے بھی کی جائے اس کا ثواب ہے۔ وَاللَّهُ الشَّوْفِقُ۔

چودھویں مجلس

اسی مہینے کی ساتویں تاریخ جمعرات کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی، ولایت اور ولایت کا ذکر نکلا۔ فرمایا کہ شیخ کے لئے ولایت مفتوح واؤ بھی ہوتی ہے اور ولایت (بکسر واؤ) بھی۔ ولایت تو یہ ہے کہ جب نائب ہوتا ہے اور طاعت کرتا ہے تو اس طاعت سے بڑا ذوق پاتا ہے اور ممکن ہے کہ مریدوں کو خدا تک پہنچا دے اور طریقت کے آداب سکھائے اور غرضیکہ جو کچھ اس کے اور خلقت کے درمیان ہے اس کو ولایت کہتے ہیں اور جو کچھ اس کے اور حق تعالیٰ کے درمیان ہے وہ ولایت ہے۔ اور وہ خاص محبت ہے اور جب شیخ دنیا سے انتقال کرتا ہے تو ولایت اپنے ساتھ لے جاتا ہے مگر ولایت جس کو چاہتا ہے دے جاتا ہے۔ اپنی پسند کے آدمی کو اگر وہ نہ دے تو بھی جائز ہے کیونکہ حق عزوجل اس ولایت کو کسی دوسرے کو عطا کر دیتا ہے۔ لیکن ولایت جو اس کے ساتھ ہوتی ہے اس کو اپنے ساتھ ہی لے جاتا ہے۔

اس باب میں یہ حکایت بیان فرمائی کہ کسی بزرگ نے ایک مرید کو کسی بزرگ کے پاس بھیجا اور معلوم کرایا کہ رات کو بساط عالم پر کیا گزری۔ انہوں نے جواب کہلوا یا کہ رات کو شیخ ابو سعید الخیر قدس اللہ سرہ العزیز نے مسجد منہ (۸) میں انتقال کیا۔ ان بزرگ نے پھر کسی کو بھیجا اور پچھوایا کہ ان کی ولایت کس کو دی گئی۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس کی مجھے خبر نہیں جو کچھ معلوم تھا وہ بتا دیا۔ اس کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ ان کی ولایت شمس العارفین علیہ الرحمۃ والغفران کو دی گئی ہے۔ رات ہی کو شمس العارفین کے دروازے پر پہنچے۔ شمس العارفین نے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے ان سے فرمایا خدا تعالیٰ کے اتنے سارے شمس العارفین ہیں کیا خبر کن شمس العارفین کو ولایت دی گئی ہے۔

اس کے بعد شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سنایا جو شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کے بھائی تھے۔ ارشاد ہوا کہ جب تعلیم و تحصیل کے لئے مدرس کے پاس گئے تو استاد نے پوچھا کہ نجیب الدین متوکل تم ہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نجیب الدین متاکل (خراب و خستہ) ہوں میں متوکل (توکل رکھنے والا) کون ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد استاد نے کہا کہ شیخ الاسلام فرید الدین کے بھائی تم ہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ظاہری بھائی ہوں۔ معنوی بھائی کون ہو سکتا ہے۔

پھر اصحاب نعمت کی بخششوں کا ذکر نکلا کہ وہ خدمت کرنے والوں پر بڑی نظر (عنایت) رکھتے ہیں۔ اس درمیان فرمایا کہ ایک خواجہ تھے صاحب نعمت و ہمت کبھی کبھی قاضی عین القضاة علیہ الرحمۃ والغفران کے پاس خرچ بھیجا کرتے۔ شاید قاضی عین القضاة نے کبھی کسی اور سے فرمائش کی اور اپنی ضرورت پوری کر لی ان خواجہ نے سنا تو آزر وہ خاطر ہوئے اور عین القضاة سے اپنی ناراضی کہلوائی کہ کسی دوسرے سے کوئی چیز لی۔ مجھے یہ دولت کیوں نہ عطا کی۔ عین القضاة نے ان کو لکھا کہ اس بات کے لئے رنج نہ کیجئے۔ اجازت دیجئے تاکہ دوسروں کو بھی دولت ملے اور ان لوگوں میں سے نہ بنئے جن میں سے ایک نے کہا تھا اے اللہ مجھ پر رحم کر اور محمد ﷺ پر رحم کر اور ہم دونوں کے ساتھ کسی اور پر رحم نہ کرنا اور ان لوگوں میں سے نہ بنئے جن میں سے ایک نے کہا کہ۔

”اے باغبان آ اور باغ کا دروازہ کھول دے اور جب میں اور میرا

محبوب اندر آجائیں تو دروازہ بند کر دے۔“

اسی روز میر جھو راقم الحروف (امیر حسن) کا مستحب مرید ہوئے اور بیعت کی۔ اور اس کا بھائی شمس الدین مخلوق ہوا (سرمنڈایا) اور اسی روز شیخ جلال الدین ہانسوی کے پوتے یا نواسے مخلوق ہوئے اور مولانا برہان الدین غریب سلمہ اللہ تعالیٰ نے سرے سے مخلوق ہوئے اور شیخ عثمان سیوستانی نے کلاہ کی درخواست کی اور کلاہ پائی اور شمس الدین کو خرقہ ملا۔ بہت ہی راحت والا دن تھا۔ اس موقع پر شیخ بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت بیان فرمائی کہ جب وہ شیخ اسلام قطب الدین اوشی قدس سرہ کی خدمت میں آئے اور سر کے بال اتروائے تو شیخ نے فرمایا۔

حقیقت میں چراغ اسی وقت بجھتا ہے جب اس کے سر سے روغن نکل جاتا ہے۔

پندرہویں مجلس

اسی سال ماہ جمادی الاولیٰ کی چھٹی تاریخ بدھ کو خضر آباد چھاؤنی سے حاضر ہوا قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ مردان غیب کا ذکر آیا کہ وہ جب کسی کو قابل دیکھتے ہیں اور طاعت و مجاہد میں عالی ہمت پاتے ہیں تو اڑالے جاتے ہیں۔ اسی اثنا میں فرمایا کہ نصیر لقب ایک جوان بدایوں میں تھے۔ ان سے میں نے سنا کہ وہ کہتے تھے میرے باپ پنچے ہوئے درویشوں میں سے تھے۔ ایسا ہوا کہ ایک رات انہیں دروازے کے سامنے سے آواز دی گئی۔ وہ باہر آئے ہم نے بس اندر سے سلام اور علیک (سلیک) سنی اور اتنا اور سنا کہ ہمارے والد کہتے ہیں کہ فرزندوں اور گھر والوں سے رخصت ہو لوں۔ بولے اتنی مہلت نہیں ہے۔ اس کے بعد کچھ پتہ نہ چلا کہ میرے والد اور وہ لوگ کیا ہوئے!

اسی باب میں میں شیخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سنایا کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں ذکر کیا ہے کہ ہمارے زمانے میں ایک جوان تھے جنہیں قزوینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے۔ ان کے گھر میں مردان غیب جمع ہوئے۔ اور نماز کے وقت غلق صف بہ صف کھڑی ہوئی مردان غیب میں سے ایک شخص نے امامت کی جماعت نے بلند قرات سنی اور تسبیحات اور جو کچھ نماز میں ہوتا ہے سنا البتہ اس امام کو نہیں دیکھا صرف یہ قزوینی دیکھتے تھے۔ شیخ شہاب الدین فرماتے ہیں کہ انہیں مردان غیب میں سے ایک شخص نے ایک مہرہ (سونے کا سکہ) انہیں قزوینی کے ہاتھ بھجوایا تھا اور وہ مہرہ اب تک میرے پاس ہے۔ اسی ضمن میں حکایت بیان فرمائی ایک مرد تھے علی نام جب بھی مردان غیب ان کے حجرے کے دروازے پر آتے اور کہتے سلام علیک تو خواجہ علی صرف ان کی آواز سنتے اور بس کئی دفعہ ایسا ہوا یہاں تک ایک روز یہ سب آئے اور بولے سلام علیک اے خواجہ علی! خواجہ علی نے سلام کا جواب دیا اور بولے اے مردو! بس سلام کرو گے اور آواز دیتے رہو گے اپنی صورت نہیں دکھاؤ گے یہ بات کہنے کے بعد انہوں نے پھر کبھی آواز بھی نہیں سنی۔ اس درمیان بندے نے عرض کی شائد خواجہ علی نے یہ بات کہہ کر گستاخی کی۔ ارشاد ہوا ہاں! شوخی کی بات کیا کی اس دولت ہی سے محروم ہو گئے۔

اس کے بعد فرمایا کہ مردان غیب پہلے آواز دیتے ہیں اور اپنی بات سناتے ہیں اس کے

بعد ملاقات کرتے ہیں اور پھر اڑا لیجاتے ہیں۔ اس حکایت کے آخر میں زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ کیا باراحت مقام ہے کہ جہاں کسی کو یہ لیجاتے ہیں۔

سولہویں مجلس

اسی مہینے کی انیسویں تاریخ پیر کو قدم بوسی کی سعادت میسر آئی۔ سلوک کا ذکر آیا فرمایا کہ چلنے والا کمال کی طرف رخ رکھتا ہے۔ یعنی سالک جب تک سلوک میں ہے۔ کمالیت کا امیدوار ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ سالک ہوتا ہے اور واقف ہوتا ہے اور راجع۔ چنانچہ سالک تو وہ ہے جو راستہ چلتا ہے۔ اور واقف وہ ہے جس کو وقفہ پڑ جاتا ہے۔ بندے نے عرض کی کیا سالک کو بھی وقفہ پڑتا ہے؟ فرمایا ہاں! جب بھی سالک کی طاعت میں کوئی فتور پڑتا ہے۔ جیسے کہ طاعت کا ذوق نہ رہے تو اس کے لئے وقفہ ہوتا ہے۔ اگر جلدی ہو شیار ہو جائے اور حق تعالیٰ کی طرف رجوع ہو تو پھر سالک ہو سکتا ہے اور اگر خدا کی پناہ اسی حال پر جمار ہے تو اس کا خطرہ ہے کہ راجع ہو جائے۔

اس کے بعد راہ کی لغزش کی سات قسمیں بیان فرمائیں۔ اعراض، حجاب، تقاضل۔ سلب مزید۔ سلب قدیم۔ تسلی۔ عداوت ان قسموں کی تمثیل اور تفصیل میں فرمایا کہ جیسے دو دوست ہوں۔ عاشق اور معشوق۔ ایک دوسرے کی محبت میں ڈوبے ہوئے۔ اس درمیان اگر عاشق سے کوئی حرکت یا کام یا بات یا فعل ایسا ہو جائے جو اس کے دوست کی پسند کا نہ ہو تو وہ دوسرا اس سے اعراض کرتا ہے۔ یعنی منہ موڑ لیتا ہے۔ پس عاشق پر واجب ہے کہ اسی وقت استغفار میں مشغول ہو جائے اور معذرت چاہے یقیناً اس کا دوست اس سے راضی ہو جائے گا تھوڑی سی جو بے توجہی ہوئی تھی جاتی رہے گی۔ اور اگر وہ محبت کرنے والا اس خطا پر اصرار کرے گا۔ اور عذر پیش نہیں کرے گا۔ تو وہ اعراض حجاب تک پہنچ جائے گا۔ معشوق ایک حجاب (پردہ) درمیان میں لے آئے گا۔ جیسے ہی خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر حجاب کی تمثیل میں اس بات پر پہنچے۔ ہاتھ اونچا کیا اور

آستین چہرہ مبارک کے سامنے کر لی اور فرمایا کہ مثلاً اس طرح کا حجاب محب اور محبوب کے درمیان ہو جائے گا۔ پس محب (عاشق) پر واجب ہو گا کہ معذرت کی کوشش میں رہے اور توبہ کرے۔ اور اگر اس معاملے میں سستی کرے گا تو وہ حجاب تقاضا میں بدل جائے گا۔ کیا ہو گا؟ یہ کہ وہ دوست اس سے جدائی اختیار کر لے گا پس شروع میں اعراض سے زیادہ نہیں تھا۔ چونکہ معافی نہیں چاہی حجاب ہو گیا اور جب اس ناپسندیدگی پر اڑا رہا تو تقاضا ہو گیا (دوری ہو گئی) اگر اس کے بعد بھی وہ دوست معافی نہ مانگے تو سلب مزید (واقع) ہو گا یعنی اس کے اور اد اور طاعت و عبادت کے ذوق میں جو بڑھت تھی وہ واپس لے لی جائے گی۔ پس اگر اس پر بھی عذر نہ کرے اور اس ہٹ دھرمی پر جمار ہے تو سلب قدیم ہو گا کہ وہ طاعت اور وہ راحت جو ”مزید“ (بڑھوتری) سے پہلے میسر تھی۔ وہ بھی چھن جائے گی۔ پس اگر یہاں بھی توبہ میں کسر رہ جائے تو اس کے بعد تسلی ہو گی۔ تسلی کسے کہتے ہیں؟ یعنی اس کے دوست کا دل اس کی جدائی پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ پس اگر پھر بھی توبہ میں سستی ہو تو عداوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور محبت جو تھی وہ عداوت میں بدل جاتی ہے۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهَا۔

سترھویں مجلس

اسی مہینے کی پچیسویں تاریخ پیر کو قدم بوسی کی دولت ملی۔ کھانا کھانے کی فضیلت کا ذکر نکلا۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا بہت اچھی چیز ہے۔ اس دوران فرمایا کہ خواجہ علی فرزند خواجہ بزرگ شیخ رکن الدین (اللہ تعالیٰ ان سب کو قیامت میں خیر سے اٹھائے) تاتاری کافروں کے حملے میں گرفتار ہوئے۔ ان کو چنگیز خان کے سامنے لے گئے (۹)۔ اسی خاندان کے مریدوں میں سے ایک شخص وہاں حاضر تھا۔ وہ دربار میں رسوخ رکھتا تھا۔ جب اس نے خواجہ علی کو گرفتار دیکھا تو حیران رہ گیا۔ دل میں سوچنے لگا کہ ان کی رہائی کی کیا ترکیب ہو۔ اور ان کا ذکر چنگیز خاں کے سامنے کس حیثیت سے کروں۔ اگر کہتا ہوں یہ بڑے بزرگ اور صاحب کرامت خاندان سے ہیں تو اسے کیا معلوم اور اگر طاعت و عبادت کا ذکر

کرتا ہوں تو وہ بھی موثر نہ ہو گا۔ مختصر یہ کہ بڑے سوچ بچار کے بعد چنگیز خاں کے سامنے گیا اور کہا کہ اس شخص کا باپ بہت بزرگ آدمی تھا۔ مخلوق کو کھانا کھلاتا تھا۔ اس کو رہائی دینی چاہئے چنگیز خاں نے پوچھا کہ اپنے لوگوں کو کھانا دیتا تھا یا غیر لوگوں کو؟ اس شخص نے جواب دیا غیر لوگوں کو۔ اپنے لوگوں کو تو سب ہی کھلاتے ہیں۔ مگر اس کا باپ خلق بیگانہ کو کھانا دیتا ہے۔ پس اسی وقت حکم دیا کہ اسے رہا کر دیں۔ اور خلعت بھی عطا کیا اور معذرت کی اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ کھانا کھلانا تمام مذہبوں میں پسندیدہ ہے۔

اس کے بعد خطرہ اور عزیمت اور فعل کا ذکر آیا۔ فرمایا اول خطرہ ہے کہ پہلے آدمی کے دل میں کوئی چیز آتی ہے۔ اس کے بعد عزیمت ہے۔ یعنی اس خیال پر دل جم جاتا ہے اس کے بعد فعل ہے۔ یعنی اس عزیمت (ارادہ) کو عمل تک پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ عوام کو جب تک گزرنے گزریں نہیں پکڑتے۔ لیکن خواص کی خطرے ہی پر پکڑ ہو جاتی ہے لوگوں کو چاہئے کہ ہر حال میں خدا کی طرف رجوع رہیں۔ کیونکہ خطرہ اور عزیمت اور فعل سب حق تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ ہر صورت میں حق کی پناہ مانگیں۔

اس کے بعد فرمایا کہ شیخ ابو سعید ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوئی خطرہ میرے دل میں ایسا نہیں گزرا کہ اس کے فعل کی تہمت مجھ پر نہ لگی ہو۔ اگرچہ کہ ہرگز وہ فعل میں نے نہ کیا ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ کوئی کامل اور سچے درویش ان کی خانقاہ میں آئے۔ شیخ ابو سعید ابوالخیر نے ان کی معرفت کا کمال دیکھا اور سمجھ گئے کہ وہ کیسے کامل مرد ہیں۔ انظار کے وقت اپنی لڑکی سے کہا کہ پانی کا کوزہ ان کے سامنے لے جائے۔ لڑکی اگرچہ چھوٹی تھی مگر پورے ادب اور نہایت احترام کے ساتھ پانی ان درویش کے سامنے لے گئی۔ شیخ ابو سعید کو بیٹی کا ادب بہت اچھا لگا۔ اور دل میں کہنے لگے کہ وہ کیا خوش قسمت آدمی ہو گا جس کے نکاح میں یہ لڑکی جائے گی۔ جب یہ خیال ان کے دل میں آیا حسن موذن کو خانقاہ کے خادم تھے بازار میں (انہوں نے) بھیجا اور کہا کہ جاؤ خبر لاؤ کہ شہر میں کیا چرچہ ہے؟ حسن موذن بازار میں گئے اور واپس آکر شیخ سے کہا بازار میں آج میں نے ایک ایسی بات سنی ہے کہ کسی کان میں اس کے سننے کی طاقت نہیں۔ شیخ بولے کہ کہو! حسن نے جواب دیا کہ وہ بات میری زبان پر کیسے آئے۔ شیخ نے حکم دیا کہ جو کچھ تم نے سنا ہے وہ کہہ گزرو! حسن موذن نے کہا کہ بازار میں ایک شخص دوسرے سے کہتا تھا کہ شیخ ابو سعید چاہتے ہیں کہ خود اپنی بیٹی سے شادی کر لیں۔

شیخ نے اور بولے کہ میرے اس خطرے ہی پر میرا مواخذہ ہو گیا۔

جب خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے یہ حکایت پوری کی بندے نے عرضداشت کی کہ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ شیخ ابو سعید ابو الخیر اپنے زمانے کے بندوں میں نیک بخت ترین ہوئے ہیں۔ فرمایا ہاں۔ اور بندے کی اس بات پر تعریف فرمائی۔

پھر توبہ کی استقامت کا ذکر آیا۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ اگر ایک شخص شراب سے توبہ کرتا ہے تو لازمی طور پر اس کے پرانے ساتھی اور ہم جولی اس کی مزاحمت کرتے ہیں اور ہر دفعہ شراب پینے کے لئے اس مقام پر اسے بلا تے ہیں جہاں انہوں نے لطف اٹھایا تھا اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ پھر شراب پئے۔ اور یہ بات اسی وقت ہوتی ہے جب اس کے دل میں کسی قدر لگاؤ رہ گیا ہو اور اگر تائب دل کو اس خیال سے پوری طرح صاف کر لیتا ہے تو کوئی ہم جولی اور ساتھی اس کی مزاحمت نہیں کر سکتا۔ توبہ کی توجیہ کا ثبوت اس کے ساتھ اور ہم جولیوں کا ساتھ چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جس کسی کا ذکر کسی گناہ اور کسی فسق کے ساتھ لوگ زبان پر لاتے ہیں یہ اس وقت ہوتا ہے کہ کسی قدر اس شخص کا دل اس فسق اور گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ لیکن جب توبہ کرنے والا اپنے دل کو پوری طرح اس ناشائستہ (کام) سے پھیر لیتا ہے تو پھر کوئی بھی اس جرم و گناہ کے ساتھ اس کا ذکر نہیں کرتا۔ یہ ساری بات توبہ کی استقامت کی دلیل ہے۔ یعنی جب تک تائب توبہ میں مستقیم ہے تو نہ اس کا ذکر کوئی معصیت کے ساتھ کر سکتا ہے نہ فسق کے ساتھ اس کا نام زبان پر لا سکتا ہے۔ البتہ اس گناہ اور معصیت کی طرف مائل ہو گا تو ضرور اس کو طلب کرنے میں کھینچا تانی کریں گے اور زبان پر بھی اس کا ذکر فسق و فجور کے ساتھ لائیں گے۔

پھر حیدر زاہد علیہ الرحمۃ کا ذکر نکلا۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ وہ ترک بچے تھے اور اک صاحب حال درویش تھے۔ جس زمانے میں چنگیز خان کی یورش ہوئی کافروں نے ہندوستان کا رخ کیا۔ ان ایام میں انہوں نے ایک روز مریدوں کی طرف رخ کر کے کہا کہ مغلوں سے بچ کر بھاگو کہ وہ غالب آجائیں گے۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہ کیسے؟ بولے وہ ایک درویش کو اپنے ساتھ لا رہے ہیں۔ اور خود اس درویش کی پناہ میں آتے ہیں۔ میں نے عالم باطن میں اس درویش سے کشتی کی اور اس نے مجھے زمین پر دے مارا۔ اب حقیقت یہ ہے کہ وہ غالب آجائیں گے تم لوگ بھاگو۔ اس کے بعد خود ایک غار میں چلے گئے اور غائب ہو گئے۔

انجام وہی ہوا جو انہوں نے کہا تھا۔

اس حکایت کے بیان کے بعد بندے نے عرض کی کہ یہ گروہ جو لوہے کے طوق و کڑے ہاتھ اور گردن میں ڈالتا ہے۔ کیا انہی کی پیروی ہے۔ ارشاد ہوا کہ ہاں۔ لیکن ان پر تو ایک حل طاری ہوا کرتا تھا کہ اس حال میں گرم دہکتے ہوئے لوہے کو اٹھا لیتے تھے اور خود اپنے ہاتھ سے کبھی طوق بناتے تھے اور کبھی کڑا بنا لیتے تھے۔ نوہا ان کے ہاتھ میں موم ہو جاتا تھا۔ اور یہ گروہ جو ہے یہ طوق اور کڑے تو پہنتا ہے لیکن وہ حال کہاں ہے۔

پھر اس بات کا ذکر آیا کہ زندگی یہ ہے کہ درویش ذکر حق میں مشغول رہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک بزرگ تھے ان کو میرہ گرامی کہتے تھے۔ کسی درویش کو یہ آرزو ہوئی کہ ان کی زیارت کو آئے۔ اور ان درویش کی یہ کرامت تھی کہ جو خواب بھی دیکھتے سچا ہوتا اس خواب کی تعبیر بالکل وہی ہوتی جو دیکھا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ ان پر میرہ گرامی کا اشتیاق (ملاقات) غالب آیا۔ میرہ گرامی جہاں تھے وہاں روانہ ہوئے۔ راستے میں کسی منزل پر اترے اور سو گئے انہوں نے خواب میں سنا کہ میرہ گرامی مر گئے۔ جب صبح ہوئی تو اٹھے اور بولے کہ افسوس اتنا راستہ ان کی ہوس میں طے کیا اور وہ وفات پا گئے۔ اب کیا کرنا چاہئے۔ خیر چلتا ہوں۔ جس مقام پر وہ تھے وہاں ان کی قبر کی زیارت کروں۔ جب اس مقام پر پہنچے جہاں میرہ گرامی تھے ہر کسی سے پوچھنا شروع کیا میرہ گرامی کی قبر کہاں ہے؟ سب نے کہا وہ تو زندہ ہیں ان کی قبر کیوں پوچھتے ہو۔ یہ درویش حیران ہوا کہ میرا خواب جھوٹا کیسے ہو گیا۔ الغرض میرہ گرامی کی خدمت میں آیا اور سلام کیا۔ میرہ گرامی نے سلام کا جواب دیا۔ اور کہا اے خواجہ معنی کے اعتبار سے تمہارا خواب سچا تھا کیونکہ میں مسلسل یاد حق میں مشغول رہتا ہوں۔ اس رات کو اس کے غیر میں مشغول ہوا۔ یہ ندا عالم میں کر دی گئی کہ میرہ گرامی مر گیا وَاللّٰهُ اَعْلَمُ۔

اٹھارویں مجلس

اسی سال ماہ جمادی الاخریٰ کی تیرھویں تاریخ جمعرات کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ روزے کی گفتگو ہو رہی تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک روایت میں آیا ہے رسول اللہ ﷺ ہر ماہ تین روز روزہ رکھتے تھے۔ البتہ یہ معلوم نہیں کہ وہ تین روز کون سے ہیں؟ اس کے بعد فرمایا کہ آداب درویشی یہ ہیں کہ تمہاری سال روزہ رکھا جائے۔ یعنی ایک

سال میں چار مہینے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کی تقسیم کی گئی ہے جو لوگ تین مہینے روزہ رکھتے ہیں۔ دس محرم کے اور دس ذی الحجہ کے اور رکھتے ہیں اور دس روز دوسرے حبرک دنوں اور موسموں کے رکھتے ہیں۔ یہ سب تہائی سال بن جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کا تقسیم ایک اور طرح سے بھی کرتے ہیں کہ اگر ہفتے میں دو دن روزہ رکھیں۔ مثلاً پیر کو اور جمعرات کو تو اس طرح بھی تہائی سال ہو جائے پھر صائم الدہر (بیشہ روزہ رکھنے والے) کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے نہ روزہ رکھانہ افطار کیا۔ اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس پر دو نغ تنگ ہو گئی اور انہوں نے نوے کی گرہ لگائی اب (۱۰) ان دونوں حدیثوں کو کس طرح مطابق کیا جائے گا؟ جہاں یہ کہا گیا ہے کہ جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے نہ روزہ رکھانہ افطار کیا۔ اس کے معنی اس طرح ہوں گے کہ جس نے پورے روزے رکھے تو ان میں وہ پانچ روز دونوں عیدوں اور ایام تشریق کے بھی ہوئے۔ بس یہ ایسا ہو گا کہ اس نے نہ روزہ رکھا اور نہ افطار کیا۔ اور جس نے متواتر روزے رکھے مگر ان پانچ روز افطار کیا (کھلایا پیا) اس پر تنگ ہو گئی دو نغ، جس طرح نوے کی گرہ یعنی اس شخص کی گنجائش نہیں ہوگی۔ دو نغ میں جیسے کہ نوے کی گرہ میں کسی چیز کی گنجائش نہیں ہوتی۔

اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ جو مسلسل روزے رکھتا ہے اس کو عادت ہو جاتی ہے اور روزے کی تکلیف اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ پس ثواب اس میں زیادہ ہو گا کہ ایسا روزہ رکھیں جو نفس پر زیادہ دشوار ہو۔ اور اس روزے کو روزہ داؤدی کہتے ہیں کہ ایک روز روزہ رکھا اور دوسرے روز افطار کیا (کھلایا پیا)۔

انیسویں مجلس

اسی مہینے کی انیسویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ جیسے ہی بندے نے سر زمین پر رکھا ارشاد ہوا کہ ظہر کی نماز کے بعد دس رکعت نماز پڑھو پانچ سلاموں سے اور ان دس رکعتوں میں قرآن کی آخری دس سورتیں پڑھو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس نماز کو نماز خضر کہتے ہیں۔ تحقیق یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی نماز ہے جو کوئی یہ نماز پڑھتا ہے۔

خضر علیہ السلام سے اس کی تلاوت ہوتی ہے
marfat.com

اس کے بعد سنت نمازوں میں سورتوں کا تعین فرمایا۔ صبح کی نماز کی سنتوں میں فاتحہ کے بعد الم نشرح اور الم تر کیف۔ اور نماز ظہر کی چار رکعتوں میں سے ایک میں سورۃ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ مَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اور نماز ظہر کی دو رکعت سنت میں آیت الکرسی اور آمن الرسول صبح کی نماز کی سنتوں میں إِذَا زُلْزِلَتْ الْأَرْضُ تَأْتِي هُكْمًا تُكَاثِرُ اور شام کی نماز کی سنتوں میں سورۃ کافرن اور سورۃ اخلاص اور سونے کی نماز (عشاء) میں آیت الکرسی وَأَمِنَ الرَّسُولُ اور مَشِيدَ اللَّهُ اور قُلِ اللَّهُمَّ مَا لِكَ الْعُلْكِ اور عشاء کی نماز کی دو رکعت سنت میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور اخلاص اور نماز وتر میں إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَسُورَةُ الْكَافِرُونَ وسورة اخلاص۔

بیسویں مجلس

اسی مہینے کی ستائیسویں تاریخ جمعرات کو قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ ذکر صبر جمیل کا ہو رہا تھا۔ اس معنی میں کہ خلق میں اعزہ کی وفات پر جو لوگ صبر کرتے ہیں وہ بڑا کام کرتے ہیں برخلاف ان کے جو بے صبری (کا مظاہرہ) کرتے ہیں۔ اور مرنے والے کا نام لے لے کر بن کرتے ہیں۔ یہ کچھ چیز نہیں ہے۔

اس درمیان فرمایا کہ کہتے ہیں حکیم بقراط کے بیس لڑکے تھے۔ ایک ہی دن میں اس کے بیسوں کے بیس لڑکے مر گئے۔ شاید چھت ان پر گر پڑی تھی۔ بیسوں لڑکے ہلاک ہو گئے۔ جب یہ خبر بقراط کو پہنچائی گئی تو اس حادثے پر اپنی طبیعت کو متغیر نہیں کیا۔

اس سلسلے میں حکایت بیان فرمائی کہ مجنون کو خبر کی گئی کہ لیلیٰ مر گئی۔ بولا کہ تف ہے مجھ پر ایسے سے میں نے دوستی ہی کیوں کی جو مر جائے!

اس کے بعد رات ہو گئی تو جمعے کی رات تھی۔ کوئی عورت خدمت میں آئی اور بیعت کی۔ عورتوں کی صلاحیت کے ثمرے کے بارے میں بہت نکتے بیان فرمائے۔ اسی درمیان فرمایا کہ ایک خاتون تھیں۔ اندر پت میں ان کو عمہ پکارتے تھے۔ بڑی باعفت و باصلاحیت۔ چنانچہ

بارہا شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبان مبارک پر آیا کہ وہ عورت ایک مرد ہے جس کو عورتوں کی صورت میں بھیجا گیا ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ درویش لوگ نیک عورتوں اور نیک مردوں کی حرمت سے جو دعا مانگتے ہیں۔ تو پہلے نیک عورتوں کی دہائی دیتے ہیں اس اعتبار سے کہ نیک عورتیں کم ہوتی ہیں۔

اس کے بعد فرمایا کہ جب شیر جنگل سے نکلتا ہے تو کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ شیر زہے یا مادہ۔ یعنی بت تو جب ہے کہ آدم کا فرزند طاعت و تقویٰ میں مشہور ہو چاہے مرد ہو چاہے عورت۔

اس کے بعد پارساؤں کی فضیلت اور ان کی حکایت کے سلسلے میں یہ دو مصرعے زبان مبارک پر آئے۔

گر نیک آیم مرا ازیشان گیرند
ور بدباشم مرا بدیشان بخشند
ترجمہ: اگر میں نیک ہوں تو ان میں میرا حشر ہو، اور اگر میں بد ہوں تو ان سے طفیل مجھے بخش دیا جائے۔

اکیسویں مجلس

اسی سال ماہ مبارک رجب کی تیرھویں تاریخ پہنچنے کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ بندے سے پوچھا کہ تم زیادہ تر کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو؟ بندہ نے آپ کے بعض بزرگ مریدوں کے نام لئے اور عرض کیا کہ ان کی خدمت میں رہتا ہوں۔ آفرین فرمائی اور یہ شعر زبان مبارک پر آیا۔

با عاشقان نشین و غم عاشقی گزین

باہر کہ نیست عاشق کم شو باو قرین

ترجمہ:۔ عاشقوں کے ساتھ بیٹھو اور عاشقی کا غم کھاؤ، اور جو عاشق نہ ہو اس سے قربت

کم رکھو۔

marfat.com

Marfat.com

یہ شعر پڑھا اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ ابو سعید الخیر رحمۃ اللہ علیہ کا کہا ہوا ہے۔ پھر فرمایا کہ مشائخ کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی کا حال معلوم کرنا چاہتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ (فلاں) کن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا رکھتا ہے۔ اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کس قبیل کا ہے۔ پھر لیلۃ الرغائب کی فضیلت کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ رغائب جمع ہے رغیب (مرغوب) کی یعنی اس رات میں بہت سی نیکیاں ہیں۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک نماز جو لیلۃ الرغائب میں آئی ہے جو کوئی اس کو ادا کرتا ہے وہ اس سال میں نہیں مرتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک شخص تھا جو برابر یہ نماز پڑھتا تھا۔ جس سال اس کی وفات ہوئی تھی جب سال ختم پر آیا تو وہ رات جو لیلۃ الرغائب ہوتی تھی اسی کے دن میں وفات پائی یعنی اس پورے سال تک جی لیا۔

پھر حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی نماز کا ذکر آیا۔ ارشاد ہوا کہ یہ نماز تیسری چوتھی پانچویں رجب کو ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تیرھویں چودھویں پندرھویں بھی آیا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک روایت سے اس طرح بھی ہے کہ تیسویں یا چوبیسویں یا پچیسویں۔

اس کے بعد اس نماز کی فضیلت میں بہت کچھ فرمایا۔ اسی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ مدرسہ معزی میں ایک مولوی تھے۔ مولانا زین الدین کہتے تھے۔ بڑے دانشمند آدمی تھے۔ جو بھی مسئلہ ان سے پوچھا جاتا شافی جواب دیتے اور مباحثے میں فلسفیانہ طریقے سے حصہ لیتے۔ ان سے ان کی تعلیم کا حال پوچھا گیا۔ بولے میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے۔ اور کسی کی شاگردی نہیں کی ہے۔ جب بوڑھا ہو گیا تو ایک دفعہ خواجہ اویس قرنی کی نماز پڑھی۔ اور دعا کی الٹی میں پڑھنے کو پہنچ گیا اور کچھ تعلیم حاصل نہ کی مجھے علم کی کرامت فرما۔ حق تعالیٰ نے اس نماز کی برکت سے علم کا دروازہ مجھ پر کھول دیا۔ یہاں تک کہ جس مسئلے کی گفتگو آتی ہے۔ میں بخوبی اس کی تشریح کرتا ہوں اور پوری درستی کے ساتھ اسے بیان کرتا ہوں۔

اس کے بعد فرمایا کہ آخر رجب میں بھی ایک نماز آئی ہے۔ درازی عمر کے لئے اس سلسلے میں حکایت بیان فرمائی کہ شیخ بدر الدین غزنوی علیہ الرحمۃ والغفران متواتر یہ نماز پڑھتے تھے۔

اس کے بعد فرمایا کہ میں نے شیخ ضیاء الدین پانی پتی علیہ الرحمۃ کے صاحبزادے شیخ نظام الدین سے سنا ہے کہ جس سال میں شیخ بدر الدین غزنوی علیہ الرحمۃ والغفران کی وفات تھی۔ اس سال انہوں نے یہ نماز ادا نہیں کی۔ ان سے کہا گیا کہ اس سال یہ نماز آپ نے

کیوں نہیں ادا کی؟ بولے میری عمر میں اب کچھ باقی نہیں ہے۔ وہی ان کی وقت کا سال تھا۔

بائیسویں مجلس

اسی سال ماہ رجب کی تیسویں تاریخ منگل کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی کعبے اور اس کی عمارت اور اس کی خرابی کا ذکر آیا۔ ارشاد ہوا کہ کعبے کو دوبار خراب کیا گیا ہے۔ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ کعبے کو دوبار خراب کریں گے۔ تیسری بار آسمان پر لیجائیں گے اور یہ آخر زمانے میں ہو گا۔ اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور اس طرح ہو گا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو بتوں کو لائیں گے۔ اور کعبے میں رکھیں گے اور وہ قبیلہ کہ جس کا نام اوس ہو گا اس کی عورتیں آئیں گی اور ان بتوں کے سامنے رقص کریں گی۔ اس وقت کعبے کو آسمان پر اٹھالیا جائے گا۔

تیسویں مجلس

اسی سال شعبان کی گیارہویں تاریخ ہفتے کو قدم بوسی کی سعادت ہاتھ آئی بندے کو سامنے بلا کر فرمایا کہ تمہیں چاہئے کہ ہمیشہ طاعت و عبادت میں مشغول رہو اور اوراد اور دعاؤں کے پڑھنے میں محنت کرو۔ اور چاہے مشائخ کی کتابوں کے مطالعے میں رہو۔ (غرض یہ کہ مشغول رہو۔ اور بیکار نہ رہو۔ اس کے بعد خاص اپنے لباس سے مشرف فرمایا اور کلاہ اور کرتا پہنایا۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۰۰

چوبیسویں مجلس

اسی مہینے کی پچیسویں تاریخ ہفتے کو قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ شب بیداری اور قرآن کی تلاوت اور اس گروہ کا ذکر آیا جو مسجد میں شب بیداری کرتا ہے۔ بندے نے عرض کی اگر اپنے گھر میں شب بیداری کریں تو کیسا ہے؟ فرمایا کہ اپنے گھر میں سیپارہ پڑھنا بہتر ہے اس سے کہ مسجد میں ختم قرآن کریں اس کے بعد کسی کا ذکر آیا کہ جو اگلے وقتوں میں دمشق کی مسجد میں ہمیشہ شب بیدار رہتا تھا۔ اور ساری رات قیام کرتا تھا نفل پڑھتا تھا) شیخ

الاسلام کے عہدے کی امید میں اس درمیان خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر آنکھ میں آنسو بھرائے اور زبان مبارک سے فرمایا پھونک دو پہلے شیخ الاسلامی کو اور پھر خانقاہ کو اور اس کے بعد خود کو۔ اس درمیان حکایت بیان فرمائی کہ بقال (بیٹے) تھے علیہ الرحمۃ جو پچیس سال روزے سے رہے اور کسی کو ان کے حال کی خبر نہ ہوئی۔ اس حد تک کہ ان کے گھروالوں کو بھی معلوم نہ ہوا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں۔ اگر گھر میں ہوتے یہ ظاہر کرتے کہ دوکان میں کوئی چیز کھالی ہے۔ اور اگر دوکان میں ہوتے تو یہ ظاہر کرتے کہ گھر میں کچھ کھالیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اصل میں نیت نیک ہونی چاہئے کیونکہ غلق کی نظر تو عمل پر ہے۔ لیکن خدا کی نظر نیت پر ہے۔ جب نیت خدا کی طرف ہو تو تھوڑا سا عمل بھی پسندیدہ ہے۔

اس باب میں قصہ سنایا کہ دمشق کی جامع مسجد میں وقف بہت ہے۔ اس جگہ کا متولی بڑا حیثیت دار ہوتا ہے۔ گویا دوسرا بادشاہ ہو۔ اس درجے کہ اگر بادشاہ کو مال کی ضرورت ہو تو متولی سے قرض لیتا ہے۔ الغرض ایک درویش نے ان اوقاف کے لالچ میں دمشق کی جامع مسجد کے اندر طاعت و عبادت کا آغاز کیا کہ شاید شہرت ہو جائے اور تولیت اس کو دیدیں۔ ایک مدت طاعت میں مشغول رہا کسی نے اس کا نام تک نہ لیا۔ یہاں تک کہ ایک رات اس دکھاوے کی طاعت پر پشیمان ہوا اور خدا تعالیٰ سے عہد کیا کہ تجھ کو خاص تیری خاطر پوجوں گا۔ اس عہدے کی خاطر نہیں یہ عہد کیا اور وہی طاعت جو کر رہا تھا اس میں کچھ کمی نہ کی۔ صالح نیت کے ساتھ اس میں مشغول رہا۔ اس کے بعد ہی اس کو تولیت کے منصب کے لئے بلایا گیا۔ بولا نہیں میں نے اسے ترک کر دیا ہے۔ بہت اس کی طلب میں رہا۔ اب جبکہ ترک کی ٹھانی ہے تو مجھے عنایت کر رہے ہیں۔ الغرض اسی طرح خدا میں مشغول رہا اور شغل سے آلودہ نہیں ہوا۔

پچیسویں مجلس

ماہ رمضان (اس کی برکتیں عام ہوں) کی نویں تاریخ جمعے کو قدم بوسی تک سعادت سے مشرف ہوا۔ حاضرین میں سے کسی نے یہ بات بیان کی کہ ایک شخص تھا۔ بڑی صلاحیت والا اور درویشوں کی خدمت کا بڑا مشتاق۔ اس سے میں نے کہا کہ تم خواجہ کے مرید کیوں نہیں ہو جاتے۔ اس نے جواب دیا کہ میں ایک دفعہ بیعت کی نیت سے وہاں گیا تھا۔ وہاں میں نے

نفس کپڑے بچھے ہوئے اور شمعیں جلتی ہوئی دیکھیں۔ میرا اعتقاد ڈانواں ڈول ہو گیا۔ میں واپس چلا آیا، خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے جب یہ بات سنی تو حاضرین کی طرف دیکھا اور فرمایا۔ یہاں جامہ ہائے خواب (۱۱) اور شمعیں کب تھیں؟ اس کے بعد مسکرا کر فرمایا کہ چونکہ بیعت کی دولت اس کی قسمت میں نہ تھی تو اس کو ایسا ہی دکھایا گیا اس درمیان بندے نے عرض کی کہ جامہ ہائے خواب اور شمعیں اگر ہوں بھی تو اعتقاد کیوں خراب کیا جائے؟ زبان مبارک سے فرمایا کہ بعض کا اعتقاد ذرا سی چیز سے بدل جاتا ہے۔ اور بعض کا اعتقاد مضبوط ہوتا ہے اور ارادت میں پوری طرح پکا

پھر فرمان پیر کی نگاہداشت کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ ایک دفعہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس سرہ العزیز ایک دعا ہاتھ میں لئے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے کہ کوئی ہے جو اس دعا کو یاد کر لے اس میں سمجھ گیا کہ ان کا مقصود یہ ہے کہ میں یاد کروں۔ میں آداب بجالایا اور عرض کی اگر حکم ہو تو بندہ یاد کر لے۔ وہ دعا مجھے عطا فرمادی۔ میں نے عرض کی کہ ایک دفعہ شیخ کے سامنے پڑھ لوں۔ پھر یاد کروں۔ ارشاد ہوا پڑھو۔ جب میں نے پڑھا تو ایک اعراب کی اصلاح فرمائی کہ اس طرح پڑھو۔ میں نے جس طرح شیخ نے فرمایا تھا پڑھا۔ اگرچہ جس طرح میں نے پڑھا تھا وہ بھی معنی رکھتا تھا۔ قصہ اسی وقت وہ دعا مجھے دل سے یاد ہو گئی۔ میں نے عرضداشت کی کہ دعا یاد کر لی ہے۔ حکم ہو تو پڑھوں ارشاد ہوا پڑھو میں نے دعا سنائی اور وہ اعراب جو شیخ نے بتایا تھا اس کو اسی طرح پڑھا۔ جب شیخ کی خدمت میں سے باہر آیا تو مولانا بدر الدین اسلمی علیہ الرحمۃ والغفران نے مجھ سے کہا کہ تم نے اچھا کیا ہے کہ اعراب اسی طرح پڑھے جیسے شیخ نے بتائے تھے۔ میں نے کہا اگر سیویہ جو اس علم کو وضع کرنے والا ہے اور وہ سب جو اس علم کے بانی ہوئے ہیں۔ آئیں اور مجھ سے کہیں کہ اعراب اسی طرح ہیں جس طرح تم نے پڑھے تھے (تب بھی) میں اسی طرح پڑھوں گا جس طرح شیخ نے فرمایا ہے۔ مولانا بدر الدین نے کہا یہ آداب جو تم ملحوظ رکھتے ہو ہم میں سے کسی کو بھی میسر نہیں

پھر پیر کی بارگاہ کے آداب کا ذکر آیا۔ ارشاد ہوا کہ میں نے شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز سے سنا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک جرأت اپنے پیر شیخ قطب الدین قدس اللہ العزیز کے سامنے کی تھی۔ اور ہوا یہ کہ میں نے ایک دفعہ شیخ سے اجازت مانگی کہ چلہ کروں۔ اور گوشہ نشین ہو جاؤں۔ شیخ قطب الدین قدس سرہ العزیز نے

فرمایا کہ ضرورت نہیں ہے۔ اس سے شہرت حاصل ہوتی ہے ہمارے خواجگان سے ایسی روایت نہیں ہے... میں نے جواب دیا کہ شیخ پر میرا حال روشن ہے کہ میری نیت شہرت کی ذرا بھی نہیں ہے۔ میں شہرت کے لئے نہیں کہتا۔ شیخ قطب الدین خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد میں باقی ساری عمر سخت شرمندہ رہا اور توبہ کرتا رہا کہ ایسا جواب کیوں دیا جو ان کے حکم کے موافق نہیں تھا۔

جب یہ حکایت پوری ہو گئی، خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے قصہ سنایا کہ مجھ سے بھی ایک دفعہ شیخ کے سامنے بے ارادہ ایک جرأت ہو گئی تھی۔ اور ہوا یہ کہ ایک روز عوارف کا نسخہ شیخ کے سامنے تھا۔ اس میں سے فوائد بیان فرما رہے تھے شاید وہ نسخہ باریک خط میں لکھا ہوا اور کسی قدر خراب حالت میں تھا۔ شیخ اس کے بیان کرنے میں کسی قدر اٹکتے تھے۔ میں نے ایک دفعہ دوسرا نسخہ شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دیکھا تھا۔ مجھے وہ یاد آگیا عرض کیا کہ شیخ نجیب الدین کے پاس صحیح نسخہ ہے۔ شاید یہ بات خاطر گرامی پر گراں گزری کچھ توقف فرمایا پھر زبان مبارک سے گویا ہوئے۔ یعنی درویش میں سقیم نسخے کی صحت کی طاقت نہیں ہے؟ ایک دو باریکی بات زبان مبارک پر آئی اور میرے دل میں ذرا بھی خیال نہیں تھا کہ کس کے بارے میں فرماتے ہیں۔ اگر میں نے جان بوجھ کر اس نیت کے ساتھ یہ بات کہی ہوتی تو اپنے بارے میں سوچتا بھی کہ یہ بات مجھ سے متعلق ہے۔ جب دو تین بار یہ بات فرمائی تو مولانا بدر الدین اسحاق علیہ الرحمۃ والغفران نے مجھ سے کہا کہ شیخ یہ بات تمہارے بارے میں فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا اور سر ہٹا کر لیا اور شیخ کے قدموں پر گر پڑا اور عرض کی پناہ بخدا جو اس بات سے میرا مقصود مخدوم کی طرف کنایہ رہا ہو میں نے ایک نسخہ دیکھا تھا۔ اس کا ذکر کر دیا۔ میرے دل میں اور کوئی چیز نہیں تھی۔ ہر چند کہ میں معذرت کرتا تھا۔ ناخوشی کا اثر اسی طرح شیخ میں دیکھتا تھا۔ جب وہاں سے اٹھا تو سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کروں۔ کسی کو ایسا دن اور غم نہ ملے جیسا اس روز مجھے تھا۔ مجھے رونا آنے لگا۔ مضطرب اور حیران باہر آیا۔ یہاں تک کہ ایک کنوئیں پر پہنچا چاہتا تھا کہ خود کو اس کنوئیں میں گرا دوں پھر میں نے تامل کیا اور اپنے آپ سے کہا کہ تم تو گدائے مردہ ہو اپنے آپ کو مردہ ہی سمجھو مگر یہ بدنامی کسی اور پر نہ آجائے۔

اس حیرت و حسرت میں سر اسید ہو کر باہر جنگل کی طرف نکل گیا اور آپ ہی گریہ و زاری کرتا رہا۔ خدا ہی جانتا ہے کہ اس وقت میرا کیا حال تھا۔ الغرض شیخ کے ایک صاحبزادے تھے شہاب الدین لقب۔ میرے اور ان کے درمیان محبت کا تعلق تھا۔ ان کو اس حال کی خبر ہوئی۔ شیخ کی خدمت میں گئے اور میری کیفیت عمدگی سے خدمت میں عرض کی۔ حضرت شیخ نے اپنے لڑکے محمد کو بلائے کے لئے بھیجا۔ میں آیا سر قدم مبارک میں رکھ دیا۔ اس وقت خوش ہوئے دوسرے روز مجھے سامنے بلایا۔ اور بہت شفقت اور مرحمت فرمائی۔ اور ارشاد ہوا کہ یہ سب تمہارے کمال جال کے لئے کرتا ہوں۔ یہ لفظ اس روز حضرت سے میں نے سنا کہ پیر مرید کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اس وقت مجھے خلعت عطا ہوا اور اپنے خاص لباس سے مشرف فرمایا۔ وَالْحَفْظُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

پچیسویں مجلس

اسی سال اور اسی مہینے کی اکیسویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی دولت تک رسائی ہوئی۔ طاعت کی کوشش کا ذکر نکلا۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ شروع میں جب لوگ طاعت کا آغاز کرتے ہیں تو یقیناً نفس پر گراں گزرتا ہے۔ اور دشوار نظر آتا ہے۔ لیکن جب کوئی دل سے اس میں لگ جاتا ہے تو حق تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور اس کام کو اس پر آسان کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو بھی کام ہو ابتداء میں مشکل لگتا ہے مگر جب لوگ شروع کر دیتے ہیں تو آسانی سے پورا ہو جاتا ہے۔

اس کے بعد حکایت بیان فرمائی کہ شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کی بارہا خواہش ہوئی کہ جوامع الکلیات کی ایک کاپی نقل کرائیں۔ آمدنی بہت محدود تھی اور کتابت کا سامان اور کاتب کی اجرت بڑی ناقابل برداشت۔ یہاں تک کہ اگر کلغذ حاصل کرتے تو کتابت کا خرچ نہ ہوتا اور اگر یہ خرچ ہاتھ آتا تو کلغذ اور دو سرا سامان نہ ہوتا۔ الغرض ایک روز حمید نامی ایک کاتب ان کے پاس آئے۔ شیخ نجیب الدین نے فرمایا کہ زمانے سے آرزو ہے کہ

جوامع الخلیات کو لکھواؤں۔ مگر کسی طرح میسر نہیں آتا۔ حید نے عرض کی اس وقت کیا موجود ہے؟ شیخ نے فرمایا ایک درم حید نے وہ ایک درم لیا۔ اور اس سے کلغز خرید لایا اور کتابت کرنے لگا۔ ظاہر ہے ایک درم میں چند ہی کلغز آئے ہوں گے۔

مختصر یہ کہ اس نے ابھی ان کلغزوں پر کتابت کھل بھی نہ کی تھی کہ دوسری نذر حضرت متوکلؒ کو پہنچ گئی اور مزید کلغز کا سامان ہو گیا اور دوسری چیزیں بھی فراہم ہو گئیں اور کتابت کی اجرت بھی اسی میں سے نکل آئی۔ اس کے بعد متواتر کچھ نہ کچھ آتا رہا اور وہ کتابت بہت جلد اور خوبی کے ساتھ کھل ہو گئی خلاصہ یہ کہ جب کام کی ابتداء ہو گئی تو پورا بھی ہو گیا۔

پھر شیخ نجیب الدین متوکلؒ کے مناقب اور ان کے اعتقاد کی خوبی تک بات پہنچی۔ فرمایا کہ ایک روز میں ان کی خدمت میں بیٹھا تھا۔ اور اس وقت میرے سر پر بل (۱۳) تھے۔ میں ان سے مخاطب ہوا تو عرض کی کہ ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اس نیت پڑھئے کہ میں قاضی بن جاؤں شیخ نجیب الدین خاموش ہو گئے۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید سنا نہیں۔ دوسری بار عرض کیا کہ ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اس مقصد سے پڑھئے کہ میں کسی جگہ قاضی ہو جاؤں پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ یہاں تک کہ تیسری مرتبہ جب میں نے عرض کیا تو مسکرائے اور فرمایا تو قاضی مشو چیزی دیگر شوی یعنی قاضی نہ بنو چیزی بنو الغرض حضرت خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا انہیں اس کام سے کس قدر نفرت تھی کہ فاتحہ بھی نہ پڑھی۔

پھر بخشش و مغفرت کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس ایک درم تھیلی میں ہو اور وہ ضرورت کے وقت چاہے کہ اس درہم کو تھیلی میں سے نکالے اور وہ درم تھیلی کے کسی کونے میں چھپا رہ جائے اور اس شخص کے ہاتھ نہ آئے اور وہ سوچے کہ کہیں کھو گیا اور غمگین ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ اس حدیث میں اس شخص کے بارے میں وعدہ ہے کہ جس کے پاس بس وہی ایک درم ہو۔ کیونکہ اگر کسی کے پاس بہت سے درم ہوں اور ان میں سے ایک درم گم ہو جائے تو

وہ مغموم نہیں ہوتا۔ البتہ وہ شخص جس کے پاس بس ایک ہی درم ہو اور وہ گم ہو جائے تو وہ مغموم ہو جاتا ہے اور حق تعالیٰ اس کی بخشش فرمادیتا ہے۔ ان معانی کا اظہار اس روز ہوا اور یہی دن تھا کہ خلعت اور خاص جو تیاں بخش فرمائیں۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

ستائیسویں مجلس

اسی سال اسی مہینے کی اٹھائیسویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی حسب عادت دہلیز کی چھت پر تشریف فرماتے۔ دروازے کے پاس ایک زینہ (سیڑھیاں) تھا۔ جب بندے نے سر زمین پر رکھا تو اشارہ فرمایا کہ وہیں زینے کے پاس بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ جب بھی دروازے کے ایک پٹ پر ہوا کا جھونکا لگتا وہ بند ہو جاتا۔ بندے نے اس دروازے کو اپنے ایک ہاتھ سے مضبوط پکڑ لیا تاکہ کھلا رہے۔ کچھ وقت گزرا۔ بندے کی طرف نگاہ فرمائی دیکھا کہ در پکڑے بیٹھا ہوں۔ ارشاد ہوا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ بندے نے سر زمین پر رکھ دیا اور عرض کی کہ میں نے یہ در پکڑ لیا ہے! تبسم فرمایا اور ارشاد ہوا کہ تم نے یہ در پکڑا ہے اور مضبوط پکڑا ہے! اس کے بعد زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ شیخ بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ بارہا فرماتے کہ ہر درری اور ہر سری نہ بنو۔ ایک در پکڑو اور مضبوط پکڑو

اس کے بعد حکایت بیان فرمائی کہ ایک روز صبح کے وقت کوئی دیوانہ ایک دروازے پر کھڑا تھا۔ جب دروازہ کھولا گیا تو خلقت باہر آئی۔ ہر شخص کسی جانب روانہ ہو گیا کوئی دائیں طرف کوئی بائیں طرف کوئی سامنے ہر ایک کسی طرف چلا گیا۔ دیوانے نے جب یہ دیکھا تو بولا کہ یہ لوگ پراگندہ اور الگ الگ اور مخالف جاتے ہیں جب ہی تو کسی ٹھکانے پر نہیں پہنچتے۔ اگر سب ایک راہ جائیں تو مقصود تک پہنچ جائیں۔

قلت طعام کا ذکر نکلا اور اس بات کا کہ بھرے پیٹ کھانے کا کیا نفع و نقصان ہے۔ پھر زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ بھرے پیٹ کچھ کھانا دو آدمیوں کے سوا کسی کے لئے درست نہیں ہے۔ ایک تو وہ جس کے ہاں کوئی مہمان آیا ہوا ہو۔ اگرچہ وہ شخص سیر ہو چکا ہو تاہم اس خیال سے کہ مہمان کچھ کھالے اس کو جائز ہے کہ کسی قدر بھرے پیٹ پر بھی مزید

کھالے۔ دوسرے وہ روزے دار جس کے لئے سحری کا سلمان نہ ہو اور وہ جانتا ہو کہ سحری کے وقت کوئی چیز نہ ہوگی اگر وہ ہچکا ہوا ہونے پر مزید کچھ کھالے تو جائز ہے۔

پھر مسنون دعاؤں کا ذکر نکلا۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مصیبت اور بلا میں گرفتار ہو کہ کسی علاج سے بھی وہ مصیبت اور بلا دفع نہ ہوتی ہو تو جمعے کے روز عصر کی نماز کے بعد غروب کے وقت تک کسی کام میں نہ لگے سوائے ان تین اسماء کے ذکر کے اور ان تینوں کو ایک ساتھ پڑھے۔ وہ تین اسم یہ ہیں۔ **يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ** ضرور اس رنج سے خلاص مل جائے گی۔

اٹھائیسویں مجلس

اسی سال ماہ شوال کی آٹھویں تاریخ ہفتے کو قدم بوسی کی سعادت تک رسائی ہوئی۔ اس روز اس ادنا غلام (حسن علا بجزی) نے ان معافی کے جمع کرنے کا حال عرض کیا۔ بڑا اچھا وقت اور بڑی باراحت خلوت تھی۔ بندے نے سر زمین پر رکھا اور گویا ہوا کہ میری ایک عرضداشت ہے اگر حکم ہو تو پیش کروں ارشاد ہوا ضرور کہو۔ بندے نے عرض کی کہ ایک سال سے زیادہ ہو گیا کہ مخدوم کی غلامی میں داخل ہوں۔ اور ہر بار جب بھی قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی ہے۔ زبان گو ہر بار سے فوائد سنے ہیں چاہے وعظ و نصیحت اور طاہت کی ترغیب ہو چاہے حکایات مشائخ اور ان کے احوال۔ ہر باب میں روح افزا کلمات اس لکھنے والے کے کان تک پہنچے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ بیچارے کا دستور عمل بلکہ مجھ در ماندہ کے لئے راستے کے رہنما بن جائیں۔ ان کو اپنی فہم کے بقدر میں نے قلم بند کر لیا ہے اس لئے بھی کہ بارہا زبان مبارک پر آیا ہے کہ کتاب مشائخ اور ان کے ارشادات جو انہوں نے سلوک کے بارے میں فرمائے ہیں نظر کے سامنے رکھنے چاہئیں۔ پس کوئی بھی مجموعہ میرے مخدوم کے جان بخش ملفوظات سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ پس اس وجہ سے بندے نے جو کچھ بھی زبان مبارک سے سنا جمع کر لیا اور اب تک اس کا اظہار نہیں ہے حکم کا منتظر ہوں کہ کیا فرمان صادر ہوتا ہے۔ جب خواجہ ذکری اللہ بالخیر نے یہ عرضداشت سنی تو دکایت بیان فرمائی کہ جب میں حضرت شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں پہنچا تو یہی بات میرے دل میں بھی آئی تھی کہ جو کچھ حضرت کی زبان مبارک سے سنا کروں گا لکھ لیا کروں گا

اول روز دست بوسی کی دولت ملی تو پہلی بات جو شیخ سے سنی یہ تھی کہ زبان مبارک سے فرمایا۔

اے آتش فراق دلہا کباب کردہ

سیلاب اشتیاق جاننا خراب کردہ

ترجمہ:- اے کہ تیرے فراق کی آگ نے دلوں کو کباب کر دیا اور تیرے اشتیاق کے سیلاب نے جانوں کو کھنڈر کر رکھا ہے۔

اس کے بعد میں نے چاہا کہ قدم بوسی کے اشتیاق کا حل حضرت کی خدمت میں کچھ عرض کروں۔ مگر حضرت شیخ کی موجودگی کے رعب نے مجھ پر غلبہ کیا صرف اس قدر کہ سکا کہ حضور عالی کی قدم بوسی کا اشتیاق بہت ہی غالب ہو گیا تھا۔ جب شیخ نے رعب کا اثر مجھ پر دیکھا تو یہ لفظ زبان مبارک پر آیا۔ لِكُلِّ نَلِجِلٍ نَدْبَشَةٌ ہر آنے والا کچھ مرعوب ہوتا ہے۔ الغرض اس روز شیخ سے میں نے جو کچھ سنا اپنے مقام پر واپس آنے کے بعد اسے لکھ لیا۔ اس کے بعد جب بھی کچھ سنا اس کو میں قلم بند کر لیتا تھا۔ یہ بات میں نے شیخ کو بتائی چنانچہ بعد میں جب کبھی کوئی حکایت یا کوئی نکتہ بیان فرماتے تو پوچھ لیتے کہ تم موجود ہو؟ اس درجے (اس کا اہتمام تھا) کہ اگر میں موجود نہ ہوتا تو جب دوبارہ خدمت میں حاضر ہوتا تو وہ قاعدہ جو میری غیر موجودگی میں بیان فرمایا تھا اس کو دہراتا

اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ میں نے ایک کرامت دیکھی کہ انہی دنوں میں ایک شخص نے مجھے سفید کانڈ بکجا بجلد کئے ہوئے پیش میں نے وہ لے لئے اور شیخ الاسلام کے فوائد سب ان پر لکھ لئے۔ اوپر لکھا کہ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ اس کے بعد وہ کلمات جو شیخ سے سن چکا تھا لکھے اور ابھی تک وہ مجموعہ میرے پاس ہے۔

یہ احوال بیان فرمانے کے بعد بندے سے فرمایا کہ وہ کانڈ جن پر تم نے لکھا ہے لائے ہو؟ بندے نے عرض کی جی ہاں لایا ہوں۔ ارشاد ہوا لاؤ۔ بندے نے چھ شیٹ کانڈ جن پر لکھ چکا تھا لا کر دست مبارک میں دے دیئے انہیں مطالعے کا شرف عطا فرمایا اور تعریف فرمائی ارشاد ہوا کہ اچھا لکھا ہے۔ اور جیسے جیسے پڑھتے جاتے فرماتے جاتے اچھا

لکھا ہے۔ ایک دو جگہ میں نے جگہ خالی چھوڑ دی تھی۔ پوچھا خالی جگہ کیوں چھوڑی ہے۔ عرض کی کہ یہ حروف اچھی طرح سمجھ میں نہیں آئے تھے۔ شفقت فرمائی اور ہر بات کا بقیہ حصہ بیان فرمایا وہ کلمات مکمل ہو گئے۔ یہ تھی اس روز کی شفقت و رحمت اور شکتہ پروری۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

پھر باری تعالیٰ کے فضل و رحمت کا ذکر آیا کہ خلق کے قیاس کے خلاف کار سازی فرماتا ہے۔ اس کے بعد حکایت بیان فرمائی کہ خلفائے بغداد میں سے کسی خلیفہ نے ایک جوان کو قید کیا، اس جوان کی ماں خلیفہ کی خدمت میں آئی اور روئی دھوئی کہ اس کے بیٹے کو چھوڑ دیں خلیفہ بولا کہ میں نے حکم دے دیا ہے کہ اس کو مستقل قید میں رکھا جائے۔ جب تک میری آل میں سے ایک آدمی بھی خلیفہ رہے گا تیرا بیٹا قید خانے میں رہے گا۔ میں نے اس طرح کا حکم دے دیا۔ بڑھیا نے جب یہ سنا تو آنکھوں میں آنسو بھر لائی اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کر بولی کہ خلیفہ نے تو خود یہ حکم دے دیا۔ اب تو کیا حکم کرتا ہے۔ خلیفہ نے یہ بات سنی اور اس کا دل پلٹ گیا۔ فرمان جاری کیا کہ بڑھیا کے بیٹے کو رہا کر دیں۔ اس کے بعد قیمتی گھوڑا بڑھیا کے بیٹے کو عطا کیا اور حکم دیا کہ اس جوان کو عطا کردہ گھوڑے پر سوار ہو کر بغداد میں گشت کرائیں اور اس کے سامنے یہ پکارتے چلیں یہ اللہ کا آزاد کردہ خلیفہ اللہ کے حکم خلاف یہ اللہ کی عطا ہے۔ خلیفہ کی مرضی کے خلاف!

پھر مرید کی قابلیت اور پیر کی بخشش کا ذکر آیا۔ اس درمیان حکایت بیان فرمائی شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کے مریدوں میں ایک شخص یوسف نامی تھے ایک دفعہ انہوں نے شیخ کے سامنے کسی قدر خفگی ظاہر کی کہ میں اتنے سال سے غلامی میں ہوں ہر شخص کو شیخ کی بارگاہ سے کچھ نہ کچھ بخشش ملی۔ مجھے تو ان سب سے پہلے ملنی چاہئے تھی۔ یہ بات اور اس طرح کی باتیں کہتے رہے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا کہ میری طرف سے کوئی کمی نہیں ہے۔ تیری طرف سے بھی تو استعداد اور قابلیت ہونی چاہئے۔ اور نہ میں اپنے پاس سے دیتا ہوں! اگر خدا تعالیٰ ہی نہ دے تو اس کو کیا کیا جائے؟ مرید اسی طرح حکایت کرتا رہا یہاں تک کہ اس درمیان شیخ کی نظر ایک چھوٹے سے کم عمر لڑکے پر پڑی اس سے فرمایا کہ آؤ۔ جہاں شیخ تشریف فرما تھے اس کے سامنے اینٹوں کا ڈھیر لگا رکھا تھا۔ شیخ نے اسی چھوٹے سے بچے

سے کہا کہ جاؤ ان اینٹوں میں سے ایک اینٹ ہمارے لئے لے آؤ۔ بچہ گیا اور ایک سالم اینٹ شیخ کے سامنے لا کر رکھ دی۔ ایک مرید شیخ کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ شیخ نے دوبارہ اس بچے سے کہا کہ جاؤ ایک اور اینٹ ان مرید کے لئے بھی لے آؤ وہ بچہ گیا اور پھر ایک سالم اینٹ ان مرید کے سامنے رکھ دی۔ اس کے بعد پھر شیخ نے اس بچے سے فرمایا کہ ایک دفعہ اور جاؤ اور ان مرید کے لئے بھی ایک اینٹ لے آؤ۔ اور یہ اشارہ ان یوسف صاحب کی طرف کیا وہ بچہ گیا اور آدمی اینٹ لایا اور ان کے سامنے رکھ دی شیخ نے فرمایا میں اس کو کیا کروں کیا میں نے یہ اپنی طرف سے کیا ہے؟ چونکہ تمہاری قسمت میں اتنا ہی تھا تو میری کیا ذمہ داری؟

انتیسویں مجلس

اسی سال ماہ شوال کی بیسویں تاریخ جمعرات کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ شیخ عثمان حرب آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت آئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ یہ بہت بڑے بزرگ تھے۔ ان کی ایک تفسیر ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ غزنین میں رہتے تھے۔ سبزی پکاتے اور بیچتے۔ شلغم اور چندر اور اسی طرح کی سبزیوں کی دیگ پکاتے اور بیچتے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں یہ شعر زبان مبارک پر آیا۔

حق شبان تاج نبوت وہد

ورنہ نہ نبوت چہ شائد شبان

ترجمہ:- حق تعالیٰ چرواہے کو نبوت کا تاج دے دیتا ہے ورنہ چرواہے نبوت کو کیا

جانیں۔

یعنی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد ان کے احوال میں سے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آتا اور کھوٹا درم ان کو دیتا اور جو کچھ انہوں نے پکایا ہوتا اسے خریدتا تو اس درم کو لے لیتے اگرچہ جانتے ہوتے کہ کھوٹا ہے مگر خریدار کے سامنے کچھ نہ کہتے۔ اور جو کھرا درم لاتا تو اس کو بھی کھانا دے دیتے۔ یہاں تک کہ غلط کو یہ خیال ہو گیا کہ ان کو کھرے کھوٹے کی تمیز نہیں ہے۔ اور بہت لوگ آتے اور کھوٹے درم دے دیتے اور وہ کھرے کی طرح لے لیتے اور ان پر ظاہر نہ کرتے اور کھانا ان کے حوالے کر دیتے تا آنکہ ان کے انتقال کا وقت آیا

انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولے خداوند تو خوب جانتا ہے کہ خلق مجھے کھوٹے درم دیتی تھی اور میں کھرے کی طرح انہیں قبول کرتا تھا اور ان کو واپس نہیں کرتا تھا (ان کے منہ پر نہ مارتا تھا) اگر مجھ سے بھی کوئی کھوٹی طاعت ہوئی ہو تو اپنے کرم سے اسے واپس نہ پھیرنا! (میرے منہ پر نہ مارتا)۔

اس کے بعد فرمایا کہ ایک دفعہ کوئی صاحب دل درویش ان کے پاس آئے اور ان کی دیگ میں سے کھانا طلب کیا۔ شیخ عثمان نے کفگیر دیگ میں ڈالا۔ جب باہر نکالا تو سب چھوٹے بڑے موتی تھے۔ وہ درویش بولے کہ میں ان کا کیا کروں؟ شیخ عثمان نے پھر کفگیر دیگ میں ڈال کر نکالا تو سب سونا نکلا۔ ان درویش نے کہا کہ وہ سب کنکر تھے اور یہ پتھر کس کام کے ہیں؟ اس دیگ میں سے ایسی چیز نکالو کہ میں کھا سکوں۔ تیسری مرتبہ شیخ نے کفگیر پھر باہر نکالا تو وہی سبزی باہر آئی جو پکائی تھی۔ ان درویش نے جب یہ حال دیکھا تو شیخ سے کہا اب تمہیں اس جگہ زیادہ نہیں رہنا چاہئے۔ اس کے چند روز بعد ہی شیخ عثمان رحمت اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے!

اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ جب درویش سے اس طرح کی کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو پھر اسے یہاں نہیں رہنا چاہئے اور حکیم سنائی نے اس بات کو نظم کیا ہے۔

میش منما جمال جان افروز چون نمودی بروسپند بسوز
آن جمال تو چیت مستی تو وان سپند تو چیت ہستی تو
ترجمہ:- اپنا جان افروز جمال زیادہ نہ دکھا اور اگر دکھایا ہے تو جا کلا دانا جلا تیرا وہ جمال
کیا ہے؟ تیری مستی اور تیرا وہ کلا دانہ کیا ہے؟ تیری ہستی

اس کے بعد زبان مبارک سے فرمایا کہ جو کچھ اولیاء ظاہر کر دیتے ہیں وہ ان کی مستی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اصحاب سکر ہیں۔ برخلاف انبیاء کے کہ وہ اصحاب صحو ہیں سنائی اس کو مستی کہتا ہے یعنی جب بھید کھول دیا تو پھر جانے میں دیر نہیں کرنی چاہئے۔ اس بات کو اس عبارت میں کہا ہے۔

آن جمال تو چیت مستی تو
وان سپند تو چیت ہستی تو
تیرا وہ جمال کیا ہے؟ تیری مستی اور تیرا کلا دانہ کیا ہے؟ تیری ہستی

اس کے بعد زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ آدمی کے کشف و کرامت راستے کا حجاب
ہیں کام کی چیز محبت میں استقامت ہے۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ۔

تیسویں مجلس

اسی سال ماہ ذی قعدہ کی تیسویں (تاریخ) پیر کے دن قدم بوسی کی سعادت حاصل
ہوئی۔ ایک جوان حاضر ہوا خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے اس سے پوچھا کہ تمہارے دادا کس پیر کے
مرید تھے؟ اس نے جواب دیا کہ شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ خواجہ
نے فرمایا کہ شیخ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ بہت کم کسی کو مرید کرتے تھے۔ اور یہی طریقہ
قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ اس مجلس میں مولانا برہان الدین غریب عمم
اللہ حاضر تھے انہوں نے پوچھا کہ ان کی مشیخت و بزرگی اللہ تعالیٰ اور ان کے شیخ کے طرف سے
ملی تھی پھر وہ کسی کو مرید کیوں نہیں کرتے تھے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ مرید کرنے نہ
کرنے سے ان کی بزرگی و مشیخت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے دو مرد
ہوں۔ ان دونوں میں قوت مردی موجود ہو۔ لیکن ایک اولاد والا بنے اور دوسرا نہ بنے۔ جو
اولاد والا بنے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی قوت مردی میں کوئی فرق ہے۔ اور ایسا بہت
دیکھا جاتا ہے۔ انبیاء کی امت میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ بروز قیامت
آمناء صدقہ جو بھی پیغمبر آئے گا اس کے ساتھ اس کی امت ہوگی۔ کسی کے ساتھ زیادہ امت
ہوگی۔ کسی کے ساتھ کم اور ایک پیغمبر تشریف لائیں گے جن کے ساتھ ایک ہی آدمی ہوگا۔
اب اس سے ان کی نبوت میں کوئی کمی یا خرابی تھوڑی ہوگی۔ پیر اور مریدوں کی مثال کو بھی
اسی پر قیاس کرنا چاہئے۔

اکیسویں مجلس

اسی سال ماہ ذی قعدہ کی اکیسویں تاریخ اتوار کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ سماع
کی بات چلی اور وجد جو اس میں ہوتا ہے۔ زبان مبارک پر ارشاد ہوا کہ تنانوے اسمائے الہی
میں الواجد بھی پڑھتے ہیں۔ الواجد کے معنی پالنے والے ہیں اس کے بعد فرمایا کہ الواجد کے معنی وجد

سے بھی آئے ہیں۔ یعنی وجد عطا کرنے والا جیسے کہ شکور اس کا نام ہے شکور اس کو کہتے ہیں جو شکر ادا کرے۔ لیکن یہاں اس کے معنی یہ ہیں کہ بندوں کے شکر کو قبول کرنے والا۔ اسی طرح الواجد ظاہر میں وہ ہو گا جو صاحب وجد ہو اور یہ بات پاک اور برتر خدا کے لئے درست نہیں ہوگی۔ پس اس جگہ واجد کے معنی وجد عطا کرنے والے کے ہیں۔

اس کے بعد شیخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا کہ وہ سماع نہیں سنتے تھے۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ شیخ نجم الدین کبریٰ علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے کہ ہر نعمت جو آدمی میں ممکن ہے وہ شیخ شہاب الدین کو دی گئی۔ سوائے ذوق سماع کے۔

اس کے بعد شیخ شہاب الدین کے شغل کے استغراق کی بات آئی۔ ارشاد ہوا کہ ایک دفعہ شیخ اوحد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ شہاب الدین کے پاس آئے شیخ نے اپنا مصلیٰ لپیٹا اور اپنے گھٹنے کے نیچے رکھ لیا اور یہ بات مشائخ کے نزدیک بہت تعظیم کی ہوتی ہے۔ الغرض جب رات ہوئی شیخ اوحد نے سماع کی فرمائش کی۔ شیخ شہاب الدین نے قوالوں کو بلایا اور سماع (قوالی) کی جگہ آراستہ کی خود ایک کونے میں چلے گئے۔ اور طاعت و ذکر میں مشغول ہو گئے۔ شیخ اوحد اور وہ لوگ جو اہل سماع تھے سماع میں مشغول ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو خانقاہ کا خادم شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ رات کو سماع تھا۔ لہذا اس جماعت کے لئے نہاری (ناشتہ) ہونی چاہئے۔ شیخ نے پوچھا کہ کیا رات کو سماع تھا؟ خادم نے عرض کی جی ہاں تھا شیخ نے فرمایا کہ مجھے خبر نہیں ہوئی۔ اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ شیخ شہاب الدین کی حالت استغراق کو دیکھو کہ اس طرح ذکر میں مشغول تھے کہ سماع کی اونچی آوازوں کی انہیں خبر نہ ہوئی اور ہر بار جب سماع کو بند کرتے تھے اور اہل سماع قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو شیخ اسے سنتے تھے مگر شیخ ان کے سماع کو اس قدر اونچی آواز کے باوجود نہ سنتے تھے۔ اس سے اندازہ کرو کہ وہ کس درجے شغل میں ہوتے تھے۔

اس کے بعد لاہور کے مزاروں کا ذکر نکلا۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ وہاں بہت سے بزرگ آرام فرما ہیں۔ اس کے بعد بندے سے پوچھا کہ تم نے لاہور دیکھا ہے؟ بندے نے عرض کی جی ہاں دیکھا ہے اور وہاں کے بعض بزرگوں کی زیارت بھی کی ہے جیسے شیخ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اولیاء۔

اس کے بعد زبان مبارک سے فرمایا کہ شیخ حسین زنجانی اور شیخ علی ہجویری رحمۃ اللہ

علیہما دونوں ایک ہی پیر کے مرید ہوئے ہیں اور وہ پیر اپنے عہد کے قطب تھے۔ شیخ حسین زنجانی ایک زمانے سے لاہور میں رہتے تھے۔ کچھ عرصے بعد ان کے پیر نے خواجہ علی ہجویری کو حکم دیا کہ لاہور جاؤ اور وہاں رہو۔ شیخ علی ہجویری نے عرضداشت کی حسین زنجانی وہاں موجود ہیں۔ پیر نے فرمایا کہ تم جاؤ اور جب علی ہجویری ان کے اشارے کے موافق لاہور میں پہنچے تو رات تھی۔ دوسری صبح شیخ حسین زنجانی کا جنازہ باہر لایا گیا پھر بات نظم کی آئی۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ بعض مشائخ کی شاعری اچھی ہے اور بہت ہے جیسے شیخ اوحہ کرمانی اور شیخ ابو سعید ابوالخیر اور دوسرے بزرگ رحمتہ اللہ علیہم اجمعین کا (کلام) خاص کر شیخ سیف الدین باخرزی رحمتہ اللہ علیہ خوب کہتے تھے اور شاعری میں انہیں بڑا غلو تھا۔ اس حد تک کہ مریدوں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ ہر شیخ کی کوئی کتاب اور تالیف موجود ہے آپ کوئی چیز کیوں نہیں لکھتے انہوں نے جواب دیا کہ میرا ہر شعر کتب کے برابر ہے۔

اسی روز اس بندۂ امیدوار (حسن علا بجزی) کو نماز اشراق تعلیم فرمائی دو رکعت میں آمین الرسول تا آخر سورۃ اور آیت اللہ نُوذُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تَاوَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اس کے بعد اور دو رکعت نماز استعاذہ (پناہ) کے لئے فرمایا پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ الفلق اور دوسری رکعت میں سورۃ الناس۔ اس کے بعد دو رکعت نماز استخارہ بتائی۔ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص۔ اور ان دو گانہ نمازوں کے فوراً بعد جو دعائیں آئی ہیں (ان کا حکم فرمایا) اس کے بعد فرمایا کہ دو رکعتیں اور ہیں وہ بھی بتاؤں گا یہ بات زبان مبارک سے فرمائی اور آنکھوں میں آنسو بھرا لائے اور فرمایا کہ جس روز شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز نے مجھ سے اشراق کے لئے فرمایا تھا۔ پہلے یہی چھ رکعتیں بتائی تھیں اور ارشاد ہوا تھا کہ دو اور بھی بتاؤں

گا

تیسویں مجلس

اسی سال ماہ ذی الحجہ کی گیارہویں تاریخ جمعرات کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی آداب مجلس اور پیر کی خدمت میں حاضری اور بیٹھنے کے آداب اور جگہ حاصل کرنے کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ ادب یہ ہے کہ جب کسی مجلس میں آئیں تو جو جگہ خالی دیکھیں وہاں بیٹھ جائیں

marfat.com

Marfat.com

یعنی جب پیر کی خدمت میں آئیں تو اونچی یا نیچی جگہ کے خیال میں نہ رہیں جہاں بھی خالی جگہ دیکھیں بیٹھ جائیں کہ آنے والے کی جگہ وہی ہوتی ہے۔

پھر فرمایا کہ ایک دفعہ رسول علیہ السلام والصلوة کیسی جگہ تشریف رکھتے تھے اور صحابہ حلقہ بنائے سرکار ﷺ کے اطراف بیٹھے تھے۔ اتنے میں تین آدمی حاضر ہوئے ایک کو اس دائرے میں جگہ مل گئی اور وہ فوراً وہاں آکر بیٹھ گیا۔ دوسرے کو اس حلقے میں جگہ نہیں ملی وہ دائرے کے پیچھے بیٹھ گیا تیسرے نے وہاں سے منہ موڑا اور واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے خبر دی کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص آیا اور اسے حلقے کے اندر جگہ مل گئی اور وہاں بیٹھ گیا ہم اسے اپنی پناہ میں جگہ دیتے ہیں اور جس کو دائرے میں جگہ نہیں ملی وہ شرماء کے حلقے کے پیچھے بیٹھ گیا ہم اس سے شرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس کو رسوا نہیں کریں گے۔ کہ جو شخص منہ پھیر چلا گیا ہماری رحمت بھی اس سے منہ موڑتی ہے۔ اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ ادب یہ ہے کہ جو بھی آئے مجلس میں جہاں جگہ خالی پائے بیٹھ جائے اور اگر جگہ نہ ہو تو حلقہ کے پیچھے بیٹھے بیچ میں نہیں بیٹھنا چاہئے کہ جو بیچ میں بیٹھتا ہے۔ وہ ملعون (لعنت کیا ہوا) ہوتا ہے!

تیسویں مجلس

اسی سال ماہ ذی الحجہ کی اکیسویں تاریخ اتوار کو ہاتھ چومنے کا شرف حاصل ہوا۔ قرآن کی تلاوت اور ترتیل اور اس کے پڑھنے کا جو حق ہے اس کا ذکر آیا۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ جب پڑھنے والے کو کسی آیت پر ذوق اور راحت حاصل ہو تو چاہئے کہ اس کی تکرار کرے اور راحت پائے۔

اس کے بعد فرمایا کہ تلاوت اور سماع کے دوران جو سعادت حاصل ہوتی ہے اس کی تین قسمیں ہیں۔ انوار اور احوال اور آثار۔ اور یہ تینوں تین عالموں سے نازل ہوتی ہیں۔ اور یہ تین عالم کون سے ہیں؟ یہ ہیں ملک اور ملکوت اور ان دونوں کے درمیان جبروت۔ اور وہ تین سعادتیں جو نازل ہوتی ہیں یہ تینوں ارواح اور قلوب اور اعضاء پر اترتی ہیں۔ پہلے انوار جو ملکوت سے ہوتے ہیں ارواح پر اس کے بعد احوال

جبروت سے قلوب پر پھر آثار ملک سے اعضاء پر یعنی اول سماع کے حال میں انوار نازل ہوتی ہیں۔ عالم ملکوت سے ارواح پر۔ اس کے بعد جو کچھ دل میں کیفیت ہو اسے احوال کہتے ہیں۔ اور وہ عالم جبروت سے ہوتے ہیں دلوں پر! اس کے بعد گریہ اور حرکت و جنبش جو ظاہر ہوتی ہے اس کو آثار کہتے ہیں اور وہ (اثر) عالم ملک سے ہوتا ہے اعضاء پر۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

پھر صدقے کا تذکرہ آیا۔ فرمایا کہ اگر صدقے میں پانچ شرطیں موجود ہیں تو بلاشبہ وہ صدقہ قبول ہو جائے گا۔ اور ان پانچ شرطوں میں سے دو صدقہ دینے سے پہلے ہیں اور دو دیتے وقت ہیں اور ایک دینے کے بعد ہے۔ جو دو شرطیں دینے سے پہلے کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو کچھ دیا جانے والا ہے وہ حلال کمائی سے ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ نیت کر کے نیک آدمی کو دے ایسے آدمی کو کہ وہ اسے فساد میں خرچ نہ کرے۔ یعنی اچھے لوگوں کو دے۔ اور جو دو شرطیں دیتے وقت کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ تواضع اور بشاشت کے ساتھ دے۔ اور کھلے دل سے دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ خفیہ دے۔ اور وہ ایک شرط جو دینے کے بعد کی ہے یہ ہے کہ جو کچھ دیا ہے اس کا ذکر کسی کے سامنے زبان پر نہ لائے اور اس کو بیان نہ کرتا پھرے۔ ان شرائط کے ساتھ جو صدقہ ہو گا مقبول ہو گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ صدقہ ہوتا ہے اور صدقہ ہوتا ہے۔ صدقہ تو ہم کو معلوم ہی ہے۔ لیکن صدقہ دین مہر کو کہتے ہیں اور یہ دونوں معانی صدق و محبت کا تقاضا کرتے ہیں۔ یعنی جو شخص نکاح کرنا چاہتا ہے اسے لازماً صدق و محبت پیدا کرنا چاہئے۔ پس وہ مہر کو درمیان لاتا ہے۔ یہ صدقہ ہے اور جو راہ حق میں کوئی چیز دیتا ہے تو وہ بھی آنحضرت کی محبت میں دیتا ہے۔ صدق محبت کے سبب اس کا نام بھی صدقہ ہے۔

اس کے بعد امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حکایت بیان فرمائی وہ چالیس ہزار دینار حضرت رسالت مآبؐ کی جناب میں لائے۔

چالیس ہزار دینار کا شکرانہ (ونذرانہ) عشق کو کیل و کملی کے ساتھ باریاب کرتے ہیں اور اس کا قصہ یہ ہے کہ اس روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں چالیس ہزار دینار موجود تھے۔ یہ سب کے سب رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں لے آئے آقا علیہ السلام

نے دریافت فرمایا کہ بچوں اور گھروالوں کے لئے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کیا اللہ اور اس کا رسول کافی ہے اس کے بعد حضرت عمر فاروقؓ تشریف لائے اور جو کچھ حضرت ابو بکرؓ لے آئے تھے اس کا آدھا لے کر آقا علیہ السلام نے فرمایا بچوں اور گھروالوں کے لئے کیا چھوڑ آئے ہو بولے آدھا لے آیا ہوں آدھا گھروالوں کیلئے چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کے بارے میں نذارنے کی نسبت سے ان کا مرتبہ متعین فرمایا۔

اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ کی کرامت کے بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ جس روز وہ چالیس ہزار دینار لائے تھے کملی اوڑھے ہوئے تھے اور کیل سے اسے جوڑے رسول ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام بھی حضرت رسالت مآب و التوحید کی خدمت میں اسی لباس میں حاضر ہوئے۔ رسول علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا لباس ہے؟ جبریل بولے یا رسول اللہ ﷺ آج تمام فرشتوں کو حکم ہوا ہے کہ ابو بکر صدیقؓ کی موافقت میں گلیم اوڑھیں اور اس میں کیل لگائیں۔ اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر یہ دو مصرعے زبان مبارک پر لائے۔

شکرانہ چهل هزار دینار دہند

بایخ و گلیم عشق رابار دہند

ترجمہ:- چالیس ہزار دینار کا شکرانہ یوں دیتے ہیں کہ عشق کو کیل و کملی کے ساتھ باریاب کرتے ہیں۔

یہاں سے صدق کا ذکر آیا حکایت بیان فرمائی کہ ایک شخص تھا اس کے پاس تھیلی میں پچیس سونے کے دینار تھے اس نے سوچا کہ کعبے کی زیارت کو جاؤں اور یہ دینار کعبے کے مجاوروں اور وہاں کے رہنے والوں کی نذر کروں۔ یہ نیت کر کے روانہ ہوا راستے میں ایک بے پاک ڈاکو نے اسے آلیا اور تلوار نکال لی تاکہ اسے مار ڈالے۔ اس شخص نے تھیلی جو اس کے پاس تھی باہر نکال کر اس کے سامنے ڈال دی اور بولا کہ مجھے کیوں مارتے ہو میرے پاس تو بس یہی سونے کے پچیس دینار ہیں جو اس تھیلی میں ہیں انہیں لے۔ ڈاکو نے تھیلی اٹھائی سونے کے دینار باہر نکالے اور گنے تو پورے پچیس دینار تھے۔ یہ سب دینار اس شخص کے سامنے رکھ کر بولا کہ اپنا مال سنبھال اور سلامتی سے چلا جا کہ تیری سچائی نے میرے غصے کو

ٹھنڈا کر دیا۔

اس کے بعد تصدق کے معنی کے بارے میں حکایت یہ بیان فرمائی کہ ایک دفعہ امیر المومنین عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے کسی شخص کو گھوڑا عنایت فرمایا تھا اور وہ گھوڑا اس کے پاس سوکھ کر کاٹا ہو گیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ اس شخص سے گھوڑا اس روز کی قیمت پر خرید لیں جس روز اسے عنایت کیا تھا جب یہ بات رسول ﷺ کی خدمت میں عرض کی گئی تو رسول ﷺ نے منع فرما دیا اور کہا مت خریدو۔ اپنی دی ہوئی چیز کو دوبارہ نہیں خریدنا چاہئے۔ چاہے وہ کوڑیوں ہی میں کیوں نہ ملے۔

اس کے بعد کھانا کھلانے کی فضیلت کا ذکر آیا۔ ارشاد ہوا کہ کسی بزرگ نے فرمایا کہ ایک درم کا کھانا تیار کر کے رفیقوں کے سامنے رکھنا اس سے بہتر ہے کہ بیس درم صدقہ کئے جائیں۔ کھانا کھلانے کی فضیلت میں یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک شخص تھا صاحب حال درویش وہ بخارا کے صدر جہاں کے پاس آیا اور کہا کہ میرا شہر کے بادشاہ کے پاس کچھ کام ہے تم سفارش کر دو اور میرا کام کرادو۔ صدر جہاں نے جواب دیا کہ میں تجھے کیا جانوں اور مجھے کیا خبر کہ تو کون ہے تیری سفارش کروں۔ اس شخص نے کہا کہ میرا تم پر ایک حق ہے۔ صدر جہاں نے پوچھا کیا حق ہے۔ بولا ایک دفعہ تم کھانا نکالے بیٹھے تھے اور میں نے بھی آکر تمہارے دسترخوان پر بیٹھ کر اس کھانے میں سے کچھ کھایا تھا۔ میرا تم پر یہ حق ہے صدر جہاں نے جب یہ سنا تو فوراً اٹھا اور بادشاہ کے پاس جا کر اس کا کام کر دیا۔

اس کے بعد فقراء کے لین دین اور خرید و فروخت کے بارے میں فرمایا کہ شیخ بدر الدین اسحاق علیہ الرحمۃ والغفران نے کسی کو ایک شطرنجی دی اور کہا کہ اسے بازار میں لے جا کر بیچ ڈالو۔ پھر فرمایا کہ درویشانہ بیچنا ان سے پوچھا گیا کہ درویشانہ بیچنے کا کیا طریقہ ہے بولے واپس گھرنے لانا جو مول بھی لگے بیچ ڈالنا۔

چونتیسویں مجلس

اسی سال ماہ ذی الحجہ کی انتیسویں تاریخ پیر کو قدم بوسی کی دولت میسر آئی حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے مراتب اور مناقب پر گفتگو ہونے لگی۔ ارشاد ہوا کہ وہ نو سال تک ایک غار میں مقیم رہے۔ اس غار میں ایک چشمہ جاری تھا۔ ادہم اسی چشمے پر مقیم تھے

marfat.com

Marfat.com

اور خدائے عزوجل کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک رات کو سخت سردی تھی۔ انہیں ٹھنڈ لگ گئی۔ یہاں تک کہ مرنے کا ڈر ہو گیا۔ اسی اندھیرے میں ان کا ہاتھ ایک پوستین پر پڑا۔ انہوں نے اسے اپنے اوپر کھینچ لیا اور گرم ہو گئے۔ جب دن چڑھا تو پوستین کو اتار لیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک اژدھا ہے۔ آنکھیں کھول کر اور پھن اٹھا کر وہ حرکت کرنے لگا، ابراہیم اداہم رحمۃ اللہ علیہ حیرت زدہ ہی تھے کہ ایک آواز انہوں نے سنی۔ ہم نے تجھے ایک ہلاک کرنے والے کے ذریعے بچایا۔ یعنی ہم نے ایک مملک چیز سے جو سردی تھی تجھے بچایا اژدھے کے ذریعے جو خود مملک تھا۔

اس کے بعد فرمایا کہ ایک درویش کے ساتھ بھی ایسی ہی کرامت ہوئی تھی۔ اس کا قصہ یوں ہے کہ کوئی درویش کنوئیں میں گر پڑا۔ رسی تھی نہیں کہ باہر نکلتا مرنے کے قریب ہو گیا۔ یکایک اس نے ایک رسی کی شکل کی چیز دیکھی جو کنوئیں کے اوپر لٹک رہی تھی۔ اس نے خیال کیا کہ بچاؤ کی صورت نکل آئی۔ اسے پکڑ کر کنوئیں سے باہر آ گیا۔ اب جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک شیروہاں آ کر دم لٹکائے بیٹھا ہے اس نے بھی یہی آواز سنی کہ ”ہم نے تجھے ہلاک کرنے والے سے ہلاک کرنے والے کے ذریعے بچایا“

اور یہیں سے اولیاء کی کرامت کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ ایک نابینا ولی تھے۔ ایک مخالف آیا اور ان کے سامنے بیٹھ گیا اس نیت سے کہ ان ولی کا امتحان کرے چنانچہ دل میں خیال کیا کہ یہ آنکھوں سے معذور ہیں پس ضروری ہے کہ ان کے عالم باطن میں بھی کچھ کمی ہو۔ لہذا ان نابینا صاحب سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ ولایت کی نشانی کیا ہے؟ اور جس وقت یہ بات پوچھی ایک مکھی آئی اور اس مخالف کی ناک پر بیٹھ گئی۔ مخالف نے اسے اڑا دیا۔ مگر پھر وہ ناک پر آ بیٹھی۔ اس نے پھر اڑایا اور اسی درمیان اس نے ایک سوال کیا کہ اولیاء کی نشانی کیا ہے؟ نابینا بولے کہ ایک نشانی تو یہ ہے کہ اولیاء کی ناک پر مکھی نہیں بیٹھتی!

پھر کھانے کی احتیاط اور اس کے اثر کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ ایک جوان ابراہیم اداہم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوا۔ یہ جوان اس قدر عبادت گزار تھا کہ ابراہیم اداہم کو اس کی طاعت و عبادت بہت پسند آئی۔ اور انہوں نے اپنے نفس کو ملامت کی کہ یہ نواورد جوان تو اس قدر طاعت کرتا ہے اور تم اتنی نہیں کرتے اس کے بعد اپنے روشن ضمیر کے نور سے انہیں معلوم ہوا کہ یہ سب شیطانی ہے وہ جوان ناجائز کمائی کھاتا ہے۔ اور شیطان نے اسے اس طاعت میں

لگا رکھا ہے۔ جب ابراہیم ادھم پر اس کا حال کھل گیا تو انہوں نے اس جوان سے کہا اس کھانے میں سے جو میں کھاتا ہوں تم بھی کھایا کرو۔ جوان نے ایسا ہی کیا۔ جو درویشانہ کھانا ابراہیم کھایا کرتے تھے وہ لکڑیاں بیچ کر حاصل کیا جاتا تھا جوان بھی اسی میں سے کھانے لگا۔ اور بے بنیاد طاعت کا غلبہ جو اس پر تھا وہ جاتا رہا تھوڑی سی عبادت رہ گئی۔ چنانچہ فرض نمازیں بھی حیلے سے پڑھنے لگا۔ یہاں تک کہ اس جوان کا کام بن گیا اور اخلاص حاصل ہو گیا۔

اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے یہ راز جو تمام سعادتوں کا راز ہے ظاہر فرمایا اور کہا کہ شیخ کی ضرورت اسی کام کے لئے ہوتی ہے اس کے بعد اسی سلسلے میں یہ نکتہ بیان فرمایا کہ طاعت چاہے تھوڑی ہو لیکن اخلاص زیادہ ہونا چاہئے۔

پھر مجاہدے کے پھل کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ چالیس برس تک رات کو نہیں سوئے۔ چالیس سال کے بعد ایک رات کو سوئے تو حضرت عزت اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ اس تاریخ کے بعد جہاں جاتے بستر ساتھ لئے پھرتے کہ سو جائیں اور خواب میں اس دولت کو پھر دیکھیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے آواز سنی کہ خواب کی وہ دولت چالیس سال کی بیداری کا پھل تھی!

پھر دنیا کے جمع خرچ کی بات آئی فرمایا کہ اس حدیث کی روایت دو طرح کی گئی ہے۔ ایک اس طرح کہ اس کے حلال کا حساب ہے اور جو حرام سے کمایا ہے۔ اس پر عذاب ہو گا۔ دوسری روایت اس طرح ہے کہ اس کے حلال پر عذاب ہو گا اور حرام پر بھی عذاب ہو گا۔ حرام پر عذاب تو کھلی ہوئی بات ہے لیکن اس کے حلال پر عذاب کیسے ہو گا؟ ارشاد ہوا کہ ایک شخص کو قیامت کی دھوپ میں کھڑا کیا جائے گا اور حساب مانگا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا یہ عذاب ہو گا اس کے بعد فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ قول امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کا ہے۔ کہ دنیا کی دولت حلال پر حساب ہے اور حرام پر عذاب ہے اور اس کی مشتبہ چیزوں پر عتاب!

پھر اس بات کا ذکر نکلا کہ بعض مشائخ چاندی (روپیہ) قبول نہیں کرتے۔ فرمایا کہ روپیہ لینے اور اس کے خرچ کرنے کے بارے میں شرائط ہیں۔ لینے والے کو چاہئے کہ جو کچھ لے حق لے۔ اس کی تشریح یوں فرمائی کہ جیسے کوئی کسی کے سامنے روپیہ (دھیلا) پیش کرتا ہے۔ اسے علوی (سید) دیکھ کر کہ اس نے دو گیسو کر رکھے ہیں (۱۳)۔ اس اعتقاد سے نذر کرتا ہے کہ

فرزند رسول ﷺ ہیں حالانکہ وہ لینے والا علوی (سید) نہیں ہوتا پس ایسی صورت میں جو کچھ لے گا قطعاً حرام ہوگا۔

اس کے بعد یہ تذکرہ آیا کہ مرد وہ ہے کہ کسی سے کچھ نہ مانگے نہ زبان سے نہ دل میں یہ خیال کرے کہ اگر فلاں شخص مجھے کوئی چیز دے تو بڑا اچھا ہو۔ البتہ بغیر مانگے اور بغیر تمنا کئے اس کے پاس کوئی چیز آئے تو وہ جائز ہوگی۔

اس درمیان ایک بزرگ کی حکایت بیان فرمائی کہ وہ فرماتے کہ میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا اور دل میں لالچ بھی نہیں رکھتا۔ لیکن اگر کوئی شخص مجھے کچھ دیتا ہے تو میں لے لیتا ہوں اب وہ دینے والا مثلاً شیطان ہی ہو! خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے تبسم فرمایا اور کہا کہ ان بزرگ نے اسی طرح کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو شخص بھی مجھے کوئی چیز دیتا ہے میں اسے لے لیتا ہوں۔ مجھے کیا خبر کہ وہ کون ہے یا کہاں سے لایا ہے۔ بس اتنا کافی ہے کہ میں خود اس کی خواہش نہیں رکھتا!

پھر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے احوال کا تذکرہ آیا کہ ہر پیغمبر کو انتقال کے وقت اختیار دیا جاتا ہے۔ فرمان ہوتا ہے کہ تمہیں اختیار ہے اگر تم چاہتے ہو کہ کچھ اور دن دنیا میں رہو تو رہو اور اگر نہیں چاہتے تو انتقال کرو۔ چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی رحلت کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دل میں یہ خیال کیا کہ کسے خبر کہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام اس میں خوش ہیں کہ کچھ عرصے اور صحابہ کے درمیان رونق افروز رہیں یا اس میں خوش ہیں کہ عالم بھاگوسدھاریں۔ یہ بات دل میں سوچی اور رسول علیہ السلام و امتیہ کی طرف نمٹنکی باندھ کر دیکھنے لگیں۔ رسول علیہ السلام و امتیہ نے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ”رسولوں کے اور صدیقیوں اور شہداء اور صالحین کے ساتھ! تیری رحمت سے اے سب سے بڑے مہربان!

یہ فوائد الفواد کا ایک جزو تھا۔ جو قلمبند کیا گیا۔ شروع شعبان کی ابتداء سنہ سات سو سات سے ذی الحجہ سات سو آٹھ ہجری کے آخر تک ایک سال پانچ ماہ کی مدت ہوتی ہے۔ اگر خدائے عزوجل چاہے گا تو جو اور کچھ ان کے انمول بولوں سے سنا جائے گا اسی طرح لکھا جائے گا۔ بشرطیکہ اللہ تعالیٰ چاہے اور مدد فرمائے اور اچھی توفیق دے!

حواشی

جلد اول

- (۱) اس عالم اور جہان کے پھول، جس پر کوئی شبہ نہیں ہے۔
- (۲) اور نہیں سمجھا ہم نے تمہ کو مگر عالمین کے لئے رحمت بنا کر۔
- (۳) اللہ تعالیٰ ان کی درازئی عمر سے مسلمانوں کو فائدے پہنچائے۔
- (۴) محسوس اور موجود نظر آنے والا عالم ناسوت کہلاتا ہے۔ اس کے بطون کو ملکوت کہتے ہیں۔
- (۵) ناصیہ اصفیاء۔ اصفیاء کی پیشانی۔ یہ تشبیہ حضرت محبوب الہیؐ کے چہرہ مبارک کے لئے جیسے انسانی چہرے پر پیشانی نمایاں ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت کی شخصیت اصفیاء کے لئے پیشانی کی سی ہے۔
- (۶) ہر مہینے کی تہہ، چودہ، پندرہ تاریخوں کو ایام بیس کہتے ہیں۔ ان دنوں کی راتیں روشن اور چاندنی ہوتی ہیں۔
- (۷) پیر ہونے سے مرید ہونا بہتر ہے۔ مترجم
- (۸) فضل اللہ ابو سعید بن ابی الخیر ولادت ۳۵۷ھ منہ اقلیم خادران خراسان وفات ۴ شعبان ۴۰۴ ہجری جو۔ انہوں نے ابو عبدالرحمان السلی سے بھی خرقہ لیا تھا۔
- (۹) یہ محرم ۶۱۷ھ / ۱۲۲۰ء کا قصہ ہے۔ تاریخ بناکتی تہران مصر ۳۶۶
- (۱۰) عقد تصعین نوے کی گروہ۔ گنتی کا ایک طریقہ تھا جس میں ہاتھ کی انگلیوں کو موڑ کھینچ کر لیا جاتا تھا مراد یہ کہ جنم اس پر بند مٹھی کی طرح تنگ ہو جائے گی۔
- (۱۱) غالباً حضرت کی مراد یہ ہے کہ اس وقت تک حضرت مرید نہیں ہوئے تھے۔ مرید ہوتے وقت بالوں کی ایک لٹ کالی جاتی ہے اور بعض سر منڈاتے ہیں جس کو مخلوق ہونا کہتے ہیں۔
- (۱۲) قدیم زمانے میں سید لہے ہال رکھا کرتے تھے۔ اور لہے گیسو سید ہونے کی علامت ہوا کرتے تھے۔

فوائد القواد
جلد دوم

جلد دوم فوائد الفواد

(اڑتیس مجلسیں)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یہ اعلیٰ اوصاف اور یہ مہکتے بول خواجہ راستین قطب الاقطاب فی الارضین ختم المشائخ فی العالمین نظام الحق و الشرع والدین (اللہ تعالیٰ ان کی درازئی عمر سے مسلمانوں کو مستفید فرمائے آمین) کے مبارک الفاظ اور متبرک کلمات جمع کئے گئے ہیں۔ اسی طرح پہلے بھی چند جزو ایک جلد میں لکھے جاسکے ہیں اور ان کا نام فوائد الفواد (دلوں کے فائدے) رکھا گیا ہے امید ہے کہ ان کے پڑھنے والے اور لکھنے والے کو دونوں جہان کی راحت میسر آئے گی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

معنی کہ جمع کردہ تحفیت پیش یاران
 حسن علاء بجزی مکی از امید واران
 یہ صحیفے جو جمع کئے گئے یاروں کے لئے تحفے بن گئے ہیں
 حسن علا بجزی (مزید کی) آس لگائے رکھنے والوں میں
 سے ایک ہے

پہلی مجلس

سنہ سات سو نو (ہجری) ماہ شوال کی اسیسویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی
 دنیا والوں سے میل جول چھوڑنے کا ذکر آیا۔ ارشاد ہوا کہ جوانی کے زمانے میں میرا مخلوق کے
 ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ مگر ہمیشہ دل میں یہ رہتا کہ ان سے چھٹکارے کا موقع کب ملے گا اگرچہ کہ
 وہ طالب علم اور مشغول (بحق) لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن بحث کے دوران اکثر میرا دل متنفر ہو
 جاتا تھا اور میں نے کئی دفعہ اپنے ساتھیوں سے کہا بھی میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا
 میں تو تمہارے پاس بس چند روز کا مہمان ہوں۔ بندے (حسن علا بجزی) نے عرض کی کہ کیا
 حضرت شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز سے بیعت ہونے سے قبل آپ ایسا فرماتے
 تھے؟ ارشاد ہوا۔ ہاں!

دوسری مجلس

اسی سال ماہ ذی قعدہ کی ستائیسویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی سعادت میسر آئی۔ ذکر یہ
 تھا کہ مرید لوگ اپنے پیر کی زیارت کے لئے جایا کرتے ہیں اور ہر ایک کچھ مدت بعد جاتا ہے۔
 زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ میں تین دفعہ شیخ الاسلام فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز
 کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہر سال ایک مرتبہ انتقال فرمانے کے بعد سات دفعہ اور گیا
 ہوں یا چھ دفعہ اچھی طرح یاد نہیں لیکن زیادہ خیال یہی ہے کہ سات بار گیا ہوں کیونکہ ذہن
 میں یہ بات بھی جمی ہوئی ہے کہ زندگی میں اور وفات کے بعد کل دس دفعہ حاضری ہوئی ہے۔
 اس کے بعد فرمایا کہ شیخ جمال الدین ہانسی سے سات بار حاضر ہوئے تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ

marfat.com

Marfat.com

شیخ نجیب الدین متوکل جب پہلی مرتبہ حاضر ہوئے اور رخصت کے وقت شیخ سے فاتحہ کی درخواست کی تاکہ جس طرح اس وقت حاضر ہوئے اسی طرح پھر آئیں۔ اور دست بوسی حاصل ہو۔ تو شیخ نے فرمایا کہ فاتحہ کی ضرورت نہیں ہے تم بہت دفعہ آؤ گے۔ چنانچہ اس کے بعد اٹھارہ دفعہ اور آئے۔ اٹھارویں دفعہ واپس ہونے لگے تو پھر فاتحہ کی درخواست کی۔ اس نیت سے کہ پہلی بار فرمایا تھا کہ بہت دفعہ آؤ گے۔ اس وقت سے اب تک انیس پھیرے ہو گئے اب پھر فاتحہ کی درخواست کرو کہ ایک دفعہ اور آکر پوری بیس حاضر یاں ہو جائیں لیکن شیخ خاموش رہے شیخ نجیب الدین سمجھے کہ شاید سنا نہیں اس لئے انہوں نے پھر عرض کی مگر شیخ نے جواب نہ دیا۔ آخر واپس چلے آئے۔ اس کے بعد ان کے درمیان ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر شیخ بہاؤ الدین زکریا کا ذکر (خیر) آیا کہ وہ شیخ الشیوخ شہاب الدین سروردی قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں گئے مگر ان کی خدمت میں سترہ روز سے زیادہ نہیں رہے۔ سترہویں دن ہی شیخ شہاب الدین نے ان کو نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ جب شیخ بہاؤ الدین ہندوستان آئے تو دوبارہ ارادہ کیا کہ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوں جب روانہ ہوئے تو شیخ جلال الدین تبریزی سامنے سے آئے۔ اور شیخ بہاؤ الدین کو واپس کر دیا کہ شیخ الشیوخ کا فرمان یہی ہے کہ تم واپس چلے جاؤ۔

اس کے بعد شیخ بہاؤ الدین کی بزرگی کا تذکرہ آیا ارشاد ہوا کہ سترہ روز میں انہوں نے وہ نعمتیں حاصل کر لیں جو دوسرے مرید برسوں میں حاصل نہ کر سکے یہاں تک کہ ان کے بعض پرانے مریدوں کو ناگوار بھی گزرا کہ ہم اتنے سال سے خدمت کر رہے ہیں۔ مگر ہمیں تو اتنی نعمت ملی نہیں اور ایک ہندوستانی آیا اور اتنی تھوڑی مدت میں اسے خلافت مل گئی اور بے شمار نعمتیں بھی۔ یہ بات شیخ کے کانوں تک بھی پہنچی۔ انہوں نے جواب دیا کہ تم لوگ گیلی لکڑیاں لائے تھے۔ گیلی لکڑیاں آگ کیسے پکڑ سکتی ہیں۔ زکریا خشک لکڑیاں لائے تھے جو ایک پھونک میں سلگ گئیں۔

تیسری مجلس

اسی سال ماہ ذی الحجہ کی تیرہویں تاریخ جمعرات کو قدم بوسی کی سعادت میسر آئی۔ طاعت اور مشغولی حق کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ جو بھی وجود ہے دو عدموں کے درمیان ہے اور

جو وجود دو عدموں کے درمیان ہو اس کو بھی عدم ہی سمجھنا چاہئے۔ چنانچہ عورتوں کے ایام معروف میں اگر ایک روز خون نظر آتا ہے اور دوسرے روز پاکی رہتی ہے اور پھر تیسرے روز خون نظر آتا ہے تو اس پاکی کے بارے میں بھی خون ہی کا حکم ہے اس کے بعد فرمایا کہ وہ وجود جو دو عدموں کے درمیان ہو اس غیر متواتر پاکی کی طرح ہے جو دو خونوں کے درمیان ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اس زندگی کا کیا بھروسہ جس کے وجود پر عدم کا حکم لگ سکتا ہے۔ اس تھوڑے سے وقفے کو بیکاری اور غفلت میں کیوں گزارا جائے۔

پھر ایک بزرگ کی حکایت بیان فرمائی کہ وہ ہمیشہ مشغول تھی رہتی اور غفلت سے میل جول نہیں رکھتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ تم نے یہ کیا حال کر رکھا ہے کہ کسی کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے۔ اور غلطی کی صحبت سے پرہیز کرتے ہو۔ اس پیر نے جواب دیا کہ اس سے پہلے میں کتنے ہی ہزار سال تک معدوم رہا اس کے بعد پھر زمانوں کے لئے معدوم ہو جاؤں گا یہ جو تھوڑی سی عمر درمیان میں ملی ہے۔ اس کو کیوں خرچ کروں۔ اور اس نقد حیات کو حق کی رضا میں کیوں نہ صرف کروں؟

مولانا محمود اودھی (ان کی پرہیزگاری قائم رہے) حاضر تھے۔ ان سے دریافت فرمایا کہ کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے عرض کی مولانا برہان الدین غریب (ان کے فضائل قائم رہیں) کے گھر میں رہتا ہوں۔ زبان گوہر نشاں سے ارشاد ہوا کہ جہاں بھی رہو کھرے بن کر رہو۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ روزانہ زمین کا ایک قطعہ دوسرے قطعے سے زبان حال سے دریافت کرتا ہے کہ کیا تجھ پر سے آج کوئی ذکر کرنے والا یا کوئی درد مند گزرا ہے؟ اگر وہ جواب دیتا ہے کہ نہیں گزرا تو وہ قطعہ زمین جس پر سے ایسا آدمی گزرا ہوتا ہے۔ اس قطعے پر شرف محسوس کرتا ہے۔

چوتھی مجلس

اسی سال ماہ ذی الحجہ کی پچیسویں تاریخ منگل کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی شیخ اس روز کسی عزیز کی نماز جنازہ میں شرکت فرما کر آئے تھے۔ مرحوم کے بارے میں ارشاد ہوا کہ وہ بہت نیک آدمی تھے اور نیک کاموں میں خرچ بھی کرتے تھے۔ کسی اچھائی برائی سے واسطہ نہیں رکھتے تھے۔ اور نیکی کی راہ پر چلتے تھے۔ بس کسی کا ہاتھ نہیں پکڑا تھا۔ پھر فرمایا کہ جب

آدمی علم حاصل کرتا ہے تو شرف پاتا ہے اور جب طاعت کرتا ہے تو اس کا کام بہتر ہو جاتا ہے۔ اس وقت پھر کی ضرورت پڑتی ہے کہ دونوں کو توڑ ڈالے یعنی علم و عمل کو اس کی نظر سے گرا دے تاکہ وہ گھمنڈی نہ بن جائے۔ اور گھائے میں نہ رہے۔ اس وقت ان مرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ سنا ہے انتقال کے وقت وہ اکیلے تھے۔ اپنے پرانے میں سے کوئی بھی قریب نہ تھا۔ بس وہ تھے اور حق تعالیٰ۔ اور یہ بڑی اچھی حالت اور بہت بڑی سعادت ہے۔

اس کے بعد مولانا شہاب الدین خطیب ہانسوی کی حکایت بیان فرمائی ارشاد ہوا کہ انہوں نے دعا مانگی کہ خداوند! میں نے تیرے بہت سے عہد پورے کئے اب مجھے امید ہے کہ تو بھی میری ایک بات پوری کرادے گا اور وہ یہ ہے کہ میرے مرتے وقت کوئی میرے پاس نہ ہو۔ نہ ملک الموت اور نہ کوئی اور فرشتہ بس میں ہوں اور تو ہوا

اس کے بعد فرمایا کہ مولانا شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ بہت بزرگ آدمی تھے۔ ہر رات کو سورۃ بقرہ پڑھتے تھے پھر سوتے تھے چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے یہ سورۃ پڑھی تو گھر کے کونے سے ندا آئی۔

داری سرہا و گرنہ دور از برہا

مادوست سکسیم و تونداری سرہا

ترجمہ:- اگر ہم سے تعلق ہے تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں ہے تو ہمارے پہلو سے ہٹ جاؤ ہم تو دوست کو ہلاک کرنے والے ہیں تم اس کی تاب نہیں لاسکتے۔

گھر والے سب سو رہے تھے حیران رہ گیا کہ یہ کون بول رہا ہے گھر میں کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو یہ بات کہتا۔ دوسری دفعہ پھر سنا۔

داری سرہا و گرنہ دور از برہا

مادوست سکسیم و تونداری سرہا

خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر جب اس بات پر پہنچے تو اس قدر گریہ طاری ہوا کہ پورا قصہ بیان نہ فرما سکے۔ روتے جاتے تھے اور حکایت بیان کرتے جاتے تھے کہ یہ مولانا شہاب الدین اس خطاب سے گئے اور بڑی مصیبتیں جھیلیں اور تکلیفیں برداشت کیں اور دنیا سے اسی طرح

رخصت ہوئے جیسا کہ وہ چاہتے تھے۔

پھر سماع اور اہل سماع کا ذکر نکلا۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ کافر لوگ مرتے وقت عذاب کو دیکھ لیں گے اور اس وقت ایمان لائیں گے۔ یہ ایمان کسی حساب میں نہیں کیونکہ یہ ایمان بالغیب نہیں۔ اگر مومن مرتے وقت توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے لیکن کافر لوگوں کا مرتے وقت کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔

پانچویں مجلس

سنہ سات سو دس ہجری ماہ محرم کی چند روہیں تاریخ اتوار کو قدم بوسی کی دولت میسر آئی مشائخ کی کتابوں اور ان کے فوائد کا ذکر آیا جو انہوں نے تحریر فرمائے ہیں۔ ایک عزیز حاضر خدمت تھے انہوں نے عرض کی کہ ایک شخص نے مجھے اودھ میں ایک کتاب دکھائی اور کہا کہ یہ حضرت مخدوم (خواجہ نظام الدین) کی لکھی ہوئی ہے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ نہیں اس نے غلط کہا۔ میں نے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ شیخ علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جب کشف المحجوب لکھی تو شروع کتاب میں اپنے نام کا ذکر کیا۔ اس کے بعد دو تین جگہ اور ذکر فرمایا اور پھر اپنا نام لکھنے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ میں نے اس سے پہلے عربی اشعار کہے تھے۔ اور ان میں اپنا نام کہیں نہیں لایا تھا ایک ”جو ان مرد“ نے یہ غضب ڈھلایا کہ وہ سارے اشعار اپنے نام کر لئے۔ اور انتقال کے وقت بے ایمان گیا۔

جب یہ قصہ پورا ہو چکا تو یہ تذکرہ آیا کہ موت کی گھڑی بڑی کٹھن گھڑی ہے۔ اور یہ جانتا بھی مشکل ہے کہ جانے والا ایمان کے ساتھ گیا یا بے ایمان اس کے بعد زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ سلامتی ایمان کی علامت یہ ہے کہ مرنے والے کا چہرہ رحلت کے وقت زرد ہو جائے اور ماتھے پر پسینہ آجائے اس دوران یہ بات بیان فرمائی کہ انتقال کے وقت میری والدہ سعادت کی یہی علامتیں رکھتی تھیں۔

اس کے بعد حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ دو رکعت نماز ہے جو ایمان کی حفاظت کے لئے پڑھنی چاہئے۔ مغرب کی نماز کے بعد پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سات مرتبہ

marfat.com

Marfat.com

سورۃ اخلاص (قل هو اللہ) اور ایک مرتبہ (قل اعوذ برب الناس) اس کے بعد سر سجدے میں رکھ دے اور تین دفعہ کہے۔ **يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ ثَبِّتْنِي عَلٰى الْاَيْمَانِ** (اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور سب کو قائم رکھنے والے مجھے ایمان پر ثابت قدم رکھ) پھر اس نماز کی برکت کے سلسلے میں حکایت بیان فرمائی کہ میں نے معین الدین حسن بجزی قدس اللہ سرہ العزیز کے نبیے (نواسے یا پوتے) خواجہ احمد سے سنا ہے اور یہ خواجہ احمد بہت ہی صالح مرد تھے وہ کہتے تھے کہ میرے ایک سپاہی دوست تھے۔ وہ برابر یہ دو رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ بہت ناوقت ہم اجیر کی حدود میں تھے مغرب کی نماز کا وقت آگیا۔ وہاں ڈاکوؤں کا ڈر تھا۔ اور ڈاکو نظر بھی آنے لگے تھے۔ ہم نے فوراً "جلدی جلدی تین رکعتیں فرض اور دو رکعتیں سنت پڑھیں اور شہر کی جانب آگئے۔ ان دوست نے اس کے باوجود کہ چوروں کا خطرہ دیکھ لیا تھا اور اتنا خوف طاری تھا یہ دو رکعت نماز حفاظت ایمان ادا کی الغرض جب اس جوان کی وفات کا وقت آیا تو مجھے بھی خبر ہو گئی۔ میں نے ان کا حال جاننے کی غرض سے مرتے وقت ان کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے اسی طرح رحلت فرمائی جیسا کہ چاہئے تھا۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے ارشاد فرمایا کہ خواجہ احمد نے اس شخص کی رحلت کا حال ان الفاظ میں بیان کیا کہ اگر مجھے عدالت کی کرسی کے سامنے لے جائیں تو میں گواہی دوں گا کہ وہ باایمان گیا۔ **وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ**۔

اس کے بعد دو رکعت نماز کا اور تذکرہ فرمایا۔ وہ بھی نماز مغرب کے بعد اس کا ذکر اس طرح فرمایا کہ میرے ایک ہم جماعت دوست تھے۔ ان کو مولانا تقی الدین کہتے تھے۔ وہ بڑے صالح اور سمجھدار پڑھے لکھے تھے۔ وہ ہمیشہ نماز مغرب کے بعد دو رکعت نماز ادا کرتے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد **وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ** اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد **وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ** پڑھتے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگے کہ جب میرا

کام تمام ہو گیا تو حکم آیا کہ ہم نے اسے ان دو رکعتوں کے طفیل بخش دیا۔ حاضرین میں سے کسی نے سوال کیا کہ کیا اسے صلوٰۃ النور کہتے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں اس کو صلوٰۃ البروج کہتے ہیں۔ صلوٰۃ النور اس دو رکعت نماز کو کہتے ہیں جس کی دونوں رکعتوں میں سورۃ انعام کی شروع کی آیات پڑھتے ہیں۔ پہلی رکعت *يَسْتَهْزِقُونَ* پر ختم کرتے ہیں اور دوسری رکعت میں *الَّذِينَ يَزُوقُكُمْ اَهْلُكُنَّا* سے شروع کر کے *يَسْتَهْزِقُونَ* ہی پر ختم کرتے ہیں۔

پھر اس وقت کی اور طلوع کے وقت کی نماز کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ جب رات آتی ہے تو ایک فرشتہ کعبے کی چھت پر آکر پکارتا ہے کہ اے خدا کے بندو اور اے محمد ﷺ کے امتیو! خدائے تعالیٰ نے تمہیں ایک رات یہ عنایت فرمائی ہے اور ایک رات تمہارے لئے آنے والی ہے اور وہ رات قبر کی رات ہے۔ اس آنے والی رات کے لئے اسی رات کو کچھ ذخیرہ کر لو اور کچھ کام کر لو اور وہ یہ ہے کہ دو رکعت نماز پڑھو پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد پانچ مرتبہ *قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ* اور دوسری رکعت میں بھی یہی۔ اور جب دن لگتا ہے تو یہی فرشتہ بیت المقدس کی چھت پر آتا ہے اور ندا دیتا ہے کہ اے بندگان خدا اور امتیایان محمد ﷺ! خدائے تعالیٰ نے تمہیں ایک دن عطا کیا ہے اور ایک دن تمہارے لئے آنے والا ہے۔ اور وہ روز قیامت ہے۔ اور اس دن کے تو شے کے لئے آج ایک کام کر لو اور وہ یہ ہے کہ دو رکعت نماز پڑھو ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد پانچ مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھو۔ اس کے بعد زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ شیخ جمال الدین ہانسوی علیہ الرحمۃ والنعمران نے اسے حدیث بتایا ہے مجھے حدیث شریف کے الفاظ یاد نہیں رہے۔ مفہوم یہی ہے جو بیان کیا گیا۔

اس کے بعد اولیاء کی موت اور اس حال کا ذکر آیا جو اس کے بعد ہوتا ہے اس ضمن میں فرمایا کہ اولیاء انتقال کے وقت تک ایسے ہوتے ہیں جیسے کوئی سو رہا ہو اور اس کا معشوق بھی بستر میں آگیا ہو۔ رحلت کے وقت اس سونے والے کی حالت ایسی ہوتی ہے گویا یکایک نیند سے بیدار ہو گیا اور وہ معشوق جس کی طلب میں ساری زندگی رہا تھا اس کو اپنے بستر میں موجود دیکھے۔ اندازہ کرو کہ اس کو کیسی خوشی اور فرحت ہوگی۔ حاضرین میں سے کسی نے سوال کیا کہ بعض اولیاء ایسے ہوتے ہیں جن کو یہیں مشاہدے کی نعمت حاصل ہو جاتی ہے؟ فرمایا کہ ہاں لیکن یہ نعمت جو اس وقت دیکھتے ہیں جب وہ کمال کو پہنچتی ہے تو پھر بالکل اس سونے والے کی مانند ہوتے ہیں کہ جو نیند سے بیدار ہو تو اپنے معشوق کو اپنے بستر پر پائے اس حدیث

کے موافق کہ لَلنَّاسِ دِيَامٌ فَيَا نَا مَا تَوَا اِنْ حَيَبُوا لَعْنِ سَارِي خَلَقْت نِيند میں ہے۔ جب موت آئے گی تو بیدار ہوگی۔ یعنی یہاں جو جس طلب میں مستغرق ہے۔ مرنے کے بعد اس کا مطلوب اس کو ملے گا۔

اس کے بعد اولیاء کی موت کی تذکرے میں حکایت بیان فرمائی کہ بدایوں میں میرے ایک دوست تھے۔ احمد نام بڑے نیک اور عبادت گزار اور ابدال صفت اگرچہ کہ بے پڑھے لکھے تھے لیکن ہمیشہ شرعی مسائل اور ان کے احکام کی تحقیق میں لگے رہتے اور ہر ایک سے یہی پوچھتے رہتے۔ یہاں تک کہ جب میرا دہلی آنا ہوا تو وہ بھی دہلی آگئے ایک روز راستے میں ملاقات ہوئی اور مجھے دیکھ کر بڑی گرم جوشی سے ملے۔ اس کے بعد میری والدہ کا حال پوچھا ان کو میری والدہ کی بیماری کا حال تو معلوم تھا۔ لیکن انتقال کی خبر نہ تھی۔ میں نے کہا کہ والدہ تو اللہ کی رحمت کو پیاری ہوئیں۔ بولے تم سلامت رہو پھر بڑے مضطرب ہوئے اور بے چین ہو کر رونے لگے۔ جب خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر حکایت کے اس حصے تک پہنچے تو ان کو اس قدر رونا آیا کہ جو فرماتے تھے۔ پوری طرح سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ رونے کے درمیان یہ دو شعر زبان مبارک پر آئے۔ خبر نہیں کہ احمد صاحب موصوف سے روایت فرمائے یا خود ہی پڑھے۔ الغرض شعر یہ تھے۔

افسوس دلم کہ ہیج تدبیر نکرد شبہای وصل رابز بخیر نکرد
گروصل تو یاری کند و یار نکند باری کہ فراق ہیج تقصیر نکرد
ترجمہ: افسوس میرے دل نے کوئی تدبیر نہیں کی ملن کی راتوں کو زنجیر ڈال کر نہ رکھا۔
اب تیرا وصل ہماری مدد کرے یا نہ کرے بارے جدائی نے تو کوئی کسراٹھا نہیں رکھی (۱)۔

اس کے بعد ارشاد ہوا کہ کچھ عرصے بعد ان احمد نے دنیا سے رحلت کی میں نے ان کے مرنے کے بعد ایک روز انہیں خواب میں دیکھا کہ اپنی عادت کے موافق حسب معمول مجھ سے مسائل اور احکام پوچھ رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ جو کچھ تم پوچھ رہے ہو۔ یہ تو زندگی میں کام آتا ہے اور تم تو مر ہی چکے ہو۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو مجھ سے بولے کہ آپ خدا کے اولیاء کو مردہ کہتے ہیں؟

اس قصے کے دوران ایک جوالتی (ملنگ) آیا اور نامناسب باتیں کرنے لگا۔ جو اس مجلس میں نہیں کرنی چاہیں تھیں۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے کچھ نہیں کہا اور جو توقع اس کی تھی اس کو

پورا کیا۔ اس کے بعد حاضرین سے مخاطب ہو کر ارشاد کیا کہ ایسی باتیں بھی ہونی چاہئیں۔ بہت سے لوگ آتے ہیں اور سر قدموں میں رکھتے ہیں اور نذر لاتے ہیں۔ پس اس طرح کے لوگ بھی آنے چاہئیں کہ آکر بے باکی سے جو چاہیں کہہ ڈالیں۔ اس طرح یہ چیزیں ان چیزوں کا کفارہ کرنے والی ہو جاتی ہیں۔ حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ انہی اول فول لکھنے والوں میں ایک شخص آیا اور مجھے بہت کچھ برا بھلا اور نامناسب کہا میں نے کچھ جواب نہ دیا تو بولا کہ جب تک دنیا رہے ہمارا جرم اور آپ کی برداشت باقی رہے۔

پھر فرمایا کہ ایک دفعہ انہیں منہ پھٹ لوگوں میں سے کوئی شخص الاسلام فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں آیا اور کہنا شروع کیا کہ آپ نے خود کو بت کیوں بنا رکھا ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ میں نے نہیں بتایا خدا نے بتایا ہے۔ وہ پھر بولا کہ نہیں آپ نے خود بتایا ہے شیخ نے ارشاد کیا کہ نہیں جو کچھ بتایا ہے خدا نے بتایا ہے یہ سن کر وہ مخالف کھیانا ہو گیا اور واپس چلا گیا۔

اس کے بعد حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ کوئی جوائی (ملنگ) شیخ بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا۔ وہ اس گروہ کے لئے بڑے سخت تھے۔ جوائیوں نے اندر آکر کسی چیز کا سوال کیا۔ شیخ نے کچھ نہ دیا وہ باہر نکلے اور لڑنے جھگڑنے کے لئے تیار ہو گئے یہاں تک کہ انہوں نے اینٹیں اٹھالیں۔ شیخ نے فرمایا کہ خانقاہ کا دروازہ بند کر دو۔ چنانچہ خانقاہ کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ وہ لوگ اینٹیں خانقاہ کے دروازے پر مارنے لگے کچھ دیر ہو گئی تو شیخ بہاؤ الدین زکریا نے فرمایا کہ میں شیخ شہاب الدین کا بٹھایا ہوا ہوں میں اپنے آپ ہی نہیں بیٹھ گیا ہوں مجھے ایک مرد خدا نے یہاں بٹھایا ہے اس کے بعد حکم دیا کہ خانقاہ کا دروازہ کھول دو۔ جب دروازہ کھولا گیا تو ان ملنگوں نے سر زمین پر رکھ دیئے اور واپس چلے گئے اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے ارشاد کیا کہ پہلے انہوں نے خانقاہ کا دروازہ بند کرنے کا حکم دیا تھا۔ وہ یقیناً بشریت تھی اور خبر نہیں وہ گھڑی کیسی گھڑی تھی اس کے بعد جب کچھ وقت گزر گیا تو پھر دروازہ کھلوا دیا۔

اسی مناسبت سے یہ حکایت بیان فرمائی کہ جنگ احد میں بہت صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہوئے جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی لمحہ بھر کو ان شہداء کے درمیان لیٹ جائیں یہاں تک کہ غضب کی گھڑی گزر جائے۔

چھٹی مجلس

اسی سال محرم کی پچیسویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان لوگوں کا ذکر آیا جو دولت جمع کرتے ہیں اور جس قدر دولت زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی اور زیادہ مانگتے ہیں۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ حق تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کی طبیعتیں بنائی ہیں۔ مثلاً کسی آدمی کو دس درہم ہی کافی ہوتے ہیں اور ان میں اضافہ ہوتا ہے تو جب تک خرچ نہ کرے اسے چین نہیں آتا۔ اور کسی شخص کو ایسا بنایا جاتا ہے کہ جتنی زیادتی ہوتی ہے۔ اتنی ہی ہوس بڑھتی ہے۔ اور یہ بات اس کی اپنی نہیں ہوتی۔ اذلی قسمت کی ہوتی ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ سونے چاندی کی راحت خرچ کرنے میں ہے۔ یعنی آدمی کو کسی چیز سے راحت نہیں مل سکتی جب تک روپیہ خرچ نہ کر لے۔ مثلاً اگر وہ چاہتا ہے کہ عمدہ لباس پہنے یا اچھے کھانے کی آرزو ہو۔ یا اسی طرح کی اور کوئی تمنا ہو تو جب تک روپیہ خرچ نہیں کرتا۔ اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ پس معلوم ہوا کہ سونے چاندی سے اگر راحت حاصل ہو سکتی ہے تو ان کے جانے سے ہو سکتی ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ سونے چاندی کے جمع کرنے کا مقصد یہ ہونا چاہئے کہ ان سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ اس درمیان فرمایا کہ میرا دل خود شروع ہی سے کچھ جمع کرنے کی طرف راغب نہیں تھا اور طلب دنیا کا مجھے قطعاً خیال نہیں تھا اس کے بعد جب شیخ الاسلام فرید الدین سے مرید ہوا تو پوند بھی ایسی جگہ ہوا کہ ان کی نظر میں دونوں جہان نہ جتتے تھے۔ ترک مطلق تھا۔

اس کے بعد فرمایا اس سے پہلے مجھے روزی کی کچھ تنگی تھی۔ مگر خوشی سے گزران ہوتی تھی۔ ایک روز کوئی شخص میرے پاس بلا وقت آدھا تکہ (سکہ) لایا میں نے کہا کہ آج تو دیر ہو گئی ہے اور جو کچھ ضروریات تھیں وہ پوری ہو چکی ہیں۔ اس کو کل خرچ کروں گا۔ جب رات ہوئی اور عبادت میں مشغول ہوا تو اس آدمی کے تنگے نے میرے دل کے دامن کو پکڑ لیا اور نیچے کھینچنا شروع کیا جب میں نے یہ حال دیکھا تو کہا خداوند صبح کب ہوگی کہ میں اس سے پیچھا چھڑاؤں اور خرچ کروں۔

ساتویں مجلس

اسی سال ہفتے کے دن ماہ صفر (اللہ اسے خیر و کامیابی کے ساتھ ختم کرائے) کی پانچویں تاریخ کو قدم بوسی کی دولت میسر آئی۔ اصحاب ولایت کی نفل پذیری کا ذکر آیا کہ بعض اڑنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں قصہ سنایا کہ بداؤں میں ایک ذاکر تھے ان کا منبر ایک دیوار سے لگا ہوا تھا اور اس دیوار میں منبر سے کم و بیش قد آدم کی بلندی پر بہت سے طاق تھے۔ اور یہ طاق اس طرح ٹیڑھے میڑھے تھے کہ کوئی ان پر بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ ان ذاکر پر وعظ کے دوران ایک کیفیت طاری ہوتی کہ اس کیفیت میں وہ جست کرتے اور ان طاقوں میں جا بیٹھتے۔ اور اسی سلسلے میں یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ کوئی جوگی اچھ میں آیا اور بطور چیلنج شیخ صفی الدین گزرونی کے پاس آکر بحث کرنے لگا اور شیخ سے بولا کہ آؤ اڑ کر دکھاؤ۔ شیخ نے جواب دیا کہ دعوے دار تم ہو تم ہی اڑ کر دکھاؤ۔ جوگی زمین سے ہوا میں معلق ہو گیا۔ یہاں تک کہ اس کا سر چھت سے جالگ۔ پھر اسی طرح سیدھانچے اتر آیا۔ پھر شیخ سے کہنے لگا کہ تم بھی اڑ کر دکھاؤ شیخ صفی الدین نے آسمان کی طرف رخ کر کے کہا۔ خداوند اتونے فیروں کو اڑنے کی یہ صلاحیت عطا کی ہے مجھے بھی یہ..... عطا فرما۔ اس کے بعد شیخ اپنی جگہ سے اٹھے اور قلعے کی طرف اڑے۔ اس کے بعد شمال کی طرف گئے پھر جنوب کی طرف ہو کر اپنی جگہ پر آ بیٹھے جوگی حیران رہ گیا۔ اور شیخ کے قدموں میں سر رکھ دیا اور بولا کہ ہم سے بس اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ زمین سے کسی قدر اونچے سیدھے اڑ جائیں اور اسی طرح پھر نیچے آجائیں اس کے علاوہ دائیں بائیں نہیں جاسکتے۔ لیکن آپ تو جس طرف چاہتے ہیں پرواز کرتے ہیں۔ یہ حق ہے اور اللہ کی طرف سے ہے اور ہمارا جو کچھ ہے باطل ہے۔

اس طرح کی ارادی حرکت کے بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ کوئی فلسفی خلیفہ وقت کی خدمت میں اپنی کتابیں لے کر آیا اور چاہا کہ خلیفہ کو راہ حق سے برگشتہ کر دے۔ اور خلیفہ نے بھی اس کے علم میں دلچسپی دکھائی۔ یہ خبر حضرت شیخ شہاب الدین سروردی قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں پہنچی تو شیخ نے اس کی طرف توجہ کی اور فرمایا کہ جب خلیفہ ان فلسفیوں کی طرف مائل ہو گا تو ایک جہان اندھیر ہو جائے

marfat.com

Marfat.com

گا۔ یہ فرما کر کھڑے ہو گئے۔ اور خلیفہ کے محل میں تشریف لائے۔ اس وقت خلیفہ نے اسی بد بخت حکیم کے لئے تخیلہ کرار رکھا تھا۔ اور اسی علم کی بحث میں مشغول تھا۔ خبر کی گئی کہ شیخ شہاب الدین تشریف لائے ہیں۔ شیخ کو اندر بلا یا گیا۔ شیخ اندر آئے تو خلیفہ اور فلسفی کو دیکھ کر پوچھا کہ تم لوگ اس وقت کیا بحث کر رہے تھے۔ خلیفہ نے جواب دیا کہ کچھ اور بات ہو رہی تھی فلسفے کی بحث کو انہوں نے چھپایا۔ شیخ نے بہت اصرار کیا کہ بتاؤ کیا بات کر رہے تھے؟ جب شیخ نے بہت تقاضا کیا تو وہ فلسفی بولا کہ ہم اس وقت یہ بحث کر رہے تھے کہ آسمان کی حرکت طبعی ہے۔ حرکتوں کی تین قسمیں ہیں۔ طبعی اور ارادی اور قسری۔ حرکت طبعی وہ ہے کہ خود اپنی خاصیت سے گردش کرے۔ حرکت ارادی وہ ہے کہ اپنی مرضی سے جس طرف چاہے حرکت کرے۔ حرکت قسری وہ ہے کہ اسے کوئی اور حرکت میں لائے جیسے کہ کوئی فضا میں پتھر پھینکے۔ اس کو حرکت قسری کہیں گے۔ جب پھینکنے کی قوت کم ہوگی تو وہ اپنی خاصیت کے مطابق زمین پر گر پڑے گا۔ جس کو حرکت طبعی کہتے ہیں۔ اب ہم اس بحث میں ہیں کہ فلک کی حرکت طبعی ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ اس کی حرکت قسری حرکت ہے۔ وہ بولے کہ کیسے؟ شیخ نے ارشاد کیا کہ اس ہیئت و صورت کا ایک فرشتہ ہے۔ وہ خدائے تعالیٰ عزوجل کے فرمان کے مطابق آسمان کو گردش میں رکھتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے۔ فلسفی ہنسنے لگا۔ اس کے بعد شیخ خلیفہ اور حکیم کو اس چھت کے نیچے سے کہ جہاں بیٹھے ہوئے تھے باہر لائے۔ اور آسمان کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ خداوند اچھو کچھ تو اپنے خاص بندوں کو دکھاتا ہے وہ انہیں بھی دکھا دے۔ پھر خلیفہ اور فلسفی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آسمان کی طرف دیکھو۔ ان دونوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو وہ فرشتہ نظر آگیا جو فلک کو گردش دیتا ہے اس وقت خلیفہ اس عقیدے سے تائب ہوا اور دین اسلام پر پکا ہو گیا۔ وَالْحَقُّ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

آٹھویں مجلس

اسی سال ماہ ربیع الاول کی ستائیسویں تاریخ پیر کو قدم بوسی کی سعادت میسر آئی۔ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کا ذکر خیر نکلا۔ فرمایا۔ کہ ان کا اظہار اکثر شربت سے ہوتا تھا۔ ایک پیالہ تھا جس میں شربت لایا جاتا۔ شربت میں تھوڑی سی منیٰ بھی ڈالتے تھے۔ اس پیالے میں سے آدھا حصہ یا تہائی حصہ سب حاضرین میں تقسیم کر دیا جاتا اس طرح کہ شربت کا کچھ حصہ ایک برتن میں ڈالا جاتا اور پانی ملا کر حاضرین مجلس میں تقسیم کر دیا جاتا۔ باقی تہائی جو بچتا وہ خود استعمال فرماتے اور اس میں سے بھی جس کو چاہتے عنایت فرما دیتے۔ یہ دولت پانے والا بھی کیسا خوش نصیب ہوتا تھا پہلے دو چھڑی ہوئی روٹیاں لائی جاتیں۔ اور یہ دو روٹیاں ایک سیر (۲) سے کم ہوتیں۔ ان دونوں روٹیوں میں سے ایک روٹی کھڑا کھڑا کر کے سب حاضرین کو عطا فرمادی جاتی اور دوسری روٹی خود تناول فرماتے اور خاصے کی روٹی میں سے بھی جس کو چاہتے عنایت کر دیتے۔ شام کی نماز ادا کرنے کے بعد مشغول بحق ہو جاتے اور پوری طرح مشغول رہتے۔ اس کے بعد دسترخوان لایا جاتا ہر طرح کا کھانا ہوتا جب وہ کھانا ہو چکتا تو پھر دوسرے دن اظہار کے وقت تک کچھ نہ کھاتے۔

اس کے بعد فرمایا کہ ان کو غلہ کی بیماری ہوئی تھی۔ اسی مرض میں انتقال کیا خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے ارشاد فرمایا کہ ایک رات کو سوتے وقت میں حاضر خدمت تھا کہ دیکھا کہ ایک چارپائی بچھائی گئی۔ وہی کبیل جس پر دن کو تشریف رکھتے تھے رات کو کھاٹ پر بچھلایا گیا۔ یہ کبیل پائنتی تک نہیں پہنچتا تھا جس جگہ حضرت کے قدم مبارک رہتے تھے وہاں ایک اور کھڑالا کر ڈالا جاتا تھا۔ اگر رات کو یہ کھڑا اوڑھ لیتے تھے تو بستر کی وہ جگہ خالی رہ جاتی تھی۔ ایک عصا تھا جو حضرت شیخ قطب الدین قدس اللہ سرہ العزیز کا عطا کردہ تھا۔ اسے لا کر چارپائی کے سرہانے رکھا جاتا۔ اور شیخ اس کا تکیہ بنا کر استراحت فرماتے اور اس عصا پر بار بار ہاتھ پھیرتے اور اسے چومتے۔

پھر فرمایا کہ ایک روز اسی بیماری میں مجھے اور چند مریدوں کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں خطیرے (مقبرے) میں شب بیدار رہ کر میری صحت کے لئے دعا کرو۔ چنانچہ ہم نے ایسا

علی کیا کہ میں اور چند دوسرے مرید اس خطیرے میں گئے۔ اس خطیرے کی چھت تھی اس چھت پر چلے گئے اور کھانا بھی ساتھ رکھا۔ رات بھر وہاں رہے اور دعا مانگی۔ جب دن نکلا تو شیخ کی خدمت میں آئے اور کھڑے ہو کر عرض کی۔ رات کو ہم لوگ حکم کے موافق بیدار رہے اور دعا مانگی۔ شیخ کچھ دیر خاموش رہے۔ پھر فرمایا کہ تمہاری دعا سے صحت کے آثار تو پیدا ہوئے نہیں۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دینے میں تامل کیا۔ ایک مرید تھے جنہیں علی بیماری کہتے تھے۔ وہ میرے پیچھے کھڑے تھے۔ انہوں نے وہیں سے کہا کہ ہم ناقص ہیں اور شیخ کی ذات کامل۔ پس ناقصوں کی دعا کالموں کے حق میں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ شاید یہ بات شیخ سن نہ سکے۔ میں نے یہ بات جوں کی تو شیخ کے گوش مبارک تک پہنچائی اس کے بعد حضرت نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں نے خدا سے دعا کی ہے کہ تو خدا سے جو مانگے پائے۔ اس کے بعد اپنا عصا مجھے عطا فرمایا۔ اس دوران بندے (حسن علا بجزی) نے عرض کی کیا آپ شیخ کے انتقال کے وقت موجود تھے؟ حضرت آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور ارشاد کیا کہ نہیں۔ مجھے شوال کے مہینے میں دہلی بھیج دیا تھا۔ حضرت کا انتقال محرم کے مہینے کی پانچویں شب کو ہوا۔ رحلت کے وقت مجھے یاد کیا اور فرمایا کہ فلاں دہلی میں ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ شیخ قطب الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی وفات کے وقت میں حاضر نہیں تھا۔ ہانسی میں تھا۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر یہ حکایت بیان فرماتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ اس قدر روئے کہ سب حاضرین پر اس کا اثر ہوا۔ اس کے بعد یہ حکایت بیان فرمائی کہ جب شیخ کی بیماری بڑھی اور رمضان کا مہینہ آیا تو حضرت انظار فرماتے تھے (روزہ نہ رکھتے تھے) ایک روز کوئی خربوزہ لایا تھا۔ اس کی قاشیں کر کے شیخ کے سامنے رکھی گئی تھیں اور شیخ انہیں تناول فرما رہے تھے اس دوران خربوزے کی ایک قاش مجھے بھی مرحمت فرمائی۔ میں نے چاہا کہ اسے کھالوں۔ دل میں یہ خیال تھا کہ دو

مہینے تک متواتر روزے رکھ کر اس (روزہ توڑنے) کا کفارہ ادا کر دوں گا۔ یہ دولت کہ خود اپنے ہاتھ سے کوئی چیز عنایت فرماتے ہیں۔ پھر کہاں ملے گی۔ چنانچہ قریب تھا کہ میں اسے کھا لیتا کہ حضرت نے (ٹوکا اور) کہا کہ نہیں۔ مت کھاؤ! مجھے تو شریعت کی طرف سے اجازت ہے۔ تمہیں نہیں کھانا چاہئے۔ شیخ کی عمر کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ فرمایا کہ ترانوے سال تھی۔ اس روز یہی باتیں ہوتی رہیں اور ان کے سننے سے اس قدر ذوق حاصل ہوا کہ بیان نہیں کیا جاسکتا۔ جب رات ہوئی تو عشاء کی نماز کے بعد غلام (حسن علا ہجری) کو خاص جا نماز عطا فرمائی گئی۔ وَالْحَقُّ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

نویں مجلس

اسی سال ماہ ربیع الثانی کی دسویں تاریخ ہفتے کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی دعا کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ دعا بلا نازل ہونے سے پہلے کرنی چاہئے۔ عربی الفاظ میں فرمایا کہ جب بلا (اوپر سے) نازل ہوتی ہے تو دعائیچے سے اوپر جاتی ہے اور ہوا میں دونوں کا ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اگر دعا میں طاقت زیادہ ہوتی ہے تو وہ بلا کو پیچھے ہٹا دیتی ہے ورنہ بلا نیچے آجاتی ہے۔ اس بات کے مناسب حال یہ حکایت بیان فرمائی کہ جب تاتاری کافروں کی یورش ہوئی اور مغلوں کی بلانیشا پور پہنچی تو وہاں کے بادشاہ نے کسی کو شیخ فرید الدین عطار قدس اللہ سرہ العزیز کے پاس بھیجا کہ دعا کیجئے۔ انہوں نے جواب دیا کہ دعا کا وقت گزر چکا اب تو رضا کا وقت ہے۔ یعنی خدا کی طرف سے بلا نازل ہو چکی۔ اب تو خود کو اس کی مرضی پر چھوڑ دینا چاہئے۔ پھر فرمایا کہ نزول بلا کے بعد بھی دعا کرنی چاہئے اگرچہ اس طرح بلا دور نہیں ہوتی لیکن بلا کی صعوبت کم ہو جاتی ہے۔

اس کے بعد صبر و رضا کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا صبر یہ ہے کہ جب بندے کو کوئی ناگوار بات پیش آئے تو اس پر صبر کرے اور شکایت نہ کرے۔ اور رضایہ ہے کہ جب بندے کو کسی ناپسندیدہ چیز سے واسطہ پڑے تو اس سے اس کو ناگواری نہ ہو جیسے کہ اسے بلا سے سابقہ ہی

نہیں پڑا۔ پھر فرمایا کہ مشکلان اس مفہوم کو درست نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں کہ یہ کس طرح سوچا جاسکتا ہے کہ کسی کو ناگوار بات سے سابقہ ہو اور وہ اس پر ناگوار نہ گزرے ارشاد ہوا کہ اس کے بہت سے جواب ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص راستہ چل رہا ہے اور اس کے پیر میں کانٹا چبھ گیا اور خون بننے لگا۔ لیکن وہ اتنی جلدی میں جا رہا ہوتا ہے اور اس کا دھیان کسی اور طرف اس طرح لگا ہوتا ہے کہ کانٹا چبھنے کی اسے مطلق خبر نہیں ہوتی۔ کچھ دیر بعد پتہ چلتا ہے۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جنگ میں مشغول ہے۔ اور اس کے کوئی زخم لگا۔ لیکن وہ لڑائی میں ایسا محو ہوتا ہے کہ زخم کو ذرا بھی محسوس نہیں کرتا۔ جب اپنی قیام گاہ پر واپس آتا ہے تو احساس ہوتا ہے۔ پس جب اس قسم کی محویت جس کو بیان کیا تکلیف سے بے خبر رکھ سکتی ہے تو جو شخص حق میں مشغول ہو اس کی محویت اور بھی زیادہ ہوگی۔

اس کے بعد ارشاد ہوا کہ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ کوئی شخص کسی الزام میں پکڑا گیا۔ اس کو ہزار بید لگائے گئے۔ لیکن اس نے ذرا بھی آہ و زاری نہ کی اور اس پر چوٹ اور تکلیف کا اثر بھی نظر نہ آتا تھا۔ سزا ملنے کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ تجھ کو اس مار سے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی؟ اس نے جواب دیا کہ جب مجھے مار رہے تھے تو میرے محبوب نے مجھے دیکھا اور اس کی نظر کے سامنے مجھے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی۔

اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ جو مجازی معشوق کی نظر کے سامنے ہوتا ہے اس کو درد کی خبر نہیں ہوتی۔ حقیقی معشوق کے سامنے تو اور زیادہ کیفیت ہوگی۔

پھر توکل کا ذکر نکلا۔ فرمایا کہ توکل کے تین درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنے دعوے کے لئے کسی کو اپنا وکیل کرے اور وہ وکیل عالم بھی ہو اور موکل کا دوست بھی پس اس موکل کو یہ اطمینان رہے گا کہ میرا وکیل اپنے کام اور مقدمہ بازی میں ہوشیار بھی ہے اور میرا دوست بھی ہے۔ اس صورت میں توکل بھی ہے اور سوال بھی۔ کیونکہ کبھی کبھی وہ اپنے وکیل سے یہ بھی کہے گا کہ اس دعوے میں اس طرح جواب دینا اور اس کام کو اس طرح پورا کرنا۔ گویا توکل کے پہلے درجے میں توکل بھی ہوتا ہے اور سوال بھی توکل کے

دوسرے درجے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی دودھ پیتا بچہ ہو کہ اس کی ماں اس کو دودھ پلاتی ہے اس کو محض توکل ہوتا ہے، سوال نہیں ہوتا۔ بچہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے فلاں وقت دودھ دینا۔ بس رونے لگتا ہے اور تقاضا نہیں کرتا اور یہ نہیں کہتا کہ مجھے دودھ دو۔ اپنی ماں کی شفقت پر اس کو بھروسہ ہوتا ہے لیکن توکل کے تیسرے مرتبے کی مثال غسل میت دینے والے کے سامنے مردے کی سی ہے۔ مردہ نہلانے والے سے کوئی سوال نہیں کرتا اور اس سے کوئی حرکت سرزد نہیں ہوتی۔ نہلانے والا جس طرح بھی اسے ضرورت ہوتی ہے۔ اسے پھیرتا اور نہلاتا ہے توکل کا تیسرا مرتبہ یہی ہے اور یہ مرتبہ اعلیٰ ہے اور بلند ہے۔

اسی مجلس میں کھانا لایا گیا۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے ازراہ خوش طبعی کہا کہ میں فلاں جگہ تھا۔ اور میرا پیٹ بھرا ہوا تھا۔ لیکن جب تملج (۳) (ایک قسم کی آتش) سامنے رکھی گئی تو میں اسے چھوڑ نہیں سکا۔ یہ اور اسی قسم کی دوسری خوش طبعی کی باتیں اس نے کیں۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے تبسم کیا اور اس موقع کی مناسبت سے ایک حکایت بیان فرمائی کہ میں ایک دفعہ شیخ جمال ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اشراق (صبح سورج نکلنے کے بعد) کا وقت تھا۔ اور سردی کا موسم شیخ جمال الدین نے مجھے مخاطب کر کے یہ دو مصرعے پڑھے۔

باروغن گاؤ اندریں روز خنک
نیکو باشد ہر سہ و نان تنک

آج کی سردی میں تو گھی اور ہر سہ اور پراٹھے (۴) ہوتے تو خوب ہوتا۔

میں نے کہا کہ ذکر الغائب غیبیہ۔ غائب کا ذکر کرنا فہیت ہے۔ شیخ جمال الدین بولے کہ میں نے اسے حاضر کر لیا ہے تب کہتا ہوں۔ پس اسی وقت جیسا کہ انہوں نے کہا تھا یہ چیزیں لائی گئیں۔ بچے ہوئے دسترخوان اور موجود کھانے کی نسبت حکایت بیان فرمائی کہ ایک شخص محمد نامی تھا۔ وہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں بیٹھا تھا۔ کھانا لایا گیا تو دسترخوان اور کھانا رکھنے کا کپڑا موجود نہ تھا۔ شیخ نے فرمایا کہ روٹی زمیں پر رکھ دو حاضر الوقت کے دل میں خیال گزرا کہ اگر دسترخوان ہوتا تو اچھا تھا۔ شیخ نے دو انگلیوں سے ایک خط دائرے کی صورت میں کھینچ دیا۔ اور اس شخص سے کہا کہ محمد بس سمجھو کہ یہی

دستر خوان ہے اس کے بعد ارشاد ہوا کہ یہ واقعہ ابتدائی زمانے کا ہے۔

دسویں مجلس

اسی سال ماہ ربیع الآخر کی تیسویں تاریخ جسے کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی۔ اسی ہفتے راقم الحروف کی تمخواہ رک جانے کی وجہ سے پریشانی تھی۔ جب خدمت میں حاضر ہوا تو ارشاد فرمایا کہ اب سے کچھ عرصے پہلے ایک شخص تھے بہت بزرگ۔ میری چند بار ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بہت سی باتیں کیں۔ مجھے ان کی بزرگی کی وجہ سے نام و لقب پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ایک دفعہ راستے میں مجھے ملے تو ایک حکایت سنائی پہلے تو میرے سامنے آتے ہی بولے کہ خدا نے چاہا تو تم ایسے ہی ہو جاؤ گے جیسا لوگوں کا اعتقاد تمہارے بارے میں ہے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے یہ حکایت بیان فرمانے کے بعد اس بات کی بہت تعریف فرمائی اور ارشاد ہوا کہ سب کچھ گویا انہوں نے کہہ دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہی شخص ایک دفعہ اور مجھے ملے۔ اور قصہ سنایا کہ لاہور میں ایک آدمی تھے۔ ان کو شیخ زندہ دل کہتے تھے۔ بہت بزرگ آدمی تھے ایک دفعہ عید کے دن لوگ نماز پڑھ کر واپس آئے تو شیخ نے آسمان کی طرف رخ کر کے کہا کہ آج عید ہے۔ ہر غلام کو اپنے آقا سے عیدی ملتی ہے۔ مجھے بھی عیدی دے! جب یہ بات انہوں نے کہی تو ریشم کا ایک ٹکڑا آسمان سے گرا جس پر لکھا تھا کہ ہم نے تیری ذات کو دوزخ کی آگ سے نجات دی۔ جب لوگوں نے اسے دیکھا تو ان کا بڑا اعزاز و اکرام کیا اور تمبر کا ان کے ہاتھ چومنے لگے۔ اسی درمیان شیخ کے دوستوں میں سے کوئی شخص آیا اور ان سے کہنے لگا کہ تم کو تو باری تعالیٰ سے عیدی مل گئی اب تم مجھ کو عیدی دو! شیخ نے سنا تو ریشم کا مذکورہ بلا ٹکڑا اسے دیکر کہا کہ جاؤ یہ تمہاری عیدی ہے۔ کل میں جانوں اور دوزخ۔

اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ ایک دفعہ اور ان مرد بزرگ سے میری ملاقات ہوئی مجھ سے بولے کہ ایک قصہ سنو! قصہ یہ تھا کہ کسی شہر میں کوئی بہت ملدار برہمن رہا کرتا تھا شاید اس شہر کے حاکم نے اس سے ٹکوان لیا اور سارا مال و اسباب ضبط کر کے اسے کننگال کر دیا۔ اس کے بعد وہ برہمن مغلّس اور پریشان ہو گیا۔ ایک روز وہ کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں اس کا ایک دوست ملا۔ اور پوچھنے لگا کہ کو کیا حال ہے؟ برہمن نے جواب دیا کہ

بہت اچھا آئندہ ہے اور دوست بونا کہ تری سب چیزیں تو چھن گئیں آئندہ کہاں سے آیا۔ اس نے جواب دیا۔ میرا زنا تو میرے پاس ہے!

یہ حکایت بیان کرنے کے بعد خواجہ ذکریہ اللہ بالخیر نے مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ ”میری تقریر سے کچھ سمجھے بھی؟“

میں نے عرض کی۔ جی ہاں بندے کے دل کو اس حکایت سے باطنی تسلی حاصل ہوئی بیچارے کے دل کی تسکین کے لئے یہ ارشاد ہوا ہے۔ یعنی تنخواہ رکنے اور اسباب دنیا میسر نہ آنے کا کچھ غم نہیں کرنا چاہئے۔ سارا جہان بھی چلا جائے تو پروا نہیں کرنی چاہئے۔ بس محبت حق برقرار رہنی چاہئے۔ الحمد للہ بندے نے حضرت کے ارشاد سے یہی مطلب اخذ کیا۔

گیارہویں مجلس

اسی سال ماہ جمادی الاولیٰ کی چودھویں تاریخ جمعے کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ غلام نے اس جمعے کی رات کو ایک خواب دیکھا تھا۔ وہ عرض کیا۔ خواب یہ تھا کہ گویا امیر عالم والوالحی علیہ الرحمۃ والرضوان راقم الحروف کو کوئی مٹھائی عنایت کر رہے ہیں۔ خواجہ ذکریہ اللہ بالخیر نے پوچھا کہ کیا کبھی ان سے تمہارا کوئی تعلق رہا ہے؟ میں نے عرض کیا جی نہیں۔ ارشاد ہوا کہ کوئی چیز غیب سے ملے گی۔ دوسرے جمعے کو غیب سے ایک ایسی چیز ملی کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔

بارہویں مجلس

اسی مہینے کی چوبیسویں تاریخ پیر کے دن کہ اس خواب کو دیکھے ہوئے گیارہواں روز تھا۔ اس سے بہتر اور مبارک چیز ملی۔ الغرض اس روز امیر عالم والوالحی کی بزرگی کے بارے میں حضرت نے بہت کچھ فرمایا۔ ان کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد ہوا کہ ایک صاحب نعمت بزرگ جن کو خواجہ اجل شیرازی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل ہوا تھا ایک دفعہ یہ بزرگ منبر پر تشریف لائے۔ خلقت کا مجمع لگا ہوا تھا۔ جن میں امیر عالم والوالحی بھی تھے۔ ان بزرگ نے اس طرح بیان شروع کیا کہ اے مسلمانو! آگاہ ہو جاؤ اور جان لو کہ مجھے خواجہ شیرازی سے نعمت ملی تھی۔ آج رات کو میں چاہتا تھا کہ یہ نعمت اپنے لڑکے کو عطا کر دوں مگر حکم یہ ہوا کہ

امیر عالم والوہی کو دو۔ اس کے بعد امیر عالم کو منبر پر بلایا اور اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا۔

تیرہویں مجلس

ماہ جمادی الاخر کی انتیسویں تاریخ اتوار کو قدم بوسی کی سعادت ہاتھ آئی۔ رجب کے مہینے کی فضیلت کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ اس مہینے میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ اور اس مہینے کی چار راتیں بہت مبارک ہیں۔ پہلی رات دوسرے جمعے کی رات۔ تیسرے پندرہویں رات۔ چوتھے ستائیسویں رات جو شب معراج ہے۔

اس کے بعد نفل نماز کا ذکر آیا۔ ارشاد ہوا کہ جو نفل پڑھے جاتے ہیں وہ قضا شدہ فرض نمازوں میں محسوب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر فرمایا کہ وہ اپنی ہر قضا نماز کو پانچ بار ادا کرتے تھے۔

چودھویں مجلس

اسی سال ماہ رجب کی تیرہویں تاریخ اتوار کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی توبہ کے قائم رہنے کا ذکر آیا۔ ارشاد ہوا کہ سالک اگر پیر کی بیعت پر جمار ہے تو اس سے پہلے اس نے جو کچھ کیا تھا اس کا مواخذہ نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں یہ حکایت بیان فرمائی کہ سراج الدین لقب ایک صاحب تھے قصبہ ابو ہر کے رہنے والے میں ایک دفعہ وہاں گیا اور ان کے ہاں جا کر اترے۔ وہ اور ان کی بیوی دونوں شیخ فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کے مرید ہو چکے تھے۔ شاید اس روز اس قصبے کے رہنے والے ان سراج الدین کی بیوی سے جھگڑ رہے تھے جھگڑے اور لڑائی کے دوران بہت نامناسب باتیں کہہ رہے تھے۔ ایسی باتیں کہیں جن سے عیب لگتا تھا۔ بعد میں ان خاتون نے جواب دیا اور کہا کہ جو کچھ تم لوگ کہتے ہو ذرا میرے بارے میں سوچو کہ یہ باتیں بیعت سے پہلے کی ہیں یا بیعت کے بعد کی۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر جب اس بات پر پہنچے تو ارشاد ہوا کہ اس عورت نے کیسی عمدہ بات کہی۔

پندرہویں مجلس

اسی سال ماہ رجب کی انتیسویں تاریخ منگل کو قدم بوسی کی دولت میسر آئی۔ ایک شخص حاضر ہوا اور اپنے حالات کے سدھار کے واسطے امداد چاہی ارشاد ہوا کہ روزگار کی تنگی دور کرنے کے لئے ہر رات کو سورۃ جمعہ پڑھنی چاہئے۔ پھر فرمایا کہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کا ارشاد ہر جمعے کی رات کے لئے ہے۔ لیکن میں کتا ہوں کہ ہر رات کو پڑھنی چاہئے۔ مگر میں خود اپنے لئے کبھی نہیں پڑھتا کیونکہ وہ اللہ جس حال میں چاہتا ہے رکھتا ہے۔

اس درمیان حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ میرا گزر ایسے لوگوں میں ہوا جو صوفیوں کے لباس میں تھے ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں نے ایسا (ایسا) خواب دیکھا ہے۔ اس نے تعبیر دی کہ اچھا خواب ہے۔ تیرا روزگار بن جائے گا اور اسباب قیام ہو جائیں گے۔ اور معیشت کشادہ ہو جائے گی۔ میں نے چاہا کہ اس سے کہوں کہ اے خواجہ جس لباس میں تم ہو اس لباس والے ایسی تعبیریں نہیں کیا کرتے پھر مجھے خیال آیا کہ میں جواب دینے والا کون؟ چنانچہ کچھ نہیں بولا اور ان کے پاس سے چلا آیا۔

جب خواجہ ذکر اللہ بالخیر یہ حکایت ختم کر چکے تو اس شخص نے جو دعا کرانے آیا تھا رض کی کہ اے مخدوم لوگوں کو اسباب کی فراہمی اور اچھے روزگار کے بغیر چارہ نہیں، خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے تبسم فرمایا اور ارشاد کیا کہ یہ حکایت میں نے تمہارے بارے میں تھوڑی کمی ہے میں تو خود اپنا حال بیان کرتا ہوں۔

سولہویں مجلس

اسی سال ماہ مبارک رمضان (اس کی برکتیں عام ہوں) کی چھٹی تاریخ جمعرات کو قدم بوسی کی سعادت ہاتھ آئی۔ اس روز بندے (حسن علا بھڑی) نے بعض اور بزرگ مریدوں کے ساتھ تجدید بیعت کی تھی۔ اس سلسلے میں ارشاد ہوا کہ جب رسول ﷺ نے مکے کا ارادہ فرمایا تو فتح سے پہلے عثمان جوہی کو مکے والوں کے پاس سفیر بنا کر بھیجا۔ اس دوران رسول علیہ السلام تک انواہیں پہنچیں کہ حضرت عثمان جوہی کو شہید کر دیا گیا۔ رسول علیہ السلام نے یہ خبر سنی تو صحابہ کو بلایا اور کہا کہ آؤ بیعت کرو مکے والوں سے لڑیں گے۔ صحابہ نے بیعت کی اس وقت محمد مصطفیٰ ﷺ نے درخت کے تنے سے ٹہک لگا رکھی تھی۔ اس بیعت کو بیعت

الرضوان کہتے ہیں۔ اس بیعت کے دوران ابن اکوع نامی صحابی حاضر ہو کر بیعت ہوئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے اس سے پہلے بیعت نہیں کی؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کی ہے۔ اس وقت تجدید کے لئے بیعت کر رہا ہوں پیغمبر علیہ السلام نے ان کو بیعت کے لئے دست مبارک عطا فرمایا۔ اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ یہ تجدید کا سلسلہ یا اجازت وہیں سے ہے اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی مرید تجدید بیعت کرنا چاہتا ہو۔ اور شیخ موجود نہ ہو تو شیخ کا لباس سامنے رکھ کر اس لباس سے بیعت کر لینی چاہئے۔ اس درمیان فرمایا عجب نہیں کہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز نے بارہا ایسا کیا ہو اور میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں۔

پھر حسن اعتقاد کا ذکر نکلا۔ فرمایا کہ میں نے اودھ کے شیخ الاسلام شیخ رفیع الدین سے سنا ہے وہ کہتے تھے کہ میرا ایک عزیز خواجہ اجل شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا۔ ایک دفعہ یہ مرید کسی تہمت میں گرفتار ہوا۔ اور قتل گاہ میں لایا گیا۔ جلاد نے جو اس کی گردن اڑانے والا تھا اسے اس طرح کھڑا کیا کہ چہرہ قبلے کی طرف ہو۔ مرید چاہتا تھا کہ اپنے قبلے کی طرف منہ کرے کیونکہ پہلی صورت میں شاید اس کی پیٹھ اپنے پیر کی قبر کی طرف ہو جاتی تھی۔ چنانچہ اس نے فوراً اپنے پیر کی قبر کی طرف منہ کر لیا۔ جلاد نے کہا کہ اس وقت تو چہرہ قبلے کی طرف رکھنا چاہئے۔ تو منہ کیوں پھیرتا ہے۔ مرید بولا کہ میں نے منہ اپنے قبلے کی طرف کر لیا ہے تو اپنا کام کر۔

اسی مناسبت سے یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ میں سفر میں تھا لمبی منزل میں ایک روز بڑی تکلیف اٹھائی اگرچہ کہ میں سوار تھا۔ لیکن بڑی پیاس لگی۔ ایک تالاب کے کنارے پہنچا۔ گھوڑے سے نیچے اترا اور چاہتا تھا کہ تھوڑا سا پانی لے کر پیوں کہ اندر سے ابکائی سی آئی اور پت (صفرے) کا غلبہ ہوا۔ جس وقت میں بے ہوش ہوا میری زبان پر یہی آیا کہ شیخ! شیخ! تھوڑی دیر بعد مجھے پھر ہوش آ گیا۔ الغرض اس کے بعد مجھے اپنے کام کے (نیک) انجام کا یقین ہو گیا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آخری وقت میں بھی یہی امید ہے کہ ان کی یاد کے ساتھ جاؤں۔

سترہویں مجلس

اسی سال ماہ مبارک رمضان کی تیشویں تاریخ اتوار کو قدم بوسی کی سعادت میسر آئی۔ قبروں کی زیارت کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ میری والد علیہا الرحمہ بیمار ہوئیں۔ اور اس بیماری میں بار بار مجھ سے فرمایا کہ فلاں شہید کی زیارت کے لئے جاؤ اور فلاں بزرگ کے مزار پر حاضری دو۔ چنانچہ میں ان کے حکم کے مطابق جاتا رہا۔ جب واپس آتا تو فرماتیں کہ بیماری میں افاقہ ہے اور تکلیف میں کمی ہے۔ اس کے بعد حکایت بیان فرمائی کہ جب شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز بیمار ہوئے تو مجھے چند مریدوں کے ساتھ وہاں کے شہیدوں کی زیارت کے لئے بھیجا۔ جب ہم زیارت کے بعد خدمت میں حاضر ہوئے تو فرمایا کہ تمہاری دعا نے تو کچھ بھی اثر نہیں کیا۔ مجھے کوئی جواب نہ سوجھا ایک مرید تھے جنہیں علی ہماری کہتے تھے۔ وہ ذرا دور کھڑے تھے وہیں سے بولے کہ ہم ناقص ہیں اور شیخ کی ذات مبارک کامل۔ پس ناقصوں کی دعا کالوں کے لئے کس طرح پر اثر ہو سکتی ہے؟ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ یہ بات شیخ کے سمع مبارک تک نہیں پہنچی۔ چنانچہ میں نے اس کو جوں کاتوں شیخ کے گوش گزار کر دیا۔ مجھ سے فرمایا کہ میں نے خدا سے درخواست کی ہے تو خدا سے جو چاہے پائے۔ اس کے بعد اسی روز مجھے عصا عطا ہوا اور حکم دیا کہ تم اور بدر الدین اسحق علیہ الرحمۃ جاؤ اور اسی خطیرے (مقبرے) میں مشغول رہو۔ ہم دونوں گئے اور رات کو مشغول بحق رہے جب خدمت میں آئے تو ارشاد ہوا کہ اچھا رہا! اس حکایت کے دوران ارشاد ہوا کہ ایک دفعہ مجھ سے فرمایا کہ تم سب مریدوں کو ایک لاکھ مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہئے اور یہ بات سب مریدوں سے کہہ دو اور آپس میں بانٹ لو۔ میں نے رفیقوں سے کہا اور ہر ایک کے لئے تعداد مقرر کر دی۔ ہر شخص نے ایک خاص تعداد قبول کی ایک نے پانچ ہزار بار اور ایک نے چار ہزار بار اور کسی نے کم اور کسی نے زیادہ میں نے دس ہزار بار فاتحہ پڑھی اور کنتی کے چند روز میں ایک ہفتہ یا کم زیادہ ختم پورا ہو گیا۔ اس کے بعد بندے حسن علاء بجزی نے شیخ کی خدمت میں عرض کی کہ کیا یہ بیماری کے زمانے کا ذکر ہے؟ ارشاد ہوا کہ نہیں اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ معلوم نہیں حضرت کی خدائے تعالیٰ سے کیا درخواست تھی!

اٹھارویں مجلس

اسی سال ماہ ذی القعدہ کی ساتویں تاریخ پیر کو قدم بوسی کی دولت میسر ہوئی امام ناصری

marfat.com

Marfat.com

رحمتہ اللہ علیہ کی تفسیر سامنے تھی۔ اس مناسبت سے صاحب تفسیر کے بارے میں فرمایا کہ ایک دفعہ یہ امام بیمار پڑے۔ اور اس بیماری میں انہیں سکتہ ہو گیا۔ اقرباء اور دوستوں نے جانا کہ انتقال کر گئے۔ چنانچہ انہیں قبر میں دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو انہیں ہوش آ گیا۔ اور پتہ چلا کہ انہیں قبر میں دفن کر دیا گیا ہے۔ اسی حیرت اور لاچارگی میں انہیں یاد آیا کہ جو شخص پریشانی میں چالیس بار سورۃ یسین پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اس تنگی میں کشادگی عطا فرماتا ہے۔ اور راہ پیدا کر دیتا ہے۔ اسی وقت یسین پڑھنی شروع کر دی۔ جب انا لیس مرتبہ پڑھ چکے تو کشادگی کے آثار پیدا ہوئے اور ہوا یہ کہ کوئی کفن چور کفن کے لالچ میں آیا اور اس نے قبر کھولی۔ امام سمجھ گئے کہ یہ کفن چور ہے۔ چالیسویں مرتبہ یسین پڑھی تو آہستہ آہستہ پڑھی تاکہ وہ نہ سنے اور قبر کو مرضی کے موافق کھولے۔ قصہ مختصر جب چالیس بار یسین پوری ہوئی تو امام ناصر آہستہ سے قبر کے باہر آئے کفن چور نے جب یہ دیکھا ایسی دہشت طاری ہوئی کہ اس کا پتہ پھٹ گیا اور اسی وقت مر گیا۔ امام کو اس کے مرنے کا بہت افسوس ہوا اور اپنے آپ سے کہا کہ مجھے چپ چاپ پڑے رہنا چاہئے تھا تاکہ وہ کفن اتار لیتا اور پھر میں خاموشی سے باہر آجاتا۔ خیر باہر آ کر اپنی جلد بازی پر پشیمان ہوئے اور قبر سے نکل کر سوچنے لگے کہ جب لوگ مجھے یکا یک دیکھیں گے خوف کھائیں گے اور ہر ایک تعجب و حیرت میں پڑ جائے گا۔ پس رات ہی کو وہ آہستہ آہستہ شہر میں آئے اور پکارا کہ میں فلاں شخص ہوں اور مجھ کو سکتے کی وجہ سے غلط فہمی میں دفن کر آئے تھے یہ کہتے ہوئے آئے تاکہ مخلوق کو یکا یک اچنبھانہ ہو۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ تفسیر انہوں نے اس واقعے کے بعد لکھی تھی۔

پھر ان مردوں کا ذکر ہونے لگا۔ جو ہمیشہ یاد حق میں مستغرق رہتے ہیں۔ اور انہیں اپنا کھانا سونا بھی یاد نہیں رہتا۔ جو کچھ کرتے ہیں۔ اللہ کے لئے کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ ایک بہت بزرگ پیر تھے جو پانی کے کنارے سکونت رکھتے تھے۔ انہوں نے کچھ کھانا مہیا کیا اور اپنی بیوی سے بولے کہ یہ کھانا سر پر رکھو اور پانی پار کرو۔ گھاٹ پر ایک درویش بیٹھے ہیں۔ یہ طعام ان کے سامنے رکھو تاکہ وہ کھالیں۔ عورت بولی کہ پانی بہت ہے۔ پار اترنا مشکل ہے شیخ نے فرمایا کہ پانی کے کنارے پر جاؤ اور پانی کو مخاطب کر کے کہو۔ اے پانی اس بات کی حرمت سے کہ میرے شوہر نے کبھی میرے ساتھ صحبت نہیں کی مجھے راستہ دے۔ اس عورت کو بڑا تعجب ہوا اور اپنے آپ سے بولی کہ اس مرد سے میرے اتنے لڑکے ہیں میں یہ بات کیسے

کہوں۔ بہر حال اس نے شوہر کے حکم کی تعمیل کی۔ پانی کے کنارے جا کر مذکورہ فقرہ کہل۔ اسی وقت پانی میں شگاف پڑ گیا۔ اور پانی دو پھاٹ ہو گیا۔ اور بیچ میں سوکھا راستہ نکل آیا۔ عورت خیریت سے پار چلی گئی۔ جب درویش کے پاس پہنچی تو اس کے سامنے کھانا رکھا۔ درویش نے کھانا کھالیا اور عورت سے کہا تم واپس جاؤ عورت نے کہا کہ میں آپ کے پاس اس طرح آئی تھی کہ میرے شوہر نے ایک بات کہی تھی۔ میں نے وہ بات پانی سے کہی۔ پانی نے راستہ دے دیا۔ اب کس تدبیر سے واپس جاؤں۔ درویش نے پوچھا کہ تمہارے شوہر نے کیا بات کہی تھی عورت نے وہ بات دہرائی درویش نے کہا کہ جاؤ پانی کے کنارے جا کر پانی سے یہ بات کہو کہ اس درویش کی حرمت سے کہ جس نے تیس سال کی مدت میں کبھی بھی کھانا نہیں کھلایا مجھے راستہ دے اس بات سے عورت کو اور بھی حیرت ہوئی۔ اپنے آپ سے بولی کہ ایک ناممکن بات تو وہ تھی جو میرے شوہر نے کہی تھی۔ اور دوسری ناممکن بات یہ ہے جو یہ شخص کہتا ہے۔ اس نے ابھی ابھی میرے سامنے کھانا کھلایا ہے۔ میں یہ بات کیسے کہوں؟ بہر حال ان درویش کے کہنے کے موافق پانی کے کنارے پہنچی اور کہا کہ اے پانی اس بات کی حرمت سے کہ اس درویش نے تیس سال کی مدت میں ایک دفعہ بھی کھانا نہیں کھلایا۔ مجھے راستہ دے۔ اسی وقت پانی میں شگاف پڑ گیا اور دو پھاٹ ہو گیا اور سوکھا راستہ بیچ میں نکل آیا۔ عورت خیر و عافیت سے گزر گئی۔ جب اپنے شوہر کے پاس آئی تو ان کے پیروں پڑ کر بولی کہ مجھے ان باتوں کے بھید بتاؤ کہ کیا تھا تم نے بھی اتنی بار مجھ سے صحبت کی اور اس درویش نے بھی میرے سامنے کھانا کھلایا۔ یہ دونوں جھوٹ میں نے پانی سے بولے اور پانی نے مجھے راستہ دے دیا۔ یہ کیا حکمت تھی؟ شیخ نے کہا کہ سمجھ لو اور یاد رکھو کہ میں نے تمہارے ساتھ کبھی اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لئے صحبت نہیں کی جو صحبت بھی تم سے کی وہ تمہارا حق ادا کرنے کے لئے کی نہ کہ نفسانی خواہشات اور اپنے نفس کے ذوق کے لئے کی۔ پس اس لحاظ سے میں نے گویا تمہارے ساتھ کبھی صحبت کی ہی نہیں۔ اور اس شخص نے اس تیس سالوں میں کوئی کھانا نہ ذوق نفس کے لئے کھلایا نہ حصول لذت کے لئے کھلایا۔ جب بھی کھلایا عبادت کی طاقت حاصل کرنے کے لئے کھلایا۔ یہ تھی معنویت ان دونوں باتوں کی۔ یعنی مردان خدا جو کچھ بھی کرتے ہیں۔ وہ خدا کے لئے کرتے ہیں ان کی نیت ہمیشہ اللہ کے لئے ہوتی ہے۔

یہاں سے قدوة الاولیاء شیخ قطب الدین بختیار قدس اللہ سرہ العزیز کا ذکر خیر آیا۔

marfat.com

Marfat.com

ارشاد ہوا کہ ان کے دو صاحبزادے تھے۔ جوڑواں۔ ان میں سے ایک کی وفات تو بچپن ہی میں ہو گئی تھی۔ دوسرے بڑے ہوئے۔ لیکن وہ ذرا بھی شیخ پر نہ تھے ان کے احوال اور شیخ کے احوال میں کوئی مناسبت نہیں تھی۔ اس حکایت کے دوران خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے زبان گوہر پار سے فرمایا شیخ قطب الدین کے فرزند شیخ الاسلام فرید الدین نور اللہ مرقد ہاتھی۔ القصد حضرت نے فرمایا کہ جب شیخ کے چھوٹے بچے نے وفات پائی اور حضرت اس کو دفن کر کے واپس آئے اور گھر پہنچے تو شاید حضرت کی بی بی صاحبہ بیٹے کے مرنے پر بہت روئی دھوئیں جب ان کے بین کی آواز شیخ قطب الدین قدس اللہ سرہ العزیز کو پہنچی تو حضرت ہاتھ ملنے لگے۔ شیخ بدر الدین غزنوی علیہ الرحمۃ رضوان حاضر تھے وہ آداب بجالائے۔ اور پوچھا کہ یہ افسوس کا ہے؟ شیخ نے ارشاد کیا کہ اس وقت مجھے یاد آیا کہ میں نے حق تعالیٰ سے بچے کی زندگی کیوں نہ مانگی۔ اگر میں مانگتا تو وہ عطا فرماتا۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ دیکھو دوست کی یاد میں ان کی محویت دیکھو کہ کس درجے تھی کہ بیٹے کی موت زندگی بھی یاد نہیں آئی۔

پھر دعا کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ دعا کے وقت بندے کو چاہئے کہ نہ لغتو گناہ کر چکا ہو۔ ان کا خیال دل میں لائے اور نہ کسی طاعت و عبادت کا۔ کیوں کہ اگر اس کا خیال دل میں لائے گا تو غرور ہو گا۔ اور گھمنڈی کی دعا قبول نہیں ہوا کرتی اور اگر گناہ کا دھیان دل کو ہو گا تو دعا کے یقین میں سستی آئے گی۔ پس دعا کے وقت نظر خاص رحمت حق تعالیٰ پر رکھنی چاہئے۔ اور یہ یقین ہونا چاہئے کہ یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اگر خدا چاہے مزید فرمایا کہ دعا کے وقت دونوں ہاتھ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں اور سینے کے سامنے ہوں۔ اور یہ بھی آیا ہے کہ دونوں ہاتھ ایک دوسرے سے ملے ہوئے رکھنے چاہئیں۔ اور خاصے بلند رکھنے چاہئیں۔ اور ایسی صورت بتانی چاہئے۔ کہ گویا اسی وقت کوئی چیز اس کے ہاتھ میں ڈالی جائے گی۔ اس درمیان میں یہ معنی بھی بیان فرمائے کہ دعا دل کی تسکین کے واسطے ہے۔ ورنہ خدائے عزوجل خوب جانتا ہے کہ کیا کرنا چاہئے پھر مریدوں کے عقیدے کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ عرصہ گزرا۔ شہر میں محمد نامی میرے ایک پڑوسی تھے جو ہر سال نارو کے مرض میں مبتلا ہوتے اور بڑی تکلیف اٹھاتے۔ جب میں نے شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زیارت کا ارادہ کیا تو اس پڑوسی نے مجھ سے کہا کہ جب شیخ کی خدمت میں حاضر ہو تو میرا حال کہنا اور میرے لئے تعویذ مانگنا اور لانا۔ القصد جب میں شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس شخص کا حال

کہا اور تعویذ کی درخواست کی۔ شیخ نے مجھ سے فرمایا کہ تم ہی لکھو۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ میں نے تعویذ لکھا اور شیخ کے دست مبارک میں دیا۔ شیخ نے اس کو ملاحظہ فرمایا اور پھر مجھے دے دیا اور ارشاد ہوا کہ اسے پہنچا دینا۔ جب میں شہر آیا تو وہ تعویذ اس کو دے دیا باقی عمر اس کو نارو کبھی نہیں ہوا۔ حاضرین میں سے کسی نے پوچھا کہ حضور نے اس تعویذ میں کیا لکھا تھا؟ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا۔ اللہ الشافی اللہ الکافی۔ اللہ للعافی۔ ایک دو کلمے اس کے بعد اور فرمائے جو میرے ذہن سے اتر گئے۔

مریدوں کے اعتقاد کے ضمن ہی میں ارشاد ہوا کہ ایک روز میں شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں بیٹھا تھا۔ ایک بل حضرت کی مبارک داڑھی سے جدا ہوا۔ اور شیخ کی گود میں گر گیا۔ میں نے عرض کی کہ میری ایک درخواست ہے۔ اگر حضرت شیخ اسے منظور فرمائیں ارشاد ہوا کہ کیا درخواست ہے؟ میں نے عرض کی کہ ایک بل آپ کی مبارک داڑھی سے جدا ہو گیا ہے۔ اگر حکم ہو جائے تو میں اسے بطور تعویذ اپنے پاس رکھوں۔ ارشاد ہوا کہ ایسا ہی کر لو۔ میں نے وہ بال بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ لیا اور کپڑے میں لپیٹا اور اپنے ساتھ شہر لے آیا۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر اس حکایت کے دوران آنکھوں میں آنسو بھرا لائے اور فرمایا کہ اس ایک بل میں کیا کیا اثر میں نے دیکھے جو بھی بیمار اور دردمند میرے پاس آتا اور مجھ سے تعویذ مانگتا میں وہ موئے مبارک دے دیتا وہ اسے لے جاتا اور کچھ عرصہ اپنے پاس رکھتا اور اس کے دکھ بیماری دور ہو جاتے تو صحت کے بعد پھر میرے پاس لے آتا۔ چنانچہ میرے ایک دوست تاج الدین مینائی نام کے تھے ان کا ایک چھوٹا بچہ تھا۔ وہ بیمار ہوا تو مینائی میرے پاس آئے اور مجھ سے تعویذ مانگا۔ میں نے تعویذ ایک طاق میں بھی تلاش کیا کہ شاید غلطی سے کہیں اور رکھ دیا ہو لیکن وہ نظر نہ آیا۔ اور میرے دوست مایوس واپس گئے۔ ان کا بچہ اسی بیماری میں گزر گیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد کوئی اور آیا اور کسی ضرورت سے وہ تعویذ طلب کیا۔ جب میں نے دیکھا تو اسی طاق میں رکھا دکھائی دیا۔ جہاں میں ہمیشہ رکھتا تھا اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ چونکہ ان دوست کا بچہ وفات پانے والا تھا۔ اسی سبب سے تعویذ عائب ہو گیا۔

انیسویں مجلس

marfat.com

Marfat.com

اسی سال ماہ ذی قعدہ کی سولہویں تاریخ بدھ کو دست بوسی کی دولت ہاتھ آئی۔ لقمہ و نثر کا ذکر نکلا۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ جو بھی اچھا شعر سنا جائے تو اس سے لازماً ذوق حاصل ہوتا ہے اور ہر وہ مفہوم جو نثر میں سنا جائے اگر لقمہ میں سنیں تو ذوق بڑھ جاتا ہے۔ اچھے ترنم کی بھی یہی کیفیت ہے کہ جیسے اچھے شعر کے سننے سے ذوق حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ شعر ترنم کے ساتھ سنا جائے تو ذوق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

اس درمیان راقم نے عرض کی کہ بندے کو کسی چیز سے اتنی رقت نہیں ہوتی جتنی سماع سے ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اصحاب طریقت اور مشائقوں کا یہ ذوق ہی تو ہے جو آگ لگاتا ہے۔ اور اگر یہ نہ ہوتا تو زندگی کیا ہوتی اور زندگی میں مزا کیا ہوتا۔ ان معانی کے بیان میں حضور کی آنکھ بھر آئی اور سینہ مبارک سے ایک آہ کھینچ کر فرمایا کہ ایک دفعہ مجھے خواب میں کچھ دکھایا گیا۔ میں نے یہ مصرع پڑھا اے دوست بدست انتظارم کشتی۔ اے دوست تو نے اپنے انتظار کے ہاتھوں مجھے مار ڈالا۔ اس کے بعد خواب ہی میں اس مصرعے کی تکرار کی تو اس طرح پڑھا اے دوست بزخم انتظارم کشتی! اے دوست تو نے مجھے اپنے انتظار کے گھاؤ سے مار ڈالا۔ جب آنکھ کھلی تو یاد آیا کہ یہ مصرع اس طرح ہے۔

اے دوست بہ تیغ انتظارم کشتی
اے دوست تو نے انتظار کی تلوار سے مجھے مار ڈالا۔

بیسویں مجلس

اسی سال ماہ ذی الحجہ کی تیرہویں تاریخ منگل کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی۔ سچی ارادت کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ ایک فوجی تھا۔ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کے مریدوں میں۔ اس کو محمد شاہ کہتے تھے۔ وہ جو بھی کرتا اس کے بارے میں شیخ کو خواب میں دیکھ لیتا اور جس بیعت میں شیخ کو دیکھتا اسی کے مطابق خواب کی تعبیر لیتا۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ اس نے ہندوستان جانے کا ارادہ کیا۔ اسی فکر میں تھا کہ ایک رات کو خواب میں حضرت شیخ کو دیکھا کہ جیسے اجودھن کی طرف جا رہے ہیں۔ جب وہ بیدار ہوا تو اپنے آپ سے بولا کہ مجھے بھی اسی طرف جانا چاہئے۔ نہ اس نے شیخ سے کوئی بات سنی نہ اشارہ دیکھا بس اتنا دیکھا کہ اجودھن جاتے ہیں۔ اس نے ہندوستان کا دورہ چھوڑ دیا۔ اور اجودھن کی طرف روانہ ہو

گیا۔ الغرض اس سفر میں اس نے بہت راحت اور آسائش دیکھی خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ یہ محمد شاہ غوری کہلاتے تھے۔ اچھے آدمی تھے آخر عمر میں کعبے کے سفر کو گئے تھے۔ اس کے بعد ان کی کوئی خبر نہیں آئی۔

اکیسویں مجلس

پیر گیارہ ماہ مبارک محرم سنہ سات سو گیارہ ہجری قدم بوسی کی سعادت میسر آئی۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ ایک پیر تھے بڑے بزرگ، ان کی خدمت میں کوئی شخص آیا اور مریدی کی درخواست کر کے بیعت ہو گیا اور اسے خرقة مل گیا۔ جیسا کہ اس کام کی رسم ہے۔ اس کے کچھ عرصے بعد شیخ کو خبر کی گئی کہ وہ مرید غلط کاموں میں مشغول ہے اور پرانی گناہ گاری میں پھر جھلا ہو گیا ہے۔ شیخ نے یہ سنا تو اس کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ آؤ میرے گھر میں آکر رہو جو کچھ کرو میرے گھر میں کرو۔ کیوں کہ درویشی اچھائیوں کو جمع کرنے والی ہے اور پردہ پوشی درویشی کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ غرض یہ ہے کہ تم جو کچھ میرے گھر میں کرو گے۔ میں اس کی پردہ پوشی کروں گا۔ مرید نے یہ بات سنی تو پیر کے قدموں میں سر رکھ گیا اور پکی توبہ کر کے دوبار مرید ہوا۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ

اس حکایت کے پورا ہونے کے بعد بندے نے عرض کی کہ قاعدہ ہے کہ پیر مرید کے احوال پر نظر رکھتا ہے۔ اگر مریدوں کے اعمال کو دیکھتا رہے تو کہاں تک دیکھے گا۔ لیکن ان کے اعتقاد کے حال کو دیکھے اور مرید کے اعتقاد درست پائے تو مرید کے لئے اچھی امید ہو سکتی ہے، فرمایا کہ ہاں اس کام میں اصل چیز اعتقاد ہی ہے جس طرح عالم ظاہر میں ایمان ہے۔ آدمی کو چاہئے کہ خدائے عزوجل کی وحدانیت اور رسول علیہ السلام کی رسالت پر پورا ایمان رکھے۔ اور مرید کو بھی چاہئے کہ پیر کے بارے میں درست اعتقاد رکھے۔ جیسے مومن کا ایمان درست ہو تو وہ گناہ سے کافر نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر مرید کا اعتقاد درست ہو گا تو لغزش ہو بھی جائے تو اسے مردود نہیں کہا جائے گا۔ امید رہے گی کہ اعتقاد کی برکت سے پھر اصلاح ہو

جائے۔

پھر تلاوت قرآن اور حفظ کی برکتوں کا ذکر آیا بندے نے عرض کی کہ اگر یاد کرنے کا موقع نہ ملے تو ناظرہ پڑھنا کیسا ہے۔ ارشاد ہوا کہ اچھا ہے۔ اس میں آنکھ کے لئے بھی ایک حظ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ شیخ کبیر قدس اللہ سرہ العزیز (حضرت بابا فرید) جس کسی سے قرآن یاد کرنے کے لئے کہتے فرماتے کہ پہلے سورۃ یوسف یاد کرو کہ جو سورۃ یوسف یاد کر لیتا ہے۔ اس کی برکت سے حق تعالیٰ پورے قرآن کی توفیق عطا فرماتا ہے۔

اسی مناسبت سے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص قرآن کو یاد رکھنے کی نیت کرتا ہے مگر یاد کر نہیں پاتا اور اسی نیت کے ساتھ اس جہاں سے رخصت ہو جاتا ہے اس کو جب قبر میں لٹاتے ہیں تو ایک فرشتہ آتا ہے اور بہشت سے ایک ترنج (بڑا لیموں) لاکر اس کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ وہ شخص اسے کھا لیتا ہے۔ اور تمام قرآن اسے حفظ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حشر کے دن اسے حفظ اٹھایا جاتا ہے۔

پھر ان مولویوں کا ذکر ہونے لگا جو درویشی صفات رکھتے ہیں اور نیک مردوں کے سے اخلاق ان میں ہوتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ میں نے تین مولوی اس طرح کے دیکھے ہیں ایک مولانا شہاب الدین جو میرٹھ کے تھے دوسرے مولانا احمد حافظ اور تیسرے مولانا کیتھلی۔

مولانا احمد کی حکایت بیان فرمائی کہ وہ حافظ تھے اور اللہ کے نیک بندے تھے۔ ایک دفعہ میں شیخ کبیر (بابا صاحب) کی وفات کے بعد ان کی زیارت کے ارادے سے نکلا تو سرسی کے قریب میں ان مولانا احمد سے ملا مجھ سے کہنے لگے کہ جب شیخ کبیر کے روئے پر پہنچو تو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ میں دنیا نہیں چاہتا اس کے ظہار اور بہت سے ہیں اور عقلمندی کی بھی خواہش نہیں ہے میں توبہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے مسلمان مارے اور صالحین سے ملائے۔

پھر مولانا کیتھلی کی بزرگی کا حال بیان فرمایا کہ بڑے برکت والے بزرگ تھے اگرچہ مرید کسی کے نہ تھے۔ لیکن صحبت بہت سے لوگوں اور مردان خدا کی اٹھائی تھی۔ جب میں نے انہیں پہلی ملاقات کے وقت دیکھا تو ان کے بیان اور ان کی بیعت سے معلوم ہو گیا کہ یہ داصلان حق میں سے ایک ہیں۔ میرے دل میں ایک سوال تھا۔ وہ ان سے پوچھا جواب دیا کہ یہ بات اس طرح ہوگی اور وہ اس طرح۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے یہ حکایت بیان کی اور اب دیدہ ہو کر فرمایا کہ اگر یہ مشکل بات اگر سو مجتہد دانشمندوں سے پوچھی جاتی تو حل نہ ہوتی ان

کے اخلاق کے بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ وہ میرے پاس آئے مبشر جو میرا خدمتگار ہے۔ اس وقت بچہ سا تھا شاید اس نے کوئی بے ادبی کی۔ ایک لکڑی اس کے ماری گئی۔ مولانا کیتھلی نے ایسی تکلیف کا اظہار کیا کہ گویا وہ لکڑی خود ان کے ماری گئی ہو۔ رونے لگے اور بولے کہ یہ میری بد بختی تھی کہ اسے یہ تکلیف پہنچی تو خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ ان کی رقت اور شفقت سے میرا دل بھر آیا۔

ایک اور حکایت ان کی بزرگی کے بارے میں بیان فرمائی کہ میں نے ان سے سنا کہ ایک سال دہلی میں قحط پڑا جس زمانے میں ملک قطب الدین حسن کا واقعہ ہوا ہے میں کپڑا مارکیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ بھوکا تھا۔ میں نے کھانا خریدا اور اپنے آپ سے کہا کہ اس کو اکیلے نہیں کھانا چاہئے۔ کسی کو دعوت دینی چاہئے۔ تاکہ اس کے ساتھ ہم لقمہ ہو جاؤں۔ ایک گڈری پوش فقیر کو دیکھا کہ چیتھڑے لگائے میرے سامنے سے جا رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اے خواجہ میں بھی درویش ہوں اور تم بھی درویش ہو میں بھی مسافر ہوں اور تم بھی مسافر نظر آتے ہو۔ تھوڑا سا کھانا ہے۔ آؤ ہم لقمہ ہو جائیں درویش نے منظور کر لیا اور ایک باورچی کی دکان پر ہم چڑھے اور اس کھانے کو کھلایا۔ اس دوران میں نے اس درویش سے مخاطب ہو کر کہا۔ میاں مجھ پر بیس تنگے قرض ہیں آپ توجہ فرمائیں کہ یہ قرض ادا ہو جائے۔ وہ درویش کہنے لگا کہ تم اطمینان سے کھانا کھا لو میں تم کو بیس تنگے دے دوں گا۔ مولانا کیتھلی کہتے تھے کہ میں نے دل میں سوچا کہ اس پھٹی ہوئی گڈری والے کے پاس بیس تنگے کہاں سے آئیں گے جو مجھے دے گا۔ خیر جب کھانا کھا کر اٹھے تو وہ مجھے ساتھ لے کر چلا اور مسجد (۵) کی طرف گیا۔ مسجد کے پیچھے ایک قبر تھی اس کے پاس کھڑا ہو گیا اور کچھ پڑھنے لگا۔ اور ایک چھوٹی سی چھری کو جو اس کے ہاتھ میں تھی ایک دو دفعہ آہستہ سے قبر پر مارا اور بولا اس درویش کو بیس تنگوں کی ضرورت ہے ان کو دے دو۔ یہ کہا اور میری طرف منہ کر کے مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا جاؤ بیس تنگے تمہیں مل گئے۔ مولانا کیتھلی کہتے تھے کہ میں نے یہ بات سن کر اس درویش کے ہاتھ چومے اور اس سے رخصت ہو کر شہر کی طرف تعجب کرتا ہوا آ رہا تھا کہ وہ بیس تنگے مجھے کہاں سے ملیں گے۔ میرے پاس ایک خط تھا جو کسی کے گھر پہنچانا تھا۔ اسی روز وہ خط لے کر روانہ ہوا۔ دروازہ کمال کے پاس ایک ترک اپنے مکان کے صحن پر بیٹھا تھا مجھے دیکھ کر اس نے آواز دی اور غلاموں کو دوڑایا جو مجھے بڑے اصرار سے اوپر لے گئے۔ مجھ

سے وہ ترک بڑے پٹاک سے ملا۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن اسے پہچان نہ سکا۔ وہ ترک بولا کہ کیا آپ وہ مولوی صاحب نہیں ہیں۔ جنہوں نے میرے ساتھ فلاں جگہ ایسی ایسی بھلائی کی تھی۔ میں نے جواب دیا کہ میں آپ کو جانتا بھی نہیں۔ ترک نے جواب دیا کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں۔ اپنے آپ کو کیوں چھپاتے ہو۔ غرض یہ کہ اسی طرح کی بہت باتیں کرتا رہا۔ اور اس کے بعد اس نے میں تکے منگا کر بڑی عاجزی کے ساتھ میرے ہاتھ میں دیئے۔

خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے انہیں مولانا کیتھلی کے بارے میں فرمایا کہ وہ کھانا اکیلے نہیں کھایا کرتے تھے۔ صرف یہی اچھی عادت بہت تھی۔ دوسرے اخلاق کیسے کچھ نہ ہوں گے۔ اس کے بعد ان کا ایک اور واقعہ سنایا کہ میں ایک دفعہ سفر کے دوران سری کے قریب پہنچا تو سنا کہ کل اس علاقے میں راستہ لٹا ہے۔ اور بہت سے مسلمان ڈاکوؤں کے ہاتھ سے مارے گئے ہیں۔ انہی میں ایک مولوی صاحب بھی تھے۔ جن کو کیتھلی کہتے تھے۔ وہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ تلاوت کے دوران انہیں شہید کر دیا گیا۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ میرے دل میں خطرہ گزرا کہ کہیں یہ وہی مولانا کیتھلی نہ ہوں۔ دوسرے روز مرنے والوں کی لاشوں کے پاس جا کر فاتحہ پڑھی اور تحقیق کیا تو پتہ چلا کہ وہی مولانا کیتھلی تھے جو شہید ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بھرپور رحمت سے نوازے۔

بائیسویں مجلس

اسی سال ربیع الاول کے مبارک مہینے کی تیسری تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی۔ اس بار ایک مہینے کے بعد جانا ہوا تھا۔ اور کبھی غیر حاضری کی مدت اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی۔ قدم مبارک چومے گئے تو دو تین اور اشخاص بھی چہیتے مریدوں میں سے موجود تھے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ہم فاضلوں کا ذکر کر رہے تھے کہ تم آگئے۔ بندے نے دوبارہ جھک کر زمین چوم لی۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ خواجہ شمس الملک علیہ الرحمہ کا قاعدہ تھا کہ اگر کوئی شاگرد حاضری مانگے رٹا یا کوئی دوست مدت کے بعد آتا تو کہتے کہ میں نے کیا کیا تھا جو تم نہیں آئے۔ اس کے بعد تبسم کر کے فرمایا کہ اگر کسی سے مزاج کرتے تب بھی یہی بات کہتے کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ میں نے کیا کیا تھا جو تم نہیں آئے۔ تاکہ میں پھر وہی کروں! اس کے بعد فرمایا کہ اگر میری غیر حاضری ہوتی یا دیر میں پہنچتا تو خیال کرتا کہ مجھ سے

بھی ایسا ہی کچھ فرمائیں گے مگر مجھ سے کہتے کہ!

اتنا تو کرو کہ کبھی کبھی آؤ اور ہمیں دیکھ جاؤ۔ (ہماری طرف ایک نگاہ کرو!) خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر یہ شعر پڑھتے وقت اس طرح آنکھوں میں آنسو بھرا لائے کہ حاضرین بھی رونے لگے۔ حاضرین میں سے کسی نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ جس زمانے میں آپ شمس الملک کے پاس جایا کرتے تھے۔ وہ آپ کو تعظیم دیتے تھے۔ اور جمہور کے میں جو خاص ان کے بیٹھنے کی جگہ تھی وہاں آپ کو بٹھاتے تھے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ ہاں اس جگہ پر جہاں وہ بیٹھتے تھے وہاں قاضی فخر الدین ناقلہ یا مولانا برہان الدین باقی کے سوا اور کوئی نہ بیٹھ سکتا تھا مجھ سے خاص اسی جگہ کے لئے فرماتے کہ بیٹھو میں کہتا کہ وہ تو آپ کی جگہ ہے۔ مگر وہ کوئی عذر نہ سنتے اور لازماً اسی جگہ بٹھاتے، حاضرین میں سے کسی نے پوچھا کہ کیا وہ کبھی کوئی مشغلہ بھی رکھتے تھے؟ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ ہاں کسی وقت وہ مستونی (اکاؤٹسٹ) ہو گئے تھے۔ خواجہ تاج الدین ریزہ نے ان کے بارے میں یہ شعر کہا ہے

صدر اکنون بکام دل دوستان شدی

مستونی ممالک ہندوستان شدی

اے صدر ان تم دوستوں کی تمنا کے مطابق ہندوستان کے مستونی ممالک (آڈیٹر جنرل)

ہو گئے ہو)

بندے نے عرض کی کہ خواجہ شمس الملک کی بزرگی اور علمی کمال کا تو معلوم ہے لیکن خبر نہیں وہ درویشوں سے بھی کچھ تعلق اور محبت رکھتے تھے یا نہیں۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ اچھا عقیدہ رکھتے تھے۔ میری جو تعظیم وہ کرتے تھے یہی ان کے اچھے اعتقاد کی دلیل ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔

تیسویں مجلس

اسی سال ماہ ربیع الاول کی چوبیسویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی اس روز چند مریدوں نے ایک ساتھ قدم بوسی کی۔ دریافت فرمایا کہ کیا تم سب ایک ساتھ آئے ہو؟ عرض کی گئی کہ ہر شخص گھر سے تو الگ الگ آیا تھا۔ یہاں آکر جمع ہوئے ہیں فرمایا کہ الگ

marfat.com

Marfat.com

الگ آنا بہتر ہوتا ہے۔ کیونکہ شیخ فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز نے یہی فرمایا ہے کہ الگ الگ آنا بہتر ہے کہ العین حق۔ (نظر لگنا برحق ہے)

پھر یہ ذکر آیا کہ نظر لگنا بھی برحق ہے اور جادو بھی برحق ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ حق نہیں ہے باطل کی ضد ہے نظر اور جادو کا اثر ہوتا ہے۔ معتزلہ اسے نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جادو اور نظر کا اثر فوراً ظاہر نہیں ہوتا اس لئے یہ محض وہم ہے۔ لیکن ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے۔

جادو کے سلسلے میں معجزہ اور کرامت کا ذکر نکلا کہ اس کے چار درجے ہیں معجزہ اور کرامت اور معونت اور استدراج معجزہ انبیاء کی چیز ہے جن کا علم بھی کامل ہوتا ہے اور عمل بھی کامل ہوتا ہے۔ اور وہ صاحب وحی ہوتے ہیں جو کچھ دکھاتے ہیں معجزہ ہوتا ہے۔ لیکن کرامت اولیاء سے متعلق ہوتی ہے۔ علم و عمل ان کا بھی مکمل ہوتا ہے فرق بس یہ ہے کہ وہ مغلوب ہوتے ہیں اور ان سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ کرامت کہلاتا ہے مگر معونت اسے کہتے ہیں کہ بعض دیوانے جو نہ علم رکھتے ہیں نہ عمل ان سے کبھی کبھی کوئی بات خلاف (۶) عادت سرزد ہوتی دکھائی دیتی ہے اسے معونت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح استدراج اسے کہتے ہیں کہ ایک گروہ جو قطعاً ایمان نہیں رکھتا جیسے جادو گر وغیرہ ان سے کوئی چیز نظر آجاتی ہے۔ یہ استدراج کہلاتی ہے۔

پھر اطوار کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ یہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک حس کا طور۔ دوسرا عقل کا طور۔ اور تیسرا قدس کا طور۔ حس کا طور یہ ہے کہ جیسے کھانے اور سونگھنے کی چیزیں حس سے معلوم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد طور عقل ہے۔ اور اس کا تعلق دو قسموں سے ہوتا ہے۔ کسی اور بدیہی (۷)۔ طور قدس کا انحصار بھی انہی دو قسموں یعنی کسی اور بدیہی پر ہوتا ہے لیکن جو شخص عالم قدس میں پہنچ جاتا ہے وہ عقل سے کسب کی ہوئی (حاصل کی ہوئی) چیزوں کو بھی بدیہی طور پر جاننے لگتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب عالم قدس کی بدیہی چیزیں ایسی ہیں تو کسی کیسی کچھ نہ ہوں۔ یہ انبیاء اور اولیاء کا کام ہے۔ پھر فرمایا کہ جس شخص پر عالم قدس کا دروازہ کھول دیا جائے۔ اس کی شناخت کیا ہوگی؟ کیونکہ عالم عقل میں جب کوئی مسئلہ کسی شخص کے سامنے آتا ہے تو وہ بدیہی اور کسی علم سے حاصل کر لیتا ہے۔ اور اس کی خوشی میں ایسا گن ہوتا ہے کہ اس کو عالم قدس کا راستہ ہی نہیں ملتا۔ اس دوران ایک بزرگ سے

روایت فرمائی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ غیب سے کوئی چیز دل میں آئے گی تو ان شاء اللہ اسے قلم بند کر لوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے بہت کچھ تحریر کیا مگر آخر میں یہی بات کہنی پڑی کہ اتنا کچھ لکھنے کے باوجود جو میرا مقصود تھا وہ قلم بند نہ ہو سکا۔

اس کے بعد معتزلہ کی باتوں کا ذکر چھڑ گیا کہ وہ حکم لگاتے ہیں کہ کافر اور کبیرہ گناہ کرنے والے یکساں ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ ارشاد ہوا کہ یہ بات غلط ہے۔ مذہب تو یہ کہتا ہے کہ کافر مستقل عذاب میں رہیں گے۔ کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جن چیزوں کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ ان کے معبود ہیں۔ اور ان کا کفر کا یہ عقیدہ دائم ہے۔ چونکہ کفر پر ان کا اعتقاد دائم ہے۔ پس اس کا عذاب بھی دائم ہو گا۔ البتہ بڑے بڑے گناہ کرنے والے مستقل اور برابر گناہ میں نہیں رہتے۔ جب وہ گناہ کر چکے ہیں تو اس وقت یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا غلط کیا اور یہ جائز نہ تھا۔ پس چونکہ بڑے گناہوں میں ان کا اعتقاد یکا نہیں ہوتا، ان کا عذاب بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔

پھر زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ گناہ گار گناہ کرتے وقت تین حیثیت سے خدا کا اطاعت گزار ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ وہ جانتا ہے کہ خدائے تعالیٰ واقف ہے۔ اور دیکھ رہا ہے۔ تیسرے یہ کہ اس کو بخشش کی آس بھی لگی رہتی ہے۔ یہ تینوں عقیدے رکھنا اطاعت گزاروں کا کام ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اشعر یہ مذہب میں بھی اسی طرح آیا ہے کہ جو کافر اپنے خاتمے کے وقت ایمان پر ہو۔ اس کا حال مومنوں کا سا رہے گا۔ اور وہ مومن جس کا خاتمہ پناہ بخدا کفر پر ہو۔ اس کا حال کافر کا حال ہے۔ اس سلسلے میں حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ حمید الدین سواہی رحمۃ اللہ علیہ نے ناگور میں ایک ہندو کے بارے میں بار بار یہ بات کہی کہ یہ خدا کا ولی ہے

اسی ضمن میں ابو حنیفہ قدس اللہ سرہ العزیز کا قصہ سنایا کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا قیامت کے دن کافر دوزخ میں ہوں گے۔ بولے نہیں! لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا کہ قیامت کے دن جب کافر عذاب اور اپنے کثرت کے پھل کو دیکھیں گے تو ایمان لے آئیں گے حضرت نے فرمایا کہ ہاں لیکن ان کا یہ ایمان کچھ مفید نہ ہو گا۔ کیونکہ ایمان تو وہ ہوتا ہے جو غیب پر لایا جائے وہ کافر قیامت کے دن سب کے سب ایمان لے آئیں گے۔ اور اس سے

انہیں کچھ فائدہ نہ ہو گا۔ سب دوزخ میں جائیں گے۔ اگرچہ وہ ایمان لائے ہوں گے۔ اسی کے مناسب حال ارشاد ہوا کہ اس آیت ”نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اس لئے کہ وہ عبادت کریں“ اس آیت میں ابن عباس کے قول کے مطابق الیٰ وحدون ہے۔ یعنی انسان اور جن سب ایک خدا کو مانیں۔ اور جو یہاں موجد ہے (خدا کو ایک مانتا ہے) وہ غیب کے ایمان کے ساتھ ہے۔ اور کل جب کافر قیامت کے عذاب کو دیکھیں گے تو خدا کی واحدانیت کا اقرار کریں گے پس لیٰ وحدون درست ہو گا۔

پھر ارشاد ہوا کہ جس کو بھی دیکھے اپنے سے بہتر خیال کرے۔ چاہے یہ اطاعت گزار ہو اور وہ گناہ گار! کیونکہ عین ممکن ہے کہ اس کی اطاعت، اطاعتوں میں آخری اطاعت اور اس کا گناہ گناہوں میں آخری گناہ ہو۔

اس کے بعد خواجہ حسن بھری نور اللہ مرقدہ کا قصہ بیان فرمایا

جو فرماتے تھے کہ میں نے جس کسی کو دیکھا اپنے سے بہتر خیال کیا۔ سوائے ایک دن کے کہ اس کی سزا میں نے بھگتی وہ یہ کہ ایک روز میں نے کسی حبشی کو دیکھا کہ پانی کے کنارے بیٹھا ہے۔ اور پہلو میں قرابہ (صراحی) دھری ہے وقتاً فوقتاً اس میں سے کسی چیز کے گھونٹ بھرتا ہے۔ اور ایک عورت اس کے پاس بیٹھی ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ چلو اس سے تو میں اچھا ہی ہوں اسی خیال میں تھا کہ ایک کشتی پانی میں ڈوبنے لگی۔ سات آدمی اس کشتی میں تھے۔ ساتوں کے ساتوں ڈوبنے لگے۔ حبشی نے فوراً پانی میں چھلانگ لگائی اور چھ آدمیوں کو پانی میں سے نکل لایا۔ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا اے حسن اس ایک آدمی کو تم نکل لاؤ۔ خواجہ حسن فرماتے ہیں کہ میں حیران کھڑا رہ گیا۔ پھر مجھ سے بولا کہ اس صراحی میں پانی ہے اور یہ عورت جو میرے پہلو میں بیٹھی ہے یہ میری ماں ہے۔ میں تمہارے امتحان کے لئے یہاں بیٹھا تھا۔ جاؤ ابھی تم صرف ظاہر دیکھنے والے آدمی ہو!

پھر تلاوت قرآن کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ قرآن کو ترتیل اور تردید کے ساتھ پڑھنا چاہئے حاضرین میں سے کسی نے سوال کیا کہ تردید کا کیا مطلب ہے۔ ارشاد ہوا کہ جس آیت سے پڑھنے والے کو ذوق اور رقت حاصل ہو اس کی تکرار کرنی چاہئے۔ اس وقت فرمایا کہ یہ دفعہ رسول علیہ السلام کچھ پڑھنا چاہتے تھے۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو اس بسم اللہ ہی میں ان کے مبارک دل پر ایک کیفیت طاری ہو گئی اور میں دفعہ اس کی تکرار فرمائیں۔

اس کے بعد فرمایا کہ قرآن خوانی کے آٹھ آداب ہیں۔ ان میں سے پانچ بیان فرمائے۔
 اول یہ کہ قرآن پڑھتے وقت پڑھنے والا اللہ سے لو لگائے رکھے اور اگر یہ چیز میسر نہ ہو
 تو چاہئے کہ جو کچھ پڑھتا ہو اس کے معانی دل پر گزارے اور اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو
 چاہئے کہ قرآن خوانی کے وقت اللہ کی عظمت و جلال کو اپنے دل پر طاری رکھے
 حاضرین میں سے کسی نے سوال کیا کہ یہ بات بھی تو وہی تعلق بحق ہے جس کو پہلے ادب
 کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نہیں وہ ذات حق سے متعلق ہے اور یہ
 صفات سے متعلق ہے۔ چوتھا ادب یہ بیان فرمایا کہ تلاوت کے وقت شرم غالب ہونی
 چاہئے کہ میں اس دولت کے لائق کہاں۔ میرے لئے اس سعادت کا موقع کیسے؟ اور
 اگر یہ بھی نہ ہو تو اتنا سمجھے کہ اس قرآن خوانی کا اجر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے وہ مجھے
 ضرور ثواب عطا فرمائے گا۔ اس درمیان بندے نے عرض کی کہ جب بھی بندہ قرآن
 مجید پڑھتا ہے تو جو کچھ اس کے کھلے معانی معلوم ہوتے ہیں وہ دل پر گزارتا ہے اور اگر
 تلاوت کے دوران بندے کا دھیان بھٹکتا ہے یا کسی اور فکر میں دل مشغول ہوتا ہے تو
 میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ یہ کیسا دھیان ہے اور کیسے پاگل پن کے خیالات ہیں
 اور پھر اپنے دل کو ان کے معانی میں مشغول کر لیتا ہوں۔ اسی وقت کسی ایسی آیت پر
 پہنچ جاتا ہوں۔ جو مذکورہ بالا خطرات قلب اور بے دھیانی کو روکنے والی ہوتی ہے یا
 ایسی کوئی آیت سامنے آتی ہے جس میں دل کی اس مشکل کا حل ہوتا ہے۔ خواجہ ذکرہ
 اللہ بالخیر نے فرمایا کہ یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اس کو اپنائے رکھنا۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
 الْاَلَمِیْنِ

چوبیسویں مجلس

اسی سال ماہ مبارک ربیع الثانی کی دہ سری تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی سعادت تک
 رسائی ہوئی۔ ترک دنیا کا تذکرہ آیا۔ فرمایا کہ اصل دانشمندی یہ ہے کہ دنیا سے پرہیز کیا

marfat.com

Marfat.com

جائے۔ اس بات کی مناسبت سے ارشاد ہوا کہ اگر کوئی شخص وصیت کر جائے کہ میرے مال کا تہائی میرے بعد اس آدمی کو دینا جو انسانوں میں سب سے زیادہ عقلمند ہو تو اس کا فیصلہ کس طرح ہو گا۔ فرمایا کہ اس کا فیصلہ یہ ہو گا کہ وہ مال ایسے شخص کو دیا جائے گا جو تارک دنیا (۸) ہو۔ حاضرین میں سے کسی نے پوچھا کہ جب وہ شخص تارک دنیا ہو گا تو اسے قبول کیوں کرے گا۔ فرمایا کہ بات تو اسی ترکے کے صرف کرنے کی ہے۔ اس کو کہاں دیا جائے۔ اس مقام پر حکم اس کے خرج کا ہے (یعنی تارک دنیا کو وہ مال دیا جائے گا) اس بات کے مناسب حال ارشاد ہوا کہ دنیا یہ سونا چاندی اسباب وغیرہ ہی نہیں ہے۔ کسی بزرگ سے روایت فرمائی کہ وہ فرماتے تھے۔ بَحْلُنْكَ كُنْفِيَاكَ 'تمہارا پیٹ تمہاری دنیا ہے جتنا کم کھاؤ گے تارکان دنیا میں سے ہو گے اور جتنا پیٹ بھر کے کھاؤ گے اتنے ہی تارکان دنیا میں سے نہ ہو گے۔ اسی سلسلے میں فرمایا کہ شیطان کہتا ہے کہ میں اس پیٹ بھرے سے جو نماز پڑھ رہا ہوں۔ گلے ملتا ہوں۔ پس اسی سے اندازہ کر لو کہ جب یہ پیٹ بھرا نماز پڑھ چکتا ہو گا تو میں اس پر کس قدر غالب آجاتا ہوں گا۔ اور اس بھوکے سے جو سو رہا ہوں۔ میں ذرا دور دور ہی رہتا ہوں۔ پس جب یہ بھوکا نماز پڑھتا ہو گا تو ذرا اندازہ کرو کہ اس سے میری نفرت کس درجے ہوتی ہوگی۔

یہاں سے گفتگو شیطان اور اس کے وسوسوں اور آدم زاد پر اس کے غلبے کے بارے میں ہونے لگی۔ فرمایا کہ خناس ایک دیو ہے جو فرزند آدم کے دل پر ہمیشہ سوار رہتا ہے۔ البتہ جب آدمی ذکر حق میں مشغول ہوتا ہے تو وہ دفع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ مولانا علاء الدین ترمذی نے نو اور الاصول میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں آئے تو ایک روز حوا بیٹھی تھیں کہ ابلیس آیا اور خناس کو ساتھ لایا۔ اور حوا سے بولا کہ یہ میرا بیٹا ہے اس کو اپنے پاس رکھنا یہ کہا اور چل دیا جب حضرت آدم علیہ السلام آئے تو خناس کو دیکھا اور پوچھا کہ یہ کون ہے۔ حوا نے کہا کہ اسے ابلیس لایا تھا اور کہتا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے اس کو اپنے پاس رکھنا۔ آدم نے کہا تم نے ہاں کیوں کر لی۔ وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ پس آدم نے خناس کے چار ٹکڑے کر ڈالے اور چار پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دیئے۔ جب آدم علیہ السلام چلے گئے تو ابلیس نے حوا سے آکر پوچھا کہ خناس کہاں ہے۔ حوا نے جواب دیا کہ آدم نے اس کے چار ٹکڑے کر ڈالے اور چار پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دیئے۔ ابلیس نے جب یہ سنا تو آواز دی اے خناس! خناس اسی وقت اپنی اسی پرانی شکل میں آن موجود ہوا۔ جب ابلیس

واپس چلا گیا تو آدم علیہ السلام آئے اور پھر خناس کو کھڑے دیکھا۔ اور پوچھا کہ کیا حال ہے سناؤ کیا ماجرا ہوا؟ حضرت آدم نے اس دفعہ خناس کو قتل کیا اور جلایا اور ذرہ ذرہ کر ڈالا اور ان ذرات کو پانی میں بہا دیا۔ جب آدم رخصت ہوئے تو ابلیس پھر آگیا۔ اور خناس کا حال دریافت کیا۔ اور حوائج کے صورتحال بیان کی۔ ابلیس نے آواز دی او خناس! وہ فوراً حاضر ہو گیا۔ جب ابلیس چلا گیا تو حضرت آدم آئے اور خناس کو بھیڑ بنے موجود دیکھا اور سارا ماجرا معلوم کیا۔ اس دفعہ خناس کو جو بھیڑ کی صورت تھا کاٹا اور پکایا اور کھا گئے۔ اسی درمیان ابلیس آیا اور آواز دی اے خناس! خناس نے آدم کے دل میں سے جواب دیا لبیک لبیک حاضر ہوں حاضر ہوں۔ ابلیس بولا وہیں رہ میرا مقصود بھی یہی تھا!

پچیسویں مجلس

اسی سال جمادی الاول کے مہینے کی پندرہویں تاریخ کو قدم بوسی کی دولت تک رسائی ہوئی۔ قرآن مجید کی فال کا ذکر نکلا۔ بندے نے عرض کی کہ قرآن مجید کی فال جو دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کچھ آیا ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب قرآن مجید کو فال کے لئے کھولیں تو چاہئے کہ سیدھے ہاتھ سے کھولیں اور اٹھے ہاتھ سے مد نہ لیں۔

اس کے بعد اسی سلسلے میں یہ حکایت بیان فرمائی کہ میں نے شیخ بدرالدین غزنوی سے سنا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میں جب غزنی سے لاہور آیا تو اس زمانے میں لاہور خوب آباد اور بارونق تھا۔ کچھ عرصے وہاں ٹھہرنے کے بعد میرا ارادہ پھر وہاں سے سفر کرنے کا ہوا۔ اسی اندیشے میں دو دلا ہو رہا تھا۔ اور طبیعت کا زیادہ رجحان غزنی جانے کی طرف تھا۔ کیونکہ میرے ماں باپ اور اقربا اور دوست سب وہیں تھے اور وہلی میں ایک داماد کے سوا کوئی اور نہ تھا۔ الغرض میں نے ارادہ کیا کہ قرآن مجید میں فال دیکھوں۔ ایک بزرگ کی خدمت میں جا کر پہلے غزنی کے خیال سے فال دیکھی تو عذاب کی آیت نکلی۔ پھر وہلی کی نیت سے دیکھا تو جنت اور اس کی نہروں اور بہشت کے بیان میں آیت آئی۔ اگرچہ کہ میرا جی غزنی (جانے) کی طرف تھا۔ مگر فال کے حکم کے موافق میں وہلی آگیا۔ جب شہر پہنچا تو سنا کہ میرا داماد قید میں ہے۔ میں بادشاہ کے محل کی طرف آیا تاکہ اس کا حال معلوم کروں۔ مگر میں نے دیکھا کہ وہ محل سے باہر

آ رہا ہے۔ ایک چادر ہاتھ میں ہے اور اس چادر میں چاندی کے سکے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی لپٹ گیا خوش ہوا اور اپنے گھر لے گیا۔ اور وہ روپیہ میرے سامنے رکھ دیا۔ رقم دیکھ کر مجھے خاطر جمعی میسر آئی۔ انہی دنوں کچھ عرصے بعد سنا کہ غزنی سے خبر آئی ہے کہ مغل اس علاقے میں پہنچے اور میرے ماں باپ اور سب رشتے داروں کو شہید کر دیا۔

اس کے بعد بندے نے عرضداشت کی کہ بدرالدین غزنوی جب یہاں آئے تو کیا اس وقت شیخ قطب الدین بختیار کی ارادت سے مشرف ہوئے؟ فرمایا کہ ہاں!

یہاں سے شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ المبارک کا ذکر خیر آیا کہ ان کا کام کچھ اور ہی تھا۔ انہوں نے خلق کو چھوڑ جنگل بیابان اختیار کیا۔ یعنی اجودھن میں جا کر رہے اور فقیروں کی روٹی اور جو کچھ اس علاقے میں پیدا ہوتا ہے۔ جیسے پیلو وغیرہ۔ اس پر قناعت کی لیکن اس کے باوجود خلقت کی آمد و رفت کی کوئی حد نہ تھی خانقاہ کا دروازہ آدمی رات تک یا کچھ کم زیادہ کھلا رہتا یعنی برابر کھلا ہی رہتا اور روپیہ اور کھانا اور باری تعالیٰ کے کرم سے جو نعمت بھی موجود ہوتی۔ اس میں سے آنے جانے والوں کو حصہ ملتا۔ کوئی شخص ان کی خدمت میں ایسا نہ آتا جسے کچھ نہ کچھ عطا نہ کیا جاتا ہو۔ عجیب قوت اور عجیب زندگانی تھی۔ بنی آدم میں سے کسی کو میسر نہیں ہو سکتی اگر کبھی کوئی شخص ایسا آتا جو اس سے پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ اسی وقت کسی ایسے کی بھی حاضری ہوتی جو برسوں کا واقف کار ہوتا تو دونوں کے ساتھ یکساں بات چیت ہوتی اور توجہ اور مہربانی دونوں پر برابر کی جاتی۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ میں نے بدرالدین اسحق رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے وہ فرماتے تھے میں محرم راز خادم تھا۔ جو بات بھی ہوتی مجھ سے فرماتے اور جس کام کے لئے بھی مجھے متعین فرماتے تو سب کے سامنے اور پیچھے ایک ہی بات فرماتے۔ کبھی بھی تخریبے میں مجھ سے کوئی ایسی بات نہیں فرمائی اور کوئی کام ایسا نہیں بتایا کہ جسے سب کے سامنے جوں کاتوں مجھ سے نہ کہا ہو۔ یعنی ظاہر و باطن میں ان کی ایک روش تھی اور یہ بات عجائب روزگار میں سے ہے!

چھبیسویں مجلس

اسی سال جمادی الثانی کے مہینے کی بارہویں تاریخ منگل کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی فاتحہ کا ذکر آیا کہ اسے مراد پوری ہونے کے لئے بہت پڑھا جاتا ہے۔ ارشاد ہوا کہ جس کسی کو

کوئی مهم اور مشکل کام درپیش ہو وہ فاتحہ کو اس طرح پڑھے۔ پہلے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھے اور الرَّحِیْمِ کے میم کو الْحَمْدُ لِلّٰهِ کے لام کے ساتھ ملا کر پڑھے یعنی اس طرح بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ کو تین مرتبہ پڑھے۔ اور جب سورۃ پوری ہو جائے تو تین دفعہ آمین کہے۔ حق تعالیٰ اس کی مهم کو پورا فرماتا ہے۔

فاتحہ کے ہی ذکر میں ارشاد ہوا کہ جو کچھ پورے قرآن میں موجود ہے وہ دس چیزیں ہیں۔ اور ان دس چیزوں میں سے آٹھ چیزیں فاتحہ میں موجود ہیں۔ وہ دس چیزیں جو قرآن میں ہیں کون سی ہیں؟ ذات و صفات اور افعال اور آخرت کا ذکر اور تزکیہ اور تخلیہ اور اولیاء کا ذکر دشمنوں کا ذکر اور کافروں سے معرکہ آرائی (جہاد) اور احکام شرع۔

پھر فرمایا کہ ان دس چیزوں میں سے آٹھ چیزیں سورۃ فاتحہ میں موجود ہیں۔ جیسے الْحَمْدُ لِلّٰهِ (تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔) ذات ہے رَبِّ الْعَالَمِیْنَ! (جو پالنے والا ہے تمام جانوں کا) افعال 'الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ' (جو رحمن ہے اور رحیم ہے) صفات۔ مَالِكِ يَوْمِ الدِّیْنِ (مالک ہے آخرت کے دن کا) ذکر آخرت اِیْتَاكَ نَعْبُدُ (ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں) تزکیہ 'وَ اِیْتَاكَ نَسْتَعِیْنِ' (اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں) تخلیہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ (ہمیں صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت فرما۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا) اولیاء کا ذکر۔ غَیْرِ الْمَفْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ (ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا) دشمنوں کا ذکر۔ پس ان دس چیزوں میں سے جو سارے قرآن میں ہیں۔ آٹھ فاتحہ ہی میں مل جاتی ہیں بس کفار سے جہاد اور احکام شرع نہیں ہیں۔

پھر حجت الاسلام امام غزالیؒ کا ذکر آیا۔ ارشاد ہوا کہ انہوں نے جو کچھ بیان کیا ہے تحقیق سے بیان کیا ہے۔ اس سلسلے میں فرمایا کہ انہوں نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ روزہ نصف صبر ہے اور صبر نصف ایمان ہے۔ روزہ نصف صبر ہے اس کا کیا مطلب ہوا؟ پہلے صبر کی حقیقت کے بارے میں فرمایا کہ صبر کیا ہے؟ فرمایا کہ صبر خواہشات کو ابھارنے والے جذبہ کے مقابلے میں حق کو ابھارنے والا جذبہ ہے۔ پھر فرمایا خواہشات کو ابھارنے والی دو چیزیں ہیں غصہ اور شہوت اور روزہ شہوت کو مار رکھتا ہے۔ اسی لئے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ روزہ نصف صبر ہے۔ اور دوسرے انہوں نے یہ جو کہا ہے صبر نصف ایمان ہے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ

روزہ نصف صبر ہے۔ اور دوسرے انہوں نے جو یہ کہا ہے صبر نصف ایمان ہے تو یہ اس وجہ سے کہا کہ ایمان کی صفات دو ہیں۔ عقائد اور اعمال۔ صبر ایمان کا نصف یوں ہوا۔

پھر شیخ شہاب الدین سروردی قدس اللہ سرہ العزیز کی کتاب عوارف کا ذکر آیا ارشاد ہوا کہ میں نے عوارف کے پانچ باب شیخ کبیر فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کے سامنے پڑھے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ بھی کیا بیان ہوتا تھا جو حضرت فرماتے تھے۔ ایسا بیان کسی اور سے ہرگز ممکن نہیں بارہا ان کے ذوق بیان میں آدمی ایسا کھوجاتا تھا کہ جی چاہتا کیا ہی اچھا ہو کہ اسی وقت دم نکل جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب یہ کتاب شیخ کی خدمت میں پیش کی گئی تو اسی روز شیخ کے ہاں صاحبزادے پیدا ہوئے تھے ان کا لقب شہاب الدین رکھ دیا۔

پھر اس کا ذکر آیا جو بات کسی بزرگ اور صاحب نعمت سے سنی جائے اس کی لذت ہی کچھ شور ہوتی ہے۔ اگر وہی بات کسی اور سے سنی جائے تو کچھ مزا نہیں دیتی۔ گویا اس کی بات کا سرچشمہ معرفت کے نور سے روشن ہوتا ہے۔

اس سلسلے میں حکایت بیان فرمائی کہ ایک صالح اور صاحب نعمت بزرگ کسی مسجد میں نماز کرتے تھے۔ اور نماز کے بعد مشائخ کے مخطوطات اور احوال کے بارے میں کچھ بیان کرتے تھے۔ جس سے سننے والوں کو بڑا لطف آتا تھا۔ ان لوگوں میں ایک شخص ملیھا بھی تھا۔ وہ بھی ان حکایت سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ ایک روز امام صاحب موجود نہیں تھے۔ موزن ان کی جگہ جا بیٹھا۔ اور حسب معمول مشائخ کی حکایات اور ان کے حکایت بیان کرنے لگا جو اس نے امام صاحب سے سنی رکھے تھے۔ جب اس موزن کی آواز ملیھا کے کان میں گئی تو پوچھے لگا کہ یہ مشائخ کی باتیں اور ان کی حکایات کون بیان کر رہا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ آج امام صاحب غیر حاضر ہیں۔ موزن ان کی جگہ بیٹھا ہے اور یہ حکایتیں وہ بیان کر رہا ہے۔ ملیھا بولا کہ تم یہ حکایت ہر ترمین (گتلا گلا) سے سننا پسند نہیں کرتے اس کے بعد خواجہ ذکری اللہ باخچہ آئے۔ میں آنسو بھر لائے اور بولے کہ جس آدمی کے مخطوطات اچھے نہ ہوں اس کی بات ذوق نہیں دیتی۔ پھر شیخ سحری کا یہ شعر پڑھا۔

بزمین برہ۔ تو من ہر دو صفت حضرت

چو سعد ندراند سخن آشنا نجا شد

ترجمہ:- میرے سوا جس کی زبان پر تیرے عشق کی بات آئے گی وہ دل کونہ لگے گی۔
کیونکہ جو معاملہ نہیں رکھتا اس کی بات جی کو نہیں لگتی۔

ستائیسویں مجلس

اسی سال ماہ مبارک رجب کی اٹھارویں تاریخ منگل کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی
اسی روز غلام نے رات کو ایک خواب دیکھا تھا وہ حضرت کو سنایا۔ خواب یہ تھا کہ جیسے صبح کی
نماز کا وقت ہو گیا ہے اور میں نماز کے لئے وضو کر رہا ہوں۔ نماز کا وقت تنگ ہوتا جاتا ہے۔
میں نے جلدی جلدی وضو کر کے سنتیں پڑھی ہیں اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ قریب ہی کہیں
جماعت ہو رہی ہے۔ چنانچہ جلدی سے روانہ ہو گیا۔ تاکہ جماعت مل جائے۔ مگر میری اتنی
بھاگ دوڑ کے باوجود محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جیسے سورج نکل رہا ہے اور میں ڈر رہا ہوں کہ
ایسا نہ ہو کہ نماز کا وقت چلا جائے۔ پھر میں نے ہاتھ اٹھا کر سورج کی طرف اشارہ کیا اور یہ کہا
کہ شیخ کے اوقات پاک کی برکت سے ابھی نہ نکل۔ میں نے یہ کہا اور خواب ہی میں بہت
خوش ہوا۔ اسی دوران آنکھ کھل گئی تو دیکھا کہ رات کا کچھ حصہ باقی تھا۔

خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے جب یہ بات سنی تو آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور یہ حکایت
بیان فرمائی کہ نیشاپور کارہنے والا ایک نقیب محمد نامی تھا۔ بڑا اچھا اور خوش اعتقاد آدمی تھا اس
نے مجھے سنایا کہ ایک دفعہ میں گجرات میں سفر کر رہا تھا۔ اس زمانے میں یہ علاقہ ہندوؤں کے
قبضے میں تھا۔ میں ایک راستے پر پہنچا ایک دو آدمی اور بھی میرے ساتھ ہو گئے اور ہمارے
پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ یکایک ایک ہندو کو دیکھا کہ نگلی تلوار ہاتھ میں لئے نمودار ہوا ہم
لوگ ڈرنے لگے۔ اس دوران وہ ہندو اس طرح نگلی تلوار لئے ہمارے مقابل آیا۔ جب
قریب پہنچا تو میں نے کہا شیخ حاضر باش! اے پیر آئیے۔ (یا پیر مدد!) ہندو نے فوراً تلوار ہاتھ سے
پھینک دی اور مجھ سے بولا کہ مجھے امان دوا ہم نے جواب دیا کہ تجھے امان ہے اس کے بعد
اس کی تلوار اسی کو دیدی۔ وہ اپنی راہ لگا اور ہم نے اپنی راہ لی۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے یہ
حکایت پوری کرنے کے بعد فرمایا کہ دیکھو کہ اس ہندو نے کیا دیکھا اور اسے کیا دکھایا گیا!

اٹھائیسویں مجلس

marfat.com

Marfat.com

اسی سال ماہ مبارک شعبان کی دوسری تاریخ منگل کو قدم بوسی کی سعادت میسر آئی۔ کھانا کھلانے کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ درویشی یہ ہے کہ جو آنے والا بھی آئے سلام کے بعد اس کے سامنے کھانا رکھا جائے۔ اور پھر حکایات اور باتوں میں مشغول ہوں۔ اس کے بعد یہ بات زبان مبارک پر آئی کہ شروع کرو سلام سے پھر طعام اور پھر کلام!

انتیسویں مجلس

اسی سال اور اسی مہینے کی بائیس تاریخ پیر کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی کھانا سامنے رکھا گیا۔ اور لوگوں نے کھانا شروع کیا خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے ارشاد کیا کہ ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ جب لوگ میرے سامنے کھانا کھاتے ہیں تو میں اس کے لقمے اپنے حلق میں پاتا ہوں۔ یعنی وہ کھانا جیسے میں خود کھا رہا ہوں۔ حاضرین میں سے کوئی شخص بولا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے ایک دفعہ شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی بتل کے زور سے چابک مارا گیا تو شیخ ابو سعید کراہے اور ایسے آہ کی گویا چوٹ انہیں کے لگی ہو۔ ایک مخالف بھی موجود تھا۔ اسے اس کیفیت پر یقین نہ آیا۔ شیخ ابو سعید نے اپنی کمر کھول کر اسے دکھائی کہ اس چابک کا اثر شیخ کی پشت مبارک پر موجود تھا۔ اس کے بعد حکایت بیان کرنے والے نے خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر سے مخاطب ہو کر عرض کی کہ یہ حکایت بھی ایسی ہی ہے کہ ایک شخص کا حال دوسرے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ لیکن معلوم نہیں کہ حقیقت حال کیا ہے؟ اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ جب روح طاقت پکڑتی ہے اور کمال کو پہنچتی ہے تو قلب کو جذب کرتی ہے (کھینچتی ہے) اور قلب بھی جب قوی ہو جاتا ہے اور کمال کو پہنچ جاتا ہے تو وہ قالب (جسم) کو جذب کرتا ہے۔ (کھینچتا ہے) پس اس اتحاد کی رو سے عین ممکن ہے کہ قلب پر جو گزرے۔ اس کا اثر قالب پر ظاہر ہو جائے۔ اس بات پر بندے نے عرض کی کہ یہ حال اوصاف معراج جیسا ہے۔ ارشاد ہوا ہاں!

اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ کسی بزرگ نے کہا ہے مجھے نہیں معلوم کہ معراج کی رات رسول علیہ السلام کو وہاں لے گئے کہ جہاں عرش و کرسی اور بہشت و دوزخ اور وہ چیزیں ہیں جو حضور ﷺ نے دیکھیں۔ یا ان سب کو وہاں لایا گیا جہاں رسول علیہ السلام والتجیت تھے۔ دوسری صورت میں رسول اللہ ﷺ کا مرتبہ اور بڑھ جاتا ہے۔

پھر ان لوگوں کا ذکر ہونے لگا جو بیعت کا طریقہ نہیں جانتے اور بعض ایک پیر سے مرید ہونے کے بعد پھر کسی اور پیر کے مرید ہو جاتے ہیں۔ اور بعض مشائخ کے مزار سے مرید ہوتے ہیں اس دوران بندے نے عرض کی کہ بعض لوگ مشائخ کی قبر کے پائنتی سرمنڈواتے ہیں اور مرید ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ بیعت درست ہوتی ہے۔ فرمایا کہ نہیں اس وقت حضرت نے حکایت بیان فرمائی کہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کے ایک صاحبزادے تھے۔ سب لڑکوں میں بڑے! وہ گئے اور شیخ الاسلام قطب الدین بخت یار قدس اللہ سرہ العزیز کی قبر کے پائنتی مخلوق ہوئے (سرمنڈایا)۔ یہ خبر شیخ فرید الدین نور اللہ مرقدہ تک پہنچائی گئی ارشاد ہوا کہ شیخ قطب الدین طیب اللہ ثراہ ہمارے خواجہ اور ہمارے مخدوم ہیں۔ لیکن یہ بیعت درست نہیں۔ ارادت اور بیعت وہ ہوتی ہے کہ کسی شیخ کا ہاتھ تھاما جائے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

تیسویں مجلس

اسی سال شوال کی اکیسویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی دولت تک رسائی ہوئی خواب کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ قدیم زمانے میں ایک ترک تھا جس کو مجلس کہا کرتے تھے۔ اللہ والا آدمی تھا۔ ایک رات کو اس نے حضرت عزت (خدا) کو خواب میں دیکھا دوسرے دن صبح شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خواب سنایا پہلے ان کو بڑی سخت قسم دی کہ میں جو کچھ کہوں اس کا حال جب تک میں زندہ ہوں کسی سے نہ کہنا شیخ نجیب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات مان لی تو مجلس نے ان کو بتایا کہ میں نے آج رات کو خواب میں حضرت عزت کی زیارت کی ہے۔ پھر اس کے احوال اور انوار کی تفصیل سنائی۔ اس کے بعد شیخ نجیب الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ خواب دیکھنے کے بعد مجلس چالیس سال زندہ رہا اور میں نے اس مدت میں اپنے عہد کے موافق یہ خواب کسی سے بیان نہیں کیا۔ جب مجلس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو میں اس کی رحلت کے وقت اس کے پاس پہنچا۔ جب مجھے دیکھا تو بولا کہ وہ خواب یاد ہے۔ جو میں نے دیکھا تھا اور آپ کو سنایا تھا میں نے کہا کہ ہاں یاد ہے۔ مگر اس وقت

تمہارا کیا حال ہے؟ بولا کہ اس وقت اسی کیفیت میں غرق جاتا ہوں۔

یہاں سے شیخ نجیب الدین کے احوال اور شیخ کبیر فرید الدین رحمۃ اللہ علیہما کے مناقب کا ذکر نکلا۔ فرمایا کہ دہلی میں ایک ترک تھا۔ اس نے ایک مسجد تعمیر کرائی تھی اور اس مسجد کی امامت شیخ نجیب الدین کو دی تھی اور ان کے لئے گھر بھی مہیا کیا تھا۔ اس ترک نے اپنی ایک لڑکی کی شادی کی۔ ایک لاکھ جیتل بلکہ زیادہ اس کے لئے خرچ کئے۔ شیخ نجیب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ گفتگو کے دوران اس سے کہا کہ کمال مومن وہ ہوتا ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ سے محبت اولاد کی محبت پر غالب رہے اب تم نے ایک لاکھ جیتل (سکہ) بلکہ زیادہ اپنی اولاد کے لئے خرچ کئے ہیں۔ اگر اس کے دو گنے اللہ کی راہ میں خرچ کرو تب ویسے کمال مومن ہو گے۔ ترک اس بات سے خفا ہو گیا۔ شیخ نجیب الدین سے امامت بھی لے لی اور مکان بھی شیخ نجیب الدین یہاں سے اجودھن گئے اور شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کو صورت حال کہہ سنائی۔ شیخ نے ارشاد کیا کہ خدائے عزوجل فرماتا ہے کہ مَا نُنسِخُ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّثْلِهَا اَوْ مِثْلَهَا۔ یعنی ہر آیت نشانی جو ہم منسوخ کرتے ہیں اس کی جگہ دوسری آیت بھیجتے ہیں اس سے بہتر یا ویسی ہی لہذا اس کی کچھ پروا مت کرو، شاید اس ترک کا نام اتمر تھا۔ شیخ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ اگر ایک اتمر گیا ہے تو خدائے عزوجل کوئی اتمر پیدا کر دے گا۔ اسی زمانے میں ایک بڑا ملک (نواب) اتمر نامی اس علاقے میں آیا۔ جس نے شیخ الاسلام اور اس خانوادہ کریم کی بڑی خدمتیں کیں۔ اور اس خاندان کی خدمت گاری سے منسوب ہوا۔

پھر شیخ بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ نکلا کہ نظام الدین خریطہ دار نے ان کے لئے خانقاہ تعمیر کرائی۔ جب شیخ بدر الدین غزنوی اس خانقاہ میں تشریف فرما ہوئے تو ذرا بھی اطمینان خاطر نہ ملا۔ اور جلدی ہی ان کے ہاں بے قاعدگی آگئی جس زمانے میں شیخ بدر الدین اس خانقاہ میں بیٹھے اسی کے لگ بھگ نظام الدین خریطے دار کا محاسبہ ہوا اور ان کا کام خراب ہو گیا۔ شیخ بدر الدین نے شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کے ہاں معروضہ کرایا اور یہ بات کہلائی کہ ایک شخص نے میرے لئے خانقاہ بنائی تھی اب اس کے کام میں بگاڑ ہو گیا ہے میں بھی اس کی وجہ سے پریشان خاطر ہوں۔ شیخ نے جواب بھجوایا کہ جو بھی اپنے پیروں کی خیرت اور سنت پر نہیں چلتا اس کا یہی حشر ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے پیروں میں خانقاہ کی رسم

نہیں تھی وہ الگ خانقاہ بنا کر بیٹھے اور اس کا نتیجہ دیکھ لیا پھر شیخ قطب الدین بختیار قدس اللہ سرہ العزیز کی بزرگی کا ذکر آیا کہ انہوں نے عمر کے آخر میں قرآن یاد کیا۔ جب پورا حفظ ہو گیا تو اس وقت رحلت فرمائی رحمتہ اللہ علیہ۔

پھر اولیاء کے انتقال کا ذکر نکلا۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کسی بزرگ کے انتقال کا قصہ بیان کیا کہ وہ انتقال فرما رہے تھے اور آہستہ آہستہ خدائے عزوجل کا نام زبان مبارک سے لے رہے تھے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر آنکھوں میں آنسو بھرا لائے اور یہ رباعی زبان مبارک سے بیان فرمائی۔ رباعی

آیم بر کوئے تو پویاں پویاں
رخسارہ بآب دیدہ شویاں شویاں
بچارہ رہ وصل تو جویاں جویاں
جاں می وہم و نام تو گویاں گویاں

ترجمہ:- بے چارگی میں تیرے وصل کی راہ ڈھونڈتا تیرے کوچے کی طرف دوڑا چلا آتا ہوں رخساروں کو اپنے آنسوؤں سے دھوتا جان دے رہا ہوں اور لب پر تیرے نام کی تکرار ہے۔

اکتیسویں مجلس

اسی سال ماہ ذی قعدہ کی اٹھائیسویں تاریخ جمعے کو اس مکان میں جو جامع مسجد کیلو کھری کے سامنے ہے نماز سے قبل قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی عالم طریقت اور ان لوگوں کا ذکر نکلا جو یاد حق میں ڈوبے رہتے ہیں اور اس گروہ کا ذکر بھی جو بحث و تکرار میں مشغول رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو ان مردان خدا کے برابر کر کے دکھائے۔ اس دوران حکایت بیان فرمائی کہ ایک طالب علم شرف الدین نامی تھے۔ ان کی بڑی اہلیت تھی۔ ایک روز شیخ کبیر شیخ فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ شیخ نے ان سے پوچھا کہ تمہاری پڑھائی کا کیا حال ہے؟ بولے کہ اب تو سب کچھ بھلا دیا ہے۔ شیخ کو یہ بات پسند نہ آئی جب وہ باہر چلا گیا تو حاضرین سے مخاطب ہو کر بولے کہ یہ صاحب بہت اونچے اڑ رہے ہیں۔ (یعنی

غرور اور گھمنڈ کی بات کہی)

الغرض خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے یہ حکایت بیان فرمائی اور آنکھوں میں آنسو بھرا لائے اور فرمایا کہ پیران طریقت میں سے ایک پیر تھے۔ ان کا لڑکا تھا۔ محمد نام اس نے بہت علم حاصل کیا اور بڑی لیاقت پیدا کی۔ اس کے بعد چاہا کہ عالم طریقت میں بھی قدم رکھے۔ باپ سے بولا کہ میں چاہتا ہوں کہ درویش بن جاؤں باپ نے جواب دیا اچھا ایک چلہ کرو۔ بیٹا چلے میں بیٹھ گیا۔ جب چلہ پورا ہو گیا تو باپ کی خدمت میں آیا باپ نے چند مسئلے جو اس نے پڑھ رکھے تھے دوبارہ پوچھے لڑکے نے سب کا جواب دیا۔ اس کے بعد بولا کہ محمد تجھے اس چلے سے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ جا ایک چلہ اور کر۔ لڑکے نے ایک چلہ اور کیا جب چلہ پورا ہوا تو پھر باپ کی خدمت میں آیا۔ باپ نے اس سے کچھ مسئلے دریافت کئے اس دفعہ جواب دینے میں وہ جگہ جگہ اٹکا باپ نے کہا ایک چلہ اور کرو۔ لڑکے نے تیسرا چلہ کیا۔ جب چلہ پورا ہو گیا تو باپ کی خدمت میں آیا۔ باپ نے انہی مسائل میں سے کوئی بات اس سے پھر پوچھی لڑکا ایسا مشغول تھی ہو چکا تھا کہ کچھ جواب نہ دے سکا۔

اس کے بعد خواب اور ان کی تعبیروں کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کل اپنے صحابیوں کو خواب میں دیکھا کہ ہر ایک پیرا ہن پنہے ہوئے ہے۔ لیکن ایک کا پیرا ہن سینے سے آگے نہیں ہے۔ ایک کا ناف تک ہے اور ایک کا گھٹنے تک مگر عمر جوش۔ کو دیکھا کہ ان کا پیرا ہن زمین تک گھسنا ہوا ہے۔ اصحاب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ کیا آپ نے اس خواب کی کوئی تعبیر فرمائی؟ ارشاد ہوا ہاں۔ میں نے تعبیر میں ہر ایک کے لباس کو اس کا دین قرار دیا ہے۔

پھر ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت آئی۔ فرمایا کہ ان کی تعبیریں بھی کس قدر درست ہوتی تھیں۔ ارشاد ہوا ایک دفعہ کوئی شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے رات کو سفر جل (بہی ایک میوہ) خواب میں دیکھا ہے۔ بولے تم سفر کرو گے۔ پوچھا گیا کہ آپ یہ کیسے کہتے ہیں؟ جواب دیا کہ سفر جل کے شروع میں سفر ہے۔ کوئی اور آدمی آیا اور کہنے لگا کہ میں نے رات کو سوسن (ایک پھول) خواب میں دیکھا ہے۔ بولے کہ تم پر کوئی بلا آئے گی۔ پوچھا گیا کہ یہ آپ کس طرح کہتے ہیں؟ بولے کہ سوسن میں پہلے سو (برائی) ہے اور ان کے یہ سارے حکم درست نکلے۔ اس دوران بندے نے عرض کی ابن سیرین کیسے آدمی تھے؟ ارشاد ہوا کہ

marfat.com

Marfat.com

عالم اور مرد بزرگ تھے۔ خواجہ حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے میں۔

اس کے بعد فرمایا کہ امام محمد غزالی طیب اللہ ثراہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ ان دو خوابوں کی تعبیر جو ابن سیرین نے کی ہے عجائب روزگار سے ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کوئی شخص رمضان کے مہینے میں ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ انگوٹھی میرے ہاتھ میں ہے۔ جس سے مردوں کے منہ اور عورتوں کی شرم گاہ پر مہر لگا رہا ہے۔ ابن سیرین بولے کہ شاید تو موذن ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں اس وقت انہوں نے کہا کہ نماز کی بانگ بے وقت کیوں دیتے ہو؟ ایک اور شخص آیا۔ اور کہنے لگا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تلوں میں سے تیل نکال رہے ہیں اور میں تیل کو دوبار تلوں میں ڈال رہا ہوں۔ ابن سیرین بولے کہ جو عورت تمہارے گھر میں ہے۔ ذرا اچھی طرح چھان بین کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری ماں ہو اور وہ شخص گھر آیا اور اپنی بیوی سے اچھی طرح پوچھا جب خوب تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ اس کی ماں تھی!

پھر دنیل اور مارو کی بیماری کا ذکر نکلا۔ فرمایا کہ جو شخص نماز عصر کی سنتوں میں سورۃ بروج پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیل سے اس کو محفوظ رکھتا ہے اور چونکہ مارو بھی اسی قبیل کی چیز ہے اس لئے امید ہے کہ اس سے بھی حفاظت رہے گی۔

اس کے بعد فرمایا کہ جو بھی نماز عصر کے بعد سورۃ نازعات پڑھتا ہے خدائے عزوجل اسے قبر میں پڑا رہنے نہیں دیتا۔ وہ قبر میں ایک نماز کے وقت کی مقدار سے زائد نہیں رہتا۔ اس کے بعد آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور ارشاد کیا کہ جو شخص قبر میں نہیں رہتا تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا کہ ہوتا یہ ہے کہ روح کمال کو پہنچتی ہے۔ اور جب روح کمال ہو جاتی ہے تو قالب کو جذب کر لیتی ہے۔

تیسویں مجلس

اسی سال ماہ مبارک ذی الحجہ کی پانچویں تاریخ جمعے کو قدم بوسی کی سعادت تک رسائی ہوئی۔ جمعے کی نماز سے پہلے اس گھر میں جو جامع مسجد کیلوکری کے سامنے ہے تشریف فرماتے تھے۔ ترک دنیا کی حکایت آئی۔ ارشاد ہوا کہ ایک دفعہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے صحابیوں سے فرمایا کہ ایک درویش کو اختیار دیا گیا کہ تم چاہے دنیا کو اور جو کچھ اس میں ہے اس

کو لے لو چاہے اس کو جو آخرت میں تمہارے لئے مہیا کیا گیا ہے۔ اس درویش نے کہا کہ جو کچھ آخرت میں میرے لئے مہیا کیا گیا ہے۔ میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ جب یہ حکایت پوری ہو گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما نے لگے، صحابہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ وہ بولے کہ یہ ابو مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک درویش کو دنیا اور عقبیٰ میں مختار کیا گیا۔ یہ درویش خود محمد مصطفیٰ ﷺ ہیں جو یہ خبر دے رہے ہیں وہی مختار کئے گئے ہیں۔ جب خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر اس بات پر پہنچے تو فرمایا کہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز بھی اسی طرح اکثر کہا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کسی درویش کا یہ حال تھا یا کسی درویش نے یہ کیا اور میں سمجھ جاتا تھا کہ خود اپنا قصہ بیان فرما رہے ہیں۔ اور یہ حضرت شیخ ہی ہیں۔

پھر ترک دنیا کے سلسلے میں حکایت بیان فرمائی کہ اگلے وقتوں میں ایک بزرگ تھے۔ ایک دفعہ وہ پانی پر مصلیٰ بچھا کر نماز پڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ خداوند خضر سے کبیرہ (گناہ) کا ارتکاب ہوا ہے۔ ان کو اس سے توبہ عطا فرما! اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام بھی آگئے۔ اور بولے کہ اے بزرگ میں نے کون سے کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے کہ اس سے توبہ کروں۔ ان بزرگ نے کہا کہ تم نے صحرا میں ایک درخت لگایا تھا اس کے سائے میں خود بیٹھتے ہو۔ اور آرام اٹھاتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ میں نے یہ کام خدا واسطے کیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے اسی وقت توبہ کی اس کے بعد ان بزرگ نے ترک دنیا کی بابت خضر علیہ السلام سے کہا کہ ایسے رہو جیسے میں رہتا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے پوچھا آپ کس طرح رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ ان بزرگ نے جواب دیا کہ میرا طرز عمل یہ ہے کہ اگر ساری دنیا مجھے دی جائے اور کہا جائے کہ اسے قبول کرو تم سے اس کا کچھ حساب نہیں لیا جائے گا۔ اس طرح مجھے (دنیا) دیں اور یہ بھی کہیں اگر تم نے قبول نہ کیا تو تمہیں دوزخ میں لے جایا جائے گا تو میں دوزخ کو قبول کر لوں گا۔ مگر دنیا داری کو قبول نہ کروں گا۔ خضر نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ بولے کہ اس وجہ سے دنیا اللہ کی مبعوض ہے (دنیا اللہ کی ناپسندیدہ) ہے پس جس چیز کو خدا نے دشمن رکھا ہے۔ میں اس کی جگہ دوزخ قبول کر لوں گا۔ مگر اسے قبول نہیں کروں گا۔

تینیسویں مجلس

ماہ محرم کی تینیسویں تاریخ بدھ کے دن سنہ سات سو بارہ (ہجری) قدم بوسی کی دولت

حاصل ہوئی۔ اس روز کاتب حسن علاء بجزی کی کتاب مخ المعانی حضرت کی خدمت میں لے گیا تھا۔ بہت تعریف و توصیف فرمائی۔ اس روز میری بیعت کی تجدید بھی ہو گئی اور اپنے مبارک سر سے کلاہ اتار کر اس بے چارے غلام (حسن علاء بجزی) کے سر پر رکھی اور دو دفعہ یہ شعر زبان گوہر بیان پر آیا۔

در عشق تو کارِ خویش ہر روز
از سر گیرم زہی سرو کار

(آپ کے عشق میں اپنے کام کو ہر روز نئے سرے سے شروع کرتا ہوں۔ اس تعلق کے کیا کہنے!)

میں جو کتاب لے گیا تھا۔ اس کی مناسبت سے فرمایا کہ کتابوں میں سے جو مشائخ نے لکھی ہیں۔ روح الارواح بہت راحت بخش اور بہت اچھی کتاب ہے۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ قاضی حمید الدین ناگوری کو یہ کتاب حفظ تھی بر سر منبر اس میں سے بہت کچھ بیان فرماتے۔ اور ان کتابوں میں سے جو قدیم لوگوں نے لکھی ہیں۔ قوت القلوب عربی میں اور روح الارواح فارسی میں اچھی کتابیں ہیں۔ بندے نے عرض کی کہ مکتوبات عین القضاة بھی ایک اچھی کتاب ہے۔ البتہ اس پر پوری طرح عبور نہیں ہوتا ارشاد ہوا کہ ہاں وہ ایک حال کے عالم میں لکھی گئی ہے۔ وقت خاص جو انہیں کا حصہ تھا اس وقت لکھی ہے اس کے بعد زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ وہ پچیس سال ہی کے تھے کہ انہیں سوختہ کیا گیا۔ (جلایا گیا) عجب کام تھا اس عمر میں کہ جوانی کے جوش کی انتہا ہوتی ہے ان کا اس قدر حق میں مشغول ہونا اور تعلق رکھنا۔ یہ بہت ہی حیرت ناک کام تھا۔

اس کے بعد فرمایا کہ انہوں نے اپنے باپ کو جو قاضی تھے۔ رشوت لینے والا اور حرام خور لکھا ہے۔ یہ اور اسی طرح کی اور باتیں بہت لکھی ہیں۔ بندے نے عرض کی کہ ان کا اس طرح لکھنے سے مقصد کیا تھا؟ فرمایا کہ یہ بھی لکھا ہے کہ ان کو (قاضی صاحب کو) کشف حاصل تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ کہیں قوالی تھی۔ درویش اور احباب جمع تھے۔ عین القضاة کے والد بھی وہاں موجود تھے۔ وہ بولے کہ میں نے شیخ احمد غزالی کو دیکھا کہ اس مجمعے میں تشریف فرما ہوئے ہیں۔ اور اس روز اس مقام سے وہ مقام جہاں شیخ تھے بڑا فاصلہ تھا مثال کے طور پر یہ اجتماع ایک شہر میں تھا اور وہ کسی دوسرے شہر میں تھے۔ غرض یہ کہ جب تحقیقات کی گئی تو معلوم ہوا

کہ واقعی ایسا ہی تھا جیسا کہ انہوں نے بیان کیا تھا۔ اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ عین القضاة کا مقصد اس حکایت سے یہ بتانا تھا کہ اس پروردگار کی نعمت نہ تو نماز کے واسطے سے ہے نہ وظیفے اور خیرات کے ذریعے جس کو حق تعالیٰ چاہتا ہے وہ کشف کرامت والا ہو جاتا ہے۔ اس درمیان سوال کیا گیا کہ عین القضاة کے پیر کیا شیخ احمد غزالی تھے؟ فرمایا۔ نہیں۔ کیونکہ انہوں نے مکتوبات میں شیخ احمد غزالی کا ذکر کیا ہے اور اپنے پیر کا ذکر بھی کیا ہے اور اس طرح لکھا ہے کہ میں ایسا اور میرے شیخ ایسے مطلب یہ کہ اگر ان کے پیر شیخ احمد غزالی ہوتے تو جہاں ان کا ذکر کیا تھا وہاں انہیں اپنا پیر کہہ کر لکھتے۔

اس کے بعد فرمایا کہ عین القضاة چھوٹے سے تھے اور بچوں میں کھیل رہے تھے کہ شیخ احمد غزالی نے انہیں دیکھا اور کچھ عرصے بعد ان کے ماں باپ کے پاس جا کر انہیں مانگا۔ والدین نے انہیں چھپا دیا اور کہا کہ وہ تو مر گیا۔ شیخ احمد نے کہا کہ جھوٹ کہتے ہو جو نعمتیں اس کو ملنے والی ہیں جب تک وہ اسے مل نہ جائیں کیسے مر سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ شیخ احمد پر اتمام لگایا گیا تھا۔ اسی وجہ سے ان کے (عین القضاة) کے ماں باپ نے انہیں چھپا رکھا تھا۔ مولانا برہان الدین غریب سلمہ، اللہ حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کی کہ شیخ احمد کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ابتلا (امتحان) تھا۔ فرمایا کہ نہیں۔ وہ خود چاہتے تھے کہ انہیں ملامت کی جائے اور ان پر اتمام لگایا جائے۔ مگر وہ پاک تھے۔ ان کی حد درجے پاکی اور پارسائی کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ایک قصائی بچے کے ساتھ اتمام لگایا گیا۔ اس حد تک کہ قصائی زادے کے باپ کو خبر ہو گئی۔ شاید اس نے ہر ایک کے سامنے شیخ کو برا کہنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ ایک رات کو یہ قصائی زادہ شیخ کے پاس تھا کہ اس کا باپ پہنچ گیا کہ ذرا پتہ تو چلائے شیخ کسی حجرے میں یا پردے کی جگہ ہے۔ اس قصائی بچے کا باپ آیا اور کسی سوراخ یا شکاف میں سے جھانکنے لگا شیخ کو دیکھا کہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس قصائی بچے کو وعظ و نصیحت کرنے لگے اور پھر ایک اور دو گانہ ادا کیا۔ اور سلام پھیرنے کے بعد اس لڑکے سے دوبارہ نصیحت و موعظت کی باتیں کرنے لگے۔ ساری رات صبح تک دو دو رکعت نماز ادا کرتے اور ہر دو گانے کے بعد جو کچھ اس لڑکے کی اصلاح حال کی بات ہوتی اس کو بتاتے۔ جب صبح ہوئی تو اس لڑکے کا باپ آیا اور شیخ کے قدموں میں گر گیا۔ وہ اور اس کا لڑکا دونوں شیخ کے مرید ہو گئے۔ اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ یہ بات ہر کسی

کے بس کی نہیں ہے بڑی طاقتور پاک اور کامل شخصیت ہونی چاہئے کہ ایسا کر سکے۔

اس کے بعد فرمایا کہ میں ایک دفعہ شیخ کبیر (حضرت بابا فریدؒ) کی خدمت میں بمقام اجودھن (حال پاکپٹن) حاضر تھا کہ ایک جوگی آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا طریقہ کیا ہے اور کام کی بنیاد تمہارے ہاں کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہمارے علم میں اس طرح بتایا گیا ہے کہ آدمی کے نفس میں دو عالم ہوتے ہیں۔ ایک عالم علوی دوسری عالم سفلی۔ پیشانی سے ناف تک عالم علوی ہے۔ اور ناف سے پیروں تک عالم سفلی ہے۔ کام اس طرح بنتا ہے کہ عالم علوی میں تو پوری طرح صدق و صفا اور اچھے اخلاق اور حسن معاملہ ہوں اور عالم سفلی میں نگاہ داشت اور پاکی اور پارسائی۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالآخر نے زبان مبارک سے ارشاد کیا کہ مجھے اس کی یہ بات اچھی لگی۔

پھر ترک دنیا کا ذکر نکلا۔ اس باب میں بے حد غلو فرمایا۔ زبان مبارک پر یوں آیا کہ اگر کوئی اپنے دن روزے رکھ کر گزارے اور راتیں نماز پڑھتے بتائے اور حرمین کا زائر (بھی) ہو اصل بات جب ہوگی کہ دنیا کی محبت اس کے دل میں نہ ہو اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور دنیا کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے تو وہ اس دعوے میں جھوٹا ہوتا ہے۔

چونتیسویں مجلس

اسی سال ربیع الاول کی بائیسویں تاریخ جمعے کو ہاتھ چومنے کی دولت ہاتھ آئی خواجہ عثمان حرب آبادی رحمتہ اللہ علیہ کی بزرگی کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ انہوں نے مدت تک خلق سے قطع تعلق رکھا اس کے بعد خلقت کے درمیان آئے۔ ان کو عالم غیب سے فرمان پہنچا کہ خلق کو دعوت دو (دین کی طرف بلاؤ تبلیغ کرو) مگر شرط یہ ہے کہ ہزار بلا کو برداشت کرنا۔ اس کے بعد وہ کسی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک شخص آیا اور اس نے ان کی گدی پر ہاتھ مارا اور دوسرا آیا اور اس نے بھی یہی حرکت کی۔ یہ سب کو گنتے اور یاد رکھتے رہے۔ جب ہزار پورے ہو گئے تو ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی گئی کہ منبر پر آؤ اور خلق کو دعوت و تبلیغ کرو۔ یہ بولے کہ الہی میں نے کوئی علم نہیں پڑھا اور مجھے کوئی کمال حاصل نہیں ہے۔ خلق کو دعوت کیسے دوں؟ حکم آیا کہ منبر پر پاؤں رکھنا تمہارا کام ہے اور بخشش ہمارا۔

marfat.com

Marfat.com

پھر بات خلق سے میل جول چھوڑنے کی نکلے۔ فرمایا کہ شیخ احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کپڑا بننے والے تھے۔ ایک مدت خلق سے کٹے رہے۔ اس کے بعد خلقت کے درمیان آئے تو منہ بند کئے رہے۔ کسی سے بات نہ کرتے۔ جب اس کو بھی زمانہ گزر گیا تو ایک محرم رازان کے پاس آیا اور کہا کہ جب خلق کے درمیان رہتے ہو تو بات کیوں نہیں کرتے؟ بولے کہ کیا بات کروں۔ یا تو تکون (کائنات کے پیدا ہونے) کے بارے میں کہوں گا یا مکون (کائنات پیدا کرنے والے) کے بارے میں کہوں گا تکون بیان میں نہیں سا سکتا۔ اور مکون کے بارے میں تو کچھ کہنا ہی مشکل ہے۔

یہ رباعی بھی انہی سے سنی گئی ہے۔ دوست کے دوست کے پاس اکیلے آنے کی بابت رباعی۔

تامن میمان رسول نیام باتو تنما زہمہ جہان من و تنما تو
خورشید نخواہم کہ برآید باتو آئی بر من سایہ نباشد باتو
ترجمہ:- میرے تمہارے درمیان صدا گر ہو تو یا تم ہو یا میں ہوں۔ سارے جہان سے
الگ ہم تم تنہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ خورشید بھی تمہارے ساتھ نکلے۔ مجھ سے ملنے آؤ تو
سایہ تک تمہارے ساتھ نہ ہو۔

پھر اس گروہ کا ذکر نکلا جو روزہ رکھتا ہے اور طے کرتا ہے (یعنی طے کے روزے رکھتا ہے) اور اس سے اس کا مقصد گھمنڈ اور دکھاوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد موتی بکھیرنے والی زبان پر یہ شعر آیا۔

لنگنت گر کند ترا فریہ سیر خوردن تراز لنگن بہ
ترجمہ:- اگر برت رکھنے سے تو موٹا ہو جائے تو تیرا پیٹ بھر کر کھانا برت رکھنے سے بہتر
ہے۔

پیتھیسوس مجلس

اسی مہینے کی پیتھیسوس تاریخ منگل کو قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا۔ درویشوں کی باہمی تکرار اور اس حال میں بھی ان کی خوش کلامی کا ذکر نکلا۔ اول یہ فرمایا کہ مشائخ نے کہا ہے کہ تین وقتوں میں رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ ایک سماع کی حالت میں دوسرے اس کھانے کے

وقت جو طاعت کی قوت حاصل کرنے کے لئے کھایا جائے۔ اور تیسرے درویشوں کی باہمی رنجش اور کدورت مٹاتے وقت اس کے بعد زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ ایک دفعہ میں اپنے خواجہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں تھا کہ چھ یا سات درویش آئے سب جوان اور کم عمر صاحب جمال شاید وہ خانوداہ خواجگان چشت رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے مرید تھے انہوں نے شیخ کی خدمت میں عرض کی کہ ہمارا آپس میں کچھ جھگڑا ہے۔ مخدوم کسی مرید کو حکم دیں کہ ہمارے جھگڑے کو سن لے۔ شیخ نے مجھے حکم دیا کہ تم جاؤ اور ان کا قضیہ سنو۔ اور بدر الدین اسحقؒ سے بھی فرمایا۔ چنانچہ ان درویشوں میں سے ایک نے دوسرے سے شکایت بیان کرنی شروع کی اس نرمی اور لطافت کے ساتھ کہ اس روز آپ نے ایسی بات فرمائی اور میں نے یہ عرض کیا۔ اس کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا جو میں جانتا نہ تھا۔ میں سمجھا نہیں یا غلط جواب دیا۔ اس کے جواب میں اس کے ساتھی نے بھی اسی نرمی سے کہا آپ نے تو یہی فرمایا تھا مگر غلطی مجھ سے ہوئی واقعی آپ حق پر تھے غرضیکہ یہ اور اسی قسم کی گفتگو کرتے رہے اور میں اور بدر الدین اسحقؒ ان کی تقریر کے لطف سے رونے لگے میں نے اپنے آپ سے کہا یہ حق تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور ہم کو تعلیم دینے آئے ہیں۔ کہ شکوے اس طرح کرنے چاہئیں۔ اس کے بعد زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ شکایت کے وقت بات اس طرح کرنی چاہئے کہ گردن کی رگ نہ ابھرے یعنی غصے اور تعصب کا اثر پیدا نہ ہو۔

پھر تحمل اور بردباری کے بارے میں بہت غلو فرمایا اور ارشاد ہوا کہ جو بھی جفا کو سبہ لیتا ہے۔ وہ سب سے اچھا ہے غصہ کو پی جانا چاہئے۔ اور بدلے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہئے۔ یہ دو مصرعے زبان مبارک پر آئے۔

ہر کہ مارا یار نبود ایزد او را یار باد و آنکہ مارا رنجہ دار در ایش بسیار باد!
ترجمہ:- جو ہمارا دوست نہ بنے اللہ اس کا دوست رہے اور جو ہمیں تکلیف پہنچائے اس کو خوب راحت ملے۔

اس کے بعد یہ شعر پڑھا

ہر کہ او خاری نمد در راہ ما از دشمنی ہر گلی کز باغ عمرش شکفد بی خار باد!
ترجمہ:- جو بھی دشمنی سے ہمارے راستے میں کانٹا رکھے اس کی زندگی کے چمن کا ہر

پھول بے کانٹے کھلا رہے
 پھر فرمایا کہ اگر کوئی کانٹا رکھے اور تم بھی جواب میں کانٹا رکھو تو کانٹے ہی کانٹے ہو
 جائیں گے۔ ان کلمات کے درمیان فرمایا کہ عوام میں یہ دستور ہے کہ اچھوں کے ساتھ
 اچھائی اور بروں کے ساتھ برائی لیکن درویشوں میں یہ طریقہ ہے کہ اچھوں کے ساتھ اچھے
 اور بروں کے ساتھ بھی اچھے۔

پچھتیسویں مجلس

اسی سال ماہ مبارک رجب کی ساتویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا دینی
 بھائیوں کی محبت کا ذکر آیا فرمایا کہ اخوت دو قسم کی ہوتی ہے ایک اخوت نسبت (رشتے داری)
 کی ہے دوسری دین کی اخوت ہے۔ ان دو اخوتوں میں سے دین کی اخوت زیادہ پکی ہوتی ہے۔
 کیوں کہ اگر دو نسبتی بھائی ہوں ایک مومن اور ایک کافر تو مومن بھائی کی میراث کافر بھائی کو
 نہیں ملے گی۔ پس اس اخوت کو کچا پاتا ہوں لیکن دین کی اخوت پکی ہوتی ہے۔ کیوں کہ جو
 رشتہ دو دینی بھائیوں میں ہوتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں برقرار رہتا ہے۔

اس درمیان اس آیت کا ذکر آیا الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا
 الْمُتَّقِينَ (ترجمہ) قیامت کے دن بعض دوست آپس میں دشمن نکلیں گے۔ سوائے
 متقیوں کے ارشاد ہوا کہ وہ یار جن کی یاری فسق کے سبب رہی ہوگی کل ایک دوسرے کے
 دشمن ہوں گے، اس وقت یہ شعر زبان مبارک پر آیا۔

ترا دشمنانند این دوستان

کہ یارند در بادہ و بوستان

یہ شراب اور باغ کے ساتھی تیرے دوست نہیں دشمن ہیں۔

سیستیسویں مجلس

اسی سال اور اسی مہینے کی پچیسویں تاریخ اتوار کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی۔ نفل
 نماز کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ مصطفیٰ ﷺ نے جو نمازیں ادا کیں وہ تین طرح کی تھیں۔ ایک
 وہ جن کا تعلق وقت سے تھا۔ اور ایک وہ جن کا تعلق سبب سے تھا۔ اور ایک وہ جن کا تعلق

نہ وقت سے نہ سبب ہے۔ امام غزالی طیب اللہ سراہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے۔ کہ جس نماز کا تعلق وقت سے ہے وہ بار بار پڑھی جاتی ہے۔ اور ایک نماز ہے جو ہر ماہ کی ہے اور ایک نماز ہے جو ہر سال کی ہے۔ اب ہم اس نماز پر آتے ہیں جو روزانہ کی ہے یہ آٹھ نمازیں ہیں۔ پانچ نمازیں تو وہ جو پانچ وقت ادا کی جاتی ہیں۔ چھٹی نماز چاشت۔ ساتویں بیس رکعت بعد نماز مغرب۔ آٹھویں تہجد کی نماز۔ یہ نماز کی وہ قسم ہے جو ہر دن اور رات کی ہے۔ لیکن وہ نماز جو ہر ہفتے کی ہے اور وہ ہر روز کی ایک نماز آئی ہے۔ ہفتے کی اور اتوار کی اور اسی طرح آخر ہفتے تک۔ یہ وہ نماز ہے جو ہر ہفتے کی ہے اور وہ نماز جو ہر مہینے کی ہے وہ بیس رکعتیں ہیں جو ہر مہینے کی چاند رات کو حضور مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ادا فرمائی ہے۔ یہ ماہوار نماز ہوئی۔ لیکن جو نماز سالانہ ہے وہ چار نمازیں ہیں۔ دو عید کی نمازیں تیسری تراویح کی نماز چوتھی شب برات کی نماز یہ ساری نمازیں وہ ہوئیں جو وقت سے تعلق رکھتی ہیں لیکن وہ نماز جو سبب سے تعلق رکھتی ہے دو نمازیں ہیں۔ ایک نماز استسقیٰ یعنی یہ سبب سے تعلق رکھتی ہے۔ جب سوکھا پڑتا ہے تب یہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ دوسرے سورج گرہن اور چاند گرہن کی نمازیں یہ یہ بھی سبب سے تعلق رکھتی ہیں۔ جب بھی سورج اور چاند کو گرہن لگتا ہے یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ وہ نمازیں تھیں جو سبب سے تعلق رکھتی تھیں۔ مگر وہ نماز جو نہ وقت سے تعلق رکھتی ہے نہ سبب سے وہ صلوٰۃ تسبیح ہے اور سلامتی کی نماز ہے۔

پھر یہ ذکر آیا کہ کیا نفل نمازوں کا جماعت سے پڑھنا کہیں آیا ہے۔ فرمایا کہ ہاں آیا ہے۔ بعض مشائخ اور گزشتہ بزرگوں نے (نفل نماز باجماعت) پڑھی ہے۔ پھر فرمایا کہ شب برات کا موقع تھا۔ شیخ الاسلام شیخ فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز نے مجھے حکم دیا کہ اس رات جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے باجماعت پڑھو اور تم امامت کرو چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔

پھر ان نمازوں کا ذکر آیا جو محافظت نفس کے لئے ادا کی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ آدمی جب بھی گھر سے باہر جائے اسے چاہئے کہ دو گانہ پڑھ کر باہر نکلے تاکہ حق تعالیٰ راستے کی ہر بلا سے محفوظ رکھے اس دو گانے میں بہت بھلائی ہے۔ اور جب بھی گھر آئے تو اس وقت بھی دو گانہ ادا کرے تاکہ ہر اس بلا سے جو گھر میں پیدا ہو حق تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ اور اس دو گانے میں بہت خیر و سلامتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی یہ دو گانے نہ پڑھ سکے تو باہر جاتے اور اندر آتے آیت الکرسی پڑھ لے اس سے بھی یہ غرض حاصل ہو جائے گی اور اگر

آہت الکرسی نہ پڑھے تو چار دفعہ یہ کلمہ پڑھے۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ یہ بھی کافی ہے اور اگر کوئی شخص مکروہ اوقات میں مسجد کے اندر پہنچے اور تحیت مسجد نہ پڑھ سکے تو یہی کلمہ چار دفعہ کہہ لے مقصد حاصل ہو جائے گا۔

اڑتیس مجلس

اسی سال ماہ شوال کی تیرہویں تاریخ ہفتے کو قدم بوسی کی دولت میسر آئی۔ خواجہ نوح جو قرابت کی شرف سے مشرف ہیں سامنے بیٹھے تھے اور مشارق پڑھ رہے تھے۔ خواجہ نظام الدین اولیاءؒ اس کی شرح فرما رہے تھے اور اس حدیث کے بیان تک پہنچے تھے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور تھوک یا بلغم اس کے منہ میں آئے اور وہ اس کو تھوکنا چاہے تو اسے چاہئے کہ اسے قیلے کی طرف نہ تھو کے اور دائیں جانب بھی جو ملک (فرشتے) کا رخ ہے نہ تھو کے۔ بائیں جانب تھو کے اور پیر کے پاس اس طرح تھو کے کہ عمل کثیر (۹) نہ ہو۔ صرف اتنا کرنے سے نماز خراب نہیں ہوتی۔

اس کے علاوہ یہ بیان فرمایا کہ مومن ہرگز نجس نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک روز رسول علیہ السلام کسی راستے پر تشریف لے جا رہے تھے کہ ابو ہریرہؓ سامنے آگئے۔ مصطفیٰ علیہ السلام ان سے خوش طبعی فرماتے تھے۔ حضور ﷺ نے ہاتھ بڑھایا تاکہ ابو ہریرہؓ مصافحہ کر لیں۔ ابو ہریرہؓ نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا رسول علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ ہاتھ کیوں سمیٹتے ہو بولے یا رسول اللہ ﷺ میں اس وقت اپنی بیوی سے مل کر آ رہا ہوں اور میں نے غسل نہیں کیا ہے آپ جیسی پاک شخصیت کا ہاتھ کیسے تھاموں؟ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے فرمایا کہ مومن ہرگز نجس نہیں ہوتا۔ جنبی غسل کا ضرورت مند ہوتا ہے۔ نجس نہیں ہوتا۔ چنانچہ اگر کوئی جنبی کے جھوٹے کئے ہوئے پانی کو پی لے تو کچھ حرج نہیں ہے۔

اس کے علاوہ یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی عورت شیطان کی صورت میں کسی مرد کے سامنے آئے یعنی شیطان عورت کی صورت میں کسی مرد کے سامنے آئے اور اس مرد کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے تو اس شخص کو چاہئے کہ اسی وقت اپنی بیوی سے جا ملے تاکہ یہ وسوسہ اس سے دفع ہو جائے شادی شدہ آدمی کی ایک خیریت یہ بھی ہے۔

خواجہ نوح یہ فوائد سننے کے بعد جانے کے لئے اٹھ گئے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے حاضرین سے نوح کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان کو عزیز رکھو کہ یہ بہت نیک آدمی ہیں اس کے بعد وہ چلے گئے تو ان کی پرہیزگاری کا بہت ذکر فرمایا اور کہا کہ ان کو قرآن یاد ہے۔ اور ہر جمعہ کی رات کو ختم کرتے ہیں اور علم حاصل کرنے کا بے حد شوق ہے اور علم خوب حاصل کر لیا ہے۔ بہت ہی نیک طبیعت ہے کسی سے کوئی غرض نہیں۔ نہ دوستی سے مطلب نہ دشمنی سے اور بہت ہی صالح ہیں۔ چنانچہ ایک روز میں نے ان سے پوچھا کہ میاں تم جو اس قدر طاعت و عبادت کرتے ہو تو اس سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ بولے کہ میرا مقصد آپ کی زندگی ہے! خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا یہ بات اس کو کس نے سکھادی؟ یوں سمجھو کہ یہ بات اس کی سعادت مندی کی دلیل ہے۔

اس کے بعد ذکر آیا کہ اگر کسی سے کوئی بات پوچھی جائے تو بہتر یہ ہے کہ اس کے گھر کی بات پوچھیں یعنی جس گاؤں کا وہ ہے اس درمیان فرمایا کہ ایک مولوی تھے۔ ضیاء الدین لقب (۱۰)۔ مینار کے نیچے درس دیا کرتے تھے۔ میں نے ان سے سنا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میں ایک دفعہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور مجھے فقہ اور نحو اور دوسرے علوم کی مطلق خبر نہیں تھی۔ صرف مناظرے کا علم سیکھا تھا۔ اور بس چنانچہ مجھے خیال ہوا کہ اگر شیخ نے فقہ اور نحو اور دوسرے علوم کی بابت پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا۔ یہی اندیشہ دل میں لئے ہوئے ان کی خدمت میں پہنچا جیسے ہی میں سلام کر کے بیٹھا شیخ نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تشفیح مناط (۱۱) کیا ہے؟ میں خوش ہو گیا اور اس کا بیان شروع کیا اور نفی اور اثبات جو اس میں آئے انہیں جی بھر کے بیان کیا خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ یہ شیخ کے کشف کا کمال تھا کہ اسی سے وہی بات پوچھی اس کے ڈھب اور اس کے علم کی بات تھی۔
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

ان صفحات میں تین سال کے فوائد درج ہیں۔ اور بھی جو کچھ سنا جائے گا اور معلوم ہو گا امید ہے کہ وہ بھی ان شاء اللہ لکھ لیا جائے گا۔

حواشی

جلد دوم

- (۱) یعنی فرق اور جدائی تو ایک ایسی ابدی حقیقت ہے جو وصال نہ ہونے کی صورت میں پہلے ہی سے ہر طرح موجود رہتی ہے۔ وصال ابتہ ایک ایسی چیز ہے اور گریز پا ہے جس کو حاصل کیا جاتا ہے (اور روکا جاتا ہے)۔
- (۲) یہ میر آج کل کے تقریباً پاؤ کے برابر ہوتا تھا۔
- (۳) حلیم سے ملتا جلتا ایک عربی کھانا۔
- (۴) شاہ جہان کے دسترخوان کے کھانوں کی ترکیب میں نان تنگ تیار کرنے کا وہی طریقہ لکھا ہے جو پرائیڈ تیار کرنے کا ہے۔ مترجم
- (۵) نماز گاہ سے مراد مسجد کے علاوہ وہ جگہ بھی ہو سکتی ہے جسے نماز کے لئے مخصوص کر لیتے ہیں اور مصلیٰ کہتے ہیں۔ اس جگہ پر مسجد کے قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا۔
- (۶) خلاف عادت سے مراد وہ بات جو سائنسی فک حقیقتوں کے خلاف ہو۔
- (۷) جو کسی دلیل کی محتاج نہ ہو کھلی ہوئی چیز آفتاب۔ سورج اپنی دلیل خود ہوتا ہے۔ سورج نکلنے کے بعد اس کے وجود کو جاننے اور سمجھنے کے لئے کسی کوشش کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ایک جانی بوجھی چیز ہوتا ہے۔
- (۸) حضرت محبوب الہی نے کسی اور جگہ فرمایا کہ ”تارک“ یعنی چھوڑنے والا اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہو اور اسے ترک کر دے چھوڑ دے۔ جس کے پاس کچھ ہو گا ہی نہیں وہ کیا ترک کرے گا۔
- (۹) ایسا عمل جسے دیکھ کر لوگ سمجھیں کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا۔ ایسی صورت میں نماز نہیں ہوتی۔
- (۱۰) غالباً ”قطب مینار“ مراد ہے۔
- (۱۱) موافق اور مخالف دلیلیں۔

قواعد القواعد
جلد سوم

جلد سوم فوائد الفواد

سترہ مجلسیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ ان کے کلام کی برکتوں کو قائم رکھے۔ اسرار الہی کے یہ اشارات (۱) اور بے انتہا انوار کی یہ بشارات (۲) 'خواجہ راستین ختم المجتہدین ملک المشائخ فی الارضین نظام الحق والشرع والدین کے لفظ درر (۳) بار اور زبان گوہر ثمار سے سنی گئی ہیں۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی ذٰلِکَ۔

مجموعہ کہ بندہ حسن نو بیٹا نہاد
ہم وقت پاک شیش جمعیتی دہاد

جس مجموعے کی نئی بنیاد حسن خادم نے رکھی ہے۔ اس کو حسن کے پیر کا وقت پاک
جمیعت بخشے (پورا کرائے کامیاب فرمائے!)

پہلی مجلس

پیر ماہ ذی قعدہ کی ستائیسویں تاریخ سنہ سات سو بارہ ہجری قدم بوسی کی سعادت
حاصل ہوئی۔ طبقات کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے بعد
میری امت پانچ طبقوں میں ہوگی اور ہر طبقے کی مدت چالیس سال ہے۔ پہلا طبقہ علم اور
مشاہدے کا طبقہ۔ دوسرا طبقہ بقر (نیکی) اور تقوے کا تیسرا طبقہ تو اصل اور تراحم کا۔ چوتھا طبقہ
تقاطع اور تدابیر کا۔ پانچواں طبقہ ہرج اور مرج کا۔ فرمایا کہ دوسرا طبقہ بر اور تقوے کا ہوا وہ
تابعین (۴) تھے۔ اس کے بعد تیسرا طبقہ تو اصل اور تراحم کا ہوا۔ تو اصل یہ ہوتا ہے کہ جب
دنیا (۵) ان کے پاس آتی ہے تو اگر یہ دنیا ان کے اور دوسروں کے درمیان مشترک ہو تو یہ
اسے (اپنے) شراکت داروں کے پاس نرمی اور رعایت سے جانے دیتے ہیں۔ اس طرح کہ
کوئی اسے اپنی طرف کھینچے تو یہ ڈھیل چھوڑ دیتے ہیں اس کو تو اصل کہا جاتا ہے۔ لیکن تراحم
یہ ہے کہ اگر دنیا پوری کی پوری بلا شرکت غیرے ان کو مل جائے تو یہ اسے خرچ کر ڈالتے ہیں
اور راہ حق میں صرف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا طبقہ تقاطع اور تدابیر کا۔ تقاطع یہ ہوتا
ہے کہ اگر انہیں دنیا ملتی ہے تو اس کی حصے داری میں قطع تعلق اور دشمنی پر اتر آتے ہیں اور
تدابیر یہ ہوتا ہے کہ اگر دنیا خاص انہی کو مل جاتی ہے تو وہ اسے پورا کا پورا رکھ لیتے ہیں اور
مخلوق کو پیٹھ دکھا دیتے ہیں اور کسی کو کچھ نہیں دیتے۔ اس کے بعد پانچواں طبقہ ہرج مرج کا
طبقہ ہے۔ ہرج مرج یہ ہوتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا گوشت پوست نوچیں اور ایک
دوسرے کو قتل کریں اور ان پانچوں طبقوں کی مدت دو سو سال ہوئی۔ پھر فرمایا کہ ان چھ سو سال
کے بعد آدمی کے بچے سے کتے کا بچہ پیدا ہونا بہتر ہوگا۔ جب خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر اس بات پر
بہنے تو آنکھوں میں آنسو بھرائے اور بولے کہ یہ حکم رسول علیہ السلام کی رحلت کے بعد دو
سو سال میں پورا ہو گیا۔ آج کل کے بارے میں آدمی کیا کہے!

پھر مشغولی حق کا ذکر آیا کہ کام اگر ہے تو یہ ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اس دولت
کو روکنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ اگر کبھی اپنی پڑھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کرنے لگتا ہوں تو

مجھے وحشت ہونے لگتی ہے اور اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ میں کہاں جا پڑا۔ اس درمیان حکایت بیان فرمائی کہ شیخ ابو سعید ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ جب کمال حال کو پہنچے تو انہوں نے اپنی پڑھی ہوئی کتابوں کو کونے میں رکھ دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ دھو ڈالا۔ اس کے بعد فرمایا کہ دھونے کی روایت درست نہیں ہے۔ بس اتنا ہے کہ کہیں سنگوا کر رکھ دیا۔ چنانچہ ایک روز ان کتابوں میں سے کوئی کتاب سامنے رکھ کر مطالعہ کرنے لگے۔ ہاتھ نے آواز دی اور کہا کہ اے ابو سعید ہمارے عہد نامے کو واپس کر دو کیونکہ تم غیر چیز میں مشغول ہو گئے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر جب اس بات پر پہنچے تو رونے لگے اور یہ دو مصرعے زبان مبارک پر جاری ہو گئے۔

تو سایہ دشمنی کجا در حتمی جائے کہ خیال دوست زحمت باشد!
ترجمہ:- تم دشمن کا سایہ ہو تم کہاں ساؤ گے؟ اس جگہ جہاں خیال دوست تک زحمت ہوتا ہے؟

یعنی جس جگہ مشائخ اور فقہ کی کتابیں اور احکام شریعت حجاب ہوں وہاں اور چیزیں کیا ہوں گی!

دوسری مجلس

اسی سال ماہ حج کی بارہویں تاریخ منگل کو قدم بوسی کا شرف ہاتھ آیا بہت لوگ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے بعض کو سایے میں جگہ نہیں ملی تھی۔ دھوپ میں بیٹھ گئے۔ حضرت نے دوسرے لوگوں سے کہا کہ اور قریب قریب ہو کر بیٹھو تاکہ ان لوگوں کے لئے بھی جگہ نکل آئے کیوں کہ دھوپ میں تو وہ بیٹھے ہیں اور جہاں میں ہوں اسی کے مناسب حال حکایت بیان فرمائی کہ بدایوں میں ایک بزرگ تھے جن کو شیخ شاہی مومئے تاب رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا تھا۔ ایک دفعہ دوست انہیں پک نک کے لئے باہر لے گئے اور کھیر پکائی جب کھانا سامنے لگایا گیا تو خواجہ شاہی مومئے تاب بولے کہ اس کھانے میں خیانت ہوئی ہے۔ شاید دو آدمیوں نے اس میں سے کچھ دودھ دوستوں کے سامنے لانے سے پہلے پی لیا تھا اور یہ درویشوں میں بہت بڑی خطا سمجھی جاتی ہے۔ الغرض جب خواجہ شاہی نے کہا کہ ایسا کہیں ہوا کہ دوستوں کے سامنے کھانا لانے سے پہلے کسی نے اس میں سے کچھ کھا لیا تو وہ

بولے کہ دیک میں سے دودھ اہل کر باہر گر رہا تھا۔ ہم نے تو باہر گرنے والے دودھ کو لیا ہے اس کا کیا کرتے کرنے دیتے؟ ناچار اسے پی لیا۔ خواجہ شاہی نے کہا نہیں اس طرح دودھ پینا غلط تھا۔ بہتا تھا تو بنے دیتے۔ چنانچہ ان کا یہ عذر نہیں سنا گیا وہ پیچھے چلے گئے۔ وہاں دھوپ تھی۔ دھوپ میں کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ ان کا پسینہ بہ بہہ کر گرنے لگا۔ اس وقت خواجہ شاہی نے کہا کہ حجام کو بلاؤ۔ پوچھا گیا آپ کیا کریں گے؟ جواب دیا کہ جس قدر پسینہ میرے دوستوں کا بہا ہے اس سے کہوں گا کہ اتنا خون میرا نکال دے خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر جب اس بات پر پہنچے تو ارشاد فرمایا کہ شاہی محبت ہو تو ایسی ہو اور انصاف کا خیال رکھا جائے تو اس طرح رکھا جائے۔

ان کی بزرگی کے بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ شیخ نظام الدین ابوالمؤید رحمۃ اللہ علیہ کو بیماری لاحق ہوئی تو انہوں نے شاہی موئے تاب کو بلوایا اور بولے کہ ذرا دعا کرو تاکہ میری بیماری صحت سے بدل جائے۔ خواجہ شاہی نے عذر کیا کہ آپ تو خود بزرگ ہیں مجھ سے یہ فرمائش کیا کرتے ہیں۔ میں تو ایک بازاری آدمی ہوں مجھ سے اس بارے میں کچھ نہ کہیں شیخ نظام الدین نے ان کی ایک نہ سنی اور کہا کہ تم دعا کرو اور توجہ کرو تاکہ مجھے صحت ہو جائے اس پر وہ بولے کہ اچھا تو پھر میرے دو دوستوں کو بھی بلا لیجئے۔ ان میں سے ایک کا لقب شرف تھا جو بڑا صالح مرد تھا۔ دوسرا ایک درزی تھا۔ الغرض دونوں بلائے گئے۔ خواجہ شاہی نے ان سے کہا کہ شیخ نظام الدین نے مجھے اس کام کا حکم دیا ہے۔ اب تم میرا ساتھ دو۔ شیخ کے سر سے سینے تک میرے ذمے۔ اور نیچے کے اعضاء سینے سے ایک پاؤں تک ایک کے ذمے اور دوسرے پیر تک دوسرے کے ذمے چنانچہ ان تینوں نے توجہ دینی شروع کی۔ شیخ نظام الدین کی بیماری صحت سے بدل گئی۔

ان بزرگ کی کرامت کا یہ قصہ بھی سنایا کہ وہ اکثر کہا کرتے کہ جس کسی کو میری وفات کے بعد کوئی مہم پیش آئے تو اس سے کہو کہ تین روز میری زیارت کے لئے آئے اور اگر تین دن گزر جائیں اور وہ کام نہ ہو تو چار روز آئے اور اگر چار روز گزرنے کے بعد بھی اس کی ضرورت پوری نہ ہو تو پانچویں روز آئے اور میری قبر کی اینٹ سے اینٹ بجا دے (۶)

پھر انبیاء اور اولیاء کی عصمت (۷) کا کچھ ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ انبیاء معصوم ہیں اور فقراء کے نزدیک اولیاء بھی معصوم ہیں لیکن انبیاء واجب العصمت ہیں انبیاء (الازی معصوم

ہوتے ہیں) اور اولیاء جائز الصمت (اولیاء معصوم بھی ہو سکتے ہیں)

تیسری مجلس

اسی سال ماہ حج کی بائیسویں تاریخ جمعے کو قدم بوسی کی سعادت تک رسائی ہوئی۔ کسی آنے والے نے حاضر ہو کر فاتحہ کی درخواست کی۔ اس نیت سے کہ قرآن یاد ہو جائے خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے پوچھا کہ کتنا حفظ کر چکے ہو؟ بولا تمہائی حفظ کر لیا ہے۔ ارشاد ہوا کہ باقی کو تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کر لو اور پہلے حفظ کئے ہوئے کو بھی دہراتے رہو۔

اس کے بعد حکایت بیان فرمائی کہ میں نے ایک رات کو شیخ بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور ان سے خواب ہی میں قرآن یاد رہنے کے لئے فاتحہ کی درخواست کی انہوں نے خواب ہی میں فاتحہ پڑھی۔ دن نکلنے کے بعد میں ایک عزیز سے ملنے گیا اور یہ خواب سنا کر ان سے بھی فاتحہ کی درخواست کی اور کہا جس طرح انہوں نے خواب میں فاتحہ پڑھی ہے۔ آپ بیداری میں پڑھیں تاکہ آپ کی فاتحہ خوانی کی برکت سے مجھے قرآن یاد رہے۔ ان بزرگ نے فاتحہ پڑھی اور یہ فائدہ بیان کیا کہ جو شخص ہر رات کو سوتے وقت یہ دو آیتیں پڑھتا ہے اس کو ضرور قرآن یاد رہتا ہے اور حفظ ہو جاتا ہے۔ وہ آیتیں یہ ہیں۔ وَالْهَکْمَ اِلٰهًا وَّاحِدًا لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ وَالْفَلَکِ الَّتِیْ تَجْرِیْ فِی الْبَحْرِ بِمَا یَنْفَعُ النَّاسَ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاَحْیَا بِهٖ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِیْهَا مِنْ کُلِّ نَابِۃٍ وَتَصْرِیْفِ الرِّیَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَیْنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا یَاتِیَنَّ لِقَومٍ یَّعْقِلُوْنَ (سورۃ بقرہ)

پھر باری تعالیٰ عزاسمہ کی قدرت کا ذکر نکلا۔ اس بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ رسول علیہ السلام نے اصحاب کف کو دیکھنے کی آرزو فرمائی تو اللہ تعالیٰ کا فرمان آیا کہ ہم نے یہ حکم دے دیا ہے کہ آپ انہیں دنیا میں نہیں دیکھیں گے۔ آپ لوگوں کی ملاقات قیامت میں ہوگی البتہ اگر آپ چاہیں تو ہم انہیں آپ کے دین میں لے آئیں اس کے بعد رسول علیہ السلام ایک کلیم (کمبلی) لائے اور چار آدمیوں سے فرمایا کہ ہر ایک اس کمبلی کا ایک کونا پکڑے۔ ان چار میں ایک ابو بکر صدیق تھے دوسرے عمر خطاب تیسرے علی بن ابی

طالب اور چوتھے ابوذر غفاری رضی اللہ عنہما۔ پھر رسول علیہ السلام نے اس ہوا کے آنے کی دعا فرمائی جس سے حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے بڑے کام لے چکے تھے۔ وہ ہوا حاضر ہو گئی تو اس کو حکم دیا کہ اس کھلی کو چاروں اصحاب کے ساتھ لے جاؤ اور اس غار کے منہ پر جا اتارو۔ ہوا اس گلیم اور ان چاروں اصحاب کو اڑا کر لے گئی اور اس غار کے دروازے پر جا اتارا۔ صحابہ نے باہر سے اصحاب کف کو سلام کیا، حق تعالیٰ نے ان کو زندہ فرمایا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد صحابہ نے رسول علیہ السلام کا دین ان کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے قول کیا۔ **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے یہ حکایت بیان فرمانے کے بعد زبان مبارک سے ارشاد کیا کہ کون سی چیز ہے جس پر خدا تعالیٰ کو قدرت نہیں؟

چوتھی مجلس

سنہ سات سو تیرہ ہجری ماہ صفر (اللہ تعالیٰ اسے خیر اور کامیابی سے اختتام تک پہنچائے) کی پہلی تاریخ پیر کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی نوافل اور اوراد کا ذکر نکلا۔ فرمایا کہ میں نے ایک رات شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کو خواب میں دیکھا۔ مجھ سے فرماتے تھے کہ یہ دعا ہر روز سو مرتبہ پڑھنی چاہئے۔ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ**۔ (کوئی خدا نہیں اللہ کے سوا۔ وہ اکیلا ہے۔ کوئی اس کا شریک نہیں اسی کے لئے ملک ہے اسی کے لئے تعریف اور وہ ہر چیز پر قادر ہے) جب میں بیدار ہوا تو اس دعا کو اپنے لئے لازم کر لیا اور اپنے آپ سے بولا کہ اس فرمان میں ضرور کوئی مصلحت ہوگی اس کے بعد میں نے مشائخ کی کتابوں میں لکھا دیکھا کہ جو شخص روزانہ سو مرتبہ اس دعا کو پڑھتا ہے وہ بے اسباب خوش رہتا ہے اور اچھی زندگی بسر کرتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ شیخ بھی یہی چاہتے ہوں گے۔ اس دعا کی فضیلت میں یہ بھی فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد دس مرتبہ اس دعا کو پڑھتا ہے وہ گویا ہزار غلام آزاد کرنے کا کام کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک دفعہ اور مجھ سے خواب میں فرمایا تھا کہ عصر کی نماز کے بعد پانچ مرتبہ سورۃ انبا (عم یحسألون) پڑھو جب میں بیدار ہوا تو اس فرمان کی تعمیل کی پھر دل میں یہی خیال گزرا کہ اس فرمان میں کوئی بشارت (خوش خبری) ہوگی۔ چنانچہ تفسیر میں دیکھا کہ

لکھا ہے جو شخص عصر کے بعد روزانہ پانچ دفعہ سورۃ انبا پڑھتا ہے وہ اسیر حق ہو جاتا ہے اور اس کا نام اسیر اللہ رکھا جاتا ہے۔ یعنی جو شخص کسی کی محبت کا گرفتار ہوتا ہے کہتے ہیں وہ فلاں کا اسیر ہو گیا یہاں بھی اس سے یہی بات مراد ہے کہ محبت حق کا اسیر ہو جاتا ہے۔
یہ دونوں فائدے بیان فرمانے کے بعد حاضرین سے فرمایا کہ آپ لوگ بھی ہمیشہ اس کی پابندی کریں۔

پانچویں مجلس

اسی سال ماہ صفر کی بائیسویں تاریخ پیر کو دست بوسی کی سعادت حاصل ہوئی حاضرین میں سے ایک شخص نے عرضداشت کی کہ بعض لوگ کیا برسر منبر اور کیا دوسرے مقامات سب جگہ آپ کی بدگوئی کے طور پر کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں اور ہم سے نہیں سنا جاتا۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ پھر کیا موقع ہے کہ لوگ عداوت اور کسی کی دشمنی میں مشغول ہوتے ہیں۔ جو بھی مجھے برا کہتا ہے میں نے اسے معاف کر دیا۔ تم کو بھی چاہئے کہ معاف کر دو اور اس شخص سے دشمنی نہ رکھو۔

اس کے بعد فرمایا کہ چھو اندر پت کارہنے والا تھا اور برابر مجھے برا کہتا اور میرا برا چاہتا۔ برا چاہنا کہنے سے بھی برا ہے۔ الغرض جب وہ مر گیا تو میں تیسرے روز اسکی قبر پر گیا اور میں نے دعا مانگی اور کہا کہ الہی اس نے جو کچھ بھی مجھے برا کہا اور میرا برا چاہا میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو میری وجہ سے اسے عذاب نہ دیجو! اسی سلسلے میں فرمایا کہ اگر دو آدمیوں کے درمیان رنجش ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ ایک شخص اپنی طرف سے صفائی کر لے جب یہ شخص اپنے اندر سے عداوت کو نکال دے گا تو ضرور دوسری جانب سے بھی آزار کم ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ لوگ اس برا (بھلا) کہنے سے آخر کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں؟ کہا گیا ہے کہ صوفی کا مال سبیل ہے اور اس کا خون مباح! جب معاملہ یہ ہو تو برا کہنے کی وجہ سے کسی سے دشمنی کیوں کی جائے۔

اس درمیان ایک شخص آیا اور ایک جماعت کا حال بیان کیا کہ اس وقت فلاں جگہ آپ کے مریدوں نے جلسہ کیا ہے اور وہاں مزامیر (منہ کی پھونک سے بجائے جانے والے باجے) بھی تھے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا اور ارشاد کیا کہ میں نے

منع کیا ہے کہ مزامیر اور حرام چیزیں نہیں ہونی چاہئیں۔ ان لوگوں نے جو کچھ کیا اچھا نہیں کیا۔ اس باے میں بہت غلو فرمایا۔ اس حد تک کہ ارشاد ہوا کہ اگر کوئی امام نماز پڑھا رہا ہو اور ایک جماعت اس کے پیچھے مقتدی ہو اور اس جماعت میں عورتیں بھی ہوں۔ پس اگر امام سے غلطی ہو جائے تو مقتدی مردوں میں سے کوئی تسبیح سے ٹوکتا ہے اور کہتا ہے سبحان اللہ۔ مگر کوئی عورت غلطی سے واقف ہوتی ہے تو وہ امام کو کس طرح آگاہ کرتی ہے وہ سبحان اللہ نہیں کہتی کہ اس کی آواز سنی جائے۔ پس وہ کیا کرتی ہے؟ ہاتھ پر ہاتھ مارتی ہے لیکن ہتھیلی پر ہتھیلی نہیں مارتی (تالی نہیں بجاتی) کہ اس سے کھیل کی مشابہت ہوتی ہے بلکہ ہاتھ کی پشت ہتھیلی پر مارتی ہے۔ الغرض جب نماز میں اس درجے کھیل اور اس سے مشابہ چیزوں سے پرہیز آیا ہے تو سماع میں تو اور بھی ضروری ہے کہ یہ چیزیں نہ ہوں یعنی تالی بجانے میں جب اس قدر احتیاط آئی ہے تو مزامیر کی تو اور بھی ممانعت ہونی چاہئے اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی کسی مقام سے گرے تو شرع میں تو گرے اگر کہیں شرع سے باہر گرا تو پھر کیا رہے گا (۸)۔

اس کے بعد فرمایا کہ سماع بڑے (بڑے) مشائخ نے سنا ہے۔ اور جو اس کام کے اہل ہیں اور جو صاحب ذوق ہے اور اس میں درد پایا جاتا ہے۔ وہ اگر گویے سے ایک شعر بھی سنتا ہے تو آبدیدہ ہو جاتا ہے۔ چاہے مزامیر ہوں یا نہ ہوں۔ البتہ جس کو عالم ذوق کی خبر نہیں اگر اس کے سامنے زمانے بھر کے گویے ہوں اور ہر قسم کے مزار (باجے) بھی آجائیں تو کیا فائدہ کیونکہ وہ اہل درد میں سے نہیں ہے۔ پس معلوم ہوا کہ یہ کام درد سے تعلق رکھتا ہے مزامیر وغیرہ سے نہیں اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں کو ہر روز حضور کہاں میسر آتا ہے۔ اگر کسی دن کوئی اچھا وقت میسر آجاتا ہے اس دن کے سارے متفرق اوقات اس اچھے وقت کی پناہ میں ہوتے ہیں اور اگر کسی مجمعے میں کوئی شخص ذوق والا اور نعمت والا ہوتا ہے تو سب لوگ اس شخص کی پناہ میں ہوتے ہیں۔

اس کے بعد فرمایا کہ گزشتہ زمانے میں ایک قاضی تھا جو دھن میں جو ہمیشہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی مخالفت کرتا رہتا تھا یہاں تک کہ دشمنی کے جوش میں ملتان گیا اور وہاں کے عہدیداروں اور علماء سے کہا کہ یہ کہاں جائز ہے کہ ایک شخص مسجد میں بیٹھے اور محفل سماع برپا کرے اور کبھی کبھی رقص بھی کرے؟ ان لوگوں نے کہا کہ تو جو کچھ کہتا ہے پہلے بتا کہ یہ کس کا واقعہ ہے اور ایسا کون کرتا ہے؟ بولا شیخ فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز

انہوں نے جواب دیا کہ ان سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے! پھر خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ میں نے آج تک جب بھی سماع سنا اور تمام صفات جو گوئیے سے سماع میں سنیں خرقہ شیخ کی قسم اس کو شیخ کے اوصاف اور اخلاق پر محمول کیا ایک دفعہ شیخ قدس اللہ سرہ العزیز کی حیات کے زمانے میں ایک مجلس میں تھا گوئیے نے یہ شعر پڑھا۔

مخرام بدیں صفت مبارا کر چشم بدت رسد گزندے (۹)
ترجمہ:- تم اس انداز سے مت چلو کہ کسی کی بری نظر لگے۔

اور مجھے اپنے پیر کے پسندیدہ اخلاق اور اوصاف اور بزرگی کا کمال اور ان کے بے انتہا فضل و لطافت یاد آگئے اور ایسا رونما آیا کہ بیان نہیں کیا جاسکتا۔ قوال چاہتا تھا کہ دوسرے شعر پڑھے مگر اسی کی تکرار کرتا رہا۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر جب اس بات پر پہنچے تو رونے لگے اور فرمایا کہ اس کے بعد زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ انہوں نے رحلت فرمائی۔

پھر (شعر کے) معانی کو کسی پر محمول کرنے اور خاص معانی پہنانے کے بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ کل قیامت کے دن کسی کے لئے فرمان پہنچے گا کہ تو نے دنیا میں سماع سنا ہے؟ وہ کہے گا کہ سنا ہے۔ فرمان ہو گا کہ جو شعر بھی تو نے سنا اسے ہمارے اوصاف پر محمول کیا؟ کہے گا جی ہاں! ارشاد ہو گا کہ وہ اوصاف حادث (۱۰) ہیں۔ اور ہماری ذات قدیم! اوصاف حادث قدیم کے لئے کس طرح جائز ہو سکتے ہیں۔ وہ کہے گا خداوند میں تو محبت کے جوش میں ایسا کرتا تھا۔ فرمان ہو گا کہ چونکہ تو نے محبت میں ایسا کیا ہے ہم تجھ پر رحمت فرماتے ہیں۔ اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر آنکھوں میں آنسو بھرا لائے اور بولے کہ اس شخص کے لئے جو ان کی محبت میں غرق ہے یہ عتاب ہے دوسروں کے بارے میں کیا کہا جائے۔

پھر معجزات رسول علیہ السلام کا ذکر آیا کہ حیوانات اور جمادات ان کی فرماں برداری کرتے تھے اس بارے میں یہ حکایت بیان فرمائی کہ جب رسول علیہ السلام مبعوث ہوئے تو معاذ بن جبلؓ کو یمن کی طرف بھیجا اور ارشاد ہوا کہ اس علاقے میں ایک چشمہ ہے جس کو عین الزعاف کہتے ہیں اور عین الزعاف بھی کہتے ہیں۔ اس چشمے کی خاصیت یہ ہے کہ جو بھی اس کا ذرا سا پانی پی لیتا ہے فوراً مر جاتا ہے۔ سید عالم علیہ السلام والتجیہ نے معاذ سے فرمایا کہ جب وہاں پہنچو تو اس چشمے سے کہنا کہ میں مبعوث ہو گیا ہوں! جب معاذ اس چشمے پر پہنچے اور

مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان پہنچایا اور اظہار نبوت کا قصہ سنایا تو وہ چشمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لایا اور پھر اس چشمے کی وہ زہریلی خاصیت باقی نہ رہی۔

پھر اسم اعظم کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کو اسم اعظم یاد ہے؟ بتائیے کون سا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں! معدے کو حرام لقمے سے پاک رکھو اور دل کو دنیا کی محبت سے خالی کر لو اس کے بعد جس نام سے بھی خدا کو پکارو گے وہی اسم اعظم ہے!

اس درمیان کھانا سامنے لایا گیا۔ جب نمک رکھا گیا تو خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ شروع نمک سے کرنا چاہئے۔ لیکن یہ جو انگلی منہ کی لعاب سے تر کر کے نمک اٹھاتے ہیں یہ کہیں نہیں آیا۔ اور اگر انگلی کو ترکے بغیر (نمک پر) رکھتے ہیں تو نمک انگلی پر لگتا نہیں۔ اس لئے شہادت کی انگلی کو انگوٹھے سے ملا کر دو انگلیوں سے نمک لیتے ہیں۔ بندے (حسن علاء بجزی) نے اس فائدے کے شکر (۱۱) میں کہا کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ حَقَّ نَمَکٍ تازہ ہو گیا۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے تبسم فرمایا اور بولے تم نے اچھا کہا۔ مولانا محی الدین کاشفی دامت برکاتہ تشریف رکھتے تھے انہوں نے بندے کے فقرے پر ایک اور فقرہ چست کیا اور خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر سے عرض کیا کہ حسن نے نمکین بات کہی۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ یہ ان باتوں میں بہت ماہر ہیں۔

اس لطیفے کے سلسلے میں حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ خواجہ شمس الملک علیہ الرحمۃ والخیران کی خدمت میں کوئی شخص آیا۔ اور کسی چیز کا سوال کیا۔ شمس الملک نے اس کو ٹالنے کے لئے کوئی جواب دیا۔ وہ سائل اسی طرح کھڑا رہا۔ شمس الملک نے کہا کہ جاتے کیوں نہیں؟ وہ بولا کہ جواب دینا چاہئے۔ شمس الملک کہنے لگے میں نے جواب دے دیا سائل بولا جواب دینا چاہئے۔ شمس الملک نے کہا اس سے زیادہ صاف اور واضح جواب اور کیا ہو سکتا ہے جو میں نے دیا ہے۔

چھٹی مجلس

اسی سال ماہ صفر کی انتیسویں تاریخ پیر کو ہاتھ چومنے کے شرف تک رسائی ہوئی۔ بندے نے عرض کی کہ اب کے اس طرف رشتے داروں سے ملنے کے لئے آنا ہوا تھا۔ بعض

marfat.com

Marfat.com

پیر بھائی یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی اور کام سے اس طرف آئے اور یہ نیت نہ ہو کہ مخدوم کی زیارت کروں گا تو اس کو مخدوم کے سامنے نہیں آنا چاہئے میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اگرچہ رسم یہی ہے لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ حضرت مخدوم کے دیدار کے بغیر ان حدود سے واپس چلا جاؤں۔ مجھے ایک بے رسمی کر لینی چاہئے دل میں یہ سوچا اور مخدوم کی غلامی میں حاضر ہو گیا۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ تم نے اچھا کیا۔ اس وقت یہ دو مصرعے زبان مبارک پر آئے۔

در کوئے خرابات و سرائے اوباش منعی نبود بیا و بشیش و بیاش
(خرابات کے کوچے اور محفل رنداں میں کوئی روک ٹوک نہیں آؤ بیٹھو۔ رہو!)
اس کے بعد فرمایا کہ مشائخ کی ایک رسم ہے کہ کوئی اشراق سے پہلے اور عصر کی نماز کے بعد ان کے پاس نہیں جاتا لیکن میرے ہاں ایسا نہیں ہے۔ جس وقت بھی کوئی آنا چاہے کہہ دو آئے!

پھر اس بات کا ذکر نکلا کہ بعض لوگ حج کو جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو روزانہ بس اسی کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور ہر جگہ اسی کے قصے سناتے ہیں یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں فلاں فلاں جگہ پھرا اور ایک بزرگ کو دیکھا ایک دوست نے اس سے کہا کہ اجی حضرت جہاں تم تھے وہاں سے تو نہیں پھرے؟ پھر کیا فائدہ؟ یعنی پہلے کی طرح اب بھی غرور و تکبر میں مبتلا ہو۔

پھر خدمت اور رضا کا خیال رکھنے کا ذکر آیا۔ ارشاد ہوا کہ جو خدمت کرتا ہے مخدوم ہو جاتا ہے۔ کوئی خدمت کئے بغیر مخدوم کیسے بن سکتا ہے؟ اس وقت زبان مبارک پر یہ الفاظ آئے۔ ”مَنْ خَدَمَ خُدَيْمًا“ جس نے خدمت کی اس کی خدمت کی گئی۔

پھر حسن معاملہ کا ذکر نکلا ارشاد ہوا کہ کسی نے دس سنتوں (مسنون چیزوں) کو جن میں سے پانچ سر سے متعلق ہیں اور پانچ جسم سے لظم کیا ہے آخر میں یہ شعر کہا ہے اور خوب کہا ہے۔

وہ - سخن در دو بیت آوردی کار کن کار کیں ہمہ سخت
ترجمہ:- تو دس سخن دو شعروں میں لے آیا! عمل کر عمل کہ یہ سب باتیں ہی باتیں ہیں۔

ساتویں مجلس

چہار شنبہ (۱۳) اسی سال ماہ جمادی الاول کی انیسویں تاریخ کو قدم بوسی کی سعادت میسر آئی۔ شائد انہی دنوں کسی ملک (نواب۔ شاہی وقتوں میں بڑے مرتبے کا امیر) نے دو باغوں اور بہت سی زمین اور اس سے متعلق اسباب و آلات کا قبالہ (ملکیت کا کاغذ) حضرت کی خدمت میں بھجوایا تھا اور اپنے اخلاص کا اظہار کیا تھا۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے اس کو قبول نہیں فرمایا اور اس بارے میں ارشاد ہوا کہ کیا میں بلغ اور کھیتی اور زمین کا مالک بن کر رہ جاؤں؟ مسکرا کر فرمایا کہ اگر میں اس طرح کی چیزیں قبول کر لوں تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہی کہ شیخ بلغ میں جاتے ہیں اور شیخ کھیتی اور زمین کی سیر کو جاتے ہیں بھلا میرے کام کو ان چیزوں سے کیا مناسبت؟ پھر آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور بولے کہ ہمارے خواجگان اور ہمارے مشائخ میں سے کسی نے اس طرح نہیں کیا ہے۔ (جائد ادیں قبول نہیں فرمائیں)

اس کے بعد حکایت بیان فرمائی کہ جب سلطان ناصر الدین انار اللہ برہانہ ملتان کی طرف گئے تو اجودھن (پاک پٹن شریف) سے گزرے سلطان غیاث الدین بلبن اس وقت بلخ خان کہلاتا تھا وہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زیارت کے لئے حاضر ہوا۔ کچھ نقدی اور یہ چار فرمان چار گاؤں کی نذر کے سامنے رکھے شیخ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ بلخ خان نے کہا کہ یہ نقدی اور یہ چار گاؤں کے فرمان حضور کی خدمت میں لایا ہوں۔ نقدی تو حضور سے متعلق درویشوں کے لئے ہے۔ اور گاؤں کے کاغذ حضور کے نام ہیں۔ شیخ الاسلام نے تبسم فرمایا اور بولے کہ یہ نقدانہ تو مجھے دید میں درویشوں کے ساتھ مل کر خرچ کر لوں گا۔ مگر

۱۰۱۱ کاغذات کو اٹھا لو اور لے جاؤ کہ ان کے طلب گار بہت ہیں ان کو دے دو۔

اس حکایت کے دوران ایک حدیث بیان فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے نہیں داخل ہوتیں کسی گھر میں مگر ذلت (۱۳) داخل ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ حدیث ایک خاص موقع پر بیان ہوئی ہے اور اس کا قصہ یہ ہے کہ ایک دفعہ رسول علیہ السلام کسی گھر میں تشریف لائے اور گھر میں دو لکڑیاں پڑی ہوئی دیکھیں جن سے کھیتی کرتے ہیں اور جوڑی ہنکاتے ہیں جب ان کو دیکھا تو ارشاد ہوا کہ یہ گھر میں داخل نہیں ہوتیں بلکہ ذلت داخل ہوتی ہے یعنی یہ لکڑیاں گھر میں کیا آتی ہیں خواری اس گھر میں آجاتی ہے!

یہاں سے شیخ جلال الدین تمیزی قدس اللہ سرہ العزیز کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ انہوں نے ایک خط عربی میں شیخ بہاؤ الدین ذکر کیا رحمتہ اللہ علیہ کو لکھ کر بھیجا تھا۔ میں نے اس کا ایک نسخہ دیکھا ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے جو عورتوں کی سرین کا ولدادہ ہوا وہ کبھی فلاح نہیں پاسکتا۔ اور ضیہ کا ذکر بھی کیا ہے ضیہ کہتے ہیں زمین اور کھیتی اور دیہات اور اسی طرح کی چیزوں کو الغرض عربی کا لفظ تو مجھے یاد نہیں رہا معنی یہ تھے کہ جس نے ضیہ سے دل لگا لیا وہ دنیا کا غلام ہو گیا یا اہل دنیا کا غلام ہو گیا۔ بندے نے شیخ جلال الدین نور اللہ مرقدہ کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کس کے مرید تھے؟ فرمایا کہ وہ شیخ ابو سعید تمیزی کے مرید تھے رحمتہ اللہ علیہم اجمعین۔

پھر اوراد کا ذکر نکلا۔ حاضرین میں سے کسی نے پوچھا کہ یہ حدیث کس طرح ہے کہ صاحب الورد ملعون و تارک الورد ملعون۔ ورد کرنے والا ملعون ہے اور ورد چھوڑنے والا ملعون ہے۔ ارشاد ہوا کہ یہ حدیث ایک خاص شخص سے متعلق ہے جو اہل کتاب میں سے تھا ہوا یہ کہ رسول علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی گئی فلاں یہودی یا مجوسی ورد بہت کرتا ہے اس جاپ کو ان کے ہاں تعیشا کہتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ ایسا ورد کرنے والا ملعون ہے۔ یہ خبر اس اہل کتاب کو بھی پہنچ گئی اس نے اوراد چھوڑ دیئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے سنا تو فرمایا ورد چھوڑنے والا ملعون ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ حدیث عام ہے تاویل اس کی یہ کی جاتی ہے کہ اگر ایک شخص جان بوجھ کر ورد کو ترک کرتا ہے اور بغیر کسی عذر کے وظیفہ چھوڑتا ہے تو ایسا کرنے والے کے بارے میں کہا جائے گا کہ ورد کو چھوڑنے والا ملعون ہے۔ اور اگر کوئی شخص ہو مثال کے طور پر قوم کا سردار کہ اس کے پاس لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہو اور مسلمانوں کے کام اس کے احکام کے تحت ہوں اور وہ بیضا وظیفہ پڑھتا رہے تو ایسے شخص کے بارے میں کہیں گے کہ ورد کرنے والا ملعون ہے اس بارے میں بندے نے عرضداشت کی کہ اگر کسی کو بہت مصروفیت ہو جائے یا ایسا عذر پیش آئے کہ مقررہ ورد نہ کر سکے (وہ) رات کو اپنا وظیفہ پڑھ لے تو کیسا رہے گا ارشاد ہوا کہ اچھا ہے اگر دن کا ورد نمانہ ہو جائے تو رات کو اپنا وظیفہ پڑھ لینا چاہئے اور اگر رات کا ورد رہ جائے اس کو دن کے وقت پڑھ لینا چاہئے۔ رات دن کی خلیفہ (قائم مقام) ہے اور دن رات کا (۱۳)!

اس کے بعد ارشاد ہوا کہ جو بھی ورد کو بے عذر چھوڑ دے گا وہ تین حال سے خالی

نہیں رہے گا۔ یا تو اس کا رجحان حرام شہوت کی طرف ہو گا۔ یا بے موقع غصے کی طرف یا کسی بلا میں مبتلا ہو گا۔ اس معنی کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ مولانا عزیز زاہد رحمۃ اللہ علیہ ایک روز گھوڑے پر سے گر گئے اور ان کا بازو اتر گیا ان سے پوچھا گیا کہ کیا حال ہے؟ بولے میں روزانہ سورۃ حسین پڑھا کرتا ہوں۔ آج نہیں پڑھی تھی اسی وجہ سے بھگتنا پڑا۔

آٹھویں مجلس

اسی سال ماہ جمادی الاخر کی چوتھی تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی نظم اور غزل وغیرہ کو محمول کرنے (کسی خاص بات سے متعلق سمجھنے) کا ذکر آیا ارشاد ہوا کہ ہر ایک اس کو کسی خاص چیز پر محمول کرتا ہے (۱۵)۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک دفعہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز یہ شعر زبان مبارک پر لائے۔

نظامی ایہ کیا اسرار ہیں جو تم اپنے نہاں خانہ فکر سے ظاہر کر رہے ہو اس کو بھلا یہاں کون سمجھے گا زبان بند رکھو۔

اس دن کے زیادہ حصے میں یہ شعر پڑھتے رہے یہاں تک کہ مغرب کی نماز کا وقت آ گیا۔ انظار کے وقت بھی یہی شعر زبان مبارک پر تھا کہتے ہیں سحر کے وقت بھی یہی شعر پڑھتے تھے۔ اور جب بھی پڑھتے تھے حالت متغیر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ معلوم نہیں خاطر مبارک میں کیا بات تھی اور کیا چیز (یہ شعر) پڑھواری تھی۔

اس کے بعد فرمایا کہ ایک دفعہ شیخ بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کے اندر ایک دروازے پر کھڑے تھے۔ ایک ہاتھ ایک کواڑ پر تھا۔ دوسرا ہاتھ دوسرے کواڑ پر اور بار بار یہ دو مصرعے زبان مبارک پر لاتے تھے۔

کردی صمنا بر سرما بار دگر مایچ نکر دیم خدا میداند
ترجمہ:- اے صنم تو ہمارے ہوتے کسی اور کا ہو گیا لیکن خدا جانتا ہے
ہم نے کسی اور سے دل نہیں لگایا۔

اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے اپنی زبان گوہر بار سے فرمایا کہ معلوم نہیں ان کے خیال میں کیا بات تھی اور وہ اس شعر کو کس پر محمول کر رہے تھے اور مقصد کیا تھا۔ پھر توکل کا ذکر نکلا۔ فرمایا کہ حق تعالیٰ پر اعتماد رکھنا چاہئے اور کسی اور کی طرف نظر

امید نہیں لگانی چاہئے۔ اس کے بعد زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ کسی کا ایمان اس وقت تک کھل نہیں ہوتا جب تک وہ ساری مخلوق کو اونٹ کی میٹھی جیسا پھینچ نہ سمجھے۔

اس کے بعد اسی ضمن میں یہ حکایت بھی بیان فرمائی کہ ایک دفعہ ابراہیم خواص کعبے کے سفر کو نکلے تو ایک لڑکا بھی ساتھ لگ گیا۔ ابراہیم نے اس سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ بولا کعبے کی زیارت کے لئے ابراہیم نے کہا سفر خرچ توشہ اور سواری کہاں ہے؟ بولا خدا عزوجل بندے کو بے اسباب زندہ و قائم رکھتا ہے تو زاد سفر اور سواری کے بغیر مجھے کعبے تک پہنچا بھی سکتا ہے۔ قصہ مختصر جب ابراہیم خواص کعبے پہنچے تو اس لڑکے کو دیکھا کہ ان سے پہلے پہنچا ہوا ہے اور کعبے کا طواف کر رہا ہے جب اس کی نظر ابراہیم پر پڑی تو کہنے لگا اے کمزور یقین رکھنے والے تو نے مجھ سے جو کچھ کہا تھا اس سے توبہ کی؟

اسی سلسلے میں ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ کوئی کفن چور خواجہ بایزید سلاطی کی خدمت میں آیا اور اس کام سے توبہ کی۔ خواجہ بایزید نے اس سے پوچھا کہ تو نے کتنے مردوں کے کفن کھسوٹے؟ اس شخص نے کہا کہ ایک ہزار آدمیوں کے ابا بایزید نے پوچھا کہ ان سے کتنوں کو ایسا پایا کہ جن کے چہرے قیلے کی طرف تھے؟ بولا کہ صرف دو شخصوں کے چہرے قیلے کی طرف پائے باقی سب کے چہرے قیلے سے پھرے ہوئے دیکھے۔ حاضرین نے خواجہ بایزید سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ صرف دو کا رخ قیلے کی طرف تھا اور اتنے لوگوں کا منہ پھرا ہوا؟ فرمایا کہ ان دو اشخاص کا اعتماد حق تعالیٰ پر تھا دو سروں کا نہیں تھا!

اس کے بعد خواجہ ذکری اللہ بالخیر نے ارشاد کیا کہ مشائخ نے رزق کی چار قسمیں بیان کی ہیں۔ رزق مضمون اور رزق مقسوم اور رزق موعود ^{مملوک} رزق مضمون تو وہ ہے جو آدمی کو کھانے اور پینے کی چیزوں کی صورت میں جو اس کے لئے کافی ہوں ملتا ہے اس کو رزق مضمون کہتے ہیں۔ یعنی ان کا خدا ضامن ہے۔ وَمَا مِنْ ذَاتَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (ترجمہ) اور ان میں سے کوئی رینگنے والا ایسا نہیں ہے۔ جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو رزق مقسوم وہ ہے جو ازل میں مقدر کر دیا گیا اور لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا۔ رزق مملوک وہ ہے جس کا ذخیرہ ہوتا ہے روپے پیسے کپڑے اور دوسرے سامان کی صورت میں۔ رزق موعود وہ ہے جس کا وعدہ حق تعالیٰ نے عبادت گزاروں اور اپنے صلح بندوں سے کر رکھا ہے۔ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور جو کوئی اللہ

سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے (دینے کے) ذریعے بناتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں کا اس کو خیال بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ توکل رزق مضمون میں ہوتا ہے دوسری قسم کے رزق میں نہیں ہوتا۔ کیوں کہ جو کچھ مقسوم ہے اس میں توکل کیا کرے گا اور جو مملوک (ملکیت) ہے اس میں بھی توکل کا دخل نہیں اور جو موعود (جس کا وعدہ کیا گیا) اس میں بھی توکل نہیں ہے کیوں کہ جس کا وعدہ کر لیا گیا وہ تو پہنچے ہی گا۔ توکل رزق مضمون میں ہے یعنی یہ یقین رکھے کہ جو کچھ میرے لئے کافی ہو پہنچ کر رہے گا (اس پر) توکل کر۔

نویں مجلس

اسی سال ماہ جمادی الاول کی اسیویں تاریخ اتوار کو قدم بوسی کی سعادت میسر آئی۔ نماز جماعت کی فضیلت کا ذکر نکلا۔ بندے کی طرف مخاطب ہوئے۔ اور پوچھا کہ پابندی سے باجماعت نماز پڑھتے ہو؟ بندے نے عرض کی کہ میرے گھر کے قریب مسجد موجود ہے۔ لیکن جس جگہ ہم لوگ رہتے ہیں اگر وہاں سے غیر حاضر ہو جائیں تو کوئی نہیں ہوتا جو وہاں رکھے ہوئے کاغذ کتاب (۱۶) کی نگرانی رکھے۔ گھر ہی میں جماعت سے ادا کر لیتے ہیں فرمایا کہ جماعت سے ادا کرنا تو ٹھیک ہے۔ لیکن افضل یہی ہے کہ مسجد میں پڑھیں۔

اس کے بعد فرمایا کہ اس سے پہلے سابق انبیاء کے زمانے میں مسجد کے سوا اور کہیں نماز جائز نہیں تھی۔ ہمارے رسول علیہ السلام کے عہد میں یہ میسر آیا کہ ہر جگہ ادا کر سکتے ہیں۔ نیز اگلے لوگوں کے لئے زکوٰۃ مال کا چوتھائی حصہ ہوتی تھی۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے عہد میں دو سو درہم پر پانچ درہم ہوئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ دو سو درہم میں سے جو پانچ درہم دیتے ہیں تو بس یہ ہوتا ہے کہ دینے والے کو بخیل نہیں کہتے۔ لفظ بخیل سے اسے نجات مل جاتی ہے۔ لیکن سخی بھی نہیں کہتے۔ سخی اسے کہتے ہیں جو مقررہ زکوٰۃ سے کچھ زیادہ دے۔ بندے نے اس درمیان عرض کی کہ یہ حدیث کیسی ہے الشَّيْخُ حَبِيبُ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فَايِقًا؟ (ترجمہ) سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے چاہے فاسق ہی کیوں نہ ہو؟ فرمایا کہ کہتے تو ہیں۔ حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ چالیس حدیثوں کے مجموعے میں یہ حدیث بھی درج کی گئی ہے۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ جو کچھ گھمبھن (۱۷) میں ہے وہ صحیح ہے اس کے بعد سخی اور جواد کے درمیان کافرق بیان فرمایا۔ ارشاد ہوا کہ سخی وہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ سے کچھ زیادہ

رہتا ہے۔ لیکن جو ادوہ ہے جو بہت دے۔ مثلاً دو سو درہم میں سے پانچ درہم پاس رکھے اور باقی دے ڈالے۔ اس کے بعد زبان مبارک سے فرمایا کہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا ہے کہ زکوٰۃ تین طرح کی ہے زکوٰۃ شریعت ہے اور زکوٰۃ طریقت ہے اور زکوٰۃ حقیقت ہے۔ زکوٰۃ شریعت تو یہ ہے کہ دو سو درہم میں سے پانچ درہم دے دیں اور زکوٰۃ طریقت یہ ہے دو سو درہم میں سے پانچ درہم رکھیں باقی دے دیں۔ اور زکوٰۃ حقیقت یہ ہے کہ سب دے ڈالیں اور کچھ پاس نہ رکھیں!

زکوٰۃ کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے عہد کے علماء سے کہا کرتے تھے یا علماء السوء اذو زکوٰۃ العلم! اے برے عالمو! اپنے علم کی زکوٰۃ دیا کرو۔ ان سے پوچھا گیا کہ اس زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ بولے کہ جو سو مسئلے تم نے یاد کئے ہیں ان میں سے پانچ مسئلوں پر عمل بھی کرو۔ اور جو دو سو حدیثیں آتی ہیں ان میں سے پانچ کو معمول بھی بناؤ!

اس کے بعد حدیث کی مناسبت سے مولانا رضی الدین صفائی رحمۃ اللہ علیہ صاحب مشارق (۱۸) اور ان کی فضیلت اور اس بات کا ذکر نکلا جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ یہ کتاب میرے اور خدا کے درمیان حجت ہے جب ان کو کسی حدیث کے بارے میں مشکل پیش آتی تو رسول علیہ السلام کو خواب میں دیکھ لیتے اور تصحیح کر لیتے اس کے بعد فرمایا کہ وہ بدایوں کے تھے اس کے بعد کول (موجودہ علی گڑھ) میں آگئے اور مشرف (۱۹) کے نائب ہو گئے جس مشرف سے وہ متعلق تھے وہ بھی قاتل آدمی تھا مگر ایک روز اس مشرف نے کوئی ایسی بات کہی کہ مولانا رضی الدین مسکرا دیئے۔ مشرف نے دوات ان کی طرف کھینچ ماری مگر وہ بیچ گئے اور ان کے نہیں گئی۔ جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے کہ مجھے پہلے ہی سے چاہئے تھا کہ جاہلوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ رکھوں۔ اس کے بعد پھر مزید علم حاصل کرنے میں لگ گئے۔ کول کے حاکم کے لڑکے کو تعلیم دیتے اور سوتکے (ایک سکھ) پاتے۔ اسی پر قناعت کرتے۔ وہاں سے حج کو گئے اور بغداد آئے اور پھر راجدھانی دہلی پہنچے۔ اس زمانے راجدھانی دہلی میں بڑے بڑے علماء تھے ان سب سے وہ علمی برابری رکھتے تھے لیکن علم حدیث میں سب سے ممتاز تھے اور کوئی ان کے مد مقابل نہ تھا۔ اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ ان کا کام صرف ایک حدیث ہی

سے بن گیا اور ہوا یہ کہ جب انہوں نے کول (علی گڑھ) سے حج کا ارادہ کیا تو جوتیاں خرید کر پیر میں پہنیں۔ جب ایک منزل طے ہوئی تو تھک گئے اور خیال کیا کہ پیدل نہیں جا سکیں گے۔ اسی تردد میں تھے کہ والی کول کا لڑکا گھوڑے پر سوار دوڑتا ہوا آیا تاکہ انہیں واپس لے جائے۔ جب وہاں پہنچا تو مولانا کی نظر اس پر پڑی کہ عمدہ گھوڑے پر سوار چلا آتا ہے دل میں خیال کیا کہ اگر یہ گھوڑا مجھے دے دے تو میں آرام سے جا سکتا ہوں۔ اسی فکر میں تھے کہ والی کا لڑکا آگیا اور مولانا کو واپس لے جانے کے لئے بڑی منت سماجت کی۔ مولانا واپس نہیں گئے۔ جب والی کے لڑکے نے دیکھا مولانا واپس جانے والے نہیں ہیں تو بولا کہ اچھا یہ گھوڑا جس پر سوار ہو کر میں آیا ہوں قبول فرمائیے۔ مولانا نے گھوڑا لے لیا اور روانہ ہو گئے الغرض جب حج کو گئے اور وہاں سے بغداد آئے تو بغداد میں ایک محدث عالم بڑے بزرگ تھے ان کو ابن زہری کہتے تھے۔ انکے لئے ایک منبر تیار کیا گیا تھا جس پر بیٹھ کر وہ حدیث بیان کرتے اور علماء ان کی مجلس میں حاضر ہوتے اور ان کے اطراف حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے اس طرح کے کئی حلقے بن جاتے جو علماء زیادہ اہل ہوتے وہ ان کے سامنے بیٹھتے اور جوان سے کم تر ہوتے وہ دوسرے حلقے میں بیٹھتے اور باقی لوگ پیچھے کے حلقوں میں اسی طرح آگے پیچھے قطاروں میں نشست ہوتی۔ وہ حدیث شریف لکھواتے اور یہ علماء لوگ اسے لکھتے ایک روز مولانا رضی الدین بھی اس مجمع میں پہنچ گئے اور اس حلقہ میں جو سب سے دور تھا بیٹھ گئے ابن زہری نے ایک حدیث بیان کی مؤذن کے ساتھ (اذان میں) موافقت کرنے کے سلسلے میں یعنی جب مؤذن اذان کے لئے پکارے تو سننے والے کو چاہئے کہ وہ بھی اسی طرح کہے۔ (اذان کے کلمے کو دہرائے) انہوں نے حدیث کا آغاز اس لفظ سے کیا کہ اذا سکت مؤذن۔ سکوب پانی بہانے کو کہتے ہیں۔ یعنی جب مؤذن کا کلمہ تم سنو تو تم بھی وہی کہو جو اس نے کہا ہے جب ابن زہری نے یہ حدیث بیان کی تو مولانا رضی الدین نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے آہستہ سے لوگوں کو بتایا کہ اذا سکت مؤذن۔ (ب مؤذن خاموش ہو جائے) یعنی جب مؤذن کوئی کلمہ کہے چکے اور خاموش ہو جائے تو اس نے جو کچھ کہا ہے۔ اس کی موافقت کرو۔ (اس کو دہراؤ) شاید یہ بات کسی نے سن کر دوسرے سے کہی اس نے کسی اور کوئی بتائی اس نے کسی اور سے کہا یہاں تک کہ یہ بات ابن زہری کے کان تک بھی پہنچ گئی۔ انہوں نے آواز دی کہ یہ بات کہنے والا کون تھا؟ مولانا رضی الدین بولے کہ میں نے کہی ہے اس کے بعد ابن زہری نے کہا کہ دونوں

باتیں بامعنی ہیں۔ اب میں کتاب میں دیکھوں گا جب اس مجلس سے اٹھے تو کتابوں میں دوبارہ دیکھا گیا۔ دونوں باتیں ساتھ ساتھ لکھی ہوئی تھیں۔ اور اذنا سکت کو زیادہ صحیح لکھا تھا۔ یہ خبر خلیفہ کو بھیجی۔ مولانا رضی الدین کو سامنے لے گئے۔ خلیفہ نے ان کا اعزاز کیا اور ان کے سامنے کچھ پڑھا (۱۹)۔

انقص وہاں سے دہلی آئے۔ شاید جس وقت وہ بدایوں میں تھے وہاں ان کے ایک استاد تھے بڑے بزرگ اور صاحب ولایت ان کے پاس ایک کتاب حدیث شریف کی تھی جس کا نام شخص تھا۔ اور مولانا رضی الدین نے ان سے وہ نسخہ مانگا تھا اور انہوں نے دینے میں تامل کیا تھا۔ جب مولانا علم و معانی سے ملا مال ہو کر دہلی آئے تو شاید کسی سے کہا کہ ایک وہ وقت تھا کہ میرے استاد نے شخص دینے سے دریغ کیا تھا اور اب اس کتاب کے مولف جیسے سو آدمی میرے سامنے کچھ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی نے یہ بات ان کے استاد تک بھی پہنچادی۔ وہ بولے کہ معلوم ہوتا ہے اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ اگر اس کا حج قبول ہو جاتا تو ایسی بات نہ کہتا خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے یہ بات بیان فرمائی اور اب بزرگ کے صدق اعتقاد پر آنکھوں میں آنسو بھر لائے۔

اس کے بعد کھانا سامنے لایا گیا۔ فرمایا سرید بنا لو (روٹی شوربے میں چور لو) اس وقت یہ حکایت بیان فرمائی ایک دفعہ درویشوں کی ایک جماعت شیخ بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ کھانا لایا گیا تو شیخ ہر ایک کے ساتھ ہم پیالہ ہوئے اس درمیان دیکھا کہ ایک شخص روٹی (شوربے میں) چور کر کھا رہا ہے۔ بولے سبحان اللہ ان درویشوں میں یہی درویش کھانا کھانا جانتا ہے۔ اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سرید کو دوسرے کھانوں پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جو مجھے تمام پیغمبروں پر اور عائشہ کو تمام عورتوں پر واللہ اعلم۔

دسویں مجلس

اسی سال رجب کی چودھویں تاریخ اتوار کو ہاتھ چومنے کی سعادت تک رسائی ہوئی جماعت کی نماز کا ذکر نکلا۔ اس بارے میں بہت غلو فرمایا کہ اگر دو آدمی ہوں تو ان کو بھی

جماعت کرنی چاہئے۔ اگر چہ دو آدمیوں سے جماعت نہیں بنتی لیکن ثواب جماعت کامل جانا ہے ان دونوں آدمیوں کو چاہئے کہ برابر برابر کھڑے ہوں۔

اس کے بعد فرمایا کہ ایک دفعہ رسول علیہ السلام چاہتے تھے کہ نماز ادا فرمائیں اور عبد اللہ ابن عباس ؓ کے علاوہ اور کوئی شخص موجود نہ تھا۔ انہی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر کھڑا کر لیا۔ جب رسول علیہ السلام نے اول تکبیر کہہ کر نیت باندھی تو عبد اللہ اپنی جگہ سے کسی قدر پیچھے ہٹ گئے۔ مصطفیٰ ﷺ نے نماز توڑی اور ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے برابر کھڑا کر لیا اور نماز شروع فرمائی، عبد اللہ ؓ پھر اپنی جگہ سے تھوڑے سے پیچھے چلے گئے۔ چنانچہ ایک دو بار انہوں نے اسی طرح کیا۔ اس کے بعد حضرت نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ پیچھے کیوں چلے جاتے ہو؟ عبد اللہ ابن عباس ؓ بولے کہ بھلا میری کیا مجال کہ رب العالمین کے رسول ﷺ کے برابر کھڑا ہوں۔ رسول علیہ السلام کو ان کا حسن ادب پسند آیا۔ ان کے بارے میں دعا کی اور فرمایا اَللّٰهُمَّ فِقْهَةً فِي الدِّيْنِ (اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما) اس کے بعد خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ صحابہ میں امیر المؤمنین علی ؓ کے بعد سب سے بڑے قیصر وہی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

اس کے بعد ابن عبد اللہ کی مناسبت سے فرمایا کہ تین عبد اللہ نامی حضرات عباد اللہ ثلاثہ کہلاتے ہیں عبد اللہ بن عباس، عبد اللہ بن مسعود اور عبد اللہ بن عمر ؓ۔ اس کے بعد عبد اللہ بن مسعود کی حکایت بیان فرمائی کہ وہ ابتدائی زمانے میں گلہ بانی کرتے تھے۔ ایک دفعہ رسول علیہ السلام اور ابو بکر صدیقؓ جو بیٹھ کر ایک پہاڑ کی طرف تشریف لے گئے جہاں یہ بھیڑیں چرا رہے تھے۔ جب رسول علیہ السلام ان کے پاس پہنچے تو ان سے تھوڑا سا دودھ طلب فرمایا۔ یہ بولے کہ میں تو امین ہوں دودھ کیسے دوں؟ ابو بکر صدیقؓ بولے یہ حضرت رسالت ﷺ ہیں اور میں ان کا صحابی ہوں اگر کسی بھیڑ کا تھوڑا سا دودھ دوہ کر دے دو تو کیا ہو جائے گا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں تو امانت دار ہوں مجھے دودھ دینے کی اجازت نہیں ہے میں کیا کروں! اس کے بعد رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایسی بھیڑ لاؤ جس پر نہ بیٹھا ہو۔ عبد اللہ نے یہی کیا کہ ایک ایسی بھیڑ لے آئے جس پر نہ بیٹھا کبھی نہیں بیٹھا تھا رسول علیہ السلام نے دست مبارک اس کی پشت پر رکھا اور اس بھیڑ میں دودھ پیدا ہو گیا۔ اور وہ دودھ دوہ لیا گیا۔ اس کے بعد حضرت رسالت ﷺ نے عبد اللہ بن مسعود ؓ سے کہا کہ آؤ ہماری

صحبت میں رہو۔ خواجہ ذکریہ اللہ بالخیر نے زبان مبارک سے فرمایا کہ یہ عبد اللہ بن مسعود چھوٹے قد کے تھے چنانچہ پیغمبر علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ کُنَيْفَةُ الْعِلْمِ یعنی خریطہ علم (علم کی تھیلی) ہے اس سے پتہ چلا کہ وہ چھوٹے قد کے تھے اس کے بعد فرمایا کہ چھوٹی تھیلی جو درویش سیا کرتے ہیں اور اسے کف کہتے ہیں۔ یہ غلط ہے یہ لفظ کف نہیں ہے۔ کیفیت ہے۔ اسی لئے حضرت رسالت ﷺ نے عبد اللہ بن مسعودؓ کو کُنَيْفَةُ الْعِلْمِ فرمایا تھا۔

اسی بات کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ ایک شخص رئیس صاحب نامی تھے وہ شیخ قطب الدین بختیار قدس اللہ سرہ العزیز سے بیعت تھے۔ ان رئیس صاحب نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک قبہ (گنبد) ہے اور اس کے اطراف لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور ایک چھوٹے قد کے آدمی کو دیکھا کہ بار بار قبہ کے اندر جاتا ہے۔ باہر آتا ہے اور خلقت اسے پیغامات دیتی ہے اور وہ جواب لے کر باہر آتا ہے۔ یہ رئیس صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اس قبہ میں کون ہے؟ اور یہ چھوٹے قد کا آدمی جو اس کے اندر آتا جاتا ہے کون ہے؟ بتایا گیا کہ قبہ کے اندر رسول علیہ السلام ہیں اور یہ صاحب عبد اللہ بن مسعودؓ ہیں جو کبھی باہر آتے ہیں اور کبھی خلقت کے پیغام اندر لے جا کر جواب لاتے ہیں رئیس کہتے ہیں کہ میں عبد اللہ بن مسعودؓ کے قریب گیا اور گزارش کی کہ رسول علیہ وسلم سے عرض فرمائیے کہ مجھے آپ کے دیدار کی تمنا ہے۔ عبد اللہ بن مسعودؓ اندر گئے اور باہر آ کر مجھ سے کہا کہ رسول فرماتے ہیں تجھ میں ابھی تک وہ اہلیت پیدا نہیں ہوئی ہے کہ مجھے دیکھ سکے۔ البتہ جاؤ اور میرا سلام بختیار کاکی کو پہنچاؤ اور کہو کہ ہر رات کو جو درود کا تحفہ مجھے بھیجا کرتے تھے وہ پہنچتا تھا لیکن تین رات سے نہیں پہنچا کیا رکاوٹ ہوئی خیر تو ہے؟ یہ رئیس کہتے ہیں کہ میں بیدار ہوا اور شیخ الاسلام قطب الدین نور اللہ منجھ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضرت رسالت ﷺ نے آپ کو سلام کہلوا یا ہے شیخ قطب الدین قدس اللہ سرہ العزیز نے جب سلام سنا تو تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے اور پوچھا کہ پیغمبر ﷺ نے کیا فرمایا ہے؟ میں نے عرض کی کہ یہ فرمایا ہے کہ وہ تحفہ جو آپ ہر رات کو مجھے بھیجا کرتے تھے وہ پہنچتا تھا مگر تین راتیں ہو گئیں کہ نہیں آیا۔ کیا رکاوٹ ہوئی خیریت تو ہے؟ شیخ قطب الدین نے اسی وقت ان خاتون کو جنہیں زوجیت میں لیا تھا سامنے بلوایا اور ان کا ہر انہیں پیش کر کے رخصت فرمادیا

اور واقعہ یہ ہوا تھا کہ شیخ نے تین راتیں حق زوجیت کی ادائیگی میں گزاری تھیں اور وہ درود کا تحفہ حضرت رسالت ﷺ کی خدمت میں پیش نہ کیا تھا اس کے بعد خواجہ ذکریا اللہ بالخیر نے زبان مبارک سے فرمایا کہ شیخ قطب الدین طالب ثراہ ہر رات کو تین بار درود شریف پڑھتے پھر سوتے۔

شیخ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ "واسعہ" کی بزرگی کے بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ شیخ بہاؤ الدین اور شیخ جلال الدین تمیزی اور شیخ قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہم اجمعین ملتان میں تھے۔ کافروں (۲۰) کا ایک لشکر منارہ ملتان کے نیچے تک پہنچ گیا۔ قباچہ ملتان کا حاکم تھا۔ شیخ قطب الدین قدس اللہ سرہ المعز نے ایک رات کو ایک تیر قباچہ کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ یہ تیر آنکھ بند کر کے کافروں کے لشکر کی طرف چلا دو۔ قباچہ نے ایسا ہی کیا۔ جب دن نکلا تو ایک بھی کافر موجود نہ تھا۔ سب چلے گئے تھے!

گیارہویں مجلس

اسی سال ماہ مبارک رمضان کی چوبیسویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کے شرف تک رسائی ہوئی۔ تفسیر کشاف کا ذکر نکلا فرمایا کہ الحمد کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حسن بھری کی قرأت لِّلْحَمْدِ لِلّٰہِ ہے۔ دال کے زیر سے اور دال کے زیر کی وجہ یہ سمجھتے ہیں کہ لہ کلام متصل ہے اور اس لام کی حرکت جتی ہے۔ لیکن ابراہیم کی قرأت لِّلْحَمْدِ لِلّٰہِ ہے دال پر پیش اور لام پر بھی پیش۔ یہ ابراہیم نعیمی کی قرأت ہے یا کسی اور کی۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہر حال کشاف لکھنے والے کا کہنا یہ ہے کہ حسن بھری کی قرأت سے ابراہیم کی قرأت بہتر ہے کیوں کہ حسن بھری لہ کے لام کی وجہ سے دال کی زیر رکھتے ہیں یعنی اللہ کے لام کی زیر جنی ہے۔ الحمد کی دال پر بھی زیر ہونا چاہئے۔ لیکن ابراہیم للحمد للہ کے دال پر پیش ہونے اور لہ کے لام کے اس سے متصل ہونے کی وجہ سے لام پر بھی پیش لگاتے ہیں۔ کیونکہ الحمد کی دال کی حرکت ایک عامل کی وجہ سے ہے اور وہ اعراب جسے کوئی عامل بدل دے وہ جنی کے اعراب سے قوی ہوتا ہے۔ خواجہ ذکریا اللہ بالخیر نے یہ تشریح بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ میں نے اس سے ایک نتیجہ نکالا ہے اور وہ یہ ہے کہ الحمد کی دال ایسے شخص کی مانند ہے جس کا کوئی پیر ہو اور وہ اس سے کہے کہ اس طرح رہو اور اس طرح رہو اور اللہ کلام اسی شخص کی مانند ہے کہ

جس کا کوئی پیر نہ ہو اور وہ جیسا ہے ویسا ہی رہے۔

اس تفسیر کے سلسلے میں صاحب تفسیر اور ان کے عقیدے کا ذکر نکلا۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے زبان مبارک سے فرمایا کہ افسوس کہ اتنے علوم رکھنے کے باوجود وہ باطل عقیدہ رکھتا تھا۔ اس موقع پر فرمایا کہ کفر ہے اور بدعت ہے اور معصیت ہے۔ لیکن بدعت معصیت (گناہ) سے بڑی ہوتی ہے اور کفر بدعت سے بڑا ہوتا ہے اور بدعت کفر کے نزدیک ہوتی ہے۔

اس کے بعد حکایت بیان فرمائی کہ میں نے مولانا صدر الدین قونیوی سے سنا ہے وہ کہتے تھے ایک دفعہ میں مولانا نجم الدین سنائی کے پاس تھا انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ کس شغل میں رہے ہو؟ میں نے کہا مطالعہ تفسیر میں۔ پوچھا کہ کونسی تفسیر میں نے کہا کشاف اور ایجاز اور عمدہ۔ مولانا نجم الدین نے کہا کہ کشاف اور ایجاز کو تو جلا دو بس عمدہ کو پڑھو۔ مولانا صدر الدین کہتے تھے کہ مجھے یہ بات ناگوار ہوئی اور میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ بولے شیخ بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا ہے مولانا صدر الدین کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات بھی ناگوار گزری رات کو تینوں کتابیں چراغ کے سامنے پڑھ رہا تھا۔ ایجاز اور کشاف کو میں نے نیچے رکھ دیا تھا اور عمدہ ان دونوں کتابوں کے اوپر تھی اسی درمیان میں سو گیا۔ یکایک شعلہ بھڑکا۔ میں بیدار ہو گیا۔ کشاف اور ایجاز دونوں جو نیچے رکھی تھیں جل گئی تھیں اور ”عمدہ“ سلامت رہ گئی تھی۔

دوسری حکایت بیان فرمائی کہ شیخ صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ چاہا کہ نحو مفصل پڑھیں۔ اپنے والد کے سامنے عرضداشت کی۔ شیخ بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج کی رات صبر کر لو اور ذرا رات گزر جانے دو۔ جب رات ہوئی تو خواب میں دیکھا کہ کسی کو زنجیر میں جکڑے کھینچ کر لے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ زمخشری مفصل لکھنے والا ہے۔ اس کو دوزخ میں لے جا رہے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔

بارہویں مجلس

اسی سال ماہ مبارک شعبان (اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں کو عام کرے) کی ساتویں تاریخ منگل کو قدم بوسی کی سعادت میسر آئی۔ حاضرین میں سے کسی شخص نے بیان کیا کہ میں ایک دفعہ سفر کرتا ہوا اس سرزمین میں پہنچا جہاں حضرت ہود علیہ السلام کی قبر ہے یہ قبر بہت اونچی

اور بڑی اور لمبی ہے۔ اور اس علاقے میں ایسی قوم آباد ہے جو ہماری زبان نہیں سمجھتی اور نہ ہم ان کی زبان سمجھتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہم کئی روز کے بھوکے وہاں پہنچے ان لوگوں نے کاجی (۲۱) کی طرح جوار کی کوئی چیز پکائی اور اس پر دودھ ڈالا۔ ہم بھوکے تو تھے ہی بڑی رغبت سے کھایا۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ ایسے علاقے میں اس طرح کی قوم سے ایسی انسانیت کا برتاؤ بڑی بات ہے۔

یہ واقعہ بیان کرنے والا تھوڑا سا گاجر کا حلوہ بھی لایا تھا اس کی مناسبت سے یہ حکایت بیان فرمائی کہ مولانا عزیز زاہد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میں اور مولانا برہان الدین کابلی جو راجدھانی دہلی کے قاضی کے نائب تھے۔ ابتدائی زمانے میں ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ مولانا برہان الدین کو دو سونے کے سکے ہاتھ آئے بولے۔ ان دو سکوں میں سے ایک سکے کا قرآن مجید لے لوں گا اس نیت سے کہ میں صاحب نصاب یعنی مالدار ہو جاؤں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا اور ایک سکے کا قرآن مجید لے لیا شاید اسی روز ان کا سپہ سالار جمال الدین نیشا پوری کے پاس جانا ہوا جو راجدھانی دہلی کے کوتوال تھے۔ کھانا سامنے رکھا گیا تو اس میں گاجر کا حلوہ بھی تھا۔ کوتوال نے یہ حلوہ مولانا برہان الدین کے سامنے رکھا اور پوچھا کہ اس کو کس طرح کھاتے ہیں؟ مولانا برہان الدین نے کہا کہ طالب علم سوکھی روٹی اس طرح کھاتے ہیں جیسے گاجر کا حلوہ ہو پس اسی سے اندازہ کر لیجئے گا کہ گاجر کے حلوے کو کس طرح کھائیں گے۔ کوتوال کو یہ بات بہت اچھی لگی اور وہ بہت متاثر ہوا۔ کسی کو اشارہ کیا اور بیس یا تیس تنکے (سکے) لائے گئے اور مولانا برہان الدین کو دے دیئے۔ غرض یہ کہ مولانا کے پاس اس کے بعد مال اور نعمت خوب ہو گئے اور راجدھانی دہلی کے قاضی (جج) کی نیابت مل گئی اور بڑا فائدہ ہوا۔ یعنی ان کی نیت صادق تھی اس لئے پھل بھی پائے!

تیرھویں مجلس

اسی سال ماہ رمضان کی آخری تاریخ (۲۲) چاند رات جمعے کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ عدل اور ظلم کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ حق تعالیٰ کا معاملہ مخلوق کے ساتھ دو طرح کا ہے اور مخلوق کا معاملہ آپس میں تین طرح کا ہے۔ اور حق تعالیٰ کا برتاؤ مخلوق کے ساتھ یا عدل کا ہوتا ہے یا فضل کا۔ لیکن مخلوق آپس میں یا عدل برتی ہے یا فضل یا ظلم۔ اگر مخلوق

ایک دوسرے سے سزا ملتی ہے تو حق تعالیٰ ان پر فضل فرماتا ہے اور اگر مخلوق ایک دوسرے پر ظلم کرتی ہے تو حق تعالیٰ ان سے عدل فرماتا ہے اور جس سے خدائے تعالیٰ عدل فرماتا ہے اس کو عذاب میں ماخوذ کرتا ہے چاہے وہ پیغمبر وقت ہی کیوں نہ ہو۔ اس بات پر بندے نے عرض کی کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کل قیامت کے دن حق تعالیٰ مجھے اور بھائی عیسیٰ کو دوزخ میں لے جائے تو یہ عین عدل ہو گا۔ فرمایا کہ ہاں اسارا عالم اس کی ملکیت ہے۔ اگر کوئی اپنی ملکیت میں تصرف کرتا ہے تو اس کو ظلم نہیں کہہ سکتے۔ ظلم تو وہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی ملکیت میں تصرف کیا جائے۔

اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اشعریہ مذہب میں بھی یہی ہے کہ اگر حق تعالیٰ مومن کو دوزخ میں لے جائے اور ہمیشہ وہاں رکھے اور کسی کافر کو جنت میں لے جائے اور وہاں ہمیشہ رکھے تو وہ اس اصول کے مطابق درست ہو گا کہ اپنی ملکیت میں تصرف کیا۔ مگر ہمارے مذہب میں ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کہو کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں (جانتے ہیں دانا ہیں) اور وہ لوگ (جو نادان نا سمجھ ہیں) علم نہیں رکھتے۔ کہو کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھے اور آنکھوں والے۔ وہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اسی طرح کی چند مثالیں دی گئی ہیں۔ لہذا اس کی حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ مومن کو بہشت میں لے جا کر رکھے اور کافر کو دوزخ میں کیونکہ وہ حکیم ہے اور تمام کام حکمت کے مطابق کرتا ہے جیسے کسی کے پاس مال ہو وہ جس طرح چاہتا ہے اسے خرچ کرتا ہے۔ لیکن وہ اپنے مال کو اگر کنویں میں لے جا کر ڈال دے تو یہ حکمت نہ ہوگی۔

اس کے بعد فرمایا کہ اگر مومن بے توبہ دنیا سے چلا جائے تو تین طرح کا احتمال ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ خدائے تعالیٰ اسے ایمان کی برکت سے بخش دے یا اپنے فضل سے بخش دے یا کسی کی شفاعت سے بخش دے اور اگر دوزخ میں لے جائے تو اس کے گناہ کی مقدار کے موافق اس کو عذاب دے اور پھر جنت میں لے جائے۔ لیکن ہمیشہ دوزخ میں نہیں رکھے گا کیونکہ وہ ایمان کے ساتھ گیا ہو گا۔

چودھویں مجلس

اسی سال ماہ مبارک شوال کی بارہویں تاریخ منگل کو قدم بوسی کی سعادت میسر آئی اس دن بندہ بشیر نامی غلام کو خدمت میں لے گیا اور عرض کی کہ یہ غلام نماز پڑھتا ہے اور بہت مدت سے بندے کے سر پہ کہ اسے مخدوم کے قدموں میں ڈالا جائے اور بیعت کی دولت تک پہنچایا جائے کیونکہ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر کا کرم عام ہے حضرت نے یہ درخواست قبول فرمائی۔ اس کے بعد ارشاد کیا کہ کیا اسے اجازت دیتے ہو کہ بیعت کرے؟ بندے نے عرض کی جی ہاں۔ اس کے بعد دست بیعت اسے عطا فرمایا اور کلاہ عنایت کی اور حکم دیا کہ جاؤ دو رکعت نماز شکرانہ ادا کر کے آؤ۔ جب وہ غلام سامنے سے چلا تو خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے حکایت بیان فرمائی کہ کچھ عرصے پہلے بہار سے ایک درویش بڑے مکلف خرقے میں ملبوس آیا اور شیخ علی بجزی علیہ الرحمۃ والاعتراف کی خانقاہ میں جا کر اترنا۔ شاید یہ درویش ہر جگہ دروازہ کھٹکھٹاتا پھرتا تھا۔ اور شیخ علی نے اس سے کہا تھا کہ جب اس لباس میں ہو تو بھیک مانگتے مت پھر میں تمہیں کچھ دوں گا اس کو کافی سمجھنا اور اس سے تجارت کرنا اس شرط کے ساتھ کہ جب تمہیں اطمینان میسر آئے تو درویشوں کو بھی اس میں سے حصہ دینا یہ کہا اور پانچ سو جیتل اس کو عطا کئے۔ اس درویش نے ان پانچ سو جیتلوں سے کاروبار کیا کچھ دن بعد تیس تنکے کے قریب ہو گئے پھر ان تیس تنکوں کو تجارت میں لگایا تو سو تنکے ہو گئے۔ ان تنکوں سے غلام خریدے۔ شیخ علی نے کہا کہ ان غلاموں کو غزنی لے جاؤ تاکہ اچھا منافع ہو۔ درویش نے ایسا ہی کیا اور اس درویش کے پاس ایک اعتماد کا غلام تھا اس غلام سے کہا کہ تو میرا مرید ہو جا غلام اس کا مرید ہو گیا درویش نے اس کے سر کے بال تراشے اور ایک کلاہ اس کے سر پر رکھی اور کہا یہ کلاہ سیدی احمد کی ہے۔ شاید اس درویش کا تعلق اس خاندان سے تھا۔ الغرض جب غزنی پہنچ کر غلاموں کو فروخت کیا تو بڑا منافع ہوا۔ بعض لوگ اس غلام کے خریدار بھی ہوئے۔ درویش بولا کہ میں اس کو کس

طرح بیچ سکتا ہوں۔ یہ تو میرا مرید ہو گیا ہے مگر اس کو خریدنے کے لئے بڑا اصرار ہوا
یہاں تک کہ اس کی چوگنی قیمت لگا دی گئی۔ درویش کی نیت بھی بدلنے لگی اور بیچنے کی
اجازت دے دی جیسے ہی سوداگر لوگ جمع ہوئے کہ غلام کی بولی لگائیں۔ غلام آنکھوں
میں آنسو بھر لایا اور اس درویش سے بولا کہ خواجہ جس روز میں آپ کا مرید ہوا تو
آپ نے ایک کلاہ میرے سر پر رکھی تھی اور کہا تھا کہ کلاہ سیدی احمد کی ہے اب آپ
مجھ کو بیچتے ہیں۔ کل قیامت کے دن سیدی احمد کے سامنے میرا آپ سے جھگڑا ہو گا۔
جب غلام نے یہ بات کہی تو آقا کا دل پسیج گیا۔ حاضرین سے بولے کہ آپ لوگ گواہ
رہئے میں نے اس غلام کو آزاد کیا۔ جب خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر اس بات پر پہنچے تو بندے
نے عرض کی کہ میں نے بھی اس غلام کو آزاد کیا! خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر بہت خوش
ہوئے۔ ارشاد ہوا تم نے بہت اچھا کیا۔ یہی واجب بھی تھا جو تم نے کیا۔ اس کے بعد
بڑی شفقت اور مرحمت کے ساتھ اپنے مبارک سر سے کلاہ اتار کر بندے کے سر پر
رکھ دی۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

پندرہویں مجلس

اسی سال ماہ شوال کی ستائیسویں تاریخ جمعرات کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی۔ خرچ
کرنے کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ جب کسی کو دولت میرا آئے تو اسے خرچ کرنا چاہئے کہ اس
سے کمی نہیں آتی۔ اور جب دولت کسی سے منہ پھیر لے تو اس وقت بھی خرچ کرنا چاہئے۔
کیوں کہ جب اس کو جانا ہی ٹھہرا تو پھر بہتر یہ ہے کہ آدمی خود اپنے ہاتھ سے دے ڈالے۔
اس کے بعد ارشاد ہوا کہ شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ نے اس مفہوم کو اس
عبارت میں بیان کیا ہے ”کہ جب آئے تو دو کہ کم نہ ہوگی اور جب جائے تو نہ رو کہ ٹھہرے
گی نہیں!“

سولہویں مجلس

marfat.com

Marfat.com

اسی سال ماہ مبارک ذی الحجہ کی گیارہویں تاریخ جمعے کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی۔
ذکر یہ نکلا یہ مردان حق جو کھانا بھی کھاتے ہیں ان کی نیت میں للبت ہوتی ہے۔ اس کے بعد
فرمایا کہ شیخ شہاب الدین قدس اللہ سرہ العزیز نے عوارف میں لکھا ہے کہ ایک درویش تھا جو
کھانا کھاتے وقت جو نوالہ اٹھاتا کہتا میں یہ نوالہ اللہ کے نام پر لیتا ہوں!

سترہویں مجلس

اسی سال ماہ مبارک ذی الحجہ کی اکیسویں تاریخ پیر کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔
دریافت فرمایا کہ چھاؤنی سے آرہے ہو یا شہر سے؟ بندے نے عرض کہ چھاؤنی سے حاضر ہوا
ہوں اور گھر وہیں لے لیا ہے۔ ارشاد ہوا شہر کی طرف بھی جاتے ہو؟ بندے نے عرض کہ
بہت کم دس بارہ دن بعد جانا ہوتا ہے۔ زیادہ تر چھاؤنی ہی میں رہتا ہوں اور نماز جمعہ بھی
کیلو کھری کی مسجد میں پڑھتا ہوں۔ فرمایا کہ اچھا کرتے ہو کیوں کہ چھاؤنی کی ہوا شہر سے بہتر
ہوتی ہے۔ اور شہر میں غنوت (گندگی آلودگی زہریلی خاصیت) بھی ہوتی ہے۔

اس بات کی مناسبت سے زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ جس طرح کوئی زمانہ
دوسرے زمانے سے ممتاز ہوتا ہے جیسے عید کا دن دوسرے سب دنوں کے مقابلے میں عام
خوشی کے لئے مخصوص ہے۔ اسی طرح بعض جگہ بھی ہوتی ہے۔ جہاں ایسی راحت ملتی ہے جو
دوسرے مقام پر نہیں ملتی۔ لیکن درویش وہ ہوتا جو زمان و مکان کی قید سے باہر نکل جاتا ہے۔
نہ تو کسی خوشی سے شادمان ہوتا ہے نہ کسی غم سے غمگین اور ایسا وہی شخص ہوتا ہے جو دنیا اور
دنیا داری سے آزاد ہو جائے اور درویش ہو تو ایسا ہو کہ بات کرے تو دل اس کا اللہ تعالیٰ کی
طرف لگا ہوا ہو اور اس کی زبان دل سے امداد چاہے اور دل حق تعالیٰ سے!

اس کے بعد موتی بکھیرنے والی زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ شروع میں یہ کلمات
میں نے مولانا عماد الدین ساجی سے سنے تھے۔ ایک دفعہ میں حوض سلطان (شمسی تالاب) کی
طرف گیا ہوا تھا کہ وہ بھی آگئے اور ہم ساتھ بیٹھ گئے اسی بارے میں باتیں کرتے رہے۔ بہت
اچھا وقت گزرا لیکن کم و بیش تین چار سال بعد ہم دونوں پھر ایک جگہ جمع ہوئے تو یہ کیفیات
ان میں ذرا بھی باقی نہ رہی تھیں۔ اس کے بعد زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ وہ دنیا والوں
میں مشغول ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ شیخ جلال الدین تمبرزی قدس اللہ سرہ

العزیز جب وہی آئے اور کچھ عرصہ ٹھہر کر روانہ ہوئے تو بولے کہ میں اس شہر میں آیا تھا تو خالص سونا تھا۔ اب چاندی ہوں زیادہ نکا تو (خبر نہیں) کیا بن جاؤں گا؟

پھر سماع کا ذکر آیا۔ بندے نے عرضداشت کی کہ یہ شکستہ حال اپنے معاملے بڑا حیران و پریشان ہے۔ اس وجہ سے کہ جو طاعت و عبادت ہونی چاہئے وہ پلے نہیں درویشوں کی سی مشغولی اور اوراد بھی نہیں ہیں۔ البتہ جب سماع سنتا ہے تو بڑی رقت اور راحت حاصل ہوتی ہے اور مخدوم کی خدمت میں حاضری کے وقت بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ نفسانی خواہشات اور دنیا اور اہل دنیا کسی کا دھیان نہیں آتا دریافت فرمایا کہ کیا اس وقت دل دنیا کے تعلقات سے خالی ہوتا ہے۔ عرض کی جی ہاں۔ ارشاد ہوا سماع دو طرح کا ہوتا ہے پہلے ہاجم ہوتا ہے۔ اس کے بعد غیر ہاجم۔ ہاجم اس کو کہتے ہیں کہ اول سماع ہجوم لاتا ہے مغلوب کر لیتا ہے مثلاً جب کوئی آواز یا شعر سنا جاتا ہے تو وہ آدمی کو حرکت اور جنبش میں لاتا ہے اس حال کو ہاجم کہتے ہیں اور اس کی شرح نہیں کی جا سکتی۔ لیکن غیر ہاجم وہ ہوتا ہے کہ سماع کا شعر متاثر کرتا ہے اور سننے والا اس کو کسی پر محمول کرتا ہے۔ حضرت حق پر اپنے پیر پر یا کسی اور چیز پر جس کا خیال اس کے دل میں آئے۔ اَلْحَقُّ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔

حواشی

جلد سوم

(۱) اشارات علم ذہانت کے موضوع پر بو علی سینا کی ایک کتاب کا نام بھی ہے۔

(۲) خوش خبریاں۔

(۳) موتی بکھیرنے والے۔

(۴) رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صحبت پانے والے صحابہ کرام کے فیض یافتگان تابعین کہلاتے ہیں۔

(۵) یہاں دنیا سے مراد دھن دولت ہے۔

(۶) اس حکایت سے کئی قبروں کا جواز ثابت ہوتا ہے۔

(۷) گناہ سے محفوظ رہنا۔

(۸) کسی اور جگہ اس مضمون کا ارشاد ہوا کہ آدمی روحانی ترقی میں حقیقت تک پہنچ جائے اور وہاں اس سے

کوئی خطا سرزد ہو اور نیچے گرایا جائے تو حقیقت سے نیچے کے مقام طریقت میں گرے گا۔ اور اگر طریقت میں کوئی

غلطی ہو تو شریعت میں گرے گا۔ لیکن شریعت میں چوک ہو جائے تو نیچے کا درجہ دوزخ ہی ہے گویا سب سے اہم

حفاظت شریعت کی حفاظت ہے۔

(۹) دیکھو تو دل فریبی انداز نکلش پا

سوج تھرام یار بھی گل کترسٹی

(۱۰) نئی چیز جو پہلے نہ ہو۔ ذات باری تعالیٰ ہمیشہ سے ہے۔ قدیم ہے کائنات اس نے پیدا کی اس لئے حادث

ہے۔ پہلے سے نہ تھی۔

(۱۱) نمک کے مقابلے میں شکر اور شکر کے ساتھ شکر کا استعمال اس وجہ سے ہوا ہے کہ شکر اور شکر ایک جیسی

صورت رکھتے ہیں۔ یعنی ان میں تجسس غلطی ہے۔

(۱۲) لاہور ایڈیشن میں چار شے کا لفظ چھوٹ گیا ہے نو کشور ایڈیشن میں موجود ہے۔

(۱۳) عربستان زراعت اور کھیتی کا ملک نہیں ہے۔ اور جو تھوڑی بہت کھیتی ہوتی تھی وہ بڑے بڑے

زمینداروں اور سرداروں کے قبضے میں تھی۔ مل چلانے والا کسان بے چارہ ذلیل و خوار ہی رہتا تھا۔ یہی بات

حضور ﷺ نے بیان فرمائی ہے کہ دوسرے پیشوں کی بہ نسبت مل چلانے والا نہ حیثیت دار بنتا ہے نہ سوسائٹی

میں مقام پاتا ہے ورنہ شریعت محمدی علیہ الصلوٰۃ والسلام میں کبھی باڑی ناجائز و ناپسندیدہ نہیں ہے۔ (حجرت)

(۱۳) قرآن مجید کی آیت ہے و هو الذی جعل اللیل والنهار ظنہ لمن اراد ان ینہ کر او اراد فکوراً ۱۰ (اللہ وہ ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا قائم مقام کیا ہے اس کے لئے جو اللہ کو یاد کرے یا اس کا شکر ادا کرے۔) (الفرقان: ۶۴)

(۱۵) ہر شخص اپنی ذاتی کیفیات اور موقع و محل کی مناسبت سے شعر کو ایک خاص معنی دیتا ہے۔ مثلاً کچھ لوگ مشاہدہ حق کا ذکر بادہ و ساغر کے الفاظ میں کرتے ہیں اور کچھ حقیقت کے بیان کو بھی نماز کا رنگ دے کر دیکھتے ہیں (حجرت)

(۱۶) حضرت امیر حسنؒ فوج میں ملازم تھے۔ غالباً اپنا دفتری کام گھر پر کرتے ہوں گے اور راز کے فوجی کاغذات اور رجسٹر وغیرہ ان کی تحویل میں رہتے ہوں گے جن کو اتنی اہمیت دی گئی۔ ورنہ اسباب خانہ کا ذکر کرتے کہ ان کا کوئی محافظ نہیں ہے۔ (حجرت)

(۱۷) حدیثوں کو جمع کرنے اور ان کی تحقیق ترتیب اور تہویب کا کام بہت سے بزرگوں نے کیا ہے۔ ان میں سے چھ بزرگوں کی کتابیں بہت سبب سمجھی جاتی ہیں اور انہیں صحاح ستہ یعنی چھ صحیح کتابیں کہا جاتا ہے ان چھ میں سے بھی بخاری اور مسلم کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور زیادہ مستند سمجھا جاتا ہے اور انہیں صحیحین یعنی دو صحیح ترین کتابیں کہتے ہیں اور جو حدیث ان دونوں کتابوں میں یکساں آئے وہ متفق علیہ کہلاتی ہے۔ (حجرت)

(۱۸) مشارق الانوار احادیث کا مجموعہ ہے۔

(۱۹) شرف ایک عمدے دار ہوتا تھا۔ صدر محرر یا چیف رپورٹر۔

(۲۰) کسی بڑے محدث کو حدیث شریف بنا کر اس کی صحت اور اپنی شاگردی کی گویا سند حاصل کی جاتی ہے مثلاً حضرت خواجہ حسن نظامیؒ حضرت مولانا نذیر حسین محدث دہلویؒ کے باقاعدہ شاگرد نہیں تھے۔ لیکن فخر کرتے تھے کہ میں نے ان کو ایک حدیث بنا کر تمبر کا سند حاصل کی ہے۔ (حجرت)

(۲۱) کافروں سے منگولوں کا لشکر مراد ہے۔ (حجرت)

(۲۲) کاجی دلیے یا حریرے کی طرح کا کھانا۔

(۲۳) بارہویں مجلس کی تاریخ ۷ شعبان تھی چاند ۳۰ کا مانا جائے تو رمضان کی پہلی جمعرات کی ہوئی اور رمضان کی ۳۰ جیسے کو۔ (حجرت)

قائد القواد

جلد چہارم

چوتھی جلد فوائد الفواد

سر شہ مجلیس

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خواجہ بندہ نواز، سلطان دارالملک راز، ملک المشائخ علی الاطلاق قطب الاقطاب عالم بالاتفاق نظام الحق والہدی والدین (اللہ تعالیٰ ان کی درازی عمر سے مسلمانوں کو مستفید فرمائے) کے کلمات کلمہ اور ارشادات شاملہ سے اوراق نور کی یہ سطور اور الواح سرور کے یہ حروف ایک دفعہ پھر جمع کئے جاتے ہیں ان کی ابتداء محرم سات سو چودہ ہجری سے ہوتی ہے۔

میں نے خواجہ کے لفظ متین کو جبل المتین کی طرح تھام لیا ہے، کیونکہ غم کے کنویں سے اس رسی کے سہارے بغیر کوئی باہر نہیں نکل سکتا۔ میں نے شیخ کے ارشادات کو اس امید

marfat.com

Marfat.com

کے ساتھ جمع کیا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے کرم سے سن کے قول و فعل سے درگزر فرمائے گا۔

پہلی مجلس

ماہ مبارک محرم کی چوبیسویں تاریخ سنہ سات سو چودہ ہجری بدھ کو پیر چومنے کی سعادت ہاتھ آئی۔ اس روز بندہ حکم کے موافق اسی فوائد الفواد سے جمع کی ہوئی پہلی جلد خدمت میں لے گیا۔ مطالعہ فرمانے کے بعد پسندیدگی کا شرف عطا فرمایا اور ارشاد ہوا کہ اچھا لکھا اور درویشانہ لکھا ہے اور نام (فوائد الفواد ولوں کے فائدے) بھی اچھا رکھا ہے۔

اس کے بعد مناسب حال یہ حکایت بیان فرمائی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فتح خیبر کے وقت ایمان لائے اور فتح خیبر کے بعد پیغمبر علیہ السلام تین برس سے زیادہ حیات ظاہر میں رہے۔ مگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان تین سالوں میں اتنی حدیثوں کی روایت کی ہے کہ اگر تمام صحابہ کی روایت کردہ حدیثوں کو جمع کیا جائے تب بھی ان حدیثوں کا تعداد میں مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ آپ کو اتنی حدیثیں اتنی کم مدت میں یاد رہیں اور وہ صحابہ جو آپ سے برسوں زیادہ خدمت میں رہے ان کو یاد نہ رہیں؟ بولے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہر صحابی کو کسی خاص کام میں لگا رکھا تھا۔ لیکن میں ہر وقت خدمت میں رہتا تھا اس لئے یاد رکھا۔

اس کے بعد فرمایا کہ ایک روز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول علیہ الصلوٰۃ والتیمتہ کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میں آپ کی زبان مبارک سے جو کچھ سنتا ہوں یاد کر لیتا ہوں۔ لیکن بعض حدیثیں یاد نہیں رہتیں۔ رسول علیہ السلام نے ارشاد کیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ جو کچھ مجھ سے سنو یاد رہے تو جب میں کچھ بیان کروں تم اپنے پیرا ہن کا دامن پھیلا لیا کرو چادر ہو تو اسے سامنے پھیلا لیا کرو اور جب میں بیان پورا کر لوں تو آہستہ سے دامن سمیٹ کر ہاتھ سینے پر رکھ لیا کرو۔

اس کے بعد فرمایا کہ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی ساری عمر میں تین یا چار حدیثوں کی روایت کی ہے اور عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے دس سے کم لیکن عبد اللہ بن مسعود نے ایسا زبردست فقیہ ہونے کے باوجود اپنی ساری عمر میں صرف ایک حدیث روایت فرمائی اور جس روز اس حدیث کی روایت فرمائی اس کا چہرہ بیت کے مارے بالکل پیلا پڑ گیا اور بدن پر

رونگٹے کھڑے ہو گئے اور دونوں مونڈھوں کے درمیان کی قریبی جو خوف کی حالت میں کانپنے لگتی ہے وہ کانپنے لگی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے اور حدیث بیان کرنے کے بعد فرمانے لگے ”یہ الفاظ تھے۔ یا اس مفہوم کے الفاظ تھے“

یہاں سے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہ کا ذکر نکلا فرمایا کہ صحابہ میں سے چار خلیفہ تھے اور تین عبد اللہ۔

اس کے بعد امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کے مناقب میں فرمایا کہ ایک دفعہ رسول علیہ السلام والتحیت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر صحابہ سے ان الفاظ میں فرمایا کہ تم سب میں سب سے بہتر حج علی ہیں اقصی وہ ہوتا ہے جو سب سے اچھا فیصلہ کرتا ہو۔ یعنی اقصی وہی ہو سکتا ہے جو سب سے بڑا عالم ہو۔

اس کے بعد صحابہ کی یگانگت کے بارے میں یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک صحابی کسی مجمع میں تشریف رکھتے تھے اور کوئی شخص ان کی پشت پر بیٹھا ہوا تھا اور یہ پشت کی طرف بیٹھنے والا شخص بار بار کہتا تھا کہ میں نے رسول علیہ السلام کو فرماتے سنا ہے کہ ایک روز میں فلاں جگہ تھا اور میرے ساتھ ابو بکرؓ اور عمرؓ تھے اور پھر میں فلاں جگہ گیا اور میرے ساتھ ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ تھے اسی طرح کئی بار ذکر فرمایا کہ پیغمبر نے ارشاد کیا کہ فلاں جگہ میں تھا اور ابو بکرؓ اور عمرؓ ان صحابی نے سر پھیر کر دیکھنا چاہا کہ یہ حکایت بیان کرنے والا کون ہے تو امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ تھے۔ اس حکایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کی موافقت اور انصاف کو بیان کیا جائے۔ ارشاد ہوا کہ صحابہ کی موافقت اور انصاف ایسا تھا۔

پھر اس حکایت کی مناسبت سے فرمایا کہ ایک دفعہ عمرؓ نے فرمایا کہ اے کاش میں ابو بکرؓ کے سینے کا ایک بال ہوتا رضی اللہ عنہما اجمعین۔

دوسری مجلس

اسی سال ماہ محرم کی اٹھائیسویں تاریخ اتوار کو ہاتھ چومنے کی دولت ہاتھ آئی۔ ایک درویش کا ذکر نکلا کہ وہ مرد عزیز ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو بھی دنیا کی لگاؤ سے دور رہے گا معزز ہو گا۔ اور اگر کوئی دنیا کی لگاؤ کے باوجود معزز ہو تو اس کی عزت عارضی ہو گی۔ اس کے بعد یہ دو مصرعے زبان مبارک ہوئے۔

marfat.com

Marfat.com

تا پاک نگر دی تو آتش ندہند
تا خاک نگر دی تو آتش ندہند

ترجمہ:- جب تک تو پاک (۱) نہ ہو جائے تجھے آگ سوز عشق نہ دیں گے جب تک تو خاک نہ ہو جائے پانی نہیں دیں گے۔

اس کے بعد اس بات کا ذکر نکلا کہ آج مہینے کی اٹھائیسویں تاریخ ہے یا انتیسویں اس بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ لاہور میں رمضان کی ستائیسویں تا اٹھائیسویں ہی کو چاند دیکھا گیا۔ ہوا یہ کہ اسی سال تین مہینے تک جب بھی انتیسویں تاریخ آئی ابراہیم غبار کی وجہ سے چاند دکھائی نہ دیتا اور شہر والے ہر مہینے تین دن کا شمار کرتے رہے۔ جب تین مہینے گزر گئے تو یہ قصہ ہوا کہ چاند دیکھا گیا اور پتا چلا کہ اب تک غلطی پر تھے۔

اس کے بعد فرمایا کہ لاہور کی بربادی ایک تو اس نحوست سے ہوئی دوسری نحوست یہ کہ اسی زمانے میں لاہور سے کچھ سوداگر گجرات کی طرف گئے۔ اس زمانے میں گجرات ہندوں کے پاس تھا غرضیکہ جب ہندو آئے اور ان لوگوں کے لائے ہوئے سامان کے خریداری کرنے لگے تو لاہور والوں نے سب سامان کی قیمت زیادہ بتائی۔ مثلاً "جس چیز کے دام دس درہم تھے۔ اس کے بیس بتائے اور جس کے دام بیس درہم تھے اس کے چالیس بتائے۔ اسی طرح ہر چیز کے دام دو گئے کر دیئے۔ اس کے بعد بیچتے وقت اصل قیمت پر بیچا بلکہ جو دام کہہ رہے تھے اس سے آدھے داموں فروخت کرتے اس کی قیمت ٹھیک ٹھیک بتاتے اور ایک ہی بات کہتے۔ الغرض جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو ان میں سے ایک نے سوال کیا کہ آپ لوگ کس شہر کے ہیں؟ بولے ہم لاہور کے ہیں۔ اس ہندو نے پوچھا کہ کیا آپ کے شہر میں سودا اسی طرح کیا جاتا ہے؟ جواب دیا ہاں! اس کے بعد وہ ہندو کہنے لگا کہ کیا وہ شہر آباد ہے؟ بولے ہاں! ہندو نے کہا تعجب ہے کہ جس شہر میں معاملہ اس طرح ہو وہ آباد کیسے ہے؟ الغرض جب اہل تجارت واپس چلے تو ابھی راستے ہی میں تھے کہ مغل آئے اور لاہور کو برباد کر دیا۔

تیسری مجلس

اسی سال ماہ صفر (اللہ اس کو خیر اور کامیابی کے ساتھ اختتام تک پہنچائے) کی بارہویں تاریخ منگل کو ہاتھ چومنے کی سعادت تک رسائی ہوئی۔ اس گروہ کا تذکرہ آیا جو کرامت کا

marfat.com

Marfat.com

دعویٰ کرتا ہے اور اپنے آپ کو کرامت کے ذریعے مشہور کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ کچھ بات نہیں! اس کے بعد زبان مبارک پر یہ الفاظ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء پر کرامت کا چھپانا اسی طرح فرض کیا ہے جس طرح اپنے انبیاء پر معجزے کا دکھانا فرض کیا ہے۔ پس اگر کوئی اپنی کرامت کا اظہار کرتا ہے تو کیا کارنامہ انجام دیتا ہے۔ ایک فرض کو ترک کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ سلوک کے سو مقام مقرر کئے گئے ہیں۔ ان میں سترھواں مقام کشف و کرامت کا ہے اگر سالک اسی مقام پر اٹک کر رہ جائے تو باقی تراسی مقامات تک کیسے پہنچے گا۔

پھر خدمت کرنے کا ذکر نکلا۔ فرمایا کہ حدیث رسول ﷺ ہے کہ جو قوم کا ساقی ہو وہ پینے والوں میں آخری ہو۔ یعنی جو شخص قوم کو پانی پلاتا ہے اس کو چاہئے کہ وہ سب سے آخر میں پانی پئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ طعام میں بھی یہی واجب ہے کہ دوسروں سے پہلے کھانا کھلانے والے کو کھانا تناول نہیں کرنا چاہئے۔

اس کے بعد فرمایا کہ میزبان پر واجب ہے کہ مہمان کے ہاتھ خود دھلائے اور جب دوسرے کے ہاتھ دھلانے لگے تو پہلے خود اپنے ہاتھ دھوئے پھر دوسرے کے ہاتھ دھلائے اور پانی پلانے میں پہلے دوسروں کو پلائے آخر میں خود پئے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اس بارے میں یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ ہاتھ دھلانے والا کھڑے ہو کر ہاتھ دھلائے یا بیٹھ کر۔ فرمایا کہ کھڑے ہو کر ہاتھ دھلائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک شخص شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ہاتھ دھلانے کے لئے پانی لایا تو بیٹھ گیا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو شیخ جنید کھڑے ہو گئے کہا گیا کہ حضرت آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ ارشاد ہوا کہ اسے چاہئے تھا کہ کھڑا ہو کر ہاتھ دھلاتا۔ جب یہ بیٹھ گیا تو مجھے کھڑا ہونا پڑا (۲)۔

اس کے بعد فرمایا کہ ایک دفعہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کسی دوست کے مہمان ہوئے اس دوست نے کھانے کی اقسام میں سے جو کچھ چاہا پہلے ایک کانڈ پر لکھ لیا اور اپنی کنیر کو (یہ کانڈ) دیا اور کہا کہ اس فرست میں جو جو کھانا میں نے لکھا ہے اس کو تیار کر دے کہہ اور خود کسی کام سے باہر چلا گیا۔ امام شافعی نے وہ کانڈ کنیر سے مانگا اور چند کھانے جو انہیں بھاتے تھے بڑھا کر اس کانڈ میں لکھ دیئے۔ جب کنیر نے یہ کانڈ پڑھا تو جن کھانوں کو امام شافعی نے بڑھایا تھا وہ بھی پکائے اور ان میں مزید اضافہ بھی کیا۔ جب صاحب خانہ واپس آیا اور کھانا سامنے چنا گیا تو بہت سے کھانے دیکھے اور جو کچھ انہوں نے لکھا تھا اس سے زیادہ نظر آئے وہ اٹھے اور کنیر

کے پاس آکر پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ کنیز نے انہیں کانغذ دکھایا جب ان صاحب نے امام شافعیؒ کی بڑھائی ہوئی فہرست دیکھی تو بہت خوش ہوئے اور اس کنیز کو باقی سب غلاموں کے ساتھ آزاد کر دیا۔

پھر ضیافت کا اور کھانا کھلانے اور مہمانوں کی خاطر داری کا ذکر نکلا تو فرمایا کہ بغداد میں ایک درویش تھے جن کے دسترخوان پر روزانہ بارہ سو پیالے خرچ ہوتے تھے اور ان کے اٹھارہ باورچی خانے تھے غرضیکہ ایک روز انہوں نے اپنے خدمتگاروں سے پوچھا کہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ کھانا کھاتے وقت تم کسی کو بھول جاتے ہو۔ وہ بولے نہیں ہم سب کو یاد کر کے کھانا دیتے ہیں۔ شیخ نے پھر کہا کہ اچھی طرح دھیان کر لو! انہوں نے جواب دیا کہ ہم کسی کو بھی نہیں بھولتے۔ سب کو کھانے کے وقت بلا لیتے ہیں۔ اور آنے والوں کو جو کچھ دینا ہوتا ہے دے دیتے ہیں۔ شیخ نے پھر کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ اس کام میں چوک ہو جاتی ہو۔ خدمتگار بولے حضور آپ کیسی بات فرماتے ہیں! شیخ نے کہا کہ آج تین روز ہو گئے کہ مجھے کھانا نہیں بھجوا یا گیا۔ جس طرح تم نے مجھے فراموش کر دیا۔ دوسروں کو فراموش کیوں نہ کرتے ہو گے۔ اور قصہ یہ ہوا تھا ان تین روز میں متواتر افطار کے وقت شیخ کے سامنے کھانے کا کچھ بھی نہ لایا گیا تھا۔ چونکہ باورچی خانے بہت سے تھے۔ اور پکانے والوں میں سے بعض یہ خیال کرتے رہے کہ دوسرے باورچی خانے سے چلا گیا ہو گا اور دوسرے باورچی خانے والے پہلے کی بابت یہ سوچتے رہے۔ ہر ایک نے یہی خیال کیا کہ دوسری جگہ سے کھانا چلا گیا ہو گا۔ ان تین روز میں کوئی کھانا شیخ کو نہیں پہنچا جب تین روز ہو گئے تو اس وقت شیخ نے یہ بات کھولی۔

پھر سلطان کے تالاب کے پانی اور اس کی شیرینی اور برکت کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ کہتے ہیں سلطان شمس الدین کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا گیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ خدائے عزوجل نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ بولے مجھے اس تالاب کی وجہ سے بخش دیا۔ واللہ اعلم

چوتھی مجلس

marfat.com

Marfat.com

اسی سال ماہ صفر کی ستائیسویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی اس سے ایک روز پہلے بندے نے محترم نصیر الدین محمود سلمہ اللہ تعالیٰ (۳) سے جو خوش اعتقاد مریدوں میں سے ہیں مشورہ کیا تھا کہ کل آخری بدھ ہے۔ اور لوگ اس روز کو منحوس سمجھتے ہیں آئیے اپنے خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر کی خدمت میں چلیں کیوں کہ وہاں ساری نحوستیں سعادت سے بدل جاتی ہیں۔ غرضیکہ مشورے کے مطابق جب یہ بدھ آیا تو بندہ اور وہ دونوں کے دونوں خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر کی خدمت میں پہنچے اور لوگوں کے اس وہم کے بارے میں عرض کیا۔ حضرت نے تبسم فرمایا اور بولے کہ ہاں لوگ اس دن کو منحوس سمجھتے ہیں اور نہیں جانتے کہ یہ دن تو بڑا بھاگوں ہے۔ آج کا دن بہت ہی مبارک ہے۔ چنانچہ اگر اس دن فرزند پیدا ہوتا ہے تو وہ بزرگ بنتا ہے (۴)۔

پھر اس بات کا ذکر نکلا کہ بعض لوگوں کا مزاج جلدی بدل جاتا ہے۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ طبع لطیف رکھنے والے جلدی برہم بھی ہو جاتے ہیں۔ اس مناسبت سے یہ رباعی زبان گوہر بیان پر آئی اور فرمایا کہ یہ مولانا فخر الدین رازی کی ہے۔

آنم کہ بہ نیم زره ناخوش گرم وز نیم نیم زره دلکش گرم
از آب لطیف تر مزاجی دارم دریاب مرا و گرنہ آتش گرم
ترجمہ:- میں وہ ہوں کہ آدھے ذرے سے ناخوش ہو جاتا ہوں اور پھر آدھے کے آدھے ذرے سے خوش بھی ہو جاتا ہوں۔ میرا مزاج پانی سے بھی زیادہ لطیف ہے۔ مجھے سمجھ لو ورنہ آگ ہو جاؤں گا۔

پھر بادشاہوں کے مزاج کے تغیر کا ذکر نکلا۔ فرمایا کہ احادیث قدسی (۵) میں ایک یہ حدیث ہے کہ قلوب الملوک بیدی (بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں) یعنی جب تک خلق خدا تعالیٰ کے ساتھ ٹھیک رہتی ہے میں ان بادشاہوں کے دلوں کو خلق پر مہربان رکھتا ہوں۔ اور جب خلق اللہ کے ساتھ ٹھیک نہیں رہتی ہے تو میں ان کے دلوں کو خلق پر نامہربان کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ اس چیز پر نگاہ رکھنی چاہئے اور اسی سے سب چیزوں کا اندازہ کرنا چاہئے۔

اس بات کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ جس زمانے میں اوچھ اور ملتان قباچہ (۶) کے قبضے میں تھا اور سلطان شمس الدین دہلی میں تھا۔ ان کے درمیان دشمنی پیدا ہو گئی۔ شیخ

بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور ملتان کے قاضی ان دونوں نے سلطان شمس الدین کو خط لکھے اور یہ دونوں خط قباچہ کے ہاتھ پڑ گئے۔ قباچہ کو غصہ آیا۔ قاضی کو قتل کر دیا اور شیخ کو محل میں طلب کیا چنانچہ شیخ بہاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ محل میں تشریف لے گئے اور جس طرح ہمیشہ بے خوف جاتے تھے اندر گئے اور قباچہ کی داہنی جانب حکم کے موافق مقررہ جگہ پر بیٹھ گئے۔ قباچہ نے ان کا خط ہاتھ میں دیا۔ شیخ نے اسے پڑھا اور فرمایا کہ ہاں یہ خط میں نے لکھا ہے اور میری ہی تحریر ہے۔ قباچہ نے پوچھا کیوں لکھا؟ شیخ نے فرمایا کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے اشارہ ربانی سے لکھا ہے جو تیرا جی چاہے کر اور تو کر ہی کیا سکتا ہے تیرے ہاتھ میں ہے ہی کیا؟ قباچہ نے یہ گفتگو سنی تو شش و پنج میں پڑ گیا اور کھانا لانے کا اشارہ کیا شیخ کا معمول تھا کہ وہ کسی کے گھر میں کھانا نہیں کھاتے تھے۔ قباچہ کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ شیخ کھانا نہیں کھائیں گے اس لئے اسی بہانے ان کو ایذا پہنچاؤں گا۔ الغرض جب کھانا سامنے گیا اور ہر شخص نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑایا تو شیخ نے بھی بسم اللہ الرحمان الرحیم کہا اور کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کھانا کھانے لگے۔ قباچہ نے جب یہ دیکھا تو اس کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ شیخ سلامتی کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئے۔

اس ادنی غلام (حسن علاء بجزی) کے دل میں کچھ عرصے سے ایک بات تھی اس روز اس کو عرض کیا۔ اور بات یہ تھی کہ اگر کوئی مرید ایسا ہو جو صرف پانچ وقت نماز ادا کرتا ہو اور تھوڑا سا وظیفہ پڑھتا ہو۔ لیکن پیر کی محبت اس کے دل میں بہت ہو۔ اور پیر کے بارے میں اس کا اعتقاد بے حد پکا ہو۔ اور کوئی دوسرا مرید ہو جو بڑی عبادت کرتا ہو اور تسبیح اور اوراد اس کے بے اندازہ ہوں اور حج بھی کیا ہو۔ لیکن پیر کی محبت میں کمی ہو اور اعتقاد میں فتور ہو۔ ان دونوں میں سے کس کا مرتبہ بڑا ہو گا؟ ارشاد ہوا کہ وہ جو شیخ کا محب اور معتقد ہے۔ اس کے بعد زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ جو شیخ کا محب اور معتقد ہے اس کا ایک وقت نام نماز عبادت گزار کے سارے اوقات کے برابر ہے۔ اعتقاد کی وجہ سے وہ فضیلت رکھتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اولیاء انبیاء پر فضیلت رکھے ہیں۔ کیونکہ انبیاء کا اکثر وقت خلقت کے ساتھ مشغولی میں گزرتا ہے۔ یہ عقیدہ غلط ہے کیونکہ انبیاء اگرچہ خلق میں مشغول رہتے ہیں لیکن جس وقت حق کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں وہ ایک وقت اولیاء کے سارے اوقات پر شرف رکھتا ہے۔

اسی کے مناسب حال دو سری حکایت میں بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک زاہد تھا جس نے ستر سال خدائے عزوجل کی طاعت کی۔ ستر سال کے بعد اللہ سے اس کو ایک کام پڑا۔ اور اس کام کے لئے خدا سے دعا کی۔ مگر اس کا کام نہیں ہوا۔ اس کے بعد وہ ایک گوشے میں گیا اور اپنے آپ سے جھگڑنے لگا کہ اے نفس! ستر سال تو نے خدائے عزوجل کی طاعت کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ تیرے خلوص میں کچھ فرق تھا۔ اگر پورے خلوص کے ساتھ طاعت کرتا تو یقیناً میرا یہ کام ہو جاتا۔ جب اس نے اپنے نفس کو یہ ملامت کی تو اس عہد کے پیغمبر کے پاس فرمان پہنچا کہ اس زاہد سے کہہ دو کہ تیرا ایک لمحے کے لئے اپنے نفس پر عتاب کرنا ہمارے نزدیک تیری ستر سالہ عبادت سے بہتر تھا۔

پانچویں مجلس

اسی سال ماہ مبارک ربیع الاول کی سترھویں تاریخ منگل کو دست بوسی کی سعادت تک رسائی ہوئی۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے عرس کے معنی پوچھے فرمایا عرس عروسی (شادی) کرنے کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ عرس کے معنی رات کو قافلے کے پڑاؤ کرنے کے بھی ہیں۔ پھر مشائخ کی بزرگی اور ان کے صدق اور باطن کی نگاہداشت اور طلب حق کا ذکر نکلا۔ اس موقع پر یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز سے سوال کیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں یا رب! تو یہ آواز سنتے ہیں لبیک عبدی (میرے بندے میں موجود ہوں) فرمایا نہیں! اس کے بعد فرمایا کہ الارجاف مقدمۃ الکون (۷) (انواہیں کسی واقعے کا پیش خیمہ ہوتی ہیں) اس کے بعد شیخ نجیب الدین متوکل نے سوال کیا کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام آپ کے پاس آتے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں۔ اس کے بعد شیخ نجیب الدین نے کہا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مردان غیب آپ کے پاس آمد و رفت رکھتے ہیں۔ اس بات کی حضرت نے تردید نہیں فرمائی بس یہ کہا کہ ہو سکتا ہے تم بھی ابدالوں میں سے ہو۔

یہاں سے حضرت شیخ فرید الدین نور اللہ مرقدہ کی بزرگی اور ان کی والدہ ماجدہ طیحا الرحمۃ والرضوان کی بزرگی کا ذکر نکلا۔ فرمایا کہ ماں باپ کی صلاحیت کا اولاد پہ بڑا اثر پڑتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ شیخ کبیر کی والدہ بہت بزرگ تھیں۔ چنانچہ ایک دفعہ کوئی چوران کے گھر میں آیا۔ سب سو رہے تھے بس شیخ کی والدہ بیدار اور مشغول تھیں جب چوران در آیا تو اندھا ہو گیا۔ اور باہر جانے کے قابل نہ رہا۔ پکار کر بولا کہ اگر گھر میں کوئی مرد ہے تو وہ میرا باپ اور بھائی ہے۔ اور اگر عورت ہے تو وہ میری ماں اور بہن ہے۔ جو بھی ہو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ہیبت نے مجھے اندھا کر دیا ہے اس کو چاہئے کہ میرے لئے دعا کرے تاکہ مجھے پھر بینائی مل جائے۔ میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ ساری عمر چوری نہیں کروں گا۔ شیخ کی والدہ نے دعا فرمائی۔ اور اس کی بینائی واپس آگئی اور وہ چلا گیا جب دن نکلا تو شیخ کی والدہ نے یہ واقعہ کسی کو نہیں بتایا کچھ دیر بعد ایک شخص کو چھاپھ کا گھڑا سر پر رکھے اور گھر والوں کو ساتھ لئے دیکھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو کون ہے؟ بولا کہ میں رات اس گھر میں چوری کرنے آیا تھا۔ ایک بزرگ خاتون یہاں بیدار تھیں میں ان کی ہیبت سے اندھا ہو گیا۔ پھر انہوں نے میرے لئے دعا فرمائی اور مجھے دوبارہ آنکھیں مل گئیں۔ میں نے عہد کیا تھا کہ اگر میری آنکھیں واپس آگئیں تو میں چوری سے توبہ کر لوں گا۔ اب میں خود بھی آیا ہوں اور گھر والوں کو بھی لایا ہوں کہ مسلمان ہو جاؤں۔ اور چوری سے پوری طرح توبہ کر لوں۔ الغرض ان خاتون کی برکت سے سب مسلمان ہو گئے اور چوری سے توبہ کر لی۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

اس کے بعد شیخ کی والدہ ماجدہ کی بزرگی کے بارے ہی میں حکایت بیان فرمائی کہ جس زمانے میں شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز نے اجودھن میں رہائش اختیار کی تو شیخ نجیب الدین (بابا صاحب کے چھوٹے بھائی) کو بھیجا کہ وہ والدہ کو وہاں سے جہاں وہ مقیم تھیں لے آئیں شیخ نجیب الدین گئے اور والدہ کو اس مقام سے جہاں وہ قیام فرما تھیں لے کر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک درخت کے نیچے اترے اور پانی کی ضرورت ہوئی تو نجیب الدین پانی کی تلاش میں نکلے۔ جب واپس آئے تو والدہ کو نہ دیکھا۔ بڑے حیران ہو کر دیکھا اور

بہت ڈھونڈا لیکن والدہ کا پتہ نشان کہیں نہ پایا۔ ہار تھک کر شیخ کبیر قدس العزیز (بابا صاحب) کی خدمت میں آئے سارا قصہ کہہ سنایا۔ شیخ نے فرمایا کہ کھانا تیار کر اور صدقے کا جو حکم آیا ہے وہ دیا جائے۔ اس کے ایک عرصے بعد شیخ نجیب الدین رحمۃ اللہ علیہ کا اس علاقے میں پھر گزر ہوا۔ جب اس درخت کے نیچے پہنچے تو ان کے دل میں آیا کہ اس جگہ کے دائیں بائیں گھومنا پھرنا چاہئے شاید والدہ کا کچھ نشان مل جائے چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اس درخت کے اطراف گھومنے لگے تو چند انسانی ہڈیاں پڑی ہوئی ملیں۔ اور انہوں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہی میری ماں کی ہڈیاں ہیں کسی شیر یا دوسرے جانور نے ان کو ہلاک کر دیا ہو گا۔ چنانچہ انہوں نے ساری ہڈیاں جمع کیں اور ایک تھیلے میں ڈال کر شیخ فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں آئے اور سارا قصہ سنایا۔ شیخ نے فرمایا کہ وہ تھیلا میرے پاس لاؤ۔ جب تھیلا شیخ کے سامنے لایا گیا اور اسے جھٹکا گیا تو ایک ہڈی بھی نہ نکلی۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر جب اس بات پر پہنچے تو آنکھوں میں آنسو بھرا لائے اور بولے کہ یہ چیز عجائب روزگار میں سے ہے۔

پھر مردان غیب کا ذکر نکلا۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ ابتداء میں کبھی کبھی میرے دل میں مردان غیب سے ملاقات اور ہم نشینی کا خیال آتا تھا۔ پھر خود ہی خیال آیا کہ یہ کیسی تمنا ہے۔ کسی بہتر کام کے پیچھے پڑنا چاہئے اس ضمن میں شیخ قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ "واسعہ" کی حکایت بیان فرمائی ابتدائی زمانے جبکہ وہ اوش میں تھے۔ شہر کے کنارے ایک ویران مسجد تھی اور اس مسجد کا ایک مینارہ تھا جس کو سات مینارہ کہتے تھے۔ مینار ایک ہی تھا لیکن کھلاتا سات مینارہ تھا۔ حضرت کو شاید ایک دعا پہنچی تھی کہ جو اس دعا کو اس مینارہ کے اوپر پڑھے۔ اس کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے یہ دعا بھی اگرچہ ایک ہی دعا تھی لیکن اس کو بھی ہفت دعا کہتے تھے۔ دور کعتیں بھی بیان کی جاتی تھیں کہ جو یہ رکعتیں پڑھے وہ حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھ لے۔ الغرض شیخ قطب الدین قدس اللہ سرہ العزیز کو اشتیاق ہوا کہ حضرت خضر کو دیکھیں چنانچہ رمضان کی راتوں میں سے ایک رات کو اس مسجد میں گئے اور وہ دور کعتیں ادا کیں۔ اور اس مینارے پر چڑھ کر وہ دعا بھی پڑھی اور نیچے اتر کر کچھ دیر تک انتظار کیا۔ مگر کوئی شخص ظاہر نہیں ہوا۔ کچھ ناامید سے ہو کر مسجد سے باہر آئے۔ جیسے ہی مسجد سے باہر قدم رکھا ایک شخص کو کھڑے دیکھا۔ اس شخص نے شیخ قطب الدین کو آواز دی اور کہا کہ اس ناوقت تم یہاں کیا کر رہے ہو۔ شیخ نے فرمایا کہ میں یہاں حضرت خضر

سے ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا تھا اور رکعت نماز میں بھی ادا کی اور جو دعا آئی ہے وہ بھی پڑھی مگر یہ دولت حاصل نہ ہوئی اب واپس گھر جاتا ہوں۔ وہ شخص بولا کہ خضر علیہ السلام کا کیا کرو گے۔ وہ تو خود تمہاری طرح مارا مارا پھرتا ہے۔ اس کے دیکھنے سے کیا ہو گا۔ اس درمیان اس نے پوچھا کہ کیا دنیا کی خواہش ہے؟ شیخ نے کہا نہیں۔ بولا کیا کچھ رقم قرضے کی ادا کرنی ہے؟ شیخ نے جواب دیا نہیں۔ اس کے بعد یہ شخص بولا کہ پھر کس لئے خضر کے طلب گار ہو؟ پھر کہنے لگا کہ اس شہر میں ایک ایسا آدمی ہے کہ خضر بارہ دفعہ اس کے دروازے پر گیا ہے۔ مگر داخلے کی اجازت نہیں ملی۔ یہ دونوں اس گفتگو میں مصروف تھے کہ ایک نورانی بزرگ پاکیزہ لباس پہنے نمودار ہوئے۔ یہ شخص بڑے احترام کے ساتھ ان کے سامنے گیا اور ان کے قدموں میں گر پڑا۔ شیخ قطب الدین طیب اللہ تراہ فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ جب میرے پاس پہنچے تو اس پہلے شخص کی طرف رخ کر کے بولے کہ اس درویش کو نہ قرض چکانا ہے نہ دنیا کا طلب گار ہے بس تم سے ملاقات کی آرزو ہے! اسی دوران آذان کی آواز آئی اور ہر طرف سے صوفی اور درویش ظاہر ہونے لگے۔ جماعت تیار ہو گئی۔ تکبیر کہی گئی۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر نماز ادا کرائی اور تراویح میں بارہ سی پارے پڑھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اگر اور زیادہ پڑھتے تو اچھا ہوتا۔ الغرض جب نماز ہو چکی تو ہر شخص کسی طرف چل دیا شیخ کہتے ہیں میں بھی اپنے گھر آ گیا جب دوسری رات ہوئی تو اور سویرے سے وضو کیا اور اس مسجد میں گیا۔ صبح تک وہاں رہا مگر کوئی مخلوق ظاہر نہ ہوئی۔

چھٹی مجلس

اسی سال ماہ جمادی الاول کی دسویں تاریخ جمعے کو دست بوسی کی سعادت تک رسائی ہوئی۔ گفتگو تحمل اور دشمنی سے احتراز کرنے کی نکلی۔ فرمایا کہ ایک نفس ہے اور ایک قلب۔ اگر کوئی نفس سے پیش آئے تو دوسرے فریق کو چاہئے کہ قلب سے جواب دے۔ یعنی نفس میں تو دشمنی اور ہنگامہ اور فتنہ ہوتا ہے۔ اور قلب میں سکون اور رضا اور مہربانی۔ پس جب کوئی نفس سے پیش آئے اور مقابل قلب سے جواب دے تو نفس مغلوب ہو جائے گا۔ البتہ اگر کوئی نفس کے مقابلے میں نفس ہی سے پیش آئے تو جھگڑے اور فتنے کی کیا حد رہے گی۔ پھر تحمل اور حلم کی فضیلت میں یہ شعر زبان مبارک پر لائے۔

زہر بادی چوکھی گر بلرزی اگر کوئی بکھی ہم نیرزی
ترجمہ:- اگر تم تنگ کی طرح ہوا کے ہر جھونکے سے لرزو گے تو پہاڑ ہو کر بھی تنگ کے
مول نہ رہو گے۔

ساتویں مجلس

اسی سال ماہ جمادی الاخر کی چودھویں تاریخ جمعرات کو قدم بوسی کی دولت حاصل
ہوئی۔ نذر قبول کرنے کے بارے میں ذکر نکلا۔ بندے نے عرض داشت کی کہ میں کبھی
کسی سے کوئی چیز نہیں مانگتا اور ساری عمر کبھی توقع کا دروازہ کھول کر نہیں بیٹھا۔ اگر
کوئی بے مانگے کچھ عنایت کرے اور کوئی چیز دے تو کیا کرنا چاہئے۔ ارشاد ہوا کہ لے
لیتا چاہئے۔ اس کے بعد حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ حضرت رسالت علیہ السلام نے
کوئی چیز عمر خطاب رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی۔ امیر المؤمنین عمرؓ بولے یا رسول اللہ میرے پاس
تو یہ چیز موجود ہے۔ اہل صفہ وغیرہ میں سے کسی دوسرے فقیر کو عنایت فرمائیں۔
مصطفیٰ علیہ التھیہ والسلام نے فرمایا کہ جو کوئی بھی تمہیں بغیر مانگے کچھ دے اسے لے لو
اور کھاؤ اور صدقہ کرو۔ والحمد لله رب العالمین۔

آٹھویں مجلس

اسی سال ماہ مبارک رجب کی انتیسویں تاریخ ہفتے کو قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا۔
اسی ہفتے بندہ کینہ (حسن علاء بجزی) کے واجبات جو مدت سے رکے ہوئے تھے بندے کو مل
گئے تھے۔ اور خواجہ ذکر اللہ بالخیر کو بندے کے برسر کار ہونے اور واجبات مل جانے کا حال
معلوم ہو گیا تھا۔ الغرض جب میں خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا کہ ہر کام میں ثابت قدمی
دکھانے اور اور پابندی کرنے کا بڑا اثر ہوتا ہے۔

اس کے بعد ارشاد ہوا کہ شیخ الاسلام کے نواسے یا (پوتے کبیر) کا کچھ عرصے تک ملک
نظام الدین کے ہاں آنا جانا رہا اور انہوں نے ایسی پابندی دکھائی کہ نظام الدین ان سے تنگ

آگئے۔ یہاں تک کہ ان سے کہہ دیا کہ تم دوبارہ اس گھر میں نہ آنا مگر وہ اسی طرح جاتے رہے اور کسی طرح بھی نہ رکے۔ انہی دنوں نظام الدین نے چھ سونے کے تنکے (ایک سکہ) میرے پاس بھیجے۔ میں نے انہیں قبول نہیں کیا اور ان کے پاس واپس بھیج دیئے۔ جب وہ سکے ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے یہ چھ سونے کے تنکے ان کبیر صاحب کو دے دیئے۔ اس کے بعد زبان مبارک سے فرمایا کہ پابندی ہر کام میں پھل دیتی ہے۔

اس کے بعد مجھ کو رقم ملنے کے سلسلے میں جو اگرچہ کہ دیر میں ملی تھی حکایت بیان فرمائی اس مفہوم کی کہ کم از کم یاد تو کیا گیا۔ حکایت یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک زاہد تھے جنہوں نے برسوں خدا کی طاعت کی تھی۔ چنانچہ اس زمانے کے پیغمبر کے پاس وحی آئی کہ ان زاہد سے کہو کہ تم ہماری طاعت میں اتنی تکلیفیں کیوں اٹھاتے ہو ہم نے تو تمہیں عذاب دینے ہی کے لئے پیدا کیا ہے۔ ان پیغمبر نے جب یہ پیغام ان زاہد کو پہنچایا تو وہ کھڑے ہوئے اور ناچنے لگے۔ ان پیغمبر نے کہا کہ اس بات میں تمہارے لئے کون سی خوشی کی چیز تھی کہ ناچنے لگے؟ زاہد بولے کہ غنیمت ہے۔ ہمیں یاد تو کیا گیا اور ہم بھی کسی حساب میں تو آئے۔

او سخن از کشتن من می کند من ہمین خوش کہ سخن می کند
ترجمہ:- وہ ہمارے قتل کی بات کرتے ہیں اور ہم اس سے خوش ہیں کہ بات تو کی!

اس کے بعد تحمل کا ذکر نکلا اور اس سلسلے میں شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی حکایت بیان فرمائی اور ان کے تحمل برداشت اور موزیوں کے قلع قمع میں ان کے تحمل کے اثر کا حال سنایا اس کے بعد زبان مبارک سے فرمایا کہ جو جھیلتا ہے وہ مارتا ہے اور برداشت کرنے والا مار ڈالنے والا ہوتا ہے۔

اس کے بعد بندے نے عرضداشت کی کہ یہ دعا کس طرح ہے جو لوگ مانگا کرتے ہیں کہ اعیوننی عباد اللہ رحمکم اللہ۔ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو خدا تم پر رحم کرے۔ بندے کا مقصد اس سے یہ تھا غیر خدا سے مدد مانگنا کیسا ہے؟ ارشاد ہوا کہ یہ دعا مانگی جاتی ہے اور اس میں عباد اللہ المسلمین والکھلین (اللہ کے مسلمان اور مخلص بندے) مضمحل ہے (پہاں ہے مراد ہے) اور جائز ہے کہ یہ دعا پڑھیں اور بزرگوں نے بھی پڑھی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ دعا پڑھتے تھے۔

یہاں سے شیخ نجیب الدین متوکل کے بزرگ کا ذکر نکلا۔ فرمایا کہ مجھے اس شہر میں ان کے

پایہ کا اور کوئی آدمی نہیں ملا۔ ان کو کچھ خبر نہ تھی کہ یہ کون سا دن ہے اور کون سا مہینہ ہے یا غلہ کس بھاؤ بیچتے ہیں اور گوشت کس طرح دیتے ہیں، اس طرح کی کسی بات کا ان کے پاس گزر ہی نہ تھا۔ وہ زبردست شاعری تھے۔ رحمتہ اللہ علیہ رحمتہ "واسعہ" اس کے بعد اس دعا کی مناسبت سے فرمایا کہ حاجت پوری ہونے کے لئے مسبعت عشر کا پڑھنا بھی آیا ہے۔ بندے نے عرض کی کیا ہر روز مقررہ وقت پر پڑھنا چاہئے۔ فرمایا کہ اگر کوئی مہم درپیش ہو دینی یا دنیوی۔ اس کی نیت سے علیحدہ بھی پڑھتے ہیں۔ وہ مہم خوبی سے سر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔

نویں مجلس

اسی سال ماہ مبارک رمضان کی چوتھی تاریخ جمعرات کو قدم بوسی کی دولت تک رسائی ہوئی۔ تراویح کا اور ختم قرآن کرنے والے گروہ کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ ایک دفعہ کوئی درویش شیخ جنید بغدادی قدس اللہ سرہ العزیز کی خانقاہ میں آیا شاید ماہ رمضان کی چاند رات تھی۔ اس درویش نے درخواست کی کہ نماز تراویح میں امامت میں کروں گا۔ شیخ نے ہاں کر دی۔ الغرض ہر رات کو ایک قرآن ختم کرتا تھا شیخ ہر رات کو فرماتے کہ ایک ٹکیہ روٹی اور ایک پیالہ پانی اس کے حجرے میں بھیج دیا جائے۔ الغرض جب تراویح کی تیس راتیں گزر گئیں اور عید ہوئی تو عید کے روز شیخ نے اسے وداع کیا۔ جب وہ واپس چلے گئے تو ان کے حجرے کی چھان بین ہوئی اور وہ روٹی کی تیس کی تیس ٹکیاں موجود پائی گئیں۔ ہر رات کو بس پانی کا وہ ایک ہی کوزہ پیتے رہے!

اس کے بعد حکایت بیان فرمائی کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو فی رحمتہ اللہ علیہ رمضان کے مہینے میں ایک قرآن تو تیس راتوں میں تراویح کے اندر ختم کرتے اور ایک ختم ہر روز اور ایک ختم ہر رات۔ مجموعی طور پر رمضان کے مہینے میں اکٹھ ختم فرماتے ایک ختم تراویح میں اور تیس ختم دن کے وقت اور تیس ختم رات کو!

دسویں مجلس

اسی سال ماہ مبارک ذی الحجہ کی گیارہویں تاریخ منگل کو ایام تشریق (۸) ہونے کی وجہ

سے مخدوم جہانیاں کے آسمان جیسے آستان پر حاضری ہوئی تاکہ ملاقات کی نعمت حاصل ہو۔ جب قدم بوسی کی دولت میسر آگئی تو بندے سے مخاطب ہو کر فرمایا جمعہ کو عید کا دن تھا۔ تم نے کوئی چیز موسم کی تہنیت کی کہی ہو گی۔ بندے نے عرض کی آج سے چار پانچ دن پہلے نو روز (۹) تھا۔ بندے نے یہ شعر کہہ کر اس میں عید اور نور روز کا ایک ساتھ تذکرہ کیا تھا وہ اشعار پیش کئے۔

اس بات کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ شمس دبیر نے شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں اشعار پیش کئے جس میں شیخ کی مدح بھی بہت طویل تھی۔ انہوں نے پڑھنے کی اجازت چاہی۔ شیخ طیب اللہ تراہ نے اجازت دی کہ پڑھو۔ شمس دبیر نے کھڑے ہو کر شعر پڑھے۔ جب پڑھ چکے تو شیخ نور اللہ مرقدہ نے حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ۔ جب بیٹھ گئے تو حکم ہوا کہ پھر پڑھو۔ شمس نے پھر پڑھا۔ اس کے بعد شیخ قدس اللہ سرہ العزیز نے ہر شعر کے محاسن بیان فرمائے اور بعض جگہ اصلاح دی اور داد بھی دی چنانچہ شمس کا دل خوش ہو گیا اس درمیان خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے زبان مبارک سے فرمایا کہ مشائخ شعر کم ہی سنا کرتے ہیں خاص کر وہ شعر جو ان کی تعریف میں ہوں۔ شیخ کے احوال کا کمال دیکھو کہ شعر سننے بھی اور داد بھی دی! الغرض شعر سننے کے بعد پوچھا کہ کیا چاہتے ہو؟ شمس نے کہا کہ غربت ہے۔ بوڑھی ماں ہیں ان کی دیکھ بھال میں لگا رہتا ہوں۔ شیخ نے فرمایا جاؤ شکرانہ لے آؤ۔ اس درمیان خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے زبان مبارک سے ارشاد کیا کہ جس کام میں شیخ الاسلام کسی سے یہ فرمادیتے کہ جاؤ شکرانہ لے آؤ تو وہ کام ضرور ہو جایا کرتا تھا۔ الغرض شمس گیا اور چند جتیل (۱۰) لے آیا اس زمانے میں یگانہ جتیل چلتا تھا۔ لگ بھگ پچاس عدد جتیل لائے تھے۔ شیخ الاسلام قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا کہ ان کو تقسیم کرو۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ تقسیم ہوئی اور مجھے چار درہم ملے پھر شیخ نے دعا فرمائی تو شمس کو کشادگی میسر آئی اور وسائل پیدا ہو گئے۔ چنانچہ وہ سلطان غیاث الدین کے شہزادے کے ہاں دبیر (میر منشی یا چیف سیکرٹری) ہو گیا۔ لیکن جب اس کا کام بن گیا تو اگرچہ حضرت شیخ قدس اللہ سرہ العزیز انتقال فرما چکے تھے شیخ کے فرزندوں اور گھروالوں کی خدمت کی توفیق اس کو نہ ہوئی یا تو اسے خود خیال نہیں آیا کسی نے سمجھایا نہیں۔

اس کے بعد اس کے اخلاق اور خوش طبعی کا ذکر نکلا۔ بندے نے عرض کی کہ غلام کو

marfat.com

Marfat.com

ان سے قرابت کی نسبت حاصل ہے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے پوچھا کہ کیا کبھی تمہارا باہم ساتھ بھی رہا ہے بندے نے عرض کی جی ہاں جس سال سلطان غیاث الدین لکنوٹی گیا تھا۔ اس لشکر میں وہ اور میں کیا کشتی اور کیا خشکی راستے بھر ساتھ رہے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے پوچھا کہ کیا تمہارے درمیان تصوف کے معاملات میں بھی باہم تعاون رہا؟ بندے نے عرض کی جی ہاں اس کے بعد فرمایا کہ شمس نے قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”لوائح“ شیخ کبیر قدس اللہ سرہ العزیز (حضرت بابا فرید) سے پڑھی تھی۔ اس کے بعد حکایت بیان فرمائی میں اور شمس دبیر اور شیخ جمال الدین ہانسوی مطہم الرحمۃ ایک دفعہ ساتھ ساتھ شیخ کے پاس واپس آ رہے تھے اور کچھ منزلوں میں ساتھ رہے تھے۔ یہاں تک کہ ایک ایسے راستے پر پہنچے جہاں سے دو سڑکیں پھٹتی تھیں وہ سنام کی جانب جانا چاہتے تھے اور میں سرسی کی طرف۔ جب ہم نے وداع کر دیا تو شیخ جمال الدین شمس دبیر سے مخاطب ہوئے اور یہ مصرع پڑھا۔

اے یار قدیم راست میرو

ترجمہ:- اے پرانے دوست سیدھے جاؤ۔ اس وقت اس مصرعے نے بڑا مزہ دیا۔ ان کو بھی اور شیخ جمال الدین کو بھی اور مجھے بھی۔

گیارہویں مجلس

اسی سال ماہ ذی الحجہ کی انتیسویں تاریخ ہفتے کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی۔ اس روز بندے کو کسی قدر تشویش تھی اور یہ گمان تھا کہ کسی نے مجھ بیچارے کی برائی شیخ سے کی ہے۔ جب خدمت میں بیٹھنے کی دولت میسر آئی تو پہلی بات جو زبان مبارک سے ادا ہوئی یہ تھی کہ اگر کوئی کسی کے سامنے کسی کی بدی بیان کرتا ہے تو اس سننے والے کو اتنی عقل و تمیز ہے اور اتنا ضرور جانتا ہے کہ یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ یا اس میں کوئی غرض ہے۔ بندے نے جب یہ بات سنی تو بہت خوش ہوا اور عرض کی کہ خدمت گاروں کا اطمینان اسی بات پر تو ہے کہ مخدوم کا باطن حاکم ہے (فیصلہ کرنے والا ہے اس پر سب روشن ہے)

پھر اولیاء کے کشف و کرامات کا ذکر چھڑ گیا۔ اس ضمن میں شیخ سعد الدین حمویہ (۱۱) رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت بیان فرمائی کہ وہ بہت بڑے پیر تھے۔ شائد ان کے شہر کا فرمانروا ان

سے اعتقاد نہیں رکھتا تھا۔ ایک روز یہ ہوا کہ وہ بادشاہ شیخ کی خانقاہ کے دروازے سے گزرا اور ایک حاجب (اے ڈی سی) کو اندر بھیجا اور یہ لفظ کہا کہ اس صوفی بچہ کو باہر بلاؤ۔ ذرا میں بھی تو دیکھوں حاجب اندر آیا اور بادشاہ کا پیغام پہنچایا۔ شیخ نے اس کی بات کی طرف ذرا توجہ نہ کی اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ حاجب نے باہر آکر ساری کیفیت کہہ سنائی۔ بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور وہ شیخ کی خدمت میں آیا۔ شیخ نے اسے آتے ہوئے دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور خوشی ظاہر کی دونوں ساتھ بیٹھ گئے۔ وہاں قریب ہی ایک باغیچہ تھا۔ شیخ سعد الدین نے کچھ سیب لانے کا اشارہ کیا۔ جب سیب آگئے تو شیخ نے سیب کے ٹکڑے کئے اور بادشاہ اور وہ خود کھلنے لگے۔ شاید اس طباق میں ایک بڑا سیب بھی تھا۔ بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ اگر ان شیخ میں کرامت اور باطن کی صفائی ہے تو یہ سیب اٹھائیں گے اور مجھے عطا فرمائیں گے جیسے ہی یہ خیال بادشاہ کے دل میں آیا شیخ نے ہاتھ بڑھایا اور اس سیب کو اٹھالیا۔ اور بادشاہ سے مخاطب ہو کر بولے کہ ایک دفعہ میں سفر میں تھا ایک شہر میں پہنچا تو شہر کے دروازے پر مجمع دیکھا ایک مداری تماشا دکھا رہا تھا۔ اس مداری کے پاس ایک گدھا تھا اور اس گدھے کی آنکھیں کپڑے سے باندھ رکھی تھیں۔ ہاتھ میں انگوٹھی لے رکھی تھی۔ انگوٹھی اس نے تماشا دیکھنے والوں میں سے کسی کو دے دی پھر مجمع کی طرف رخ کر کے بولا کہ انگوٹھی جس کسی کے پاس ہے یہ گدھا بتائے گا۔ پھر یہ گدھا اسی طرح آنکھیں بندھے بندھے ان لوگوں کے حلقے میں گشت کرنے لگا اور ہر ایک کو سونگھتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ اس آدمی کے سامنے پہنچا جس کے پاس انگوٹھی تھی وہاں کھڑا ہو گیا اور ٹھہرا رہا۔ مداری آیا اور اس شخص سے انگوٹھی لے لی۔ الغرض شیخ سعد الدین حمویہ نے اس تقریر کے بعد بادشاہ سے کہا اگر آدمی کشف و کرامت سے کچھ بیان کرتا ہے تو اپنے آپ کو اس گدھے کے برابر ٹھہراتا ہے۔ اور اگر کچھ نہیں کہتا اور کرامت نہیں دکھاتا تو تمہارے دل میں خیال گزرتا ہے کہ اس شخص کے باطن میں صفائی نہیں ہے یہ کہا اور سیب اس کی طرف پھینک دیا۔

اس کے بعد شیخ سعد الدین کے انتقال اور شیخ سیف الدین باخرزی رحمۃ اللہ علیہما کی بزرگی کے بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ شیخ سعد الدین حمویہ کو ایک رات خواب میں دیکھایا گیا کہ جاؤ شیخ سیف الدین باخرزی کو دیکھو۔ جب شیخ سعد الدین بیدار ہوئے تو اپنے مقام سے روانہ ہو گئے۔ جس مقام پر وہ تھے وہاں سے شیخ سیف الدین باخرزی کی قیام گاہ کا فاصلہ

تین مہینے کے سفر کی دوری کا تھا۔ شیخ سیف الدین کو بھی خواب میں دکھایا گیا کہ شیخ سعد الدین حمویہ کو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں۔ الغرض جب شیخ سعد الدین نے تین مہینے کی مسافت طے کر لی اور شیخ سیف الدین تک پہنچنے کے لئے تین منزلیں رہ گئیں تو کسی کو شیخ سیف الدین کے پاس بھیجا اور کہلوایا کہ میں نے آپ کی زیارت کے لئے تین مہینے کی راہ طے کر لی ہے۔ آپ تین منزل میرا استقبال کرنے آئیے۔ جب یہ پیغام شیخ سیف الدین باخرزی (۱۲) کو ملا تو بولے وہ شخص بے کار ہے۔ مجھے نہ دیکھے۔ اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ شیخ سعد الدین جس جگہ ٹھہرے ہوئے تھے وہیں رحمت حق سے جا ملے اور شیخ سیف الدین باخرزی تک نہیں پہنچ سکے۔

اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے حکایت بیان فرمائی کہ شیخ بہاؤ الدین زکریا رحمتہ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے۔ میں نے ان سے سنا کہ ایک روز شیخ بہاؤ الدین اپنے گھر سے باہر نکلے اور بولے انا لله وانا اليه راجعون۔ (ہم اللہ کے لئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں) پوچھا گیا کہ کیا بات ہے؟ بولے کہ ابھی شیخ سعد الدین حمویہ نے انتقال فرمایا ہے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد تصدیق ہو گئی کہ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ پہلے شیخ سعد الدین حمویہ نے انتقال کیا ان کے تین سال بعد شیخ فرید الدین نے۔ رحمة الله عليهم اجمعين۔

بارہویں مجلس

محرم کے مہینے کی گیارہویں تاریخ (۱۵/۷) سات سو پندرہ ہجری جمعرات کو قدم بوسی کی سعادت تک رسائی ہوئی۔ ذکر آیا کہ دنیا کی تعریف (DEFINATION) کیا ہے یعنی کون سی چیز دنیا ہے۔ اور کون سی چیز دنیا نہیں ہے۔ ارشاد ہوا کہ ایک ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی دنیا ہے اور ایک ظاہر میں اور باطن میں دنیا نہیں ہے۔ اس کے بعد بیان فرمایا کہ جو صورت اور معنی میں دنیا ہے وہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو ضرورت سے زیادہ ہو دنیا ہے اور جو صورت اور معنی میں دنیا نہیں ہے وہ خلوص کے ساتھ طاعت ہے اور جو صورت میں دنیا نہیں ہے اور معنی کے اعتبار سے دنیا ہے وہ ایسی طاعت ہے جو ریاکاری سے ہو، کوئی فائدہ اٹھانے کے لئے اور جو

صوررت میں دنیا ہے مگر معنی میں دنیا نہیں ہے۔ وہ اپنی بیوی کا حق زوجیت ادا کرنا ہے یعنی اپنی بیوی سے اس نیت سے صحبت کرنا کہ اس کا حق ادا ہو۔ یہ فعل اگرچہ صورت کے اعتبار سے دنیا ہے۔ لیکن معنی کے اعتبار سے دنیا نہیں ہے۔

تیرہویں مجلس

اسی سال ماہ صفر (اللہ اسے کامیابی اور خیر کے ساتھ اختتام تک پہنچائے) کی پانچویں تاریخ ہفتے کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی۔ وظیفوں اور دعاؤں کا ذکر نکلا بندے سے پوچھا کہ اور اد میں کیا کیا پڑھ رہے ہو؟ بندے نے عرض کی کہ جو کچھ مخدوم کی زبان مبارک سے سن رکھا ہے۔ وہ پڑھتا ہوں۔ پانچوں وقت نماز کے بعد جو سورت آئی ہے وہ بھی پڑھتا ہوں نماز عصر کے بعد پانچ مرتبہ سورۃ نبا (عم - تسالون) اور وہ مقررہ سورتیں جو سنتوں کے لئے ارشاد ہوئی ہیں اور دونوں وقت مسبعت عشر اور سو دفعہ کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهَ الْمَلِكُ كَوْنِي خَدَا نَهِيں هے سوائے ايك خدا كے۔ وه ايك هے اور اس كا كوئي شريك نهين اسي كے لئے ملك هے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (اور اسي كے لئے تمام تعريفين هين اور وه هر چيز پر قادر هے) اس كے بعد فرمايا كه دس تسبيحات اور بهي هين جن ميں سے هر ايك كو سو بار پڑھيں تاكه هزار دفعه هو جائے اور اگر سو مرتبه نه پڑھ سكيں تو دس دس مرتبه پڑھيں تاكه مجموعي طور پر سو بار هو جائے۔ الغرض ان دس تسبيحوں ميں سے آٹھ بندے كو ياد ره گئيں اور وه تسبيحات يه هين اول لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهَ الْمَلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (كوئي خدا نهين سوائے ايك خدا كے۔ وه ايك هے اس كا كوئي شريك نهين۔ اسي كے لئے ملك هے اسي كے لئے تمام تعريفين هين وهي جلاتا هے وهي موت ديتا هے۔ وه ايسا زنده هے جس كو موت نهين۔ صاحب جلال اور صاحب اكرام هے اس كے هاتھ ساري خير و بركت هے وه هر چيز پر قادر هے) دوسري سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ (پاكي هے الله كے لئے اور سب تعريفين هين الله كے لئے كوئي خدا نهين هے سوائے الله كے۔ الله سب سے بڑا هے۔ الله كے سوانه كسي كو قدرت نه قوت هے وه اعلى هے وه بڑا

(ہے) تیری سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ اسْتَفِيزُ اللَّهُ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ (پاکی ہے اللہ کے لئے سب تعریفیں ہیں اللہ کے لئے جو اعلیٰ ہے جو بڑا ہے جس کے لئے تعریفیں ہیں۔ میں اللہ کی بخشش چاہتا ہوں سب گناہوں سے اور اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں)۔ چوتھی اسْتَفِيزُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَسْأَلُ التَّوْبَةَ اسْتَفِيزُ اللَّهُ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ عَمْدًا أَوْ خَطَاءً سِرًّا أَوْ عَلَانِيَةً وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔ (میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے جس کے سوا کوئی خدا نہیں جو حسی ہے جو قیوم ہے اس کے آگے توبہ کرتا ہوں اللہ سے معافی مانگتا ہوں سب گناہوں کی چاہے وہ جان بوجھ کر ہوئے ہوں چاہے انجانے میں۔ ظاہر ہوئے ہوں یا چھپ کر۔ اللہ کے آگے توبہ کرتا ہوں) پانچویں سُبْحَانَ اللَّهِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ (پاک ہے وہ بادشاہ وہ قدوس وہ سیوح جو ہمارا بھی رب ہے اور فرشتوں اور روح کا بھی رب ہے) چھٹی۔ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا رَادَّ لِمَا قَضَيْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدَمِ نِكَ الْجَد۔ (یا اللہ جس کو تو دے اس کے لئے کوئی روکنے والا نہیں اور کسی کی کوشش تیرے مقابلے میں کامیاب نہیں اس کو کوئی دینے والا نہیں۔ اور جو فیصلہ تو فرما دے اس کو رو کرنے والا کوئی نہیں اور کسی کی کوشش تیرے مقابلے میں کامیاب نہیں۔ ساتویں اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدِي وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ (یا اللہ مجھے بخش دے اور میرے والدین کو اور سب مومن عورتوں کو اور سب مسلم مردوں کو اور سب مسلم عورتوں کو الْآحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ) (چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ) آٹھویں۔ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَصَلِّ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ (یا اللہ درود بھیج محمد پر اور آل محمد پر یا اللہ ان کو برکت دے اور درود بھیج سب انبیاء پر اور رسولوں پر) دو سری دو تسبیحات جو یاد نہیں رہیں تھیں یہ ہیں۔ نوس اعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبَّ أَنْ يَحْضُرُونِ (پناہ چاہتا ہوں اللہ کی جو سننے والا جاننے والا ہے۔ شیطان رجم سے تیری پناہ چاہتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ شیاطین میرے پاس آئیں۔ دسویں بِسْمِ اللَّهِ خَيْرٌ

الْأَسْمَاءِ بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَحْضُرُ مَعَ اسْمِهِ
 شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (اس اللہ کے نام سے
 شروع جو ناموں میں بہترین نام ہے اس اللہ کے نام سے شروع جو آسمانوں اور زمین کا پالنہار
 ہے اس اللہ کے نام سے شروع جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی چاہے وہ
 زمین میں ہو۔ چاہے آسمان میں اور جو سننے والا جاننے والا ہے) نماز کے بعد فرمایا کہ جس روز
 شیخ الاسلام فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز نے ان دس تسمیحات کے پڑھنے کا حکم فرمایا
 بہت خوش تھے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں خزانے بخش دیئے ہیں۔ ان اعلیٰ تسمیحات کو
 پابندی سے پڑھتے رہنا۔

چودھویں مجلس

اسی سال ماہ صفر کی ستائیسویں تاریخ پیر کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی عشق و عقل کا
 ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ ان کے درمیان تضاد ہے۔ علماء اہل عقل ہیں اور درویش لوگ اہل
 عشق علماء کی عقل عشق پر غالب ہے اور اس قوم کا عشق عقل پر غالب ہے مگر انبیاء میں دونوں
 کیفیات ہوتی ہیں۔ اس کے بعد غلبہ عشق کی صفت میں یہ شعر زبان مبارک سے پڑھا۔
 عقل را با عشق گوشی نیست زودش پنبہ کن
 تاچہ خواہی کرد آن اشتر دل جولاہ را
 عقل کے ہاں عشق کی کوئی شنوائی نہیں جلدی سے اس کے کان میں روئی ٹھونس دو
 اس اونٹ نے جولاہ کے دل کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہا تھا۔

اسی معنی کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ علی کھوکھری نامی ایک شخص ملتان میں
 تھے وہ ایسے کسی آدمی سے اعتقاد نہیں رکھتے جس کے پاس عشق و درد نہ ہوتا۔ چاہے وہ کتنا
 ہی زاہد اور عبادت گزار کیوں نہ ہو۔ اور کہتے کہ فلاں آدمی کچھ نہیں ہے۔ اس کے پاس
 اشک تو ہے نہیں۔ اس کی زبان سے صحیح لفظ تک نہ نکلتا تھا۔ عشق کو ”اشک“ کہتا تھا۔ اسی
 بات کی مناسبت سے یہ بھی فرمایا کہ یحییٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ محبت کا ایک
 ذرہ تمام انسانوں اور پر یوں کی طاعت سے افضل ہے۔ اسی کے مناسب حال یہ بات فرمائی کہ
 شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز بار بار کسی کو دعا دیتے کہ خدائے عزوجل تجھے درد

عطا فرمائے وہ شخص حیران ہوتا کہ یہ کیا دعا ہے۔ اب پتہ چلا ہے کہ وہ کیا دعا تھی (۱۳)۔ پھر شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت نقلی۔ ارشاد ہوا کہ جس زمانے میں وہ بدایوں پہنچے۔ ایک روز گھر کی دہلیز پر بیٹھے تھے کہ ایک وہی فروش وہی کی منگنی سر پر رکھے اس گھر کے سامنے سے گزرا اور یہ وہی بیچنے والا مواسی کارہنے والا تھا جو بدایوں کے قریب ہے اس علاقے کو کٹھیر کہتے تھے۔ اور وہاں راہزن بہت ہوتے تھے اور یہ وہی فروش بھی ان راستہ لوٹنے والوں میں سے ایک تھا الغرض جب اس کی نظر شیخ جلال الدین کے چہرہ مبارک پر پڑی تو اس پہلی ملاقات ہی نے اس کے اندر کی کایا پلٹ دی۔ جب اس نے غور سے شیخ کا چہرہ دیکھا تو بولا کہ دین محمد علیہ السلام میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں! پھر فوراً ایمان لے آیا۔ شیخ نے اس کا نام علی رکھا۔ جب وہ مسلمان ہو گیا تو گھر گیا اور اسی وقت ایک لاکھ جتیل شیخ کی خدمت میں لے کر آیا۔ شیخ نے انہیں قبول فرمایا اور بولے کہ اس ساری نقدی کی نگرانی تو ہی کر۔ جہاں میں کہوں وہاں خرچ کر دو بجز پھر علی الحساب اس نقدی میں سے ہر ایک کو عطا کرنا شروع کیا۔ کسی کے لئے سو درہم کا حکم فرماتے کسی کے لئے پچاس درہم کا۔ کسی کو کم کسی کو زیادہ اور کسی کو کم بھی دلواتے تو پانچ جیتل دلواتے۔ شیخ کا کم سے کم عطیہ پانچ جیتل ہوتا۔ پانچ جیتل سے کم کسی کے لئے حکم نہ فرماتے۔ آخر کار کچھ مدت میں یہ ساری رقم خرچ ہو گئی۔ صرف ایک درہم بچا یہ علی کہتے تھے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میرے پاس ایک درہم سے زیادہ نہیں بچا ہے اور شیخ کی کم سے کم بخشش پانچ درہم ہے۔ اگر کسی کو کچھ دینا چاہیں گے تو میں کیا کروں گا؟ اسی فکر میں تھا کہ کوئی مانگنے والا آیا اور سوال کیا۔ شیخ نے مجھ سے کہا اس کو ایک درہم دے دو!

شیخ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب میں حکایت بیان فرمائی کہ جب انہوں نے بدایوں میں لکھنوتی (بنگال) کا ارادہ فرمایا تو یہ علی بھی ان کے پیچھے روانہ ہوا شیخ نے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ! علی بولے کہ میں کس کے پاس واپس جاؤں میں کس کو جانوں میرا آپ کے سوا اور ہے کون؟ کچھ دور چلنے کے بعد شیخ نے فرمایا کہ تم واپس جاؤ اور علی نے دوبارہ عرض کی کہ میرے پیر اور مخدوم تو آپ ہیں۔ آپ کے بغیر میں یہاں کیا کروں گا! شیخ بولے کہ واپس جاؤ یہ شہر تمہاری حمایت میں ہے!

پھر ایسے عبادت گزاروں کا ذکر آیا جو بڑی طاعت کرتے ہیں اور ان کے پاس باطن کا

شغل اتنا نہیں ہو سکتا۔ ارشلو ہوا کہ لوگوں کی چار قسمیں ہیں۔ بعض ان میں سے ایسے ہیں جن کا ظاہر آراستہ ہے اور باطن خراب ہے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ ان کا باطن آراستہ ہے اور ظاہر خراب ہے۔ اور بعض کا ظاہر باطن دونوں خراب ہے اور بعض کا ظاہر باطن دونوں آراستہ ہیں۔ وہ گروہ کہ جس کا ظاہر آراستہ ہے اور باطن خراب وہ ایسے عیالوت گزاروں کی قوم سے ہیں جو طاعت بست کرتے ہیں۔ لیکن ان کا دل دنیا میں مشغول ہوتا ہے۔ اور وہ گروہ جن کا باطن آراستہ ہوتا ہے اور ظاہر خراب ایسے دیوانے مجذوب ہیں کہ جو اندر سے مشغول توجہ ہوتے ہیں اور ظاہر میں کوئی سروسلان نہیں رکھتے اور جس گروہ کا ظاہر و باطن خراب ہوتا ہے وہ عوام ہیں اور وہ گروہ کہ جس کا ظاہر بھی آراستہ ہوتا ہے اور باطن بھی وہ مشلح ہیں!

پندرہویں مجلس

اسی سال ماہ ربیع الاول کی بائیسویں تاریخ جمعرات کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی۔ ارشلو ہوا کہ راہ حق میں جس لباس میں بھی ہوں داخل ہو جانا چاہئے امید ہے کہ انجام درست ہو جائے لگاس معنی کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ کسی درویش کی نظر ارشلو کی لڑکی پر پڑی۔ بلو شلو کی لڑکی بھی اس کی طرف مائل ہوئی اور دونوں کے درمیان موشتہ پیدا ہو گیا۔ بلو شلو کی لڑکی نے کسی سے درویش کے پاس کھلوا بھیجا کہ تم درویش آدمی ہو مجھ سے تمہارا مناسبت و شوار نظر آتا ہے۔ البتہ ایک طریقہ ہے۔ اگر یہ کر لو تو امید ہے میں تم تک پہنچ جاؤں۔ اور وہ طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو ایک عیالوت گزار آدمی بنا لو اور کسی مسجد کو نمکنہ بنا کر طاعت و عیالوت میں لگ جاؤ۔ جب تمہاری شہرت زہد اور پارسائی سے ہو جائے تو میں اپنے بپ سے اجازت لے کر رکت حاصل کرنے کی رسم کے طور پر تمہاری زیارت کے لئے آجاؤں گی اس درویش نے اس اشارے کے بموجب ایسا ہی کیا۔ ایک مسجد کا پندرہویں اور طاعت و خلوت میں نگار بند جب ذوق طاعت اس کو حاصل ہوا تو اس نے پوری طرح اپنا دل حق تعالیٰ سے جوڑ لیا۔ اس کا چہرہ چالوگوں کی زبانوں پر عام ہو گیا اور بلو شلو کی بیٹی بپ سے اجازت لے کر اس کی زیارت کو آئی۔ جب وہ پہنچی تو اگرچہ کہ درویش بھی وہی تھا اور اس کا حسن و جمال بھی وہی تھا لیکن اس لڑکی نے اس میں کسی قسم کی تحریک اور اپنی

طرف جھکاؤ نہیں دیکھا تو بولی کہ میں نے ہی تو تجھے یہ ترکیب سکھائی تھی اب تجھے کیا ہو گیا ہے کہ میری طرف ذرا التفات نہیں کرتا ہر چند اس بارے میں زور ڈال کر کہا۔ مگر درویش یہی کتا رہا کہ تو ہے کون؟ میں تجھے کیا جانوں میری تجھ سے کیا شناسائی؟ اسی طرح اس سے بے رخی برتا رہا اور مشغول بحق ہو گیا۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر جب اس بات پر پہنچے تو آنکھوں میں آنسو بھرا لائے اور ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ ذوق میسر آجائے وہ غیر سے التفات کس طرح ظاہر کر سکتا ہے۔

اسی مناسبت سے یہ حکایت بیان فرمائی کہ شیخ عبداللہ مبارک کو جوانی کے زمانے میں ایک عورت سے محبت تھی۔ ایک رات اس کی دیوار کے نیچے آئے ہوئے تھے اور اس عورت نے بھی کھڑکی سے سر باہر نکال رکھا تھا اور دونوں بات چیت اور راز و نیاز میں مشغول تھے شروع رات سے آخر رات تک اسی طرح باہم گفتگو کرتے رہے۔ یہاں تک کہ صبح کی اذان کی آواز آئی۔ عبداللہ سمجھے کہ یہ نماز عشاء کی اذان ہے۔ جب غور سے دیکھا تو صبح ہو چکی تھی۔ اسی درمیان ایک ہاتف نے آواز دی کہ اے عبداللہ ایک عورت کے عشق میں شروع رات سے آخر رات تک جاگتے رہے۔ کسی رات حق تعالیٰ کے لئے بھی اس طرح بیدار رہے ہو؟ عبداللہ نے یہ بات سنی تو اپنے اس کام سے توبہ کی اور پوری طرح مشغول بحق ہو گئے۔ ان کی توبہ کا سبب یہ بنا اسی درمیان کھانا سامنے لگایا گیا۔ ایک شخص آیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا۔ اس مناسبت سے خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ شیخ ابوالقاسم نصر آبادی جو ابو سعید ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے پیر تھے اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے کھانا کھانے میں مشغول تھے۔ امام الحرمین جو امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے تشریف لائے اور سلام کیا اور آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شیخ الاسلام بولے کہ قاعدہ یہی ہے کہ اگر کوئی ایسے مجمع میں پہنچے جو کھانا کھانے میں مشغول ہو تو آنے والے کو چاہئے کہ سلام نہ کرے۔ بس آکر بیٹھ جائے اور جب کھانے سے فارغ ہو جائیں اور ہاتھ دھولیں اس وقت وہ کھڑا ہو اور سلام کرے۔ امام الحرمین نے کہا کہ یہ بات تم کس حوالے سے کہتے ہو عقل سے یا نقل (یعنی قرآن و حدیث اور کسی کتابی حوالے) سے؟ ابوالقاسم نے جواب دیا کہ از روئے عقل کہتا ہوں۔ کیوں کہ جو بھی کھانا کھایا جاتا ہے۔ وہ طاعت کی طاقت حاصل کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ پس جو شخص اس نیت سے کھانے میں مشغول ہو وہ گویا عین طاعت کے

عمل میں ہوتا ہے۔ لہذا ایسا شخص جو طاعت میں مشغول ہو مثلاً نماز پڑھ رہا ہو۔ علیک (سلیک) کس طرح کر سکتا ہے حاضرین میں سے کسی شخص نے پوچھا کہ ایک ہندو ہے جو کلمہ پڑھتا ہے اور خدا کی وحدانیت کا قائل ہے اور رسول کی رسالت کا بھی۔ لیکن جب مسلمان لوگ آتے ہیں تو چپ رہتا ہے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کرتا اس کی عاقبت کیسی ہوگی؟ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا اس کا یہ معاملہ حق تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ حق تعالیٰ اس بات کے بارے میں جو بھی فیصلہ فرمائے۔ چاہے تو معاف فرمادے چاہے تو عذاب دے۔ اس بات کی مناسبت سے فرمایا کہ بعض ہندو صاحبان جانتے ہیں اسلام حق ہے مگر مسلمان نہیں ہوتے۔

یہاں سے حضرت ابو طالب کی حکایت نکلی۔ ارشاد فرمایا کہ جب وہ بیمار ہوئے تو مصطفیٰ علیہ السلام ان کے قریب تشریف لے گئے۔ اور فرمایا کہ آپ ایک دفعہ حق تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیں چاہے زبان سے چاہے صدق دل سے تاکہ میں خدا کے سامنے دلیل کے طور پر عرض کروں کہ الہی وہ ایمان لے آئے تھے۔ ہر چند رسول علیہ السلام نے یہ بات کہی۔ لیکن کچھ اثر نہ ہوا اسی طرح کفر کی حالت میں انتقال کیا۔ چنانچہ امیر المومنین علیؑ نے ان کے انتقال کی خبر رسول علیہ السلام کو ان الفاظ میں سنائی عمک الضال مات۔ یعنی آپ کے گمراہ چچانے وفات پائی! اس کے بعد رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں غسل دیں اور کفن میں پیشیں اور بے لحد کی قبر کھودیں اور ان کو اوپر سے قبر میں ڈال دیں یعنی رواجی تدفین نہ ہو۔

سولھویں مجلس

اسی سال جمادی الاولیٰ کی نویں تاریخ منگل کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی اس گروہ کی حکایت بیان فرمائی جو خراج اور جزیہ اور کھیتی کالگان وصول کرنے میں خلقت پر زیادتی کرتا ہے۔

اس درمیان فرمایا کہ اب سے پہلے لاہور کی حدود میں ایک گاؤں تھا اس گاؤں میں کوئی درویش رہتا تھا وہ کھیتی کرتا اور اس روزگار کے ذریعے گزر بسر کرتا۔ کوئی شخص بھی اس سے کچھ نہ مانگتا پھر ایک دفعہ کوئی نیا شخص (تحصیلدار یا تھانیدار) مقرر ہوا۔ اس نے اس درویش سے حصہ مانگنا شروع کیا اور کہا کہ تجھے کھیتی کرتے اتنے سال ہو گئے مگر ذرا بھی حصہ نہیں دیتا اور غلہ اٹھا کر لے جاتا ہے یا تو گزشتہ سالوں کا جزیہ دے یا کوئی کرامت دکھا درویش بولا کرامت کیا ہوتی ہے؟ میں تو ایک مسکین آدمی ہوں۔ شخص نے ضد پکڑ لی کہ تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ یا تو اتنے سال کالگان دے یا کوئی کرامت دکھا اس وقت تجھے چھوڑوں گا۔ درویش زچ ہو گیا۔ آپ ہی آپ کچھ سوچا پھر شخص کی طرف رخ کر کے بولا کہ تم جو کرامت چاہتے ہو بتاؤ۔ شاید اس گاؤں کے پاس ندی بہتی تھی۔ شخص بولا کہ اگر تمہارے پاس کرامت ہے تو پانی پر چلو۔ درویش نے پانی پر قدم رکھا اور جس طرح زمین پر سے گزرتے ہیں گزر گیا۔ جب پار اتر گیا تو طلاح سے واپس آنے کے لئے کشتی مانگی۔ اس سے کہا گیا کہ جس طرح گئے تھے اسی طرح واپس نہیں آجاتے۔ بولا نہیں۔ اس طرح نفس موٹا ہو جائے اور یہ گھمنڈ کرے گا کہ میں بھی کچھ ہو گیا ہوں!

پھر کھانا کھلانے اور جو کچھ میسر ہو اس سے مہمانوں کی خاطر تواضع کا ذکر آیا ارشاد فرمایا کہ حدیث میں ہے۔ مَنْ نَارَ حَيًّا وَلَمْ يَذُقْ مِنْهُ شَيْئًا فَكَأَنَّمَا زَارَ مَيْتًا۔ جس نے کسی زندہ کی زیارت کی اور اس کے ہاں کی کوئی چیز نہیں چکھی تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے کسی مردہ کی زیارت کی۔ یہاں سے شیخ بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت نکلی کہ ان کے یہاں یہ معاملہ نہیں تھا۔ مخلوق ان کے ہاں آتی جاتی رہتی کھانے کی کوئی چیز وہاں نہ ہوتی۔ ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ یہ حدیث رسول ﷺ ہے کہ مَنْ نَارَ حَيًّا وَلَمْ يَذُقْ مِنْهُ شَيْئًا فَكَأَنَّمَا زَارَ مَيْتًا۔ شیخ بولے کہ ہاں! اس سوال کرنے والے نے کہا کہ پھر

آپ اس حدیث پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ شیخ نے جواب دیا کہ لوگ اس حدیث کے معنی نہیں جانتے۔ غلق کی دو قسمیں ہیں۔ عوام ہیں اور خواص ہیں۔ مجھے عوام سے کچھ کام نہیں۔ البتہ خواص جب آتے ہیں تو میں خدا اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے سلوک کی باتیں اور اس طرح کی دوسری چیزیں ان کو بتاتا ہوں اور ان کو فائدہ ہوتا ہے۔

اس بات کی مناسبت سے خواجہ ذکرا اللہ بالخیر نے زبان مبارک سے فرمایا کہ رسول علیہ السلام کے اصحاب جب حضرت رسالت کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ضرور کچھ نہ کچھ کھاتے پھر واپس جاتے۔ روٹی یا کھجور یا دو سری کوئی چیز جب تک کھانا لیتے واپس نہ جاتے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ شیخ بدرالدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا قاعدہ تھا کہ اگر ان کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا تو کہتے کہ پانی ہی پیش کر دیں!

یہاں سے شیخ بہاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر نکلا۔ حکایت بیان فرمائی کہ ایک صاحب تھے جنہیں عبداللہ رومی کہتے تھے وہ شیخ بہاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور بولے کہ میں ایک دفعہ شیخ شہاب الدین سروردی قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں تھا اور میں نے سماع کیا تھا۔ شیخ بہاؤ الدین نے کہا کہ جب شیخ شہاب الدین نے سماع سنا ہے تو ذکر کیا کو بھی سنا چاہئے۔ پھر ان عبداللہ صاحب کو رات تک روک لیا جب رات ہوئی تو کسی سے کہا کہ عبداللہ کو حجرے میں لے جاؤ اور ان سے ایک سنگی کو بھی اس طرح کہ تیسرا کوئی نہ ہو۔ بس انہیں دو کو حجرے میں لے جانا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ ایسا ہی کیا گیا مجھے اور میرے ایک ساتھی کو حجرے میں لے جایا گیا۔ جب رات ہو گئی اور عشاء کی نماز پڑھی جا چکی اور شیخ اوراد سے فارغ ہو کر حجرے میں تشریف لے آئے تو بس اکیلے ہم دونوں تھے اور شیخ۔ اور کوئی نہیں تھا۔ شیخ بیٹھ گئے اور پھر اوراد میں مشغول ہو گئے۔ آدھے پارے کے قریب تلاوت کی۔ اس کے بعد حجرے کے دروازے میں کنڈی لگادی اور مجھ سے کہا کہ کچھ کھو میں نے سماع شروع کیا۔ کچھ دیر بعد شیخ میں جنبش اور حرکت پیدا ہوئی شیخ کھڑے ہو گئے اور چراغ بجھا دیا۔ حجرے میں اندھیرا ہو گیا۔ ہم اسی طرح گاتے رہے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شیخ رقص کر رہے ہیں اور جب میرے پاس آتے ہیں تو ان کا دامن نظر آتا ہے اور بس اتنا پتہ چلتا ہے کہ شیخ جنبش اور حرکت میں ہیں لیکن حجرہ چونکہ تاریک تھا اس لئے یہ پتا نہیں چلتا تھا کہ تال پر (یہ جنبش اور حرکت) ہے یا بے تال۔ الغرض جب سماع ہو چکا تو شیخ نے دروازہ کھول دیا اور

اپنی جگہ تشریف لے گئے میں اور میرا سگت کرنے والا ساتھی وہیں بیٹھے رہے۔ نہ ہمیں کھانا دیا گیا نہ شربت ایساں تک کہ رات گزر گئی اور دن نکل آیا جب دن نکلا تو کوئی خادم آیا اور ایک مہین کپڑا اور بیس تنگے (سکہ) لے کر آیا جو مجھے دیئے اور کہا کہ شیخ نے بھجوائے ہیں یہ لو اور واپس سدھا روا

یہ حکایت بیان فرماتے کے بعد خواجہ ذکریا اللہ بالخیر نے فرمایا یہی عبد اللہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں آیا اور یہ قصہ سنایا۔ کچھ عرصے بعد ان عبد اللہ نے پھر ملتان جانے کا ارادہ کیا۔ شیخ الاسلام فرید الدین نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں آکر عرض گزار ہوئے کہ میرا ارادہ ملتان جانے کا ہے اور راستے میں بڑا خطرہ ہے۔ دعا فرمائیے کہ میں سلامتی سے ملتان پہنچوں۔ شیخ نے فرمایا کہ یہاں سے فلاں جگہ تک جو اتنے کوس ہے اور جہاں تالاب واقع ہے میری حد ہے۔ وہاں تک سلامتی سے پہنچو گے اور وہاں سے ملتان تک شیخ بہاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ کا علاقہ (ملمد رانی) ہے یہ عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات شیخ سے سنی اور روانہ ہوا اور مذکورہ تالاب کے قریب پہنچ گیا۔ بتایا گیا کہ وہاں ایک دھاڑ (لوٹ مار کرنے والے۔ حملہ آور) آرہی ہے یعنی رہزनों نے حملے کے لئے تیاری کر رکھی ہے۔ مجھے شیخ کی بات یاد آگئی بے کھٹکے چلتا چلا گیا حق تعالیٰ نے ان رہزनों کو اس راستے سے دور جا ڈالا اور وہ راستہ بھول گئے۔ میں سلامتی سے اس تالاب تک پہنچ گیا وہاں پہنچ کر وضو کیا اور دو رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد حضرت شیخ بہاؤ الدین کو یاد کیا اور کہا کہ جہاں تک شیخ فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی حد تھی سلامتی سے آگیا ہوں یہاں سے ملتان تک آپ کی حد ہے۔ اب آپ جانیں عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں اس تالاب سے روانہ ہو گیا مجھے کچھ گزند نہیں پہنچا اور سلامتی کے ساتھ ملتان آگیا۔ جب شیخ بہاؤ الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں پہنچا تو میں ایک گلیم (کپلی) اوڑھے ہوئے تھا۔ جب شیخ نے مجھے گلیم اوڑھے دیکھا تو ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیا اوڑھ رکھا ہے۔ یہ شیطان کا لباس ہے۔ اس طرح کی باتیں کرتے رہے مجھے بڑا غصہ آیا اور میں نے کہا کہ اگر میں نے گلیم اوڑھ لی تو کیا غضب ہو گیا۔ لوگوں کے پاس جو اس قدر سونا چاندی دولت اور ذخیرہ ہے میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا اگر میرے پاس گلیم ہے تو اس پر اتنا کہنا سننا کیوں؟ شیخ نے جب دیکھا کہ میں یکایک آپے سے باہر ہو گیا ہوں تو مجھ سے مخاطب ہو کر بولے اتنی زبان کیوں چلاتے ہو! وہ تالاب کے کنارے والی

بات تو یاد کرو۔ زکریا نے تمہارے بارے میں آخر کیا کمی کی؟ (یعنی حفاظت سے پہنچا دیا)

سترہویں مجلس

اسی سال ماہ جمادی الاخر کی سولہویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ غصے اور شہوت کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ جس طرح شہوت بے موقع حرام ہے غصہ بھی بے موقع حرام ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک آدمی دوسرے پر غصہ کرتا ہے اور وہ برداشت کر لیتا ہے تو خوبی اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کر لیتا ہے۔ اس شخص کو نہیں جو غصہ کرتا ہے۔

پھر اس بات کا ذکر آیا کہ اگر کوئی شخص کسی کو نصیحت کرتا ہے تو اس کو چاہئے کہ سب کے سامنے نہ کرے کہ یہ نصیحت (رسوائی) ہو جاتی ہے۔ ملامت اور نصیحت جو بھی کرنی ہو وہ اکیلے میں کرے۔ سب کے سامنے نہیں۔

اس موقع پر حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ ابو یوسف قاضی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے اور مریدوں کو سبق املا کر رہے تھے۔ سر پر صوفیانہ کلاہ تھی اور وہ کلاہ سفید نہیں تھی سیاہ تھی اور لاطیہ نہیں تھی ناشزہ تھی۔ لاطیہ وہ ہوتی ہے جو سر سے چپکی ہوئی ہوتی ہے۔ اور ناشزہ وہ ہوتی ہے جو سر سے کسی قدر بلند اٹھی ہوتی ہے۔ الغرض اس دوران ایک شخص آیا اور ابو یوسف قاضی سے سوال کیا کہ کیا پیغمبر علیہ السلام نے اس قسم کی کلاہ سر پر رکھی ہے؟ ابو یوسف بولے کہ ہاں! پھر اس سائل نے پوچھا کہ سفید ٹوپی پہنی ہے یا کالی؟ ابو یوسف نے جواب دیا کہ سفید! اس سوال کرنے والے نے پھر پوچھا کہ پیغمبر علیہ السلام نے سر پر لاطیہ کلاہ پہنی ہے یا ناشزہ؟ ابو یوسف نے کہا کہ لاطیہ۔ سائل نے کہا کہ تم نے سیاہ اور ناشزہ کلاہ سر پر رکھی ہے اس صورت میں تم نے دو طرح سنت رسول ﷺ کے خلاف عمل کیا ہے اور امالی جو ان کی حدیثیں ہیں ان کو کس طرح املا کر رہے ہو؟ ابو یوسف قاضی کو بڑی اذیت ہوئی اس سوال کرنے والے سے کہنے لگے کہ جو بات تم نے مجھ سے کہی ہے وہ دو حال سے خالی نہیں ہے یا تو تم نے برائے حق کہی ہے یا مجھے ایذا پہنچانے کے لئے کہی ہے اگر برائے حق کہی ہے تو چونکہ تم نے سب کے سامنے اسے کہا ہے اس لئے تمہیں اس سے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور اگر مجھے ایذا دینے کے لئے کہی ہے تو تم پر افسوس ہے۔ تم پر افسوس ہے۔ تم پر افسوس

اٹھارویں مجلس

اسی سال ماہ رجب کی ساتویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی توبہ کا ذکر نکلا ارشاد ہوا کہ توبہ کی تین قسمیں ہیں۔ حال ماضی اور مستقبل حال توبہ ہے کہ پشیمان ہو یعنی جو گناہ کیا ہے اس پر ندامت ظاہر کرے۔ ماضی یہ کہ دشمنوں کو خوش کرے اور اگر کسی نے کسی کے دس درہم غصب کئے ہیں اور صرف اتنا کہتا ہے کہ توبہ توبہ توبہ توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ توبہ ہوگی کہ دس درہم اس کو واپس دے دے اور اس کو خوش کر دے اس وقت اس کی توبہ توبہ ہوگی۔ اور اگر کسی کو برا کہا ہے تو اس کے پاس جائے اور معذرت کرے اور اس سے معافی چاہے اور اس کو راضی کرے اور اگر جس شخص کو برا کہا ہے اور وہ مرچکا ہے تو کیا کرے؟ یہ کہ جس قدر اس کو اس کی زندگی میں برا کہا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کو اتنا ہی اچھا کرے اور اس کو بھلائی کے ساتھ یاد کرے اور اگر کسی کو قتل کر دیا ہو اور اس کا کوئی ولی نہیں ہے تو پھر کیا کرے؟ غلام آزاد کرے یعنی مردے کو زندہ تو کر نہیں سکتے۔ اس لئے غلام آزاد کرے جو شخص غلام کو آزاد کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے مردہ کو زندہ کیا۔ اور اگر کسی نے غیر کی منکوہ یا مملوکہ کے ساتھ زنا کیا تھا وہ کیا کرے؟ اس کے بارے میں کسی جگہ یہ حکم نہیں ہے کہ شوہر اور مالک کے پاس جا کر معذرت کرے؟ پھر کیا کرے؟ خدا کی طرف رجوع ہو۔ اسی معنی کی مناسبت سے فرمایا کہ شراب پینے والا شراب سے توبہ کرے تو پھر کیا کرے۔ لطیف شربت اور ٹھنڈا پانی خدا کی مخلوق کو پلائے۔ اس بات کا مقصد یہ ہے کہ توبہ کے بارے میں معذرت کرنا ہر گناہ کی مناسبت ہی سے آیا ہے دوسری توبہ کی کیفیت جو ماضی کی قسم سے تھی وہی تھی۔ جس کو لکھا جا چکا ہے۔ توبہ کی تیسری قسم جو مستقبل کی صفت رکھتی ہے یہ ہے کہ نیت کرے کہ جو گناہ کیا تھا آئندہ نہیں کرے گا۔ پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ جب میں شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز سے وابستہ ہوا اور توبہ کی تو چند بار زبان مبارک سے یہی فرمایا کہ دشمنوں کو خوش کرنا چاہئے اور حق دار لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے سلسلے میں غلو فرمایا۔ مجھے یاد آیا کہ مجھے کسی کے بیس جیتل ادھار دینے ہیں اور ایک کتاب کسی سے عارضی طور پر مانگ کر لی تھی۔ اور وہ کتاب میرے پاس سے گم ہو گئی تھی۔ جس وقت شیخ کبیر

نور اللہ مرقدہ نے دشمنوں کو خوش کرنے کے سلسلے میں تاکید سے ذکر فرمایا میں سمجھ گیا کہ مخدوم چھپی ہوئی باتوں سے واقفیت رکھنے والے ہیں۔ دل میں ٹھان لی کہ اب کے دہلی جاؤں گا تو ان لوگوں کو خوش کروں گا۔ جب اجودھن سے دہلی آیا تو جس شخص کے بیس جیتل دینے تھے وہ بزاز (کپڑے والا) تھا اس سے میں نے کپڑا لیا تھا۔ مگر کسی وقت بھی بیس جیتل اکٹھے جمع نہیں ہوتے تھے کہ اس کو پہنچاؤں۔ تنگ دستی کا عالم تھا کبھی پانچ جیتل ہاتھ آتے کبھی دس ایک دفعہ ایسا ہوا کہ دس جیتل ہاتھ آئے میں نے اس بزاز کے گھر پر آکر آواز دی۔ وہ گھر سے باہر آیا۔ میں نے اس سے کہا تمہارے بیس جیتل میرے ذمے ہیں۔ اس کا موقع ہی نہیں ہوتا کہ ایک مشت ادا کروں۔ یہ دس جیتل لایا ہوں یہ لے لو۔ باقی بھی ان شاء اللہ تعالیٰ پہنچا دوں گا۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی تو بولا کہ اچھا شیخ کے پاس آرہے ہو! پھر وہ دس جیتل مجھ سے لے لئے اور کہنے لگا کہ باقی کے دس جیتل میں نے تمہیں بخشے! اس کے بعد اس شخص کے پاس گیا جس سے کتاب لایا تھا، جب اس سے ملا تو پوچھنے لگا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا اے خواجہ میں ایک کتاب تم سے عاریتا لے گیا تھا۔ وہ میرے پاس سے گم ہو گئی ہے اب میں اس کی ایسی ہی کاپی حاصل کروں گا۔ جیسی تمہاری کتاب تھی۔ دوسری کتاب نقل کرا کر تمہیں پہنچا دوں گا۔ جب اس شخص نے یہ بات سنی تو بولا کہ جی ہاں! جہاں سے آپ آرہے ہیں یہ اسی کا پھل ہے! اس کے بعد کہنے لگا کہ میں نے وہ کتاب آپ کو بخشی!

توبہ کی مناسبت ہی سے یہ فوائد بیان فرمائے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے۔ اس کا چہرہ نافرمانی کی طرف ہوتا ہے اور پشت حق کی طرف۔ جب توبہ کرتا ہے اور خدا سے رجوع ہوتا ہے تو چاہئے کہ اس کی پشت نافرمانی کی طرف ہو اور منہ حق کی جانب پھر فرمایا جو تائب ہو گیا ہے۔ اس کو طاعت میں پورا ذوق حاصل ہونا چاہئے اور جو نافرمانی کی طرف لوٹ جاتا ہے تو اس سے اللہ کی پناہ کہ وہ طاعت میں ذوق ہی نہیں پاتا۔

پھر خرچ کرنے کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک درہم اپنے ساتھیوں پہ خرچ کرے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ دس درہم فقیروں کو دے دے اسی طرح اگر دس درہم اپنے رفیقوں کے لئے خرچ کرے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ سو درہم فقیروں کو دے اور اگر دس درہم اپنے رفیقوں کے ساتھ

خرچ کرے تو یہ ایسا ہو گا جیسے ایک غلام آزاد کر دیا۔ واللہ اعلم بالصواب

انیسویں مجلس

اسی سال ماہ شعبان کی ستائیسویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی سعادت میسر آئی۔ خلق کے معاملے کا ذکر آیا۔ نیک کیسے ہوتے ہیں اور بد کیسے؟ ارشاد ہوا کہ اس عہد میں جس میں کہ ہم ہیں اگر کسی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ بد نہیں ہے۔ تو اسی قدر اس کو نیک کہا جا سکتا ہے (۱۳)۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی لوگوں کی عیب جوئی نہیں کرتا اور کسی کو برا نہیں کہتا تو چاہے وہ خود برا ہو تو اس کو نیک ہی سمجھا جائے گا۔ بد نہیں کہیں گے اس کے بعد یہ دو مصرعے زبان مبارک پر لائے۔

گر با عیب و عیب نہ جوئی نیکی در بد باشی و بد گوئی نیکی!
ترجمہ: اگر تم میں کوئی عیب ہو اور دوسرے کے عیب نہ چنتے پھرو تو تم نیک ہو۔ اور اگر تم برے ہو مگر کسی کو برا نہیں کہتے تو نیک ہو!

پھر فرمایا کہ اگر کوئی بد ہو اور خلق خدا کو بد کہتا ہو تو اس بدی کی کیا حد ہوگی! اس درمیان میری طرف رخ کر کے فرمایا کہ کیا تم چھاؤنی میں رہتے ہو؟ بندے نے عرض کی جی ہاں! اس کے بعد فرمایا کہ شہر میں راحت نہیں رہی ہے اور تھی بھی نہیں اس معنی کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ قدیم زمانے میں میرادل بھی اس شہر میں رہنے کو نہ چاہتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک روز میں تلاب قلعہ خاں پر تھا۔ اس زمانے میں قرآن حفظ کر رہا تھا۔ وہاں ایک درویش کو مشغول بحق دیکھا۔ میں نے ان کے پاس جا کر پوچھا کہ کیا آپ اسی شہر کے رہنے والے ہیں؟ بولے ہاں۔ میں نے کہا کہ کیا آپ اپنی خوشی سے یہاں مقیم ہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ اس کے بعد ان درویش نے قصہ سنایا کہ میں نے ایک دفعہ کسی بڑے اچھے درویش کو دروازہ کمال سے آتے دیکھا اس حظیرے (قبرستان) کے دروازے سے باہر جو خندق کے کنارے واقع ہے اور جہاں کی زمین اونچی ہے۔ اس حظیرے میں (قبرستان میں) شہداء مدفون ہیں۔ الغرض یہ درویش مجھ سے کہنے لگے کہ اگر چاہتے ہو کہ اپنا ایمان سلامت لے جاؤ تو اس شہر سے رخصت ہو جاؤ۔ میں نے اسی وقت نھان لی کہ شہر سے چلا جاؤں گا لیکن بعض رکاوٹوں

کی وجہ سے یہیں ٹھہرا رہا۔ اب پچیس سال کا عرصہ ہو گیا ہے کہ میرا ارادہ بدستور قائم ہے۔ لیکن جانا نہیں ہوتا خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ جب میں نے یہ بات ان درویش سے سنی تو خود بھی طے کر لیا کہ اس شہر میں نہیں رہوں گا۔ کچھ جگہیں میرے خیال میں تھیں جہاں جانا چاہتا تھا۔ ایک دفعہ سوچا کہ قصبہ پتیالی چلا جاؤں۔ اس زمانے میں ترک وہاں تھا۔ ان ترک سے مراد امیر خسرو عممہ اللہ تھے۔ پھر فرمایا کہ ایک دل یہ چاہتا تھا کہ بسالہ چلا جاؤں جو صاف ستھری جگہ ہے۔ بسالہ چلا بھی گیا۔ تین روز وہاں رہا۔ ان تین دن میں نہ تو کوئی مکان کرایے پر ملانہ گروی نہ قیمتاً۔ تینوں دن کسی نہ کسی کاممان ہوتا رہا۔ جب وہاں سے واپس آیا تو یہی خیال میرے دل میں سلایا ہوا تھا۔ ایک دفعہ حوض رانی کی طرف اس باغ میں جسے جسرت کا باغ کہتے ہیں گیا ہوا تھا۔ خدائے عزوجل سے میں نے دعائیں مانگیں بڑا اچھا وقت تھا۔ میں نے کہا کہ خداوند! میں اس شہر سے چلا جانا چاہتا ہوں لیکن اپنے اختیار سے کسی جگہ نہیں جاؤں گا۔ جہاں تیری مرضی ہو وہاں رہوں گا۔ اس درمیان غیاث (۱۵) پور کی آواز آئی۔ میں نے غیاث پور کو کبھی نہیں دیکھا تھا اور مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ غیاث پور کہاں ہے؟ جب میں نے یہ آواز سنی تو اپنے ایک دوست کے پاس گیا ان دوست کا لقب نیشاپوری تھا۔ جب میں ان کے گھر گیا تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ وہ غیاث پور گئے ہوئے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ وہی غیاث پور ہے! الغرض غیاث پور آیا۔ اس زمانے میں یہ مقام کچھ زیادہ آباد نہیں تھا۔ تھوڑی سی آبادی کا گم نام سا گاؤں تھا۔ میں نے یہاں آکر رہائش اختیار کر لی۔ لیکن جب کیتباد (بادشاہ) کہلوکھری میں متیم ہوا تو اس زمانے میں یہاں لوگوں کا بڑا ہجوم ہو گیا ملوک اور امراء کی آمد و رفت یہاں بہت ہو گئی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہاں سے بھی دل دینا چاہئے۔ اسی خیال میں تھا کہ ایک بزرگ جو میرے استاد (۱۶) تھے شہر میں وفات پا گئے۔ میں نے اپنے دل میں یہ ٹھہرا لی کہ کل جب کہ ان کی وفات پر تیسرا دن ہو گا میں ان کی زیارت (تیجے) میں جاؤں گا اور شہر میں بھی نہیں رہوں گا یہ عزم اپنے دل میں کر لیا۔ اسی روز عصر کی نماز میں ایک خوبصورت مگر نحیف و نزار جوان آیا جو اللہ جانے مراد غیب میں سے تھا یا کون تھا۔ الغرض اس نے آتے ہی پہلی بات جو مجھ سے کہی وہ یہ تھی۔

آں روز کہ مہ شدی نمی دانستی کا نگشت نمائے عالی خواہی شد
امروز کہ زلفت دے خلقے بروز در گوشہ شست نمی دارد سود

ترجمہ:- جس روز تم چاند بنے تھے تمہیں یہ خبر نہیں تھی کہ ایک زمانے کی انگلیاں تمہاری طرف اٹھیں گی؟ اب جبکہ تمہاری زلف نے دنیا کے دل اسیر کر لئے ہیں کونے میں بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں! خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر فرماتے ہیں کہ اس نے کچھ اور باتیں نہیں جن کو میں نے کسی جگہ لکھا ہے۔ القصہ اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ اول تو مشہور نہیں ہونا چاہئے اور جب کوئی شخص مشہور ہو جائے تو پھر ایسا ہونا چاہئے کہ کل قیامت کے دن رسول علیہ السلام کے سامنے شرمندہ نہ ہو! پھر یہ کہا کہ یہ بھی کوئی قوت ہے اور کوئی حوصلہ ہے کہ لوگوں سے کنارہ کر کے مشغول بحق ہو جائیں یعنی قوت اور حوصلہ تو یہ ہوتا ہے کہ خلق کی موجودگی میں بھی مشغول بحق رہیں خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر فرماتے ہیں کہ جب وہ یہ باتیں کہہ چکا تو میں نے کچھ کھانا سامنے رکھا۔ اس نے نہیں کھایا میں نے اسی وقت یہ نیت کر لی کہ یہیں مقیم رہوں گا۔ جب میں نے یہ نیت کر لی تو اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور چلا گیا۔ اس کے بعد اسے کبھی نہیں دیکھا۔

بیسویں مجلس

اسی سال ماہ مبارک رمضان کی دسویں تاریخ پیر کو قدم بوسی کی سعادت تک رسائی ہوئی۔ سورہ اخلاص کی فضیلت کا ذکر نکلا۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سورہ اخلاص تمہاری قرآن ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو ختم قرآن کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو اس میں یہی حکمت ہے کہ اگر ختم کے دوران میں کچھ کمی رہ گئی ہو تو سورہ اخلاص کے تین مرتبہ پڑھنے سے ختم مکمل ہو جائے۔

اس کے بعد فرمایا کہ ختم قرآن کے بعد سورہ الحمد اور سورہ بقرہ کی چند آیتیں پڑھتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت رسالت علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ الحال والمرتل حال اسے کہتے ہیں جو کسی پڑاؤ پر آکر اترے۔ اور مرتل اسے کہتے ہیں جو روانہ ہو جائے اور یہ اشارہ اس طرف ہے کہ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے اور ختم کرتا ہے تو گویا ایک منزل آکر اترتا ہے اور جب دوبارہ شروع کرتا ہے تو گویا دوبارہ روانہ ہو جاتا ہے۔ پس انسانوں میں سے بہترین وہ شخص ہوتا ہے جو قرآن ختم کرتے ہی فوراً شروع بھی کر دیتا ہے۔ ایسے شخص کو رسول علیہ السلام نے الحال

والمرتل کی صفت سے یاد فرمایا ہے۔

پھر اس بات کا ذکر آیا کہ بعض لوگ غیر موجود جنازے کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ کیسا ہے؟
خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ یہ جائز ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے نجاشی کی نماز جنازہ اسی
طرح پڑھی تھی۔ ان کا انتقال کہیں اور ہوا تھا اور امام شافعیؒ اس بات کو جائز رکھتے ہیں۔ اور
اگر میت کے جسم کا کوئی عضو لائیں جیسے ہاتھ یا پاؤں یا انگلی جو بھی ہو اس پر بھی نماز پڑھتے
ہیں۔

اس بات کی مناسبت سے شیخ جلال الدین تبریزی قدس اللہ سرہ العزیز کی حکایت بیان
فرمائی کہ جب شیخ نجم الدین صغریٰ (۱۶) کو جو دہلی کے شیخ الاسلام تھے ان سے دشمنی ہو گئی اور
ایسے بھڑکے کہ انہیں ہندوستان کی طرف (مراد یوپی کی طرف) روانہ کر دیا۔ الغرض جب شیخ
جلال الدین نور اللہ مرقدہ بدایوں پہنچے تو ایک روز سوتھ ندی کے کنارے بیٹھے تھے کہ یکایک
اٹھے اور وضو تازہ کیا اور حاضرین سے بولے کہ آئیے شیخ الاسلام دہلی کے جنازے پر نماز
پڑھیں کیوں کہ ان کا اسی وقت انتقال ہوا ہے اور واقعہ اسی طرح ہوا تھا جیسا کہ شیخ جلال
الدین رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ "واسعہ" نے زبان مبارک سے بیان فرمایا تھا۔ اس کے بعد جب
نماز ادا کر چکے تو حاضرین کی طرف رخ کر کے فرمایا اگر شیخ الاسلام دہلی نے ہمیں شہر سے باہر
نکالا تو ہمارے شیخ نے انہیں دنیا ہی سے نکال دیا۔

جماعت متحیران کا ذکر نکلا کہ حق تعالیٰ میں ایسے مشغول ہوتے ہیں کہ انہیں کسی مخلوق
کی خبر نہیں ہوتی۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے حکایت بیان کی کہ میں ایک دفعہ کہیں گیا
تو اسی طرح کے لوگوں میں سات آٹھ آدمیوں کو دیکھا کہ ٹنگلی لگائے آسمان کو تک رہے ہیں
اور رات دن متحیر ہیں۔ مگر جس وقت نماز کا وقت آتا ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر متحیر ہو
جاتے ہیں۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ ہاں انبیاء معصوم ہیں اور اولیاء محفوظ۔ یہ لوگ
ایسے ہی ہوتے ہیں جیسا کہ تم نے بیان کیا۔ اگرچہ شب و روز متحیر رہتے ہیں لیکن ان کی نماز
فوت نہیں ہوتی!

اس تحیر کی مناسبت سے شیخ الاسلام قطب الدین بختیار قدس اللہ سرہ العزیز کی حکایت
بیان فرمائی کہ ان کو انتقال کے وقت اسی طرح چار دن رات تحیر رہا اور ہوا یہ تھا کہ شیخ علی
بجزی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں قوالی تھی اور شیخ قطب الدین نور اللہ مرقدہ تشریف فرما تھے

گانے والا قصیدہ گارہا تھا۔ جب اس شعر پر پہنچا۔ -
 کشمگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانی دیگر است
 ترجمہ:۔ خنجر تسلیم کے کشمگان کے لئے ہر زمانے میں غیب سے ایک نئی زندگی ہے۔
 شیخ قطب الدین قدس اللہ سرہ العزیز کو اس شعر پر کیفیت ہو گئی۔ جب وہاں سے گھر
 آئے تو مدہوش اور متحیر تھے۔ فرماتے تھے کہ یہی شعر پڑھے جاؤ۔ چنانچہ یہی شعر ان
 کے سامنے پڑھا جاتا رہا اور اسی طرح متحیر رہے۔ سوائے اس کے کہ جب نماز کا وقت
 آتا تھا تو نماز ادا فرماتے تھے اور پھر یہی شعر پڑھواتے اور حال آجاتا اور حیرت پیدا ہو
 جاتی چار رات دن تک یہی حالت رہی۔ پانچویں رات کو رحلت فرمائی شیخ بدر الدین
 غزنوی فرماتے ہیں کہ میں اس رات کو حاضر تھا جب شیخ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو
 مجھے کسی قدر غنودگی تھی۔ خواب میں دیکھا کہ شیخ قطب الدین قدس اللہ سرہ العزیز
 جیسے اپنی جگہ سے اٹھ رہے ہیں اور اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ اور مجھ سے فرما رہے
 ہیں کہ دیکھو بدر الدین! اللہ کے دوستوں کے لئے موت نہیں ہے! جب میں بیدار ہوا
 تو شیخ دار بقا کو رحلت فرما چکے تھے۔ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ۔

اکیسویں مجلس

اسی سال ماہ شوال کی چند رہویں تاریخ پیر کو قدم بوسی کی دولت تک رسائی ہوئی۔
 مشائخ سے مخلوق کی رغبت کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ جس زمانے میں کیلی کی جنگ ہوئی ہے میں
 چند روز شہر میں رہا تھا۔ جمعے کے روز میں مسجد جاتا تو خلق میری مزاحمت (۱۷) کرتی چنانچہ ایک
 روز میں مسجد سے نکل کر گلی میں جا رہا تھا ایک شخص پیچھے سے آیا اور بولا کہ آپ تنگ آجاتے
 ہیں؟ میں نے کہا ہاں! اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا کہ میرے خسر شیخ فرید الدین قدس اللہ سرہ
 العزیز کے مرید تھے جس زمانے میں شیخ دہلی میں تھے جب جمعے کی نماز کو نکلتے تو وقت سے پہلے
 روانہ ہوتے تاکہ خلق کی مزاحمت کم سے کم ہو۔ مگر لوگ اسی طرح سامنے آ کر ہاتھ چومتے
 تھے۔ چنانچہ لوگوں کا ایک حلقہ بن جاتا شیخ اس حلقے میں سے نکلتے تو دوسرے لوگ سامنے آ

جائے۔ اور پھر اسی طرح حلقہ بن جاتا۔ چنانچہ حضرت تنگ آنے لگے۔ اس کے بعد میرے خسر نے عرض کی کہ یہ خدا کی نعمت ہے آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں!

اسی بات کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ جس وقت سلطان ناصر الدین اوچھ اور ملتان کی جانب روانہ ہوا تو اجودھن سے گزرا سارے لشکر نے شیخ کی زیارت کے لئے اس جگہ کا رخ کیا جہاں وہ تھے۔ شیخ اس بھیڑ جو جمع ہو گئی تھی سے پریشان ہو گئے اور کسی اور جگہ چلے گئے اس وقت شیخ (کے جبے یا کرتے کی) آستین چھت پر سے گلی کی طرف لٹکادی گئی۔ لوگ آتے تھے اس کو بوسہ دیتے تھے اور آگے بڑھ جاتے تھے یہاں تک کہ وہ ساری جھیر جھیر ہو گئی۔ اس وقت حضرت مسجد میں تشریف لے آئے اور مریدوں سے کہا کہ تم لوگ میرے اطراف حلقے بنا لو تاکہ مجمع اندر نہ آئے باہر ہی سے سلام کرے اور چلا جائے مریدوں نے ایسا ہی کیا مگر ایک بوڑھا فراش آیا اور اطراف کھڑے ہوئے مریدوں کے حلقے کو توڑ کر شیخ کے پیروں میں گر پڑا اور شیخ کے قدم پکڑ کر چومنے کے لئے کھینچے۔ شیخ کو تکلیف ہوئی وہ فراش بولا شیخ پریشان ہوتے ہو؟ خدا کی نعمت کا اور بھی شکر ادا کرو جب فراش نے یہ بات کہی تو شیخ نے ایک نعرہ مارا پھر اس فراش کو نوازا اور بہت معذرت کی۔

پھر اس بات کا ذکر نکلا کہ آدمی کو نرم دل ہونا چاہئے اور مخلوق کے ساتھ شفقت سے زندگی بسر کرنی چاہئے۔ اس موقع پر فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ اَسِيْفٌ یعنی ابو بکر آسيف ہیں اور آسيف اس کو کہتے ہیں جو سر بیج البکا ہو یعنی جس کو رونا بہت جلدی آتا ہو۔ خوش خلقی اور تواضع کی مناسبت سے یہ حکایت بیان فرمائی کہ عمرو عاصؓ نے زمانہ جاہلیت میں رسول علیہ السلام کی ہجو کی تھی۔ جب حضرت رسالت علیہ السلام نے سنا تو عرض کی اے اللہ عاص کے بیٹے نے میری ہجو کی ہے اور میں شاعر نہیں ہو۔ وَلَسْتُ بِشَاعِرٍ (میں شاعر نہیں ہوں) تو میری طرف سے اس کی ہجو فرما! خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جربر کے لفظ سے عمرو عاص کی ہجو فرمائی اور جربر اسے کہتے ہیں کہ جو کرپڑ ہو یعنی عمرو عاص مکاری اور کرپڑی سے مشہور ہوئے اگرچہ کہ وہ ایمان لے آئے تھے لیکن مکاری اور کرپڑی کے الفاظ سے جو ان کی ہجو ہوئی وہ قیامت تک رہے گی۔ پس چونکہ یہ صفت مکر اور کرپڑی ہجو ہوئی تو صفت نرمی اور خوش مزاجی اور تواضع (۲۷ ستائش) ہوگی۔

بائیسویں مجلس

اسی سال ماہ ذی قعدہ کی ستائیسویں تاریخ پیر کو قدم بوسی کا شرف میسر آیا ایک عزیز کسی کی طرف سے معذرت کرنے آئے تھے۔ شاید حضرت خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے کسی کی سفارش میں کچھ فرمایا تھا۔ اور اس شخص نے ٹال مٹول سے کام لیا تھا۔ جب ان صاحب نے جو بھیجے ہوئے آئے تھے۔ اس شخص کی طرف سے معذرت کی اور معافی مانگی تو خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے معاف فرما دیا! اور زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ رنجیدہ ہونے کی بات ہے لیکن میں رنجیدہ نہیں ہوا اور معاف کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب کوئی شخص پیر سے وابستہ ہوتا ہے اور مرید بنتا ہے تو اس کو تحکیم کہتے ہیں۔ یعنی اپنے پیر کو اپنے اوپر حاکم بنا لیتا ہے۔ پس پیر جس بات کو بھی کہے اور مرید نہ سنے تو یہ تحکیم نہ ہوگی۔ پھر دوبارہ فرمایا کہ اگرچہ کہ تکلیف کی بات تھی لیکن میں نے معاف کر دیا اس درمیان بندے نے عرض کیا کہ پیر اگر اپنے انتہائی کرم سے مرید کی خطا معاف بھی کر دے مگر اللہ تعالیٰ اس خطا کو کس طرح پسند فرما سکتا ہے۔ اور کس طرح معاف کر سکتا ہے؟ اس پر فرمایا کہ پیر کا معاف کرنا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے (حق تعالیٰ بھی معاف فرما دیتا ہے۔)

پھر فرمایا کہ پیر جس بات کا بھی حکم دے۔ مرید کو چاہئے کہ وہی کرے اس کے بعد فرمایا کہ یہ بھی آیا ہے کہ پیر اگر کوئی ایسا حکم دیتا ہے جو غیر شرعی ہو تب مرید کے لئے گنجائش ہے کہ وہ کام کرے یا نہ کرے اس نکتے کو یوں بیان فرمایا کہ پیر ہونا ہی ایسا چاہئے جو احکام شریعت اور طریقت اور حقیقت کا عالم ہو۔ اور جب پیر ایسا ہوتا ہے تو وہ خود ہی کوئی غیر شرعی حکم نہیں دیتا اور اگر مختلف فیہ حکم دیتا ہے یعنی بعض کے نزدیک وہ جائز ہو اور بعض کے نزدیک ناجائز تو ایسی صورت میں مرید کو چاہئے کہ وہ کام کرے جس کے لئے پیر نے کہا ہے کیونکہ پیر نے کسی کے قول کی بنا ہی پر وہ حکم دیا ہو گا اگرچہ کہ بعض کو اس میں اختلاف ہو لیکن مرید کو تو پیر کے اشارے کے مطابق ہی کام کرنا چاہئے۔

پھر انہی نکات میں یہ فرمایا کہ ایک شخص کسی سے کچھ بات کہتا ہے یا سفارش کرتا ہے اور وہ آدمی اس کو قبول نہیں کرتا تو اس بات کو بھی اس روشنی میں دیکھنا ہے چاہئے کہ موقع نہیں تھا۔ یا اس کو خبر نہیں تھی۔ فرمایا کہ اپنی غلطی کا خیال بھی رکھنا چاہئے کہ شاید ایسا ہوا

اس موقع پر فرمایا کہ اجدوہن میں ایک عامل (سرکاری کارپرداز افسر) تھا شاید اس جگہ کے والی (حاکم) نے اس عامل کو کوئی تکلیف پہنچائی۔ یہ عامل شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں آیا اور سفارش چاہی۔ شیخ نے کسی کو حاکم کے پاس بھیجا اور عامل کی بات کہلوائی۔ مگر حاکم اپنی بات پر اڑا رہا۔ اس کے بعد شیخ نے اس عامل سے کہا کہ میں نے سفارش کی اور اس نے نہیں سنی شاید موقع نہیں تھا اور ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو تم سے بھی کسی نے کسی کی سفارش کی ہو اور تم نے اسے نہ سنا ہو! اس کے بعد وہ حاکم آیا اور معذرت چاہی شیخ نے معاف فرمادیا۔

اسی معاف کر دینے اور ہوئے جرم کو نہ ہوا سمجھ لینے کے مناسب حال حکایت بیان فرمائی شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کے ایک نصیبے (پوتے یا نواسے) محمد نامی تھے۔ ان کو من کہہ کر پکارتے تھے شیخ کو اطلاع دی گئی کہ وہ شراب پیتے ہیں۔ قصہ مختصر وہ شیخ کی خدمت میں آئے تو شیخ نے ان سے پوچھا کہ محمد مجھے یہ اطلاع دی گئی ہے کہ تم شراب پیتے ہو بولے نہیں میں نہیں پیتا یہ جھوٹی خبر پہنچائی گئی ہے۔ شیخ نے کہا کہ ایسا ہی ہو گا جیسا کہ تم کہتے ہو کہ ان لوگوں نے جھوٹی اطلاع دی ہوگی۔ غرض یہ کہ ان سے اچھی طرح خوش ہو کر بات کی اور ان کے عذر کو قبول فرمایا۔

اس کے بعد مشائخ کے حکم دینے اور مرید کے تعمیل کرنے کے بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ ایک بڑھیا تھی جو اکثر شیخ ابو سعید ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں آتی اور خانقاہ کے صحن میں جھاڑو دیتی۔ چند بار اس نے ایسا کیا۔ شیخ نے اس سے پوچھا کہ بتا اس خدمت سے تیرا مقصد کیا ہے تاکہ تیری غرض پوری کروں۔ بڑھیا بولی کہ میری ایک غرض ہے۔ جب وقت آئے گا تو عرض کروں گی۔ قصہ وہ بڑھیا اسی طرح اپنی خدمت انجام دیتی رہی یہاں تک کہ ایک روز کوئی خوبصورت جوان شیخ کی خدمت میں آیا وہ بڑھیا بھی شیخ کے سامنے آن کھڑی ہوئی اور بولی کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اپنا مقصد ظاہر کروں۔ شیخ نے کہا کہ کیا کہتی ہو! بڑھیا نے کہا کہ اس جوان کو حکم دیجئے کہ مجھے اپنے نکاح میں لے آئے۔ شیخ شش و پنج میں پڑ گئے اور سوچا کہ یہ عورت بڑھیا ہے اور بد صورت اور یہ مرد جوان ہے اور خوبصورت بات کیسے بنے گی؟ اسی درمیان شیخ خلوت نشین ہو گئے تین رات دن نہ کھانا کھایا اور نہ پانی

پہلے تین رات دن کے بعد اس جوان اور اس بڑھیا کو اپنے سامنے طلب فرمایا اور جوان سے مخاطب ہو کر کہا کہ اس بڑھیا کو اپنے نکاح میں لے آؤ۔ جوان نے خوشی اور رغبت کے ساتھ اسے قبول کر لیا۔ اس کے بعد اس بڑھیا نے درخواست کی کہ شیخ حکم دیں کہ دلہنوں کی رسم کے موافق میرا جلوہ ہو۔ شیخ نے فرمایا کہ ایسا ہی کیا جائے اور دعوت کی رسم بھی ادا ہو اور جو کھانا پکتا ہے وہ بہت زیادہ پکائیں اس وقت اس بڑھیا نے التماس کیا کہ شیخ اس جوان کے لئے فرمان کریں کہ مجھے زمین پر سے اٹھائے اور اپنے ہاتھ سے تخت کے اوپر بٹھائے شیخ نے جوان کو ایسا ہی کرنے کا حکم دیا۔ جوان نے بڑھیا کو زمین پر سے اٹھالیا۔ اس درمیان بڑھیا شیخ سے بولی کہ جب اس جوان نے مجھے آپ کے سامنے خاک پر سے اٹھایا ہے تو اسے شیخ حکم دیں کہ مجھے پھر زمین پر نہ پھینکے یعنی اس کام کو پورا کرے۔ اور پیٹھ نہ دکھائے! القاصہ شیخ نے اسی طرح حکم دے دیا اور اس جوان نے قبول کر لیا۔ یہ سارا قصہ مریدوں کے پیر کا فرمان قبول کرنے کے نکتے کے سلسلے میں بیان فرمایا گیا۔

پھر شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی حکایت بیان فرمائی کہ میں کم و بیش بارہ سال کا ہوں گا۔ لغت پڑھتا تھا۔ ایک شخص تھا جسے ابو بکر خراط کہتے تھے اور ابو بکر قوال بھی۔ وہ میرے استاد کی خدمت میں آیا شاید وہ ملتان کی طرف سے آیا تھا۔ اس نے قصہ سنایا کہ میں نے شیخ بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سماع (قوالی) کیا ہے ایک دفعہ یہ قول ان کے سامنے گارہا تھا۔

بِكَلِّ صُبْحٍ وَ كَلِّ إِشْرَاقِ
تُبْكِيكَ عَيْنِي بَدْمَعٍ مَشْتَاقِ
قَدْ لَسَفْتُ حَيَّةَ الْهَوَى كَبْدِي
فَلَا طَيِّبَ لَهَا وَ لَأَرَاقِ

ترجمہ: ہر صبح اور ہر سویرے میری آنکھیں اشتیاق میں خون کے آنسو روتی ہیں تیری آرزو کے سانپ نے میرے جگر کو ڈس لیا ہے۔ اب اس کے لئے نہ کوئی طبیب ہے نہ کوئی منتر پڑھنے والا دوسرے مصرعے یاد نہیں رہے تھے وہ شیخ نے یاد دلوائے۔

إِلَّا الْحَبِيبَ الَّذِي شَفَعْتُ بِهِ

فَعِنْدَهُ رُفِيَّتِي وَ تَرِيَّاقِي

ترجمہ:- سوائے اس محبوب کے جس کا میں فریفتہ ہوں۔ کیونکہ اس کے پاس میرے لئے منتر ہے اور تریاق ہے۔ ان اشعار کا منظور ترجمہ یہ ہے۔

از ما رخش گزیدہ دارم جگری کورا نکند ہیج فسونی اثری
جز دوست کہ من شیفته عشق تویم افسون علاج من چه داند دگری
ترجمہ: میرا جگر اس کے غم کے سانپ کا ڈسا ہوا ہے۔ کوئی منتر اور افسوں اس پر اثر نہیں کرتا۔ سوائے اس دوست کے جس کا میں شیفتہ ہوں میرے علاج کا افسوں اور کوئی جان بھی کیا سکتا ہے۔

اس کے بعد شیخ بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب بیان کرنے شروع کئے کہ ان کے ہاں ذکر ایسا ہوتا ہے اور عبادت ایسی ہوتی ہے اور اوراد اتنے پڑھے جاتے ہیں۔ ان کے ہاں کی لونڈیاں جو چکی پیستی ہیں وہ بھی ذکر کرتی ہیں۔ یہ اور اسی طرح کی بہت سی باتیں اس نے کیں۔ مگر میرے دل پر اس کا ذرا اثر نہ ہوا۔ اس کے بعد اس نے سنایا کہ وہاں سے اجودھن آیا اور ایسے ایسے ایک بادشاہ کو دیکھا الغرض جب شیخ فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کے مناقب میں نے سنے تو میرے دل میں ان کی سچی محبت اور ارادت بیٹھ گئی۔ یہاں تک ہوا کہ ہر نماز کے بعد میں دس دفعہ کہتا شیخ فرید الدین اور دس دفعہ کہتا مولانا فرید الدین۔ پھر یہ محبت ایسی بڑھی کہ میرے سارے دوستوں کو خبر ہو گئی اور یہ ہونے لگا کہ اگر مجھ سے کچھ پوچھتے اور چاہتے کہ مجھے قسم دیں تو کہتے شیخ فرید کی قسم کھاؤ۔ قصہ مختصر اس کے بعد دہلی کا عزم کیا تو عوض نامی ایک بوڑھے بزرگ ساتھ ہوئے راستے میں کہیں شیر کا یا ڈاکوؤں کا خوف ہوتا تو وہ کہتے اے پیر آئیے! اے پیر ہم آپ کی پناہ میں ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم یہ پیر کسے کہتے ہو؟ بولے شیخ فرید الدین (نور اللہ مرقدہ) کو۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر فرماتے ہیں کہ ایک نیا شوق پیدا ہوا اور ایک نئی کسک جم گئی۔ اس سفر میں ایک اور صاحب ساتھ ہوئے جن کو مولانا حسین خنداں کہتے تھے بڑے اچھے آدمی تھے۔ پھر جب دہلی آ گیا تو اتفاق سے شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں اترنا ہوا۔ اس حکایت کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ خدا خالی نے یہ دولت قسمت میں لکھی تھی اس لئے اس طرح کے اسباب پیدا ہو گئے۔

پھر شیخ فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کا اور سماع سے ان کے ذوق حاصل کرنے کا ذکر

نکلا۔ ارشاد ہوا کہ ایک دفعہ وہ چاہتے تھے کہ سماع (قوالی) سنیں۔ گانے والا (قوال) موجود نہیں تھا۔ بدرالدین اسحاق علیہ الرحمۃ والرضوان سے فرمایا کہ جو خط قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا ہے لے آؤ۔ بدرالدین نے آکر وہ تھیلی سامنے رکھی جس میں خطوط اور رقعے جمع تھے۔ اندر ہاتھ ڈالا تو سب سے پہلے وہی خط ہاتھ لگا۔ جسے شیخ کے سامنے پیش کر دیا۔ شیخ نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر پڑھو! بدرالدین کھڑے ہو کر وہ خط پڑھنے لگے۔ اس خط میں اس طرح لکھا گیا تھا۔ کہ فقیر، حقیر، ضعیف، نحیف محمد عطاء جو درویشوں کا غلام ہے اور سر آنکھوں سے ان کے قدموں کی خاک ہے شیخ نے اتنا ہی سنا تھا کہ ایک حال اور ذوق طاری ہو گیا۔ اس کے بعد یہ رباعی بھی پڑھی گئی جو اس خط میں تھی رباعی ۔

آن عقل کجا کہ در کمال تو رسد واں روح کجا کہ در جلال تو رسد
گیرم کہ تو پردہ بر گرفتی ز جمال آن دیدہ کجا کہ در جمال تو رسد
ترجمہ:- وہ عقل کہاں جو تیرے کمال تک پہنچ سکے۔ اور وہ روح کہاں جس کی رسائی تیرے جلال تک ہو۔ میں نے مانا کہ تو نے اپنے جمال پر سے پردہ ہٹا دیا ہے مگر وہ آنکھ کہاں جس کی پہنچ تیرے جمال تک ہو۔

خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے اس خط کی مناسبت سے ارشاد کیا کہ ایک دفعہ شیخ بدرالدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شیخ کی خدمت میں ایک خط لکھا تھا اور ایک نظم بھی تحریر کی تھی۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے تین چار شعر اس میں سے پڑھے۔ بندے کو یہ دو شعر یاد رہے۔
فرید دین و ملت یار مہتر کہ بادش در کرامت زندگانی
درینا خاطر مگر جمع بودی بدحش کر دی شکر فشانی
دین و ملت میں یگانہ روزگار (فرید) میرے بزرگ دوست کرامت میں زندگانی بسر
کریں افسوس اگر مجھے اطمینان میسر ہوتا تو ان کی تعریف میں شکر فشانی کرتا (اچھے شعر کہتا) پھر
اس بات کا ذکر آیا کہ شیخ قطب الدین بختیار اوشی اور شیخ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے باہم
کس طرح ملاقات کی تھی (۱۸) ارشاد ہوا کہ ایک دفعہ شیخ جلال الدین تبریزی نے شیخ قطب
الدین کے گھر مہمان ہونا چاہا شیخ قطب الدین قدس اللہ سرہ العزیز نے گھر سے باہر تشریف لا کر
ان کا استقبال کیا، شیخ کا گھر حدود کہتر یا کیلو کھری پر تھا وہاں سے باہر نکلے اور عام بڑے راستے
سے نہیں گئے پتلی گلیوں میں سے تشریف لا کر ان کا استقبال کیا شیخ جلال الدین قدس اللہ سرہ

العزیز بھی آئے تو شارع عام سے نہیں آئے۔ اسی طرح چھوٹی گلیوں میں سے آئے اور دونوں میں باہم ملاقات ہوئی اور ایک اور طرح بھی مان کے ملاقات کرنے کی حکایت بیان کی کہ ایک دفعہ ملک عز الدین بختیار کی مسجد میں جو اس کے حمام کے سامنے ہے یہ دونوں بزرگ یکجا ہوئے تھے۔ رحمتہ اللہ علیہما رحمتہ "واسعہ"۔

تیسویں مجلس

اسی سال ماہ مبارک ذی الحجہ کی گیارہویں تاریخ پیر کو قدم بوسی کی سعادت ہاتھ آئی ایام تشریق (بقر عید کے بعد کے تین دن) کی وجہ سے مخدوم جہانیاں کی خدمت میں سلام کو حاضر ہوا تھا کہ مصافحے کا شرف حاصل ہو جائے جب مخدوم کی خدمت میں پہنچا تو نماز کا حال پوچھا اس عید پر بڑی سخت بارش ہوئی تھی اور کچھ اولے بھی پڑے تھے۔ لوگوں کی اکثریت نماز کو نہ جاسکتی تھی۔ بندہ بھی نہ جاسکا تھا۔ القصد جب خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے یہ بات دریافت فرمائی تو عرض کیا گیا کہ میں نماز کو نہیں جاسکا تھا۔ ارشاد ہوا کہ ہاں اکثر لوگ نہیں پہنچے۔ پھر فرمایا کہ میں نے ایک رکعت پڑھی تھی دو سری رکعت میں بارش ہونے لگی۔ اس کے بعد جب نماز ہو چکی تو خطیب صاحب رہ گئے تھے اور یہ دعا گو (مراد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء) اور مخلوق سب واپس چلی گئی تھی۔ اس درمیان بندے نے عرض کی کہ اگر اس عید کے موقع پر کسی رکاوٹ کی وجہ سے نماز میسر نہ آئے تو کیا یہ جائز ہے کہ دوسرے روز پڑھ لیں؟ ارشاد ہوا ہاں۔ اس عید پر اگر نماز میسر نہ ہو تو دوسرے روز پڑھ لیں اور تیسرے روز بھی جائز ہے۔ لیکن عید الفطر میں اگر نماز نہ ہو سکے تو دوسرے روز نہ پڑھیں۔ پھر زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ مجھے اس عید کے موقع پر خیال آیا تھا کہ اگر بارش اتنی زیادہ ہو کہ نماز نہ پڑھ سکیں تو دوسرے روز پڑھ لیں گے۔ لیکن چونکہ سب لوگ اور خطیب آگئے تھے اس لئے نماز پڑھ لی گئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ نماز استخارہ جو ہر روز پڑھتے ہیں اس روز کی خیریت کے لئے اور ہر جمعہ کو بھی پڑھتے ہیں اس ہفتے کی خیریت کے لئے اور عید کے روز بھی پڑھتے ہیں پورے سال کی خیریت کے لئے بندے نے عرض کی کہ اس عید کے موقع پر یا اس عید پر؟ فرمایا کہ جو بھی عید ہو پڑھ لیتے ہیں۔

چوبیسویں مجلس

سنہ سات سو سولہ ہجری ماہ محرم کی گیارہویں تاریخ ہفتے کو ہاتھ چومنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ بندہ اس روز اپنے عزیزوں میں سے ایک بچہ خدمت میں لے گیا تھا اور عرض کی تھی کہ اس کو قرآن پڑھنے کے لئے بھیج رہا ہوں۔ پہلے مخدوم کی خدمت میں لایا ہوں تاکہ مخدوم کی نظر اور دعا کی برکت سے خدا تعالیٰ اسے قرآن نصیب کرے۔ حضرت نے دعائے خیر فرمائی اس کے بعد تختی اپنے مبارک ہاتھ میں لی اور لکھا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ رَبِّ یَسْتَرْوُ لَا تُعْیَبُنَا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اے رب آسان فرما اور مشکل نہ فرما) ا۔ ب۔ ت۔ ث۔ ج پھر یہ حروف خود اپنی زبان مبارک سے تلقین فرمائے۔

اس وقت اس بات کے مناسب حال حکایت بیان فرمائی کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک قوم ہوگی جس کو زنجیر سے باندھ کر بہشت میں لے جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس حدیث کے بارے میں تین قول ہیں ایک قول یہی ہے کہ وہ قوم یہی بچے ہیں کہ جنہیں زبردستی استاد کے پاس لے جاتے ہیں اگرچہ کہ انہیں بہت ہی مشکل لگتا ہے لیکن پکڑ کر مسجد میں لے ہی جاتے ہیں پھر بتدریج حروف سے معنی تک پہنچتے ہیں۔ اور معنی سے معنی کی گہرائی تک اور پھر اس سے بھی آگے۔ اور ایک اور قول یہ ہے کہ وہ لونڈی غلاموں کا گروہ ہے جسے زنجیر سے باندھ کر دار حرب (وہ ملک یا علاقہ جس سے مسلمان برسر جنگ ہوں یا جہاں اسلام کی مخالف حکومت ہو) سے دار اسلام (اسلامی حکومت) امن کے علاقے میں لاتے ہیں پھر آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور فرمایا کہ تیسرا قول یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اَفْتَا صَدَقْنَا (ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں) اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں میں سے ایک گروہ کو بہشت میں جانے کا حکم ہوگا۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے تیری پرستش کی ہے حکم آئے گا ٹھیک ہے مگر دیدار کا وعدہ اور وصال کا وعدہ بہشت ہی میں ہے وہاں جاؤ تاکہ یہ وعدہ پورا ہو۔ وہ لوگ پھر بھی نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد مقرب فرشتوں کو حکم ہو گا کہ نوری

زنجیریں ان کے گلوں میں ڈالیں اور کھینچ کر جنت میں لے جائیں۔ واللہ رب العالمین۔

پچیسویں مجلس

اسی سال ماہ صفر (اللہ اسے کامیابی اور خیر کے ساتھ اختتام تک پہنچائے) کی تیسری تاریخ منگل کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی۔ قناعت اور طلب دنیا میں غلو نہ کرنے کا ذکر آیا ارشاد ہوا کہ مولانا حافظ الدین کی جو کتابیں ہم تک پہنچی ہیں جیسے کافی اور شافی۔ ان میں ذکر کیا گیا ہے کہ کتے کو شکار کرنا سکھاتے ہیں جب وہ تین مرتبہ شکار کو پکڑ لیتا ہے اور مالک کے پاس پہنچا دیتا ہے تو اس کو معلم (سدھا ہوا) کہتے ہیں۔ اور چیتے کو بھی شکار سکھاتے ہیں لیکن چیتے کو شکار کے راستے پر چھپا دیتے ہیں تاکہ شکار قریب آجائے تو چیتے کو اس پر چھوڑ دیں چیتا کتے کے برخلاف جھپٹتا ہے اور شکار کو پکڑ لیتا ہے کتا دوڑ لگاتا ہی رہتا ہے اور دور دراز تک شکار کا پیچھا کرتا ہے۔ قصہ مختصر ان بزرگ نے لکھا ہے کہ آدمی کو چاہئے کہ کچھ خصلتیں چیتے سے سیکھے ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ رزق کے پیچھے کتے کی طرح نہیں دوڑتا۔ اس کے سامنے کوئی چیز آجاتی ہے تو بیٹھ جاتا ہے اور اگر نہیں تو اس کا پیچھا نہیں کرتا اور زیادہ نہیں دوڑتا انسان کو بھی چاہئے کہ اگر طلب میں لگے تو حد کے اندر لگے زیادہ نہ لگے اور بہت زیادہ بھاگ دوڑ نہ کرے اور ایک اور بات یہ کہ چیتا سستی دکھاتا ہے تو اس کے سامنے کتے کو لا کر لکڑی سے پیٹتے ہیں۔ تاکہ چیتا ڈر جائے۔ آدمی کو بھی چاہئے کہ اسی طرح دوسرے سے سبق حاصل کرے۔ دیکھے کہ دوسرے پر کیا گزر رہی ہے۔ اس سے اس کو آگاہی حاصل کر کے نامناسب باتوں سے متنبہ ہو جانا چاہئے۔

چھیسویں مجلس

اسی سال ماہ ربیع الاول کی بیسویں تاریخ ہفتے کو قدم بوسی کی دولت میسر آئی۔ اس روز ایک شخص کو جماعت خانے میں چھری کے ساتھ پکڑا گیا تھا واللہ اعلم وہ کون تھا اور کیوں آیا تھا جب خدمت گاروں نے اسے پکڑ لیا اور خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر کو اس کی خبر ہوئی تو اس بات کی

اجازت نہیں دی کہ کہیں لے جائیں اور اسے تکلیف پہنچائیں۔ اس کو سامنے بلوایا اور فرمایا کہ خدا کے سامنے عہد کرو کہ کسی مسلمان کو دھوکا نہیں دو گے۔ اس نے عہد کر لیا خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے اسے چھوڑ دیا۔ اور خرچ بھی عطا فرمایا جب بندہ اس روز خدمت میں آیا تو اس بات کا ذکر ہوا ان احوال کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ ایک روز شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز صبح کی نماز پڑھ چکے تھے اور شغل میں تھے سر زمین پر رکھ کر شغل میں مستغرق تھے اور یہ صورت اکثر رہتی۔ الغرض اسی شکل سے سر زمین پر سر رکھے مشغول تھے شاید جاڑوں کی ہوا چل رہی تھی اور ایک پوستین لا کر حضرت کے جسم مبارک پر ڈال دی گئی۔ اس وقت وہاں کوئی خدمت گار نہیں تھا۔ بس اکیلا میں تھا۔ اس درمیان ایک شخص آیا اور ایسے زور سے سلام کیا کہ شیخ کی یکسوئی میں خلل پڑا۔ شیخ اسی طرح سر زمین پر رکھے رہے اور پوستین اوڑھے اوڑھے فرمایا کہ یہاں کوئی ہے؟ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر فرماتے ہیں کہ میں نے آواز دی اور عرض کیا کہ میں ہوں اس کے بعد شیخ نے فرمایا کہ یہ شخص جو آیا ہے کیا ترک ہے، درمیانہ قد اور زرد رنگ کا؟ میں نے اس شخص کی طرف دیکھا تو اس کی یہی ہیئت پائی جواب عرض کیا کہ جی ہاں ایسا ہی ہے اس کے بعد فرمایا کہ اس کی کمر میں ایک زنجیر ہے؟ میں نے اس کو دیکھا کہ زنجیر تھی عرض کی۔ جی ہاں ہے پھر فرمایا کہ اس نے کان میں بھی کچھ پن رکھا ہے؟ میں نے دیکھ کر عرض کیا کہ جی ہاں بلا پن رکھا ہے۔ اور جب میں اس کی طرف دیکھتا تھا اور جواب دیتا تھا اس کی حالت متغیر ہوتی تھی اس دفعہ جو کہا جی ہاں بلا کان میں ہے تو شیخ نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ چلا جائے اس سے پہلے کہ رسوائی نہ ہو۔ اب کی دفعہ جو میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ خود ہی جا چکا تھا۔

اسی مجلس میں یہ حکایت بیان فرمائی کہ غزنی میں ایک صاحب تھے جنہیں مولانا حسام الدین کہتے تھے۔ وہ شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے نئے (۱۹) (پوتے یا نواسے) تھے۔ اور خواجہ اجل شیرازی قدس اللہ سرہ المبارک کے مرید تھے ایک روز یہ مولانا حسام الدین اور ایک دوسرے مرید خواجہ اجل کے سامنے کھڑے تھے کہ خواجہ نے ان کی طرف دیکھا اور پھر آسمان کی طرف نگاہ کی اس کے بعد پھر ان کی طرف دیکھا اور کہا اس وقت تم دونوں میں سے ایک کے جسم پر خلعت شہادت سیا جا رہا ہے جب دونوں خواجہ کی خدمت میں سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے کہا کہ دیکھو ہم دونوں میں سے کس کے لئے یہ سعادت لکھی ہے۔ یہ مولانا

حسام الدین واعظ تھے۔ اسی زمانے میں ایک روز وعظ کہہ کر منبر سے نیچے اترے اور لوگوں نے ان کو گھیر رکھا تھا اور ہاتھ چوم رہے تھے کہ ایک شخص ان میں سے بڑھا اور چھری نکال کر مولانا کو شہید کر دیا۔ اور جس وقت انہیں گھر لے جا رہے تھے ذرا سی جان باقی تھی انہوں نے کسی کو اپنے ان پیر بھائی کے پاس بھیجا اور کہلوا یا کہ وہ خلعت مجھے مل گیا ہے۔

ستائیسویں مجلس

اسی سال ماہ ربیع الاول کی ستائیسویں تاریخ ہفتے کو ہاتھ چومنے کی سعادت تک رسائی ہوئی۔ قرآن اور اس کے حفظ کی برکت کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ بدایوں میں ایک صاحب تھے جن کو قرآن سات قرأتوں کے ساتھ یاد تھا۔ اور بڑی صلاحیت والے اور صاحب کرامت تھے۔ ایک ہندو غلام تھے ان کو شادی مقلی (قاری شادی) کہتے تھے۔ ان کی ایک کرامت یہ تھی کہ جو بھی ان سے ایک صفحہ قرآن کا پڑھ لیتا خدا تعالیٰ اسے پورا قرآن پڑھنا میسر فرماتا۔ میں نے بھی ان سے ایک سی پارہ پڑھا اور اس کی برکت سے قرآن یاد ہو گیا۔ الغرض ان قاری شادی کے ایک پیر تھے جو لاہور میں رہتے تھے ان کو خواجگی مقلی کہتے تھے بڑے بزرگ آدمی تھے۔ القصد ایک دفعہ کوئی شخص لاہور سے بدایوں آیا قاری شادی نے ان سے پوچھا کہ میرے خواجہ خیریت سے ہیں؟ اور ان کے خواجہ کی وفات ہو چکی تھی۔ اس آنے والے نے ان کی وفات کی خبر نہیں سنائی بولا ہاں آپ کے خواجہ سلامت ہیں! اس کے بعد لاہور کے احوال سنانے لگا کہ بارش بہت ہوئی اور بڑے مکان تباہ ہوئے اور ایک دفعہ آگ لگی اور بہت سے مکان جل گئے اور بڑی بربادی ہوئی جب اس آنے والے نے یہ حکایت پوری کر لی تو شادی مقلی بولے کہ شاید میرے خواجہ نہیں رہے! اس نے کہا کہ ہاں اس سے پہلے وہ رحمت حق سے جا ملے تھے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ۔

اٹھائیسویں مجلس

اسی سال ماہ ربیع الآخر کی بیسویں تاریخ اتوار کو قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ کمزور عقیدے والوں اور ان لوگوں کا ذکر نکلا جو کعبے کی زیارت کو جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو دنیا کے دھندے میں لگ جاتے ہیں۔ بندے نے عرضداشت کی کہ مجھے تو تعجب ان لوگوں پر ہوتا ہے جو مخدوم سے تعلق جوڑتے ہیں اور پھر ادھر ادھر بھٹکتے ہیں۔ جس وقت میں نے یہ بات عرض کی ملیح جو میرے پیر بھائی تھے موجود تھے۔ میں نے عرض کی کہ اس شکستہ نے ان ملیح سے جو میرے پیر بھائی ہیں ایک دفعہ ایک بات سنی تھی اور اس کا میرے دل پر بڑا اثر ہوا تھا اور وہ بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ حج کو وہ جائے جس کا پیر نہ ہو! خواجہ ذکرہ اللہ بالجیر نے جب یہ بات سنی تو آنکھوں میں آنسو بھرا لائے اور یہ مصرع زبان مبارک پر آیا۔

آں رہ بسوے کعبہ برد وایں بسوی دوست

ترجمہ:- وہ راستہ کعبے لے جاتا ہے اور یہ محبوب کی طرف!

اس کے بعد فرمایا شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کے انتقال کے بعد مجھ پر حج کے اشتیاق نے بہت ہی غلبہ کیا اپنے آپ سے کہا کہ پہلے اجودھن شیخ کی زیارت کو جاؤں۔ القصہ جب شیخ الاسلام کی زیارت میسر آئی مجھے میرا وہ مقصود حاصل ہو گیا۔ بلکہ کچھ اور بھی ملا۔ دوبارہ پھر یہ آرزو ہوئی اور پھر شیخ کی زیارت کو گیا اور یہ پوری ہو گئی۔

انتیسویں مجلس

اسی سال ماہ جمادی الاولیٰ کی گیارہویں تاریخ اتوار کو قدم بوسی کی دولت میسر آئی۔ حضرت رسالت ﷺ کی حکایت بیان فرمائی کہ ایک رات رسول علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور اس کے اوپر ڈول رکھا ہے اور وہ کنواں قلیب ہے یعنی بس زمین کھوڑی اور پانی نکل آیا۔ (کچا کنواں تھا) اس پر عمارت نہیں تھی جیسا کہ کنوئیں کے چاروں طرف اینٹ پتھر سے عمارت بناتے ہیں وہ نہیں تھی اور ایسے کنوئیں کو قلیب کہتے ہیں اور جس کنوئیں کی باقاعدہ چنائی کے ساتھ تعمیر ہوتی ہے اور جس میں خاص انتظام ہوتا ہے اور احتیاط رکھی جاتی ہے اس کو طوی کہتے ہیں۔ القصہ رسول علیہ السلام نے اس طرح کا قلیب کنواں

دیکھا اور اس کے اوپر ڈول دیکھا وہ ڈول لے کر تھوڑا سا پانی نکالا۔ اور پھر ہاتھ روک لیا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ وہ آئے اور انہوں نے دو تین ڈول کھینچے اور پھر ان میں کمزوری دیکھی اس کے بعد عمر خطاب رضی اللہ عنہما کو دیکھا وہ آئے اور دس بارہ ڈول کھینچے اور وہ ڈول بڑا ہو کر غرب بن گیا بڑے ڈول (چرس) کو غرب کہتے ہیں اس سے بہت پانی کھینچا اور کافی زمین کو پانی دیا۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخير نے فرمایا کہ اس حکایت سے مقصود یہ ہے کہ کنوئیں کا مقصد پانی ہوتا ہے۔ چاہے اس پر عمارت بنائیں اور اس کو تکلیف سے بنائیں یا نہ بنائیں غرض اس سے یہی ہوتی ہے کہ پانی ملے یعنی ہر کام میں پیش نظر مقصد کا حصول رہنا چاہئے۔

اس درمیان حاضرین میں سے کسی نے ایک مرید کا سلام پہنچایا جن کو محمد گوالیوری کہتے ہیں خواجہ ذکرہ اللہ بالخير نے فرمایا کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ وہ بہت اچھے آدمی ہیں ایک دفعہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ کنوارہ رہنا بہتر ہے یا شادی شدہ ہونا میں نے کہا کہ عزیمت (ہمت کا کامیاب تجربہ) کنوارا رہنا ہے اور رخصت شادی شدہ ہونا اگر کوئی شخص حق میں اس طرح مشغول ہو کہ اس کو ان باتوں کا کبھی خیال ہی نہ آتا ہو اور اس کو کچھ خبر نہ ہو کہ اس کا کیا مطلب ہے تو پھر اس کی آنکھیں اور زبان اور جسم کے اعضاء محفوظ رہتے ہیں۔ اس کو مجرد رہنا چاہئے۔ اور کسی سے یہ ممکن نہ ہو کہ اس طرح مشغول رہے اور اس کے دل میں ان باتوں کے دوسو سے آتے رہتے ہوں اس کو شادی کر لینی چاہئے۔ اصل چیز اس میں نیت ہے۔ جب اس کی نیت حق میں لگی ہوگی تو اس کے اعضاء پر بھی یہی اثر ہوگا۔ اور اگر اس کے دل کا معاملہ ڈانوا ڈول ہو گا تو اس کے اعضاء پر اس کا اثر ظاہر ہو گا ان محمد گوالیوری کے اس ذکر سے ان کی عمر کی بات آئی کہ کتنے سال ہے۔ اور اس بات سے سلطان شمس الدین کے انتقال کی تاریخ کا ذکر فرمایا۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخير نے یہ شعر زبان مبارک سے پڑھے۔

سال شش صدوسی چہار از ہجرت

نماند شاہ جہاں شمس دین عالمگیر

ترجمہ:- ہجرت کے چھ سو چونتیس سال بعد شاہ جہاں عالم گیر شمس دین (دنیا) میں نہ

رہے۔

پھر مریدوں کے آداب کا ذکر آیا کہ جب وہ اپنے پیر کی خدمت سے رخصت ہوتے ہیں تو دوبارہ سامنے نہیں جاتے جب تک کہ اس مہم اور اس سفر سے واپس نہ آجائیں۔ اس

marfat.com

Marfat.com

درمیان حکایت بیان فرمائی کہ ایک شخص کو شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز نے رخصت فرمایا۔ ان کو علی مکی کہتے تھے۔ جب رخصت کر دیا تو وہ قصبہ اجودھن کے قریب ٹھہر گئے دوسرے روز شاید ان کے ساتھیوں نے وہاں قیام کیا وہ دوبارہ شیخ کی خدمت میں آگئے۔ شیخ نے فرمایا کہ تم تو کل رخصت ہو کر چلے گئے تھے۔ آج واپس کیوں آگئے؟ بولے آج ہمراہی ٹھہر گئے ہیں اس لئے میں دوبارہ آگیا۔ شیخ نے فرمایا مرحبا! اچھا کیا تمہارا آنا مبارک ہو) جب رات ہوئی تو دوبارہ جا کر قافلے میں رہے۔ دوسرے روز بھی ان لوگوں کا پڑاؤ رہا۔ یہ علی صاحب پھر شیخ کی خدمت میں حاضر ہو گئے شیخ نے پوچھا کہ آج کیسے واپس آئے؟ علی نے صورت حال کہہ سنائی۔ تیسرے روز بھی ان لوگوں کو قیام کرنا پڑا۔ اور وہ علی پھر شیخ کے پاس آ گئے۔ تیسرے روز شیخ نے ایک شخص سے کہا کہ دو روٹیاں لاؤ جب دو روٹیاں لائے تو یہ دونوں روٹیاں علی کو دیں اور ان کو روانہ کر دیا۔ اس دفعہ جانے کے بعد وہ شیخ کے پاس نہیں آئے۔

پھر ان علی مکی کی حکایت آئی۔ فرمایا کہ وہ بڑے نیک اور برکت والے آدمی تھے۔ بہت کہا کرتے کہ خدایا مجھے ایسی جگہ موت دیجیو کہ میں نہ تو اپنے شہر میں ہوں نہ وہاں جہاں جانے کی میری نیت ہو۔ بس راستے میں جہاں کوئی مجھے جانتا پہچانتا نہ ہو بس ایسی ہی جگہ مجھے موت دیجو! اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ وہ بدایوں کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں بیمار ہو گئے۔ جب وہ قصبہ بھلانا سے باہر آئے تو ان کی بیماری بہت تکلیف دہ ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ بدایوں پہنچتے انہی حدود میں رحمت حق سے جا ملے۔ اور اسی زمین میں دفن ہوئے۔

ان علی مکی کا حال بیان کرتے ہوئے یہ حکایت بیان فرمائی کہ میں نے ان کو فرماتے سنا کہ ایک دفعہ میں کرمان میں مسافر تھا اور کرمان میں ایک قاضی تھے انہوں نے ایک روز دعوت کی۔ شہر کے بڑے لوگوں اور افسران اور مشاہیر کو بلوایا۔ ایک بوڑھے زرد رو درویش بھی اس دعوت میں موجود تھے۔ اگرچہ ان کا بلاوا نہیں تھا لیکن انہوں نے سنا تھا کہ قاضی کے گھر میں دعوت ہے اس لئے آکر ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ جب سماع (قوالی) شروع کرایا گیا تو اس درویش میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ حال کھیلنے کے لئے کھڑا ہوا۔ قاضی کو یہ پہل بری لگی۔ وہ چاہتا تھا کہ صاحب صدر یا کوئی بزرگ پہلے اٹھے اس درویش کو کیا حق تھا کہ پہلے کھڑا

ہو۔ اس نے درویش سے پکار کر کہا اے درویش بیٹھ جا۔ درویش کو اندر ہی اندر بڑا غصہ آیا۔ فوراً بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد سماع زیادہ گرم ہوا تو قاضی کھڑا ہوا۔ جیسے ہی قاضی اٹھا درویش نے قاضی سے پکار کر کہا کہ قاضی بیٹھ جا! یہ بات کچھ اس طرح کہی کہ قاضی اور حاضرین کے دلوں پر ہیبت چھا گئی۔ قاضی اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ قصہ جب وہ سماع ہو چکا تو لوگ واپس چلے گئے۔ وہ درویش بھی چلا گیا۔ قاضی اپنی جگہ ہی پر بیٹھا رہا ہر چند اٹھنے کی کوشش کرتا تھا۔ لیکن اٹھ نہیں سکتا تھا۔ سات برس تک اسی طرح بیٹھا رہا۔ سات سال کے بعد وہ درویش پھر آیا۔ وہ جانتا تھا کہ میں نے کچھ کام کیا ہے۔ اس لئے قاضی کو آکر دیکھا کہ ضعیف اور خستہ حال اسی ہیئت سے بیٹھا ہے درویش آیا اور قاضی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اور کہنے لگا قاضی اٹھ جا قاضی ذرا نہ ہلا۔ دو سری دفعہ پھر کہا قاضی اٹھ! قاضی اسی طرح بیٹھا رہا۔ تیسری دفعہ درویش بولا۔ اچھا تو پھر اسی طرح بیٹھا رہ اور اسی طرح مر جا! یہ کہا اور باہر چلا گیا۔ اس کے بعد قاضی نے اس کو پہچانا اور اپنے آدمیوں کو دوڑایا کہ اسے واپس لے آئیں مگر وہ کہیں نہ ملا۔ قاضی اسی حال میں مر گیا۔

تیسویں مجلس

اسی سال ماہ جماد الاولیٰ کی اٹھائیسویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی سعادت ہاتھ آئی۔ بندے سے پوچھا کہ جمعے کی نماز کہاں پڑھتے ہو؟ بندے نے عرض کی کہ جامع مسجد کیلو کھری ہی میں پڑھتا ہوں۔ مگر میں مخدوم کو زحمت اس لئے نہیں دیتا کہ اس روز عوام کا ہنگامہ بہت ہوتا ہے ارشاد ہوا کہ میں نے کہہ رکھا ہے کہ میرے خاص مرید جو میرے پاس گھر آتے رہتے ہیں ان کو کچھ ضرورت نہیں ہے کہ ہجوموں میں میرے مزاحم ہوں۔

اس بات کی مناسبت سے کہ ایسی جگہوں پر زحمت نہیں دینی چاہئے۔ حکایت بیان فرمائی کہ مولانا برہان نسفی رحمۃ اللہ علیہ بڑے کامل حال مولوی تھے۔ اگر کوئی شاگرد ان کی خدمت میں کچھ پڑھنے آتا تو اس سے کہتے پہلے مجھ سے تین شرطیں طے کرو۔ پھر میں تمہیں کچھ سکھاؤں گا۔ ان تین شرطوں میں سے پہلی شرط کھانا ایک وقت کھانا۔ جو کھانا بھی تمہیں اچھا لگے اور جو تمہارا من بھاتا ہو اس کو ایک دفعہ کھاؤ اور دن میں ایک وقت کھاؤ۔ تاکہ علم کا برتن خالی رہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نانہ نہ کرنا۔ اگر تم نے ایک روز بھی نانہ کیا تو دوسرے روز میں تمہیں سبق نہیں دوں گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جب راستے میں مجھ سے ملنا تو بس سلام کرنا اور گزر جانا۔ ہاتھ پیر نہ پڑنا اور تعظیم کا اظہار راستے میں نہ کرنا۔

جب یہ حکایت پوری ہو چکی تو اس کے بعد فرمایا کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں اور اپنا چہرہ زمین پر رکھتے ہیں۔ چوں کہ شیخ الاسلام فرید الدین اور شیخ قطب الدین قدس اللہ روحہما العزیز کے سامنے منع نہیں تھا۔ میں بھی منع نہیں کرتا۔ اس درمیان بندے نے عرضداشت کی کہ اگر کوئی مخدوم سامنے آتا ہے اور چہرہ زمین پر رکھتا ہے۔ اس سے اس کو کچھ حاصل ہی ہوتا ہے اور اس کی نفس شکنی ہوتی ہے۔ اور مخدوم تو خدائے عزوجل کی طرف سے بنائے گئے ہیں۔ آپ کی بزرگی مریدوں کی خدمت کرنے سے تھوڑی ہے!

اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے اس بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ انہی گزشتہ دنوں میں ایک شخص آئے بزرگ زادے تھے سیاحت کئے ہوئے اور شام و روم دیکھے ہوئے۔ جب وہ آکر بیٹھے تو اسی دوران وحید الدین قریشی آئے اور جیسا کہ خدمت گاروں کی رسم ہے۔ آداب بجالائے اور سر زمین پر رکھا۔ یہ صاحب جو بیٹھے تھے پکار کر بولے کہ ایسا نہ

کرو۔ سجدے کی اجازت کہیں نہیں آئی ہے اس بارے میں جھگڑا کرنے لگے میں نہیں چاہتا تھا کہ انہیں جواب دوں۔ لیکن جب بات بہت بڑھ گئی اور وہ اس بارے میں بہت غلو کرنے لگے تو میں نے ان سے بس اتنا کہا کہ سنو او دھم مت مچاؤ۔ جو بات بھی کبھی فرض رہی ہو جب اس کی فرضیت چلی جاتی ہے تو استحباب باقی رہتا ہے۔ جیسا کہ ایام بیض اور ایام عاشورہ کے روزے ماضی کی امتوں پر فرض تھے۔ رسول علیہ السلام کے زمانے میں چوں کہ ماہ رمضان کا روزہ فرض ہوا تو ایام بیض اور ایام عاشورہ کے روزہ کی فرضیت اٹھ گئی لیکن استحباب باقی رہا اب سجدے پر آتا ہوں۔ ماضی کی امتوں میں یہ مستحب تھا۔ چنانچہ رعیت بادشاہ کو اور شاگرد استاد کو اور امت پیغمبر کو سجدہ کیا کرتی تھی جب عہد رسول علیہ السلام آیا تو یہ سجدہ نہ رہا۔ البتہ اگر استحباب چلا گیا تو اباحت تو رہی۔ اگر مستحب نہیں تو مباح ہو گا۔ مباح سے انکار اور ممانعت کہاں سے آئی ہے؟ کوئی ایک ہی مجھے بتا دو۔ خالی خولی انکار کیا ہوتا ہے؟ جب میں نے یہ کہا تو وہ چپکے ہوئے اور کوئی جواب نہ دے سکے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر یہ حکایت پوری فرما چکے تو ارشاد کیا کہ میں پشیمان ہوا کہ میں نے اتنی بات بھی ان سے کیوں کہی جس سے وہ دل شکستہ ہو گئے ہوں مجھے ایسا نہیں کہنا چاہئے تھا۔ اگر کپڑا یا نقدی یا اور کوئی چیز ان کو دیتا تو اچھا ہوتا انہیں دو چیزوں سے مجھے پشیمانی ہوئی۔ اس کے بعد کسی کو کچھ پیش کرنے کے بارے میں فرمایا کہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا تھا جو بھی تمہارے پاس آئے تمہیں چاہئے کہ اس کو کچھ دو۔

اس مباحثے کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ کوئی بوڑھا شیخ الاسلام فرید الدین قدس سرہ العزیز کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں شیخ قطب الدین بختیار طیب اللہ تراہ کی خدمت میں رہا ہوں اور آپ کو وہاں دیکھا ہے۔ شیخ نے اسے نہیں پہچانا جب اس نے مزید تعارف کرایا تو پہچانا۔ الغرض یہ بوڑھا ایک جوان کو بھی ساتھ لایا تھا اور وہ اس کا لڑکا تھا۔ اس درمیان بات میں سے بات نکلی تو اس لڑکے نے بے ادبی سے حجت کی اور گستاخی کے انداز میں شیخ سے بحث کرنی شروع کی اس طرح اونچا بولا۔ شیخ نے بھی آواز بلند فرمائی خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر فرماتے ہیں کہ میں اور مولانا شہاب الدین جو شیخ کے صاحبزادے تھے ہم دونوں دروازے کے باہر بیٹھے تھے جب زیادہ شور ہوا تو اندر آئے وہ لڑکا بے ادبی سے گفتگو کر رہا تھا۔ مولانا شہاب نے اندر آکر اس لڑکے کے طمانچہ مارا۔ لڑکانے غصے ہو کر چاہا کہ مولانا سے کینہ پن

کرے۔ میں نے اس لڑکے کے ہاتھ پکڑ لئے۔ اس درمیان شیخ کبیر قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا کہ صفا کرو (باہم صفائی کر لو) مولانا شہاب الدین ایک عمدہ کپڑے کا ٹکڑا لائے اور کچھ نقدی ان باپ بیٹوں کو دی۔ دونوں خوش ہو کر واپس چلے گئے اور بڑے پیر (بابا صاحب) کا قاعدہ تھاہر رات کو افطار کے بعد مجھے اور مولانا رکن الدین کو سامنے بلا تے اور مولانا شہاب الدین کبھی ہوتے کبھی نہ ہوتے۔ الغرض ہمیں طلب فرماتے اور اس روز کی کیفیت اور حال پوچھتے کہ آج کیا ہوا اور کیا حال رہا۔ چنانچہ اس روز افطار کے بعد مجھے اور مولانا رکن الدین کو طلب فرمایا اور اس روز کا ماجرا پوچھا بوڑھے کی آمد اور اس کے بیٹے کے ساتھ بحث کرنے اور مولانا شہاب الدین کی تادیب کا ذکر آیا۔ شیخ کبیر ہنستے رہے۔ اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ میں نے عرضداشت کی جس وقت اس لڑکے نے مولانا شہاب الدین سے گتھنا چاہا میں نے صرف اتنا کیا کہ اس کے ہاتھ پکڑ لئے شیخ ہنسے اور فرمایا کہ تم نے بہت اچھا کیا!

اکیسویں مجلس

اسی سال ماہ مبارک رجب کی چوبیسویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی دولت تک رسائی ہوئی۔ پچھلے دنوں بندے کے پیر کی انگلی پک گئی تھی اور دکھنے لگی تھی اس لئے آستانہ بوسی کی سعادت حاصل نہ ہو سکی تھی۔ آج آیا تو اس تکلیف کا ذکر آیا۔ پوچھا کہ نارو تھا یا اور کوئی بیماری تھی؟ بندے نے عرض کی نارو نہیں تھا۔ یکایک پیر کی انگلی پر ورم آگیا اور سخت درد ہونے لگا۔ ارشاد ہوا کہ کیا کبھی نارو ہوا ہے؟ بندے نے عرض کی کہ اس سے پہلے ہوا تھا نارو کی بیماری ننھی اور اس بیماری کا حال خدمت میں عرض کیا تھا اور زبان مبارک سے یہ ارشاد ہوا تھا کہ دنبل کو دور کرنے کے لئے آیا ہے کہ نماز عصر کی سنتوں میں سورۃ بروج پڑھنی چاہئے دنبل نہیں ہو گا۔ اور چوں کہ نارو بھی اسی قبیل کی چیز ہے اس لئے امید ہے کہ وہ بھی نہ ہو گا۔ بندہ اسی روز سے سورۃ بروج عصر کی نماز کی سنتوں میں پڑھتا ہے جب سے یہ بیماری نہیں ہوئی ہے۔ اس کی بعد عرض کیا کہ زبان مبارک سے یہ بھی سنایا گیا تھا کہ نماز عصر کی سنتوں میں چار سورتیں پڑھنی چاہئیں ایک اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ ارشاد ہوا کہ اچھا ہے اس وقت یہ نکتہ بھی بیان فرمایا کہ نماز عصر کی سنتوں میں دس بار سورۃ والعصر کا پڑھنا بھی آیا ہے۔ پہلی رکعت میں ایک بار اس کے بعد فرمایا کہ نماز برابر جماعت سے پڑھتے ہو؟ بندے

نے عرض کی جی ہاں! ایک مخلص امام مل گئے ہیں جو مخدوم کے مرید ہیں اور جو ان صالح ہیں پوچھا کہ وہ مخلوق (سرمنڈے) ہیں؟ بندے نے عرض کی نہیں۔ فرمایا کہ مخلوق بہتر ہوتا ہے کیونکہ غسل جنابت میں جس کے بال ہوں اس کے لئے احتیاط مشکل ہوتی ہے اگر ایک بال بھی بھگنے سے رہ جائے تو جنابت باقی رہتی ہے البتہ مخلوق اچھا ہے کہ وہ غسل بے شبہ کر لیتا ہے۔

اس کے بعد مخلوق ہونے کی افادیت کے سلسلے میں فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تین چیزیں ہیں جو خود کرنی چاہئیں اور دوسروں کو ان کا سبق نہیں دینا چاہئے ان میں سے ایک یہی سرمنڈانا ہے کہ آدمی خود سرمنڈالے دوسروں کو اس کی تاکید نہ کرے یعنی اس کا فائدہ اس منڈانے والے ہی کے لئے ہوتا ہے۔ دوسرے کھانے سے پہلے شوربا پینا تیسرے پیر کے تلوؤں کو چکنائی لگانا۔ اس کے بعد فرمایا یہ ایک بات ہے جو لوگ کہتے ہیں لیکن ایسا ہونا نہیں چاہئے آدمی کو تو ایسا ہونا چاہئے کہ جس طرح وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ دوسرے بھی فائدہ اٹھائیں۔ اسی معنی کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ ایک بدو تھا جو مسلسل اس عبارت میں دعا کرتا۔ اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد ﷺ پر رحم فرما اور ہم دونوں کے ساتھ اور کسی پر رحم نہ فرما۔ یہ خبر حضرت رسالت ﷺ کو پہنچی تو اس بدو سے فرمایا قَدْ تَحَجَّرَتْ وَاسِيعًا۔ تو نے یہ اچھی حد بندی کی۔ اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے اس کی تشریح فرمائی کہ اگر کوئی شخص صحرا میں اپنے لئے گھر بناتا ہے تو تاجر کرتا ہے۔ یعنی کچھ پتھر حد بندی کے طور پر رکھ دیتا ہے۔ کہ یہاں تک میرے گھر کی حد ہوگی۔ رسول علیہ السلام نے اس کو اس مثال سے سمجھایا کہ خدا تعالیٰ کی رحمت عام ہے اس طرح دعا کیوں کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے بخش دے اور محمد ﷺ کو اور ہمارے ساتھ اور کسی کو نہ بخش! گویا تاجر (حد بندی) کرتا ہے اور تنگ بناتا ہے۔ یہ الفاظ زبان مبارک پر آئے کہ قَدْ تَحَجَّرَتْ وَاسِيعًا تو نے ایک وسیع چیز کو محدود کر دیا۔

بیتسویں مجلس

اسی سال ماہ مبارک رمضان کی دسویں تاریخ ہفتے کو قدم بوسی کی سعادت میسر آئی۔ اس وقت خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر دھوپ میں سے ساتنے میں تشریف لائے تھے زبان مبارک سے

marfat.com

Marfat.com

ارشاد ہوا کہ رسول علیہ السلام نے عائشہؓ سے فرمایا کہ سورج کے سامنے مت بیٹھو کہ اس سے چہرے کی طراوت جاتی رہتی ہے۔

پھر شمس دبیر کی حکایت آئی۔ بندے سے پوچھا کہ تم نے شمس دبیر کو دیکھا تھا! بندے نے عرض کی جی ہاں! بندے کی ان کے ساتھ قرابت داری بھی تھی۔ فرمایا کہ انہوں نے قاضی حمید الدین کی کتاب لوائح شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز سے پڑھی تھی۔ اچھے آدمی تھے۔

اس کے بعد فرمایا کہ شیخ کبیر (بابا صاحب) افطار کر لیتے تو اس کے بعد مشغول ہو جاتے۔ مشغولی بڑی زبردست ہوتی۔ یہاں تک کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو جاتا افطار کے وقت سے عشاء کی نماز کے وقت تک کافی فاصلہ ہے۔ اس درمیان شمس دبیر تھوڑا سا کھانا تیار کرتے اور دو تین پیر بھائیوں کو بلا کر افطار کراتے۔ اتنے میں شیخ کا وقت ہو جاتا۔ میں بھی اس وقت ساتھ ہوتا۔ پھر فرمایا کہ یہ ابتدائی زمانے کا قصہ ہے جبکہ وہ مفلس تھے۔ جب ان کا کام لگ گیا تو یہ اچھی کیفیت نہ رہی۔ اس کے بعد زبان مبارک سے فرمایا کہ دنیا کا اقبال ان باتوں کی وجہ سے تھا۔

پھر نماز تراویح کا ذکر آیا۔ بندے سے پوچھا کہ نماز مسجد میں پڑھتے ہو یا گھر میں؟ بندے نے عرض کی کہ گھر پڑھتا ہوں۔ لیکن امام صالح ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس سے پہلے جامع مسجد میں تراویح کے اندر ختم ہوتا تھا بندے نے عرض کی مولانا شرف الدین امام ہر رات کو ایک سیپارہ پڑھتے تھے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ ہاں میں نے بھی ایک رات کو ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اگرچہ کہ اس رات کو بارش تھی اور گلیاں کیچڑ سے بھری ہوئی تھیں۔ لیکن میں گیا اور نماز پڑھی بہت اچھا اور پر کیف پڑھتے تھے۔ حروف کے مخارج ادا کرنے کا جو حق ہے اس کا پورا خیال رکھتے تھے۔ اس بات کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ سنام کے رہنے والے ایک مولوی صاحب تھے جنہیں مولانا دولت یار کہتے تھے، وہ بہت اچھا اور خوب پڑھتے تھے ان سے زیادہ اچھا اور کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا۔

پھر فرمایا کہ میں نے چھ سیپارے شیخ کبیر قدس اللہ سرہ العزیز (حضرت بابا فریدؒ) سے پڑھے ہیں اور تین کتابیں اور بھی پڑھی ہیں۔ ایک کتاب کو سنا ہے اور دو پڑھی ہیں

جس روز میں نے یہ گزارش کی کہ میں آپ سے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں تو فرمایا کہ پڑھو۔ اس کے بعد جمعے کے روز عصر کے وقت تک جبکہ فرصت رہتی تھی میں کچھ پڑھا کرتا۔ الغرض چھ سیپارے شیخ سے پڑھ لئے۔ جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھ سے فرمایا کہ الْحَمْدُ لِلّٰہِ پڑھو۔ جب میں نے پڑھنا شروع کیا اور وَالْاَضَالِیْنِ پر پہنچا تو ارشاد ہوا کہ ضاد کو اس طرح پڑھوں جیسے میں پڑھتا ہوں۔ ہرچند میں نے چاہا کہ اسی طرح پڑھوں جیسے شیخ پڑھ رہے ہیں۔ لیکن نہ ہو سکا۔ پھر فرمایا کہ کیسی فصاحت اور بلاغت تھی۔ حضرت شیخ ضاد کو اس طرح پڑھتے تھے کہ کوئی اور نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اس وقت فرمایا کہ ضاد خاص رسول علیہ السلام پر اترا ہے۔ دوسروں کے لئے نہیں تھا۔ پھر فرمایا کہ رسول علیہ السلام کو رسول الضاد کہتے ہیں۔ پھر ان الفاظ میں ذکر فرمایا کہ رسول الضاد یعنی وہ جن پر ضاد اترا۔ وَاللّٰہُ اَعْلَمُ

تیسویں مجلس

اسی سال ماہ مبارک رمضان کی پندرہویں تاریخ جمعرات کو قدم بوسی کی دولت تک رسائی ہوئی۔ تراویح کا ذکر نکلا۔ فرمایا کہ تراویح سنت ہے اور تراویح میں ایک قرآن ختم کرنا بھی سنت ہے چاہے ایک رات میں پڑھیں چاہے تیس راتوں میں۔ ایک ختم تراویح میں سن لینا چاہئے۔ پھر زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ تراویح سنت ہے اور جماعت سنت ہے اور تراویح میں ایک ختم سنت ہے۔ بندے نے عرض کی کہ یہ رسول علیہ السلام کی سنت ہے یا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت ہے؟ فرمایا کہ صحابہ کی سنت ہے رسول علیہ السلام نے ایک روایت میں تین رات تراویح ادا فرمائی اور دوسری روایت سے ایک رات۔ لیکن اس کی پابندی عمر خطابؓ نے اپنے عہد خلافت میں کی۔ حاضرین میں سے کسی نے پوچھا کہ صحابہ کی سنت کو بھی کیا سنت کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ہمارے مذہب حنفی میں تو کہتے ہیں لیکن امام شافعی کے مذہب میں سنت وہی ہے جو

رسول ﷺ نے کیا ہے پھر امام اعظم ابو حنیفہ کوئی رحمتہ اللہ علیہ کا ذکر آیا کہ وہ رمضان کے مبارک مہینے میں اکٹھ ختم کیا کرتے تھے۔ ایک تراویح میں اور تیس ہر روز اور تیس ہر رات اس کے بعد فرمایا کہ انہوں نے چالیس سال صبح کی نماز عشاء کی نماز کے وضو سے پڑھی اس وقت زبان مبارک پر یہ بات آئی کہ اتنے علماء اور دانشمند ہو گزرے ہیں کون جانتا ہے کہ کہاں گئے اور کیا تھے یہ جو شہرت باقی ہے۔ یہ حسن معاملہ کی وجہ سے ہے۔ اور یہ حیات معنوی ہے اور اسے آسانی سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ شبلی اور جنید کتنے پہلے ہوئے ہیں لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ کل اور برسوں ہی تھے یہ سب حسن معاملہ کے سبب ہے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصّٰوَابِ۔

چونتیسویں مجلس

اسی سال ماہ شوال کی نویں تاریخ اتوار کو قدم بوسی کی دولت میسر آئی۔ بندے سے دریافت فرمایا کہ میری باتیں جو سنتے ہو لکھ لیتے ہو؟ بندے نے عرض کی جی ہاں لکھ لیتا ہوں۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ یہ یاد رہ جانا بھی تعجب انگیز ہے۔ بندے نے عرض کی سب یاد رہتا ہے اور جہاں یاد نہیں رہتا۔ اور ٹھیک طرح لکھنے سے رہ جاتا ہے۔ جگہ خالی چھوڑ دیتا ہوں تاکہ شاید دوبارہ سننے کا موقع مل جائے۔ تو لکھ لوں۔ جیسے گذشتہ مجلس میں آپ نے فرمایا تھا کہ ایک دفعہ رسول علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ سورج کے سامنے مت بیٹھو کہ اس سے چہرے کی طراوت (تازگی) جاتی رہتی ہے۔ بندے کو خیال آیا تھا کہ پوچھوں کہ یہ حدیث کس طرح زبان گوہر بار سے ارشاد ہوا کہ میں نے یہ حدیث کسی کتاب میں نہیں دیکھی البتہ مولانا علاء الدین اصولی سے سنی ہے جو بدایوں میں میرے استاد تھے اور بڑے بزرگ اور کامل حال ہوئے ہیں۔

یہاں سے مولانا علاء الدین کے اوصاف حمیدہ کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ وہ بڑے بزرگ آدمی تھے۔ بس کسی کا ہاتھ نہیں پکڑا تھا۔ بیعت نہ کی تھی اگر کسی کے مرید ہو جاتے تو کامل حال شیخ ہوتے اس کے بعد فرمایا کہ جس وقت یہ مولانا علاء الدین بچے تھے اور بدایوں

کی گلیوں میں سے کسی گلی میں جا رہے تھے تو شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ گھر کی دہلیز پر بیٹھے تھے جب ان کی نظر مولانا پر پڑی تو انہیں بلایا اور جو لباس خود پہنے ہوئے وہ ان کو پہنا دیا۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ یہ سارے اوصاف اور اخلاق اسی کی برکت سے تھے۔

اس وقت یہ حکایت بھی بیان فرمائی کہ ان مولانا علماء الدین کے پاس ایک بڑھیا لونڈی تھی جو نئی لونڈی بنائی گئی تھی اور بدایوں کے قریب مواس ہے۔ (مواس پناہ کی جگہ کو کہتے ہیں۔ غالباً یہ کوئی گڑھی وغیرہ ہوگی) جس کو کا تھیر کہتے ہیں شاید یہ لونڈی اس مواس کی رہنے والی تھی۔ ایک روز یہ لونڈی رو رہی تھی مولانا علماء الدین نے پوچھا کہ روتی کیوں ہے؟ بولی کہ میرا ایک لڑکا ہے اس سے بچھڑ گئی ہوں۔ مولانا نے کہا کہ اگر میں تجھے تلاب تک پہنچا دوں جو شہر سے ایک کوس ہے اور کا تھیر کے راستے پر ہے وہاں سے آگے اپنے گھر کا راستہ تو جانتی ہے؟ بولی جانتی ہوں مولانا سحری کے وقت اس کو گھر سے لے گئے اور اس تلاب کے پاس لے جا کر چھوڑ دیا۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر جب اس بات پر پہنچے تو آنکھوں میں آنسو بھرا لائے اور فرمایا کہ علمائے ظاہر اس طرح کی باتوں کے قائل نہیں۔ مگر یہ سمجھنے کی بات ہے کہ انہوں نے کیا کیا۔

پھر ان کی دانشمندی اور بحث کے دوران انصاف پیش نظر رکھنے کی حکایت آئی۔ فرمایا کہ اگر کوئی مشکل لفظ آتا یا اس کے کسی نکتے کا جواب دیتے تو یہ بھی کہتے کہ میری تسلی کے مطابق یہ معنی حل نہیں ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں کہیں اور بھی بحث و تحقیق کر لینا۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ یہ کیسے انصاف کی بات ہے۔

انہی معنی کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ یہ مولانا علماء الدین ایک نسخے کا مقابلہ کر رہے تھے۔ ایک نسخہ ان کے ہاتھ میں تھا اور ایک نسخہ میرے ہاتھ میں کبھی وہ پڑھتے ہیں میں دیکھتا۔ اور کبھی میں پڑھتا وہ دیکھتے۔ شروع میں یہ ہوتا رہا۔ پھر میں ایک مصرع پر پہنچا جو ناموزوں بھی تھا اور اس کے کچھ معنی بھی نہ نکلتے تھے۔ اس کے بارے میں بہت سوچ و چار کیا مگر مشکل حل نہ ہوئی۔ اس درمیان ایک صاحب جن کو مولانا ملک یار کہتے تھے وہ آگئے۔ مولانا علماء الدین نے کہا کہ اس مصرعے کی صحت ان سے پوچھیں گے۔ اس کے بعد یہ مصرع مولانا ملک یار کو سنایا اور انہوں نے مصرع جس

طرح پڑھا وہ موزوں بھی تھا اور با معنی بھی دل کو اطمینان ہو گیا اس کے بعد مولانا علاء الدین نے مجھ سے کہا کہ ملک یار نے یہ بات اپنے ذوق کی بناء پر کہی ہے خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر فرماتے تھے مجھے ذوق کے معنی اس روز سمجھ میں آئے میں صرف ذوق ہی سے واقف تھا۔ اس روز پتہ چلا کہ معنوی ذوق کیا ہوتا ہے۔ اس وقت فرمایا کہ یہ مولانا ملک یار کچھ بھی پڑھے ہوئے نہیں تھے لیکن خدا تعالیٰ نے ان کو کرامت سے علم دیا تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان مولانا ملک یار کو بدایوں کی جامع مسجد کی امامت دی گئی کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ اس کام کے اہل ہیں بھی یا نہیں۔ اس بارے میں جتنے منہ تھے اتنی باتیں۔ یہ خبر مولانا علاء الدین کو پہنچی کہنے لگے کہ اگر جامع مسجد بغداد کی امامت بھی مولانا ملک یار کو دی جائے تو ان کی اہلیت کے شایان شان اس کو نہیں کہا جائے گا۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ۔

چیتیسویں مجلس

اسی سال ماہ شوال کی چھیسویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ صدقے کا ذکر نکلا۔ فرمایا کہ صدقہ ہے اور مروت ہے اور وقایت ہے صدقہ تو یہ ہے کہ ایک دوست دوسرے دوست کو کوئی چیز دے۔ لباس یا اور کوئی چیز اور وہ دوست بھی بدلے میں کوئی چیز دے۔ اس کو مروت کہیں گے۔ اور وقایت یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کسی کی زبان درازی اور بدگوئی سے بچانے کے لئے منہ بھرائی دے یعنی ایک آدمی ہے کہ اگر اس کو کچھ نہ دیا جائے گا تو وہ برا کہے گا اور کمینہ پن دکھائے گا۔ اپنی حفاظت کے لئے اس کو کوئی چیز دی جائے تو اس کو وقایت کہتے ہیں۔ اور رسول علیہ السلام نے یہ تینوں باتیں کی ہیں۔ اس موقع پر فرمایا کہ حضرت رسالت شروع زمانے میں تالیف قلوب (دل جیتنے) کے لئے کچھ دیتے تھے جب اسلام طاقت پکڑ گیا تو اس کے بعد عطاء نہیں فرمایا۔

اس زمانے میں لام بندی (لشکر تیار ہونے) مہم پر روانہ ہونے کی شہرت تھی۔ بندے نے عرض کی قرآن شریف کو لشکر میں کس طرح لے جائیں کیوں کہ اس کی حفاظت مشکل

ہوتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ لے جانا چاہئے۔ پھر زبان مبارک سے فرمایا کہ جس زمانے میں اسلام ابھی ابتدائی حال میں تھا۔ رسول علیہ السلام فوج میں جاتے تو قرآن لشکر میں نہ لے جاتے خطرہ رہتا کہ ایسا نہ ہو کہ شکست ہو جائے اور قرآن کفار کے ہاتھ پڑے۔ جب اسلام نے طاقت پکڑ لی اور لشکر بہت ہو گیا تو لشکر کے روانہ ہوتے وقت قرآن بھی لے جانے لگے۔ بندے نے عرض کی کہ خیمے میں قرآن کی جگہ نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ فرمایا کہ سر کی طرف جگہ کرنی چاہئے۔

اس موقع پر حکایت بیان فرمائی کہ سلطان محمود کو اس کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا گیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ خدائے تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگا کہ ایک رات کو میں کسی گھر میں تھا جہاں طاق میں قرآن رکھا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہاں تو قرآن ہو گا۔ میں کیسے سوؤں؟ پھر خود سے بولا کہ قرآن کو اس جگہ سے باہر بھیج دوں؟ مگر یہ خیال بھی آیا کہ اپنے آرام کی خاطر قرآن کو یہاں سے باہر کیسے بھیجوں؟ الغرض اس رات بیٹھا جاگتا رہا۔ جب میرے انتقال کا وقت آیا تو مجھے قرآن کے اس ادب کی وجہ سے بخش دیا گیا۔

بندے نے ایک اور عرضداشت کی کہ لوگ لشکر میں جاتے ہیں مجھے خیال آتا ہے کہ مجھے کوئی واقعہ پیش آجائے (موت آجائے) تو خدمت گاروں کو وصیت کر جاؤں کہ جہاں واقعہ پیش آئے وہیں دفن کر دیں۔ مردے کو دور دراز راستے سے شہر میں لانا بہت بے ذوقی معلوم ہوتی ہے۔ فرمایا کہ یہی اچھا ہے کہ جہاں کسی کی وفات ہو اسی جگہ دفن کر دیں۔ مگر یہ جو امانت رکھتے ہیں اور پھر قبر میں سے نکالتے ہیں۔ یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ زمین خدائے عزوجل کی ملکیت ہے۔ امانت کیا ہوتی ہے البتہ ایسی زمین سے جو کسی اور کی ملکیت ہو تو وہاں سے نکال کر لانا جائز ہے مگر شہر سے جو لشکر جاتے ہیں درمیان میں بہت زمین ہوتی ہے۔ اس سے بہتر بات اور کوئی نہیں ہے کہ جہاں وفات ہو وہیں دفن کر دیں۔ اس موقع پر فرمایا کہ جو بھی سفر کو جاتا ہے اور اپنے گھر بار سے دور پڑ جاتا ہے اور اس کے بعد اس مسافرت میں اس کو موت آجاتی ہے اور وہیں دفن کر دیا جاتا ہے تو جس قدر فاصلہ اس کے گھر اور اس جگہ کے درمیان ہوتا ہے جہاں اسے دفن کیا گیا۔ بہشت میں اس کو اتنی ہی زمین دے دی جاتی ہے۔

پھر خوش اعتقاد بادشاہوں اور نیک امیروں کا ذکر آیا۔ ارشاد ہوا کہ ایک بادشاہ ہو گزرا

ہے بڑی صلاحیت والا اور صاحب کشف۔ ایک روز اپنے جھروکے میں بیٹھا ہوا تھا جہاں سے

نظر پائے گاہ کی طرف بھی پڑتی تھی اور اس کی ملکہ بھی تخت پر پہلو میں بیٹھی تھی۔ اس دوران اس بادشاہ نے نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور دیر تک ادھر دیکھتا رہا۔ پھر پائے گاہ کی طرف دیکھا پھر نظر اوپر اٹھائی اور دیر تک آسمان کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اپنی ملکہ کو دیکھا اور رونے لگا اس کی ملکہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ دیر تک آسمان کو دیکھا کئے۔ پھر پائے گاہ کو دیکھا اور پھر آسمان کی طرف نظر کی اور پھر مجھے دیکھا اور رونے لگے؟ بادشاہ بولے کہ اس سوال کو چھوڑو۔ کچھ کہنے کی بات نہیں ہے اس کی بیوی بہت گڑ گرائی کہ ضرور بتائیے کیا بات ہے؟ بادشاہ بولا کہ اب تم اصرار کرتی ہو تو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد کہا کہ لو جان لو اور آگاہ ہو جاؤ کہ اس وقت میری نظریں محفوظ پر پڑی تھی۔ وہاں میں نے دیکھا کہ میرا نام زندوں کی فہرست سے مٹا دیا گیا ہے میں سمجھ گیا کہ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے پھر میں نے دیکھا چاہا کہ میرے بعد میری جگہ پر کون ہو گا تو دیکھا جو حبشی اس پائے گاہ میں موجود ہے وہ میری جگہ پر ہو گا اور تم اس کے نکاح میں آؤ گی۔ یہ تھا جو میں نے دیکھا۔ ملکہ نے جب یہ بات سنی تو بولی کہ اب آپ کیا سوچتے ہیں اور کیا کریں گے بادشاہ نے کہا کہ میں کر ہی کیا سکتا ہوں۔ جو کچھ خدائے عزوجل نے حکم فرمایا ہے وہی ہو گا۔ میں اس پر راضی ہوں۔ پھر اس حبشی کو پائے گاہ سے طلب فرمایا اور جو پوشاک خود پہنے ہوئے تھا اسے پہنائی اور اپنا ولی عہد مقرر کیا۔ پھر اس حبشی کو لشکر دے کر کسی مہم کے لئے نامزد کیا اور امراء کو اس کے ماتحت روانہ کیا۔ حبشی حکم کے موافق گیا اور اس کام کو پورا کر دکھایا اور جو دشمن تھا اس کو قتل کر دیا اور مال غنیمت بہت ہاتھ آیا اور مقصد پورا کرنے کے بعد واپس آ گیا اور بادشاہ کی خدمت میں جا پہنچا۔ جس رات بادشاہ کی خدمت میں آیا۔ دوسرے روز وہ بادشاہ مر گیا۔ اور جس وقت حبشی لشکر لے کر گیا تھا لوگوں کے ساتھ اتنی اچھی طرح رہا سا تھا کہ سب کے دل اس کی محبت کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ جب بادشاہ انتقال کر گیا تو وہ ملک حبشی کو مل گیا اور پرانے بادشاہ کی بیوی بھی اس کے نکاح میں آگئی۔

پھر حکماء کی حکایت آئی۔ فرمایا کہ فاراب ایک دانشور تھا ایک روز خلیفہ کی مجلس میں مختصر سا اور ہلکا لباس پہنے آیا۔ وہ ترک زادہ تھا۔ خلیفہ کے سامنے سماع ہو رہا تھا۔ اس نے چنگ اٹھا کر بجایا۔ اس حکیم نے سماع کی تین قسمیں کی ہیں۔ کہا ہے کہ ایک ہنسانے والا ہے یعنی اس سے ہنسی آتی ہے۔ دوسرا لانے والا ہے۔ یعنی اس سے رونا آتا ہے تیسرا خواب آور

ہے یعنی بے ہوشی اس سے نیند آتی ہے۔ القصہ جب اس نے چنگ بجانا شروع کیا تو پہلے ساری مجلس ہنسے لگی۔ دوبارہ بجایا تو سب ہائے ہائے کر کے رونے لگے۔ پھر اس طرح بجایا کہ سب بے ہوش ہو گئے۔ اس وقت اس نے کہیں یہ لکھ دیا اور چلا گیا کہ فَاَرَابَ قَدْ حَضَرَ ذٰهُنًا وَ غَابَ۔ فاراب یہاں آیا اور پھر غائب ہو گیا۔ یعنی فاراب حکیم یقیناً یہاں موجود تھا۔ پھر غائب ہو گیا جب اہل مجلس ہوش میں آئے اور یہ بات لکھی ہوئی دیکھی تو کہا کہ اچھا یہ فاراب حکیم تھا جس نے خلیفہ کے پاس آکر اسے بد اعتقاد کر دیا تھا کہ مذہب اہل سنت و جماعت کے مذہب کے خلاف فلک (آسمان) کی حرکت ارادی ہے۔ شیخ شہاب الدین سروردی اس عہد میں موجود تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ خلیفہ اس حکیم کے عقیدے کی طرف مائل ہو گیا تو شیخ شہاب الدین خلیفہ کے پاس آئے۔ یہ حکایت پچھلے صفحات میں آچکی ہے۔ القصہ شیخ نے اپنی کرامت سے اس فتنے کو دفع کر دیا اور خلیفہ اور اس حکیم کو وہ فرشتہ دکھا دیا جو خدا تعالیٰ کے فرمان کے بموجب فلک کو گردش دیتا ہے۔

الغرض خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر یہ حکایت بیان فرما رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور عرض کی کہ رات کو میرے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ اس کا نام عمر رکھو اور لقب شہاب الدین کیوں کہ ہم شیخ شہاب الدین کا ذکر کر رہے تھے۔ انہی کا نام اور لقب رکھنا چاہئے۔ حاضرین میں سے کسی نے اس شخص سے کہا کہ اس لڑکے کا نام عمر رکھتے ہو تو جب بھی اسے اس نام سے پکارو تو حقارت سے اور بگاڑ کر نہ پکارنا۔ اس نکتے کے مناسب حال خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کے دو لڑکے تھے ایک کا نام محمد اور دوسرے کا احمد تھا بارہا شیخ نجیب الدین ان پر غصے ہوتے اور عین غضب کی حالت میں ہوتے مکرہی کہتے کہ اے خواجہ محمد تم نے ایسا کیوں کیا اور اے خواجہ احمد تم نے ایسا کیوں کیا؟ اگرچہ بے انتہا خفا ہوتے مگر ان کے نام اسی طرح لیتے اے خواجہ محمد اور اے خواجہ احمد! پھر نام رکھنے کی مناسبت سے فرمایا کہ رسول علیہ السلام نے بہت سے نام تبدیل فرما دیئے اگر کسی کا برا نام ہوتا تو اس کا اچھا نام رکھ دیتے چنانچہ ایک دفعہ کوئی شخص حضرت رسالت علیہ السلام کی خدمت میں آیا رسول علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے پولا عاصی (نافرمان گناہ گار) رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہارا نام مطیع (فرمان بردار) کر دیا۔ ایک دفعہ اور کوئی شخص حضرت رسالت کی خدمت میں آیا اور رسول علیہ

السلام نے اس سے دریافت فرمایا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ بولا ^{مصطفیٰ} اور ^{مصطفیٰ} ایسے آدمی کو کہتے ہیں جو اپنا پہلو زمین پر رکھے ^{مصطفیٰ} نے فرمایا کہ میں نے تمہارا نام منبعت کر دیا ہے اور منبعت ایسے آدمی کو کہتے ہیں جو اپنا پہلو ہٹا لیتا ہے اور اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کوئی عورت حضرت رسالت کی خدمت میں آئی اور رسول علیہ السلام نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے۔ بولی شعب الغالہ (گمراہی کی گھاٹی) رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہارا نام شعب الہدی (ہدایت کی گھاٹی) رکھ دیا۔ ایک دفعہ رسول علیہ السلام نے ایک شخص کا نام جمل (اونٹ) رکھا۔ اور یہ واقعہ یوں ہوا تھا کہ وہ شخص بہت تکڑا تھا۔ ایک دفعہ لوگ منزل بہ منزل جا رہے تھے ایک شخص آیا اور مطرہ (لوٹا، طہارت کا برتن) اسے دے کر کہا کہ اسے منزل پر پہنچا دینا اور دوسرا آیا اور لباس اسے دیا اور کسی اور نے کوئی اور چیز اس کے حوالے کی۔ اس نے سب چیزیں قبول کر کے اٹھالیں۔ رسول علیہ السلام نے اس کا نام جمل رکھ دیا۔ اس کے بعد حکایت بیان فرمائی کہ جب امیر المومنین حسن ^{جوش} پیدا ہوئے تو ^{مصطفیٰ} مبارک باد دینے آئے اور علیؑ سے پوچھا کہ اس کا نام کیا رکھا؟ علیؑ نے کہا حزن (غم و اندوہ) فرمایا نہیں۔ ارشاد ہوا کہ اس کا نام حسن رکھو۔ اس کے بعد جب حسین ^{جوش} پیدا ہوئے رسول علیہ السلام مبارکباد دینے آئے اور علیؑ سے پوچھا کہ اس کا کیا نام رکھا؟ علیؑ بولے حرب (جنگ) فرمایا نہیں۔ اس کا نام حسین رکھو!

پھر تذکرہ یہ آیا کہ بہت سے لوگ پیر کی جناب سے وابستہ ہوتے ہیں (مرید ہو جاتے ہیں) لیکن غیر حاضری کے زمانے میں مرید کی کیفیت پہلے جیسی نہیں رہتی۔ اس بات کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ ایک بزرگ ہوئے ہیں وہ کہتے تھے کہ جب بھی کوئی میرے پاس آتا ہے اور پھر واپس جاتا ہے تو چاہے میرے اور اس کے درمیان ایک ستون ہی حائل ہو تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا مزاج پہلے جیسا ہی رہا ہو! اسی کے مناسب حال حکایت بیان فرمائی کہ کسی بزرگ نے کہا ہے کہ اگر مجھے اختیار دیا جائے کہ تیری جان تیرے گھر ہی میں ایمان کے ساتھ نکالی جائے یا باہر کے دروازے پر تجھے شہادت عطا کریں۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ گھر کے اندر جو دروازہ ہوتا ہے اس کو باب الیت کہتے ہیں اور جو دروازہ باہر ہوتا ہے اس کو باب الدار کہتے ہیں ان بزرگ نے اسی طرح کہا ہے کہ اگر مجھے اختیار دیا جائے اور پوچھا جائے تمہاری روح اس دروازے پر جو باب الیت ہے قبض کریں ایمان کے ساتھ یا

اس دروازے پر جو باب الدار ہے شہادت کے ساتھ؟ تو میں کہوں گا کہ اسی دروازے پر جو باب الیست ہے ایمان کے ساتھ قبض کر لیں۔ یعنی کون جانتا ہے کہ اس جگہ تک جہاں باب الدار ہے میرا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں؟

اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں کے مزاج کا بدلنا اسی زمانے میں نہیں ہے قدیم زمانے میں بھی رہا ہے۔ جب حضرت رسالت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس دنیا سے رحلت فرمائی تو کئی ہزار مسلمان مرتد ہو گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو طلب فرمایا اور مشورہ کیا بعض نے کہا کہ اگر خلیفہ ان کے ساتھ رعایت کریں اور فی الحال زکوٰۃ اٹھالیں تو (یہ لوگ) اسلام سے برگشتہ نہ ہوں یہ بات قرین مصلحت ہوگی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تلوار کھینچ لی اور فرمایا کہ جو خدا کا حق ہے چاہے وہ رسی ہو جس سے اونٹ کا پیر باندھتے ہیں اگر اس سے کم دیں گے تو میں اس تلوار سے ان سے لڑوں گا۔ یہ خبر امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو علی نے کہا کہ خلیفہ نے اچھا کیا اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں زکوٰۃ چھوڑ دی جائے اور جب کوئی اور خلیفہ ہوتا تو یہ لوگ کہتے کہ نماز بھی ہمیں معاف کر دو اسی طرح اسلام کے سارے احکام ختم ہو جاتے۔

اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ ایک دفعہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز فرما رہے تھے کہ ایک شخص تھا جو میرا مرید ہوا تھا جب میرے پاس سے چلا گیا تو کچھ عرصے تو اس کی کیفیت برقرار رہی۔ پھر اس کی وہ حالت نہ رہی۔ اور ایک اور شخص بھی تھا جو مجھ سے دور چلا گیا اور ایک مدت وہاں رہا اگرچہ کہ مدت بعد وہ بھی بدل گیا۔ پھر دعا گو (حضرت خواجہ نظام الدین) کی طرف رخ فرمایا اور میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ شخص جب سے میرا مرید ہوا ہے اس میں ذرا تبدیلی نہیں ہوئی۔ اسی مزاج پر قائم ہے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر جب اس بات پر پہنچے تو رونے لگے اور روتے روتے ہی زبان مبارک سے فرمایا کہ آج تک ان کی محبت برقرار ہے بلکہ زیادہ سے زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

چھتیسویں مجلس

marfat.com

Marfat.com

اسی سال ماہ ذی القعدہ کی دسویں تاریخ منگل کو دست بوسی کی سعادت میسر آئی۔
خواجہ شاہی (۲۰) موئے تاب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا جو بدایوں میں تھے۔ فرمایا کہ قاضی حمید
الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں شاہی روشن ضمیر کہا تھا جس وقت انہیں خرقہ دیا گیا
کسی کو شیخ محمود موئینہ دوز کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ ہم نے آج یہ کام کیا ہے کہ شاہی کو
خرقہ عطا کیا ہے۔ کیا آپ کو یہ بات پسند آئی؟ شیخ موئینہ دوز نے فرمایا کہ آپ جو کچھ کرتے ہیں
سب پسندیدہ ہی ہوتا ہے اور ٹھیک بات بھی وہی ہوتی ہے!

یہاں سے ان کے بھائی خواجہ ابو بکر موئے تاب (۲۱) رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر نکلا۔ مولانا
سراج الدین حافظ بدایونی نے جو مرید خاص ہیں بیان کیا کہ وہ رات کو اٹھے ہوئے تھے وضو
تازہ کیا دو دو رکعتیں پڑھ کر رحمت حق سے جا ملے خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ کَمَا
تَعِيشُونَ تَمُوتُونَ (جس طرح زندگی گزارتے ہو اسی طرح موت بھی آئے گی)

یہاں سے شیخ احمد نہروالی (۲۲) کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ بزرگ آدمی تھے۔ شیخ بہاؤ الدین
ذکر یا رحمۃ اللہ علیہ کسی کو کم ہی پسند فرماتے تھے انہوں نے شیخ احمد نہروالی کے بارے میں
فرمایا ہے کہ اگر کوئی احمد نہروالی کی مشغولی کو تولے تو وہ دس صوفیوں کے برابر ہوگی۔ اور یہ
احمد نہروالی جب جامع مسجد جاتے تو ان کے مرید ساتھ ہوتے اور وہ اس ہجوم کے ساتھ جاتے
ایک اور درویش تھے جو شیخ علی شویبہ کہلاتے تھے وہ ہر دفعہ اس شیخ احمد نہروالی کو منع کرتے کہ
تم اس ہجوم کے ساتھ مسجد میں مت جایا کرو۔ یہاں تک کہ ایک روز شیخ احمد نہروالی اسی طرح
مریدوں کے ساتھ مسجد میں تشریف لے گئے راستے میں کوئی شخص کسی کو لاٹھی مار رہا تھا۔ شیخ
احمد نے مریدوں کے ساتھ اس کے چاروں طرف گھیرا ڈال لیا اور اس مظلوم کو اس لٹھ باز سے
چھڑا لیا۔ اسی دوران شیخ علی شویبہ بھی پہنچ گئے۔ شیخ احمد نہروالی نے جب ان کو دیکھا تو بولے
کہ اسی طرح کے کاموں کے واسطے میں مریدوں کے ساتھ گھر سے باہر نکلتا ہوں!

پھر یہ حکایت نکلی کہ شیخ احمد نہروالی (۲۳) کس کے مرید تھے فرمایا کہ واللہ اعلم (اللہ بہتر
جانتا ہے) کس کے مرید تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو نعمت فقیہ مادھو
سے ملی تھی اور یہ فقیہ مادھو اجمیر کی جامع مسجد کے امام تھے ایک روز شیخ احمد نہروالی ہندوی
(قدیم اردو یا ہندی کلام) گارہے تھے اور جوانی کے زمانے میں ان کی آواز بڑی اچھی تھی
ہندوی کلام اچھا گاتے تھے جب فقیہ مادھو نے سنا تو کہا کہ جیسی آواز تمہاری ہے افسوس کہ

اسی ہندوی گانے میں خرچ کرتے ہو۔ قیہہ مادھونے کہا کہ قرآن حفظ کر لو! شیخ احمد نے قرآن یاد کر لیا۔ لائق آدمی تھے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے یہ بھی فرمایا کہ جس سماع قوالی میں شیخ قطب الدین بختیار قدس اللہ سرہ العزیز کا واقعہ (۲۴) ہوا ہے اس مجلس میں شیخ احمد نہروالی بھی موجود تھے۔ اور شیخ قطب الدین کے واقعے کی حکایت پچھلے صفحات میں آچکی ہے۔

پھر بدایوں کے درویشوں کا ذکر نکلا۔ فرمایا کہ بدایوں میں ایک درویش تھے جن کو عزیز بشیر کہتے تھے۔ وہ بدایوں سے دہلی قاضی حمید الدین ناگوری کے صاحبزادے مولانا صاحب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں خرقہ لینے آئے ہوئے تھے اسی نیت سے سلطان کے حوض (تلاب۔ غالباً "شمسی تلاب مراد ہے) کنارے ایک اجتماع کیا۔ درویشوں میں سے بعض لوگ وہاں تشریف لائے، اس درمیان ہر شخص حوض سلطان کے بیٹھے پانی کی تعریف کر رہا تھا۔ ان عزیز بشیر نے جو خرقہ حاصل کرنے آئے تھے جب حوض سلطان کو دیکھا تو کہا کہ یہ چھوٹا حوض ہے حوض ساغر (ساغر تال) جو بدایوں میں ہے اس حوض سے زیادہ اچھا ہے! محمد کبیر وہاں حاضر تھے جب انہوں نے ان کی یہ بات سنی تو مولانا صاحب الدین سے کہا کہ ان کو خرقہ مت دیجئے۔ یہ مبالغہ کرنے والے (آدمی) ہیں۔ مولانا صاحب الدین نے ایسا ہی کیا ان کو خرقہ نہیں دیا۔

اس درمیان پھر خواجہ شاہی موئے تاب کی حکایت آئی فرمایا کہ بدایوں میں ان کی بڑی رونق ہو گئی تھی اور سب لوگ ان کے پاس عقیدت سے آتے تھے اور وہ جہاں بھی جاتے بھیڑ لگ جاتی اور یہ خواجہ شاہی موئے تاب سپاہ فام آدمی تھے۔ اسی زمانے میں بدایوں میں ایک درویش مسعود نخاسی نامی تھے۔ جب خواجہ شاہی کو اس ہنگامے کے ساتھ دیکھا تو بولے کہ میاں کلوے حمام تو خوب گرم کیا ہے جل بھی جاؤ گے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ انہوں نے کہا تھا۔ خواجہ شاہی جوانی ہی میں رحلت فرما گئے۔ رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے بدایوں کے کو تو ال خواجہ عزیز کا ذکر نکلا۔ فرمایا کہ خوب آدمی تھا۔ درویشوں کا نیاز مند۔ شیخ ضیاء الدین کا مرید تھا جو بدایوں میں کبھی کبھی درویشوں میں سے (کچھ لوگوں) کچھ کو بلواتا۔ بارگاہ (پجھری) میں بھجواتا، جھگڑاتا اور منہ در منہ سناتا۔ اس نے بدایوں ہی میں جوانی میں شہادت پائی اس کے بارے میں فرمایا کہ ایک روز میں بدایوں کی امریوں (آموں) کے باغوں کی طرف جسے لکھی آلو کہتے ہیں گیا ہوا تھا۔ یہ عزیز کو تو ال ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا اور دسترخوان بچھا رکھا تھا۔ جب مجھے دور سے دیکھا تو پکارا اور کہا مرحبا آئیے میں ڈرنے لگا کہ

کہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ جب میں اس کے پاس گیا تو مجھے پوری تعظیم کے ساتھ اپنے پہلو میں بٹھایا۔ کھانا کھا کر میں واپس آ گیا۔

مولانا سراج الدین حافظ بدایونی حاضر تھے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا یہ حدیث ہے؟
 مَنْ لَيْتَسَ لَهُ شَيْخٌ فَشَيْخُهُ ابْلِيْسُ (جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر ابلیس شیطان ہوتا ہے) خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ مشائخ کا قول ہے مولانا سراج الدین نے پھر پوچھا کہ یہ بھی حدیث رسول ہے مَنْ لَمْ يَزَمْ فليحًا لا يفلح أبدًا (جو کسی فلاح پہنچانے والے کو نہیں دیکھا وہ کبھی فلاح کو نہیں پہنچتا) فرمایا کہ یہ بھی مشائخ کا قول ہے۔

اس وقت ایک درویش کا ذکر فرمایا کہ اگر وہ کسی آدمی کو دیکھتا جو کسی کامرید نہ ہوتا تو کہتا یہ کسی کے پلے میں نہیں بیٹھا! بندے نے عرض کیا کہ گویا وہ وزن نہیں رکھتا؟ فرمایا کہ نہیں اس کے یہ معنی ہیں کہ ہر وہ شخص جو کسی پیر کامرید ہوتا ہے تو جو کچھ وہ مرید کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ عمل اس کے پیر کے پلے میں ڈالا جائے گا۔ پس جو کسی کامرید نہ ہو تو کہتے ہیں کہ فلاں کسی کے پلے (پلڑے) میں نہیں بیٹھا ہے۔ یعنی اس کا کوئی پیر نہیں ہے پھر اس بات کا ذکر آیا کہ کرامت کا اظہار نہیں کرنا چاہئے۔ ارشاد ہوا کہ کرامت پیدا کر لینا کوئی کام نہیں سیدھا سچا مسلمان مسکین فقیر ہونا چاہئے۔ پھر حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ خواجہ ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ (دریائے) دجلہ کے کنارے پہنچے۔ ایک ٹھہیرے کو دیکھا اور اس سے بولے کہ پانی میں جال ڈال کر مچھلی پکڑ۔ اگر میں صاحب ولایت ہو گیا ہوں تو اس جال میں ایک مچھلی پھنسے گی جو پورے ڈھائی من کی ہوگی نہ کچھ کم نہ زیادہ! ماہی گیر نے جال پانی میں ڈالا اور ایک مچھلی جال میں پھنس گئی جب اس کا وزن کیا گیا تو پورے ڈھائی من کی تھی۔ نہ کچھ کم نہ زیادہ۔ یہ خبر شیخ جنید قدس اللہ سرہ العزیز کو سنائی گئی تو فرمایا کہ کاش کہ اس جال میں ایک کلا سانپ آتا اور ابوالحسن کو ڈس لیتا اور ہلاک کر دیتا! کہا گیا کہ ایسا کیوں فرماتے ہیں؟ ارشاد ہوا کہ اگر سانپ ان کو ڈستا اور وہ ہلاک ہو جاتے تو شہید ہوتے۔ چوں کہ ایسا نہیں ہوا اس لئے کیا خبر کہ ان کے کام کا انجام کیسا ہوگا؟

یہاں سے ایک درویش کی حکایت بیان فرمائی کہ اگر کسی کے پیٹ میں درد ہوتا تو کہتا کہ اس کو ٹکنبہ (اوجھڑی) کھانے کے لئے دو اچھا ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کے سر میں درد ہوتا تو کہتا اس کو بھنی ہوئی سری کھلاؤ اچھا ہو جائے گا جیسا وہ کہتا ویسا ہی ہوتا۔ شیخ علی شوریہ

نے اس سے کہا ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ تمہیں نقصان پہنچ جائے گا۔ نتیجہ یہی نکلا کہ ان کو ایک بلا میں مبتلا کیا گیا۔ شیخ علی شوریہ ان کے پاس آئے اور بولے میں نہ کہتا تھا کہ ایسی باتیں نہ کرو تمہیں نقصان پہنچ جائے گا۔ میری بات نہیں سنی۔ اس لئے اس بلا میں مبتلا ہوئے وہ درویش بولا میں نے برا کیا۔ اب دعا کرو تاکہ میں اچھا ہو جاؤں۔ شیخ علی شوریہ نے کوئی دعائے کی۔ وہ اسی بیماری میں انتقال کر گیا۔

سیٹیسیویں مجلس

اسی سال ماہ ذی الحجہ کی گیارہویں تاریخ جمعرات کو دست بوسی کی سعادت تک رسائی ہوئی۔ چونکہ ایام تشریق تھے لوگ متواتر آ جا رہے تھے کھانا بار بار لایا جاتا۔ اس وقت خوش طبعی کے طور پر فرمایا کہ ایک درویش سے پوچھا گیا کہ تمہیں کلام اللہ کی کون سی آیت سب سے زیادہ پسند ہے۔ بولے اُكَلِّهَا ذَانِمٌ (جنت کے درختوں میں ہمیشہ پھل رہتے ہیں) اس وقت یہ نکتہ بیان فرمایا کہ ”اَكَلٌ“ ہے اور ”اَكَلٌ“ ہے اور ”اَكَلَةٌ“ ہے اس کے بعد ان چار کلموں کی تشریح فرمائی کہ اَكَلٌ (کھانا) مصدر ہے اَكَلٌ جو کچھ کھاتے ہیں اَكَلَةٌ ایک بار ایک ہی دفعہ میں کھانا اور اَكَلَةٌ ایک نوالہ۔

اس درمیان ایک عزیز (پیر بھائی) آئے۔ اور چھوٹے سے بچے کو تختی کے ساتھ پیش کیا۔ اور پھر عرض کی کہ یہ میرا چھوٹا بچہ ہے۔ اس کی تختی پر اپنے قلم مبارک سے لکھ دیجئے تاکہ اس کی برکت سے خدا تعالیٰ اسے قرآن پڑھوادے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے اس کی تختی پر اپنے دست مبارک سے لکھا۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ا ب ت ث ج ح خ اس وقت فرمایا کہ جب کسی کا کام ہونے کے لئے کچھ لکھیں اور قلم جلدی جلدی چلے اور قلم کی روانی میں فرق نہ آئے تو وہ کام جلدی پورا ہو جاتا ہے اور اگر قلم مشکل سے چلے اور رکاوٹ پڑے تو اس کام میں بھی دیر لگتی ہے۔ اور رکاوٹ پڑتی ہے پھر فرمایا کہ یہ عقل کی باتیں ہیں۔ اس قسم کی باتوں کا جو فراست سے تعلق رکھتی ہیں بیان کر دینا جائز ہے۔

پھر ایک درویش کی حکایت آئی۔ فرمایا کہ ایک درویش تھے جو گجرات گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے حکایت بیان کی کہ مجھے گجرات میں ایک پہنچا ہوا صاحب کشف دیوانہ (مجذوب) ملا۔ میں اور وہ دیوانہ دونوں ایک ہی گھر میں تھے۔ اور ایک کمرے میں سوتے تھے ایک دفعہ میں

ایک ایسے حوض (تالاب) کی طرف گیا جس کی نگرانی کی جاتی تھی اور کسی کو اجازت نہ تھی کہ اس حوض (تالاب) میں پیر ڈالے۔ میری اس حوض (تالاب) کے چوکیدار سے جان پہچان تھی اس نے مجھ کو اجازت نہیں دی کہ پیر حوض میں رکھیں ایک بڑھیا ان درویش کے پاس آئی اور بولی کہ یہ میرا گھڑا پانی سے بھر کر دے دو۔ یہ درویش کہتے ہیں کہ میں نے بڑھیا کا مٹکا بھر کر دے دیا۔ ایک اور عورت آئی اور گھڑا مجھے دے کر بولی کہ اسے بھی بھر کر دے دو۔ میں نے وہ بھی بھر دیا اسی طرح چار پانچ کے مٹکے پانی سے بھر کر دیئے۔ الغرض جب وہاں سے واپس آیا اور کمرے میں پہنچا تو وہ دیوانہ کمرے میں سو رہا تھا میں اندر آیا نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے چاہا کہ نماز پڑھ لوں۔ بلند آواز سے تکبیر کہی۔ دیوانہ بیدار ہو گیا۔ مجھ سے بولا کہ یہ کیا زور شور دکھا رہے ہو۔ کام تو بس وہ تھا کہ تم نے ان عورتوں کے گھڑے پانی سے بھر کر دیئے تھے۔

اڑتیسویں مجلس

سنہ سات سو ستترہ ہجری ماہ مبارک شعبان کی بارہویں تاریخ آٹھ مہینے بعد قدم بوسی کی دولت میسر آئی۔ اور یہ غیر حاضری اس سبب سے تھی کہ لشکر کیساتھ دیوگیر (دولت آباد دکن) گیا ہوا تھا۔ جب مذکورہ جمعرات کو قدم بوسی کی سعادت میسر آئی تو بڑی نوازش اور مہربانی فرمائی اور راستے کی سختی اور تکلیفوں کے بارے میں دریافت کرتے رہے۔ اور بہت ہی بندہ نوازی فرمائی۔ ملیح جو میرا آزاد کردہ غلام اور رفیق (۲۵) ہے۔ کسی قدر بیمار تھا۔ اس بیماری کی حالت ہی میں حاضر اور راقم کے ساتھ ہی خدمت میں پہنچا۔ اس کے مرض کا حال دریافت فرمایا۔ بندے نے عرض کی کہ بندے کو راستے میں ان کی بیماری کی وجہ سے ٹھہرنا پڑا تھا۔ فرمایا تم نے اچھا کیا اگر کوئی اپنے دوست کے ساتھ جائے اور دوست کو زحمت اور تکلیف پہنچے تو اس پر واجب ہے کہ دوستی کا حق نبھائے اور اس کے حال کا خیال رکھے!

حکایت کی مناسبت سے فرمایا کہ ابراہیم خواص (۲۶) رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ سفر میں رہے اور کسی شہر میں چالیس روز مقیم نہ ہوتے تھے جہاں بھی جاتے چالیس روز سے کم قیام کرتے اور کسی اور جگہ چلے جاتے۔ ان کی عمر اسی طرح گزرتی تھی کہ ایک دفعہ کسی جوان نے ان کے ساتھ رہنے کی اجازت چاہی ابراہیم خواص نے کہا کہ تم میری مصاحبت نہیں کر سکتے۔ میں تو کبھی اس شہر میں رہتا ہوں۔ کبھی اس شہر میں کبھی بے سامان کبھی باسامان۔ تم میرے ساتھ

نہیں رہ سکتے۔ وہ جوان پھر بھی اپنی بلت پر اڑا رہا اور بولا کہ میں ضرور آپ کے ساتھ رہوں گا۔ جب اس نے بہت اصرار کیا تو ابراہیم نے بھی اجازت دے دی۔ قصہ مختصر ابراہیم خواص اپنی اس عادت کے مطابق شہر بہ شہر پھرنے لگے اور جہاں بھی ٹھہرتے چالیس روز سے کم ٹھہرتے حتیٰ کہ ایک جگہ پہنچے تو وہ جوان بیمار ہو گیا۔ خواجہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اس کی بیماری کی وجہ سے تین مہینے اس جگہ مقیم رہے اس کے بعد ایک روز اس جوان کا جی نان اور مچھلی کھانے کو چاہا اور ابراہیم سے اس کی فرمائش کی۔ ابراہیم کے پاس ایک گدھا تھا جس پر کبھی کبھی سواری کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور کچھ اسباب ان کے پاس نہ تھا۔ اس کو بیچ ڈالا اور اس جوان کو آرزو پوری کی جب کچھ وقت گزر گیا تو اس جوان کو کسی قدر صحت ہوئی۔ خواجہ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کا ارادہ کیا۔ جوان نے ان سے کہا کہ اپنا وہ گدھا مجھے دے دیجئے تاکہ اس پر سوار ہو کر آپ کے ساتھ چلوں۔ ابراہیم کو صورت حال کہنا پڑی سارا قصہ اسے سنایا کہ اس گدھے کو فروخت کر کے تیرے لئے نان اور مچھلی فراہم کی غرض یہ کہ وہاں سے کسی طرف روانہ ہوئے۔ خواجہ ابراہیم تین روز اس جوان کو اپنی گردن پر چڑھائے پھرے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر کا مقصد اس حکایت سے یہ تھا کہ ساتھیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رہنا چاہئے۔

جب یہ حکایت پوری ہو چکی تو اپنی بیماری کا حال بیان فرمایا۔ بندے نے بیماری کی یہ خبر لشکر ہی میں سن لی تھی۔ کہتے تھے کہ کسی نے جادو کر دیا تھا۔ اس کے بارے میں عرضداشت کی کہ کیا ہوا تھا؟ ارشاد ہوا کہ ہاں دو مہینے تک بیمار رہا۔ سخت تکلیف اٹھائی یہاں تک کہ ایک شخص کو لایا گیا جو جادو کی علامتوں کو ڈھونڈنے میں کمال رکھتا تھا۔ قصہ مختصر وہ شخص آیا اور گھر کے دروازے کے سامنے اور اطراف پھرا اور ہر دفعہ تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اس کو سونگھ کر بولا کہ یہاں سے سے کھودو جب کھودا گیا تو جادو کی چیزیں نکل آئیں۔ اس وقت مرض میں تھوڑی سی کمی ہو گئی۔ اس عرصے میں اس شخص نے کہا کہ میں اس قدر مہارت بھی رکھتا ہوں کہ اگر کہا جائے کہ کس نے جادو کیا ہے تو میں اس کا نام بتا دوں یہ اطلاع مجھ تک پہنچائی گئی تو میں نے کہا ہرگز نہیں اس کو منع کر دو کہ نام نہ بتائے۔ جس کسی نے بھی جادو کیا تھا میں نے اسے معاف کر دیا اس درمیان بندے نے عرض کیا کہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز پر بھی جادو کیا گیا تھا؟ فرمایا کہ ہاں وہ جادو بھی ظاہر ہو گیا تھا اور جن لوگوں

نے یہ حرکت کی تھی ان کا پتہ بھی چل گیا تھا اور ان کو اجودھن کے حاکم اور وہاں کے بااختیار لوگوں نے شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں بھیج دیا تھا اور عرض کی تھی کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ارشاد ہوا تھا کہ میں نے انہیں معاف کر دیا۔ انہیں چھوڑ دو۔

اس بات کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ رسول علیہ السلام پر بھی جادو کیا گیا تھا۔ جب معوذتین (سورۃ الفلق اور سورۃ الناس) نازل ہوئیں تو گنڈے کرنے والیوں کا شر دور ہوا۔ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نے رسول علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ اگر حکم ہو تو جن عورتوں نے جادو کیا ہے ان کی گردن اڑا دوں۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ چوں کہ خدائے عزوجل نے مجھے صحت عطا فرمادی ہے میں نے انہیں معاف کیا۔

یہاں سے عمر خطاب رضی اللہ عنہ کی حکایت بیان فرمائی کہ جمعے کے روز منبر پر تشریف لائے ہوئے تھے خطبے کے دوران فرمایا سمجھ لو کہ میری موت قریب آگئی ہے۔ اور یہ بات میں کرامت سے نہیں کہتا اس وجہ سے کہتا ہوں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک پرندہ آیا ہے اور اس نے دو دفعہ میرے چونچ ماری ہے۔ اور خواب میں پرندہ کا مطلب ملک الموت ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کہتا ہوں کہ میری موت نزدیک آگئی ہے۔ دوسرے ہفتے شہادت پائی۔ مغیرہ کے غلام ابن لولونامی نے محراب کی اندر ان کے تلواریں ماری۔ جب امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ یہ زخم کھا کر گر پڑے تو اس غلام نے باہر آ کر نو آدمیوں کو اور قتل کیا۔ اور اس کے بعد خود کشی کر لی۔ اس وقت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ میں کچھ سانس باقی تھے یہ خبر جب ان کو پہنچائی گئی کہ اس غلام نے چند آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد خود کشی کر لی تو امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا الحمد للہ اس نے خود کو اپنے آپ مار لیا۔ اور اس کو میرے لئے قتل نہیں کیا گیا۔

یہاں سے امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کی حکایت بیان فرمائی کہ ان کو عبدالرحمن مہلم نے قتل کیا تھا۔ ہوا یہ کہ وہ مسلح ہو کر امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے لگا رہا اور علی رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ علی ایک جگہ پانی کے کنارے کھڑے تھے وہاں ایک قبرستان تھا امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نے قبرستان کی طرف رخ کیا اور کسی شخص کا نام لے کر پکارا کہ اے فلاں! قبروں میں سے اس نام کے ستر آدمیوں نے اس کا جواب دیا۔ پھر امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ

نے اس طرح آواز دی کہ اے فلاں کے بیٹے فلاں! اس نام کے سات آدمیوں نے جواب دیا۔ اس کے بعد امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نے اس طرح آواز دی کہ اے فلاں کے بیٹے فلاں اور فلاں کے بیٹے فلاں! اس پر ایک شخص نے جواب دیا۔ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ پانی کس جگہ کم ہے؟ اس شخص نے جواب دیا اسی جگہ جہاں آپ کھڑے ہیں پس امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ پانی میں اتر کر پار ہو گئے۔ عبدالرحمن مہلم نے یہ ساری گفتگو سنی اور اسی طرح پیچھا کرتا رہا۔ پار اترنے کے بعد بولا کہ اے علی ان مردوں کے نام اور ان کے باپوں کے نام تو جانتے ہو۔ یہ نہیں جانتے کہ پایاب کہاں ہے؟ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں جانتا تو ہوں لیکن نہیں چاہتا کہ تو میرے حال سے مطلع ہو القصہ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور عبدالرحمن نے آکر تلوار چلائی۔ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نے جب زخم کھایا تو فرمایا فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ۔ کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کے آخری الفاظ یہی تھے۔ بندے نے پوچھا کہ یہ عبدالرحمان مسلمان تھا؟ فرمایا کہ ہاں مسلمان تھا۔ اور معاویہ کی طرف ہو گیا تھا۔ بندے نے عرض کی معاویہ کے بارے میں کیا اعتقاد رکھنا چاہئے؟ فرمایا کہ وہ مسلمان تھے اور صحابہ میں سے تھے اور رسول علیہ السلام کے سالے تھے۔ ان کی ایک بہن تھیں۔ ان کا نام حبیبہ تھا۔ وہ حرم رسول رضی اللہ عنہا تھیں۔

اس حکایت کے بعد چوں کہ بندہ آٹھ مہینے کی مدت کے بعد خدمت میں حاضر ہوا تھا اور لشکر سے دوسرے عزیز (پیر بھائی) بھی آئے ہوئے تھے۔ اشتیاق اور جدائی کا خوب ذکر رہا۔ ارشاد ہوا کہ میں نے ایک دفعہ ایک عرضداشت شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں لکھی تھی اور یہ رباعی قلم بند کی تھی رباعی

زاں روز کہ بندہ تو خواند مرا بر مر دمک دیدہ نشانند مرا
 لطف عامت عنایتی فرمود است ورنہ چہ کم خلق چہ دانند مرا
 ترجمہ:- جس دن سے کہ مجھے آپ کا غلام کہا جاتا ہے۔ لوگ مجھے آنکھوں کی پتلیوں پر
 بٹھاتے ہیں آپ کے لطف عام نے ایک عنایت فرمائی ہے۔ ورنہ میں کون اور لوگ مجھے کیا
 جانیں!

اس کے بعد جب شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس رباعی کا تذکرہ فرمایا کہ میں نے
 اسے یاد کر لیا ہے۔ والسلام!

انتالیسویں مجلس

اسی سال ماہ مبارک شعبان کی تیسویں تاریخ پیر کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی۔ بندے کو مخدوم کے مریدوں میں سے ایک شخص نے دیوگیر (دولت آباد) میں تین شش گانی جیل (ایک سکہ) دیئے تھے اور کہا تھا کہ انہیں مخدوم جہانیاں کی خدمت میں پہنچا دینا اور میرے لئے دعا کو کہنا! بندے نے ان کی وصیت کے مطابق یہ تین جیل جا کر پیش کئے اور کیفیت سنائی خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے اپنے دست مبارک سے وہ جیل لے کر سامنے رکھ لئے اور اس کے بعد حکایت بیان فرمائی کہ شیخ شہاب الدین سروردی قدس اللہ سرہ العزیز ایک دفعہ سفر حج سے واپس آئے ہوئے تھے اور اہل بغداد ان کی خدمت میں حاضر تھے ہر ایک نقد اور جس کی صورت میں کوئی نذر لایا۔ اس کے درمیان ایک بڑھیا آئی اور اپنی پرانی چادر کی گرہ کھولی اور ایک درہم سامنے رکھا۔ شیخ شہاب الدین نے وہ ایک درہم اٹھالیا اور ان سب تحفوں اور ہدیوں کے اوپر رکھ دیا۔ پھر جو بھی لوگ حاضر تھے ان سے فرمایا کہ ان نذرانوں اور تحفوں میں تم لوگ جو چاہو اٹھالو۔ ہر شخص اٹھا اور نقدی اور تھیلی اور اچھا اچھا سامان لینے لگا۔ شیخ جلال الدین تبریزی طیب اللہ ثراہ حاضر تھے۔ ان کو بھی اشارہ کیا کہ آپ بھی کوئی چیز لے لیں۔ شیخ جلال الدین اٹھے اور وہ ایک درہم جو بڑھیا لائی تھی لے لیا۔ شیخ شہاب الدین نے جب یہ دیکھا تو فرمایا کہ آپ تو سب کچھ لے گئے! اس بات پر بندے نے عرض کی کہ شیخ جلال الدین کیا شیخ شہاب الدین کے مرید تھے فرمایا نہیں۔ وہ شیخ ابو سعید تبریزی کے مرید تھے جب ان کے پیر وہ کر گئے تو وہ شیخ شہاب الدین کے پاس آگئے اور ایسی خدمتیں کیں کہ کسی غلام اور مرید کو میسر نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ ہر سال بغداد سے سفر حج کو جاتے وہ بوڑھے اور کمزور ہو گئے تھے ان کے لئے جو توشہ لے جاتے وہ بڑھاپے کی وجہ سے ان کے مزاج کے موافق نہ ہوتا۔ ٹھنڈا کھانا ان کے مزاج کے موافق نہ آتا تھا۔ شیخ جلال الدین تبریزی یہ ترکیب کرتے کہ چولہا اور پتیلی سر پر لئے پھرتے اور اس میں آگ اس طرح جلاتے کہ ان کا سر نہ جلے اور شیخ جس وقت بھی کھانا مانگتے گرم کھانا ان کے سامنے پیش کرتے۔

یہاں سے شیخ ابو سعید تبریزی قدس اللہ سرہ العزیز کی بزرگی کا تذکرہ فرمایا جو شیخ جلال

الدین کے پیر تھے کہ بڑے بزرگ پیر تھے۔ اور زبردست تارک دنیا۔ چنانچہ زیادہ تر وقت فاقے سے گزرتا۔ اور کسی سے کوئی چیز نہ لیتے یہاں تک ہوا کہ تین روز تک ان کی خانقاہ میں کوئی کھانا نہیں تھا۔ وہ اور ان کے مرید خربوزے اور تربوز سے افطار کرتے اور گزر بسر کرتے۔ یہ خبر اس شہر کے والی (حاکم) کو ہوئی بولا کہ چونکہ وہ ہماری کوئی چیز قبول نہیں کرتے اس لئے نقد لے جاؤ اور شیخ کے خادم کو پیش کر دو اور خادم سے کہو کہ تھوڑا تھوڑا کر کے خرچ کرتا رہے اور یہ بات شیخ کو نہ بتائے چنانچہ ایک حاجب (اے ڈی سی یا سیکرٹری) آیا اور خادم کو نقدی پہنچا کر تاکید کر دی کہ جس طرح مصلحت دیکھو خرچ کرنا اور شیخ کو نہ بتانا کہ یہ کہاں سے آئی ہے القصہ جب نقدی آئی اور خرچ شروع ہوا تو اس روز شیخ کو طاعت میں وہ ذوق و راحت نہ ملی جو ملا کرتی تھی۔ انہوں نے خادم کو بلایا اور پوچھا کہ تم یہ خرچ کہاں سے کر رہے ہو۔ خادم کو چھپانا بن نہ پڑا ساری بات کہہ دی شیخ نے فرمایا کہ جو شخص یہ نقدی لایا تھا۔ کیسے آیا تھا اور اس کے قدم کہاں کہاں پہنچے تھے اشارے سے بتایا گیا کہ اس طرح آیا تھا اور اس طرح قدم رکھے تھے ارشاد ہوا کہ جہاں جہاں اس کا قدم پڑا ہے وہاں کی زمین کھودی جائے چنانچہ مٹی کھودی گئی اور نکال کر پھینک دی گئی اور پھر اس خادم کو اس نقدی کے ساتھ خانقاہ سے باہر نکال دیا۔

شیخ ابو سعید تبریزی کے ترک کا حال اس طرح بیان فرمایا۔ مگر ارشاد ہوا کہ شیخ شہاب الدین کے پاس بہت نذرانے آتے تھے اور وہ انہیں اسی طرح خرچ بھی کر ڈالتے تھے۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو ان کا ایک لڑکا تیس سال کا تھا۔ جس کا نام عماد تھا۔ اس کے حال کو شیخ کے حال سے کوئی نسبت نہیں تھی۔ اس نے آکر خادم سے خزانے کی کنجی مانگی شروع کی۔ خادم نے اس میں تامل کیا کہ بھلا یہ اس کا کون سا وقت ہے۔ شیخ نزع کی حالت میں تھے کہ بات ان کے کان تک پہنچی ارشاد ہوا کہ کنجی اسے دے دو۔ لڑکے نے کنجی لی اور خزانہ کھولا۔ چھ دینار سے زیادہ کچھ موجود نہ تھا۔ وہ بھی شیخ پر خرچ ہو گیا۔

چالیسویں مجلس

اسی سال ماہ مبارک رمضان (اس کی برکتیں عام ہوں) کی چوتھی تاریخ جمعرات کو قدم بوسی کی سعادت تک رسائی ہوئی۔ ایک طالب علم حاضر ہوا خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے اس کا حال

marfat.com

Marfat.com

دریافت فرمایا۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے تعلیم تو پوری کر لی ہے۔ اب شاہی محل میں آنا جانا شروع کیا ہے تاکہ روٹی ملے اور فراغت حاصل ہو۔ جب وہ واپس چلا تو خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے یہ دو مصرعے زبان مبارک سے ارشاد فرمائے۔

شعر۔ در و صف حال بس سرہ ایست

چوں بخواہش رسید مسخرہ ایست
ترجمہ:- کیفیات کے اظہار کے لئے تو شعر بڑی پاکیزہ اور کھری چیز ہے۔ لیکن ہوس تک پہنچے تو مسخرہ پن ہے۔

پھر فرمایا کہ شعر ایک لطیف چیز ہے۔ لیکن جب اس کے ذریعے قصیدہ خوانی کریں اور ہر کس و ناکس تک لے جائیں تو یہ سخت بے ذوقی بھی ہے اور علم بھی خود اپنی جگہ بہت اعلیٰ چیز ہے لیکن جب اس کو روزی کا ذریعہ بنائیں اور دروازے دروازے پھریں تو اس کی عزت بھی جاتی رہتی ہے۔

اسی دوران مریدوں میں سے ایک غلام لڑکا حاضر ہوا اور ایک ہندو کو ساتھ لایا اور عرض کی کہ یہ میرا بھائی ہے جب وہ دونوں بیٹھ گئے تو خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے اس غلام سے پوچھا کہ تمہارا یہ بھائی کچھ اسلام سے بھی رغبت رکھتا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ اس کو اسی بات کے لئے مخدوم کی خدمت میں لایا ہوں کہ مخدوم کی نظر کی برکت سے مسلمان ہو جائے خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر آنکھوں میں آنسو بھرا لائے اور ارشاد کیا کہ کسی کے کہنے سے اس قوم کا دل نہیں بدلا کرتا۔ البتہ اگر کسی صالح نیک آدمی کی صحبت مل جائے تو امید ہوتی ہے کہ اس کی برکت سے مسلمان ہو جائے۔

اس کے بعد حکایت بیان فرمائی کہ جب خلافت حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کو ملی۔ تو ان کی عراق کے بادشاہ سے جنگ ہوئی۔ اور اس جنگ میں عراق کا بادشاہ گرفتار ہو گیا۔ اس کو حضرت عمرؓ کے سامنے پیش کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر تو مسلمان ہو جائے تو میں ملک عراق تجھ کو ہی بخش دیتا ہوں۔ اس بادشاہ نے کہا کہ میں اسلام نہیں لاؤں گا حضرت عمرؓ نے کہا اما لا اسلام واما السیف یا اسلام یا تلوار! اگر اسلام قبول نہیں کرے گا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ بادشاہ نے کہا قتل کر دو میں اسلام قبول نہیں کرتا۔ حضرت عمرؓ نے تلوار لانے اور جلاذ کو بلانے کا حکم دیا

وہ بادشاہ بہت ہی چالاک اور سمجھدار تھا جب اس نے یہ صورت حال دیکھی تو حضرت عمرؓ سے مخاطب ہو کر بولا کہ میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلانے کا حکم دیجئے۔ حضرت عمرؓ نے پانی لانے کا حکم دیا۔ پانی شیشے کے برتن میں ڈال کر لایا گیا۔ بادشاہ بولا کہ میں اس برتن میں پانی نہیں پیوں گا حضرت عمرؓ نے کہا کہ یہ بادشاہ رہا ہے اس لئے سونے چاندی کے برتن میں پانی ڈال کر لاؤ ایسا ہی کیا گیا۔ جب بھی اس نے پانی نہیں پیا اور کہا کہ میرے لئے مٹی کے برتن میں پانی بھر کر لاؤ۔ چنانچہ مٹی کے کوزے (آب خورے) میں پانی بھر کر اس کے ہاتھ میں دیا گیا۔ اس نے حضرت عمرؓ کی طرف رخ کر کے کہا کہ مجھ سے عہد کیجئے کہ جب تک میں یہ پانی پی نہ لوں۔ مجھے قتل نہیں کریں گے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک تو یہ پانی پی نہ لے گا تجھے قتل نہیں کروں گا۔ اس بادشاہ نے کوزہ زمین پر دے مارا۔ کوزہ ٹوٹ گیا اور سارا پانی بہ گیا۔ اس وقت حضرت عمرؓ سے بولا کہ میں نے یہ پانی نہیں پیا ہے۔ آپ نے عہد کیا تھا کہ جب تک تو یہ پانی پی نہ لے گا تجھے قتل نہیں کروں گا۔ اب مجھے امان ہونی چاہئے۔

حضرت عمرؓ کی چالاکی پر متعجب رہ گئے اور اس کو امان دینا مان لیا۔ اس کے بعد اسے ایک دوست کے ساتھ کر دیا۔ وہ دوست بہت ہی نیک اور صلاحیت والے تھے جب عراق کے بادشاہ کو ان دوست کے گھر میں لے گئے تو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ان دوست کی اچھی صحبت نے ان پر اثر کیا اور اس نے حضرت عمرؓ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ مجھے اپنے پاس بلائیے تاکہ ایمان لے آؤں! حضرت عمرؓ نے اسے طلب فرمایا اور اس کے سامنے اسلام پیش کیا وہ مسلمان ہو گیا۔ جب وہ اسلام لے آیا تو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اب میں تجھے عراق کا ملک عطا کرتا ہوں بادشاہ نے جواب دیا کہ حکومت میرے کام نہیں آئے گی۔ مجھے تو ملک عراق میں سے ایک گاؤں دے دیجئے جو میرے خرچ کو کافی ہو۔ حضرت عمرؓ نے گاؤں دینا قبول فرمایا۔ اس درمیان بادشاہ نے کہا کہ مجھے ایسا گاؤں چاہئے جو ویران ہو تاکہ میں اسے آباد کر لوں۔ حضرت عمرؓ نے آدمیوں کو عراق کے علاقے میں بھیجا اور سارے عراق میں تلاش کرا لیا مگر ویران گاؤں کوئی نہ ملا۔ حضرت عمرؓ نے بادشاہ کو سارا حال بتایا کہ پوری عراق میں ایک بھی گاؤں غیر آباد نہیں ملا۔ وہ بادشاہ بولا کہ میرا مقصد اس بات سے یہ تھا کہ میں نے عراق کو ایسا آباد آپ کے حوالے کیا ہے کوئی بستی اجڑ گئی تو کل قیامت کے دن جواب آپ کو دینا ہو گا۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر اس حکایت پر آبدیدہ ہو گئے اور اس بادشاہ کی ہوشیاری اور سمجھ

- داری کی بڑی تعریف فرمائی اس موقع پر اسلام اور مسلمانوں کے صدق و دیانت کے بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ ایک یہودی کا گھر خواجہ بایزید . سطای قدس اللہ سرہ العزیز کے گھر کے پڑوس میں تھا۔ جب خواجہ بایزید . سطای کا انتقال ہو گیا تو اس یہودی سے پوچھا گیا کہ تم مسلمان کیوں نہ ہوئے؟ یہودی بولا کہ کون سا مسلمان بنوں؟ اگر اسلام وہ ہے جو بایزید کا اسلام تھا تو ایسا اسلام میرے بس کا نہیں ہے اور اگر اسلام یہ ہے جس کا نمونہ تم لوگ ہو تو ایسے اسلام سے مجھے شرم آتی ہے۔

اکتالیسویں مجلس

اسی سال ماہ مبارک رمضان کی ستائیسویں تاریخ ہفتے کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی۔ ملیح جو میرا پرانا خدمت گار ہے۔ تھوڑی سی مصری پیش کرنے لایا تھا۔ شاید اس کی لڑکی کا نکاح ہوا تھا۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر کو معلوم تھا کہ ملیح کی چار لڑکیاں ہیں۔ الغرض مصری دیکھ کر حضور نے پوچھا کہ کیا ہے؟ بندے نے عرض کی کہ اس کی لڑکی کا نکاح ہوا ہے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جس کی ایک لڑکی ہو اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک پردہ ہو جاتا ہے۔ تمہاری تو چار ہیں! اس وقت زبان مبارک سے ارشاد ہوا ابو البنات مردوق بیٹیوں کے باپ کو رزق دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ لڑکیوں کے باپ کے لئے رزق میں وسعت ہوتی ہے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام کی حکایت بیان فرمائی کہ جب انہوں نے اس بچے کو قتل کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طعنہ دیا کہ ایک معصوم جان کو کیوں مار دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کو اس کے آخر حال کی خبر تھی اس لئے اس کا جواب دے دیا۔ قصہ مختصر اس بچے کے باپ کو لڑکے کے قتل کے بعد ہی حق تعالیٰ نے بیٹی عنایت فرمائی جس سے سات لڑکے صاحب ولایت پیدا ہوئے!

اس کے بعد بندے سے پوچھا کہ نماز تراویح کہاں پڑھتے ہو۔ بندے نے عرض کی کہ گھر میں پڑھتا ہوں۔ ایک امام ہے پوچھا کہ وہ کیا پڑھتا ہے؟ بندے نے عرض کی فاتحہ اور اخلاص (قل ہو اللہ) فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ اس موقع پر فرمایا کہ حضرت شیخ فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کے ہاں بھی یہی پڑھتے تھے۔ شیخ بوڑھے ہو گئے تھے۔ تراویح بیٹھ کر ادا فرماتے تھے۔ بس فرض کھڑے ہو کر ادا کرتے باقی سب نمازیں بیٹھ کر پڑھتے۔

پھر ایک بزرگ کا نام لیا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک لقمہ کھا کر سو جاتا ہوں یہ اس سے بہتر ہے کہ پیٹ بھر کر کھاؤں اور ساری رات قیام کروں (نماز پڑھوں) اس کے بعد فرمایا کہ شیخ کبیر (حضرت بابا صاحب) روزہ کم چھوڑتے تھے چاہے نصد (۲۷) کھلواتے یا پھنچنے لگواتے یا بخار آتا روزہ ضرور رکھتے تھے اس کے بعد حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت بیان فرمائی کہ وہ روزہ کم رکھتے البتہ طاعت و عبادت بہت کرتے۔ اس وقت یہ آیت زبان مبارک پر آئی کہ **كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَاعْمَلُوا صَالِحًا** (پاکہ ۱۰۰) میں

سے کھاؤ اور نیک عمل کرو) اور فرمایا کہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں یہ آیت صادق آتی ہے

بیالیسویں مجلس

اسی سال ماہ شوال کی چوتھی تاریخ ہفتے کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی بچوں کی محبت کا ذکر نکلا۔ فرمایا کہ رسول علیہ السلام نے امام حسن کو بچوں کے ساتھ دیکھا۔ ان کے قریب تشریف لائے۔ ایک ہاتھ ان کی تھوڑی کے نیچے رکھا اور دوسرا ہاتھ سر پر رکھا ان کا منہ چوما۔ اس درمیان بندے نے عرض کی کہ ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ رسول علیہ السلام نے حسن " اور حسین " کی خاطر اونٹ کی آواز نکالی۔ ارشاد ہوا کہ ہاں یہ حکایت مشہور ہے اور لکھی ہوئی ہے اور یہ لفظ زبان مبارک پر لائے کہ **يَعْمُ الْجَمَلُ جَمَلُكُمْ** آپ دونوں کا اونٹ (کیسا) اچھا اونٹ ہے!

پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں اپنے ایک ساتھی کو کسی علاقے کا حکم مقرر فرمایا تھا۔ اور تقرر کی سند ان کے نام لکھوا کر حوالے کی تھی۔ اس دوران امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ ایک چھوٹے بچے کو گود میں لئے پیار و محبت کا اظہار فرما رہے تھے۔ ان ساتھی نے حضرت عمر " سے مخاطب ہو کر کہا کہ میرے دس لڑکے ہیں میں ان میں سے کسی کو بھی اس طرح نہیں چاہتا اور پیار نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ تقرر کی جو سند میں نے تمہیں دی ہے۔ مجھے واپس کر دو ان صاحب نے سند حضرت عمر " کے ہاتھ دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کاغذ کو پھاڑ ڈالا اور فرمایا کہ جب تم بچوں پر شفقت نہیں کرتے تو بڑوں پر کیسے کرو گے! **وَاللّٰهُ اَعْلَمُ**۔

تینتالیسویں مجلس

اسی سال ماہ ذی الحجہ کی پانچویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ کوئی

شخص آیا خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے پوچھا کہ کہاں سے آرہے ہو؟ بولا کہ دارالخلافت سے اور اس چھاؤنی سے جو (شہر) سیری میں ہے وہاں سے آتا ہوا ہے چوں کہ اس جگہ کا نام دارالخلافت (۲۸) پڑ گیا ہے اس لئے اس نے کہا کہ دارالخلافت سے آیا ہوں نام کی مناسبت سے بغداد کی حکایت نکلی فرمایا کہ بغداد کو ابتدا میں مدینہ منصور (منصور کا شہر) کہتے تھے۔ کیونکہ ایک خلیفہ منصور نامی بغداد کو اسی نے تعمیر کرایا تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ بغداد کو مدینہ اسلام (اسلام کا شہر) بھی کہتے ہیں۔

اس درمیان اولیائے حق اور ان کے کمال محبت کا ذکر نکلا۔ اس وقت فرمایا کہ کل قیامت کے دن حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کو میدان حشر میں حاضر کیا جائے گا اور ظاہر ہو گا جیسے کوئی مست و مخمور ہو۔ مخلوق حیران ہوگی اور پوچھیں گے کہ یہ کون ہے؟ آواز سنیں گے کہ یہ ہماری محبت کا مست ہے۔ اس کو معروف کرخی کہتے ہیں! پھر معروف کرخی کو حکم ہو گا بہشت میں جاؤ۔ وہ عرض کریں گے کہ نہیں! میں نے تیری پرستش جنت کیلئے تھوڑی کی ہے۔ اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ نوری زنجیروں سے باندھ کر انہیں کشاں کشاں بہشت میں لے جائیں!

حاضرین میں ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت عزت (اللہ تعالیٰ) کی عظمت اور پاکی بے انتہا اور فرزند آدم ایک ادنیٰ مقام پر۔ ایسے میں محبت اور قربت کی کیا نسبت؟ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے اور یہ مسئلہ بحث کا بھی نہیں ہے۔ بندے (حسن علاء بجزی) نے عرض کی کہ ایک نظم مناسب حال یاد آئی اور وہ یہ ہے کہ

عشق را بو حنیفہ درس نگفت

ترجمہ:- حضرت ابو حنیفہ نے عشق کا سبق نہیں پڑھایا۔

بندے نے یہ مصرع پڑھا تو خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے دوسرا مصرع ارشاد فرمادیا کہ

شافعی راور روایت نیست

ترجمہ:- حضرت شافعی کی بھی اس میں روایت نہیں

ہے۔

چوالیسویں مجلس

ماہ ربیع الاول کی اٹھارویں تاریخ سنہ سات سو اٹھارہ ہجری ہفتے کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ حلم کی فضیلت کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ حلم کی صفت سے موصوف ایک بزرگ تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ نعمت کہاں سے ملی۔ بزرگ نے کہا کہ میں نے یہ نکتہ استاد قاری عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا ہے ان سے پوچھا گیا کہ ان کے اوصاف حلم میں سے کوئی بات بتائیے۔ فرمایا کہ ایک دفعہ وہ آبادی سے دور جنگل کی طرف تھے۔ ایک کینے آدمی نے ان کے ساتھ کینے پن شروع کیا اور بہت نامناسب باتیں کہیں عاصم کچھ نہ بولے اور کوئی جواب نہ دیا۔ یہاں تک کہ شہر کے قریب آگئے۔ وہ کینے اسی طرح برا بھلا کہتا رہا۔ جب لوگوں کے درمیان پہنچ گئے تو عاصم نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ جناب عالی! بس اب واپس جائیے۔ یہاں میرے دوست آشنا بہت ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی بدگوئی سن لیں اور آپ کو تکلیف پہنچائیں! اس کے بعد ان بزرگ نے ان کے حلم کے بارے میں دوسری حکایت سنائی کہ ایک دفعہ میں اور چند شاگردان کی خدمت میں بیٹھے تھے اور ہم حدیث پڑھ رہے تھے۔ وہ تشریح کر رہے تھے اور ہم استفادہ۔ عاصم ایک کپڑے سے اپنے آپ کو لپیٹے بیٹھے تھے اسی طرح کمر اور گھٹنوں کو کپڑے سے لپیٹے فوائد بیان کر رہے تھے کہ کسی شخص نے آکر کہا کہ آپ کے لڑکے کو قتل کر دیا گیا۔ پوچھا کس نے قتل کیا؟ اس نے کہا آپ کے چچا کے لڑکوں نے۔ شاید ان کے درمیان جھگڑا ہوا۔ اس جھگڑے میں آپ کا لڑکا مارا گیا۔ استاد عاصم نے فرمایا کہ جاؤ فلاں شخص نماز پڑھائے اور فلاں جگہ دفن کر دینا۔ یہ تین فقرے کہے اور پھر شاگردوں سے مخاطب ہو کر فرمایا ہاں! تو تم کیا پڑھ رہے تھے پڑھو! یہ بزرگ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے چہرے کی کیفیت بدلتے نہیں دیکھی۔ ذرا بھی تبدیلی نہیں ہوئی اور وہ کپڑا جو اپنے گرد لپیٹ رکھا تھا اس کو بھی جسم سے جدا نہیں کیا اور اپنی پوزیشن نہیں بدلی۔ اسی طرح سبق دینے میں مشغول رہے۔

اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ صحابہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حلم منسوب تھے چنانچہ ایک دفعہ کسی اوباش نے ان سے بدکلامی کی اور عیب لگا کر طعن کیا حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ حضرت والا! جو بہت سے عیب مجھ میں ہیں آپ کو تو ان میں سے ایک بہت

معمولی چیز کا پتہ لگا ہے!

جب خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے یہ حکایت مکمل فرمائی تو حاضرین کے واپس جانے کا وقت ہو گیا تھا۔ بندے (حسن علاء بجزی) نے عرضداشت کی کہ اس صورت میں کہ مرید پیر کی خدمت میں کم پہنچتا ہے۔ بس گھر میں پیر کی یاد میں رہتا ہے تو یہ بات کیسی ہے؟ فرمایا کہ بہت اچھی ہے اگر کوئی شخص پیر کی خدمت سے غیر حاضر ہو اور پیر کی یاد میں رہے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ ہر روز پیر کے سامنے رہے مگر اس کی محبت سے بے خبر ہو۔ اس کے بعد یہ مصرع زبان مبارک پر آیا۔

بیرونِ درون بہ کہ درونِ بیرون!

ترجمہ:- اندر سے باہر رہنا اس سے بہتر ہے کہ اندر رہ کر بھی باہر رہے۔ یعنی غیر حاضری اس سے بہتر ہے کہ حاضر رہ کر بھی بے حضور رہے!

اس وقت یہ حکایت بیان فرمائی کہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز دو ہفتے کے بعد اپنے پیر شیخ قطب الدین نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں جایا کرتے تھے۔ اس کے برخلاف شیخ بدر الدین غزنوی اور دوسرے عزیز برابر حاضر رہتے تھے پھر فرمایا کہ جب شیخ قطب الدین کی رحلت کا وقت قریب آیا تو ایک بزرگ کا نام لیا جو شیخ قطب الدین کی پانچویں آرام فرماہیں اور جن کو یہ تمنا تھی کہ شیخ کے بعد ان کی جگہ پر بیٹھیں۔ شیخ بدر الدین غزنوی کو بھی یہی تمنا تھی مگر جس سماع (قوالی) میں شیخ قطب الدین انتقال فرمانے والے تھے۔ شیخ نے ارشاد فرمایا یہ میرا جامہ اور مصلا عصا اور لکڑی کی کھڑاویں شیخ فرید الدین کو دے دیں۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر فرماتے ہیں کہ میں نے وہ جامہ دیکھا تھا دو تہی سوزنی تھی۔ الغرض جس رات کو شیخ قطب الدین کا انتقال تھا۔ شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین ہانسی میں تھے اسی رات شیخ فرید الدین نے اپنے پیر کو خواب میں دیکھا کہ انہیں اپنے پاس بلاتے ہیں دوسرے روز شیخ ہانسی سے روانہ ہو گئے۔ چوتھے دن دہلی شہر پہنچے۔ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے۔ وہ اس جامے کو شیخ فرید الدین طیب اللہ ثراہ کی خدمت میں لائے۔ شیخ نے دو رکعت نماز پڑھی اور وہ جامہ پہنا اور اس گھر میں تشریف لائے جہاں شیخ قطب الدین رہتے تھے۔ تین روز سے زیادہ وہاں نہیں رہے۔ اور ایک روایت سے سات روز پھر ہانسی کی طرف تشریف لے آئے۔ اور ان کے وہاں آنے کی وجہ یہ تھی کہ جس وقت شیخ (موصوف) شیخ

marfat.com

Marfat.com

قطب الدین رحمۃ اللہ علیہما کے گھر میں مقیم ہوئے تھے۔ سرہنگا نامی ایک شخص ہانسی سے آیا تھا۔ شاید وہ دو تین دفعہ اس گھر میں آیا لیکن دربان نے جانے نہیں دیا۔ ایک دن شیخ گھر سے باہر نکلے تو سرہنگا بڑھا اور شیخ کے پیروں میں گر گیا اور رونے لگا۔ شیخ نے پوچھا کہ کیوں روتا ہے؟ بولا اس وجہ سے کہ آپ ہانسی میں تھے تو ہم آسانی سے درشن کر لیتے تھے اب آپ کا دیدار دشوار ہو گیا ہے شیخ نے اسی وقت مریدوں سے کہا کہ میں پھر ہانسی واپس جاؤں گا حاضرین نے عرض کی کہ شیخ نے تو اس مقام کا آپ کے لئے حکم فرمایا ہے۔ آپ کسی اور جگہ کیوں جاتے ہیں۔ شیخ نے ارشاد کیا کہ میرے پیر نے جو نعمت میرے لئے جاری فرمائی ہے۔ وہ جیسی شہر میں ہے ویسی ہی بیابان میں (ہے)!

پینتالیسویں مجلس

اسی سال ماہ ربیع الآخر کی تیسری تاریخ ہفتے کو ہاتھ چومنے کے شرف تک رسائی ہوئی۔ مریدوں کے حسن اعتقاد اور پیر کی فرماں برداری کا ذکر نکلا اس دوران حکایت بیان فرمائی کہ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک نواسے شرف الدین لقب خطہ ناگور کے رہنے والے تھے، ان کو یہ آرزو ہوئی کہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں مرید ہونے جائیں۔ اس نیت کے ساتھ ناگور سے روانہ ہوئے۔ ان کی ایک لونڈی تھی جس کی قیمت کم و بیش سو تھکے تھی۔ اس لونڈی نے اپنے مالک سے کہا کہ جب آپ شیخ کی خدمت میں پہنچیں اور مرید ہوں تو میری طرف سے بھی بندگی عرض کیجئے۔ اور ایک کڑھا ہوا دستارچہ ان کو دیا کہ میری یہ نذر بھی پہنچا دیجئے۔ القصہ جب مولانا شرف الدین شیخ الاسلام کی خدمت میں پہنچے اور مرید ہو گئے تو اس دولت کو پانے کے بعد عرض کی کہ میرے گھر میں ایک لونڈی ہے اس نے زمین بوسی کھلوائی ہے۔ اور یہ کہا اور وہ دستارچہ جو اس نے بھیجا تھا سامنے رکھا۔ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز نے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ خدا سے آزادی دے! جب مولانا شرف الدین خدمت سے اٹھے تو خیال کیا کہ جب شیخ کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی ہے تو حقیقت میں وہ لونڈی آزاد ہو جائے گی۔ لیکن یہ لونڈی ہے قیمتی میں تو اسے آزاد کر نہیں سکتا۔ اس کو بیچ ڈالوں۔ شاید ایسا ہو کہ خریدنے والا اسے آزاد کر دے۔ جب یہ بات سوچی تو پھر یہ خیال بھی آیا کہ اگر یہ لونڈی کسی

اور کے گھر میں آزاد ہوگی تو اس کا ثواب اسے ہو گا۔ میں خود ہی آزاد کیوں نہ کر دوں؟ یہ نیت کر کے شیخ کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ میں نے اسے آزاد کر دیا!

چھیا لیسویں مجلس

اسی سال ماہ ربیع الاخر کی اٹھارویں تاریخ اتوار کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی۔ دنیا کی عداوت اور محبت کا ذکر آیا۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو دنیا کو دوست رکھتی ہے اور ہر روز اس کے خیال اور طلب میں رہتی ہے اور ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جو دنیا کو دشمن رکھتی ہے۔ اور اس کا ذکر برائی کے ساتھ کرتی ہے۔ اور پوری طرح اس سے عداوت کرنے میں لگی رہتی ہے۔ تیسری قسم وہ ہے کہ دنیا کو نہ دوست رکھتی ہے نہ دشمن اور اس کا ذکر محبت اور عداوت کے ساتھ نہیں کرتی اور یہ قسم پہلی دونوں قسموں سے بہتر ہے۔

اس کے بعد حکایت بیان فرمائی کہ ایک شخص حضرت رابعہؓ (۲۹) کے پاس آکر بیٹھا اور دنیا کو بہت برا بھلا کہنے لگا۔ حضرت رابعہؓ نے کہا کہ تم دوبارہ میرے پاس نہ آنا۔ تم دنیا کے دوست معلوم ہوتے ہو جب ہی تو اس کا اتنا ذکر کرتے ہو!

یہاں سے ترک دنیا کے سلسلے میں ایک درویش کا ذکر آیا جو کبھل اور کھرام کی طرف کا تھا۔ اس کو شیخ صوفی بدھنی کہتے تھے۔ ارشاد ہوا کہ وہ زبردست تارک (ترک دنیا کرنے والا) تھا۔ یہاں تک کہ کپڑے بھی نہیں پہنتا تھا۔ بندے نے عرض کی کہ اس نے کسی کا ہاتھ بھی پکڑا تھا؟ (یعنی مرید بھی ہوا تھا) فرمایا کہ نہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اگر اس کا کوئی پیر ہوتا تو ستر عورت (مرد کے لئے ناف سے گھٹنوں تک بدن ڈھلکا) کا حکم دیتا۔ اسی سے معلوم ہو جاتا ہے اس کا کوئی پیر نہیں تھا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وہ نماز بہت پڑھتا تھا اور کہتا کہ بہشت ایسی اچھی جگہ ہے مگر افسوس کہ وہاں نماز نہیں ہے۔ اس درمیان بندے نے عرض کی کہ اگر پیر دنیا دار ہو تو کیا اسے زیب دیتا ہے کہ مریدوں کو دنیا کی محبت سے روکے؟ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے زبان مبارک سے ارشاد کیا کہ اگر روکے گا بھی تو اس کا اثر نہ ہو گا کیوں کہ ایک لسان حال (صاحب کردار کی زبان) وعظ و نصیحت زبان حال سے موثر ہوتی ہے لسان حال نہ ہو تو لسان قال موثر نہیں ہوتی۔

marfat.com

Marfat.com

پھر شیخ شہاب الدین سروردی رحمتہ اللہ علیہ کی حکایت آئی ارشاد ہوا کہ ایک دفعہ انہیں اپنے شیخ سے مندیل (رومال) ملا تھا۔ اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتے اور اس سے برکتیں حاصل کرتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ سو گئے تھے اور وہ مندیل ان کے پیروں کی طرف تھا۔ ناگہانی ان کا پیر اس کو لگ گیا۔ جب بیدار ہوئے تو بڑا قلق اور بے چینی ظاہر فرمائی اس حد تک کہ فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میں روز قیامت تک اسی خطا کے رنج اور افسوس میں رہوں گا۔

اس بات کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ مجھے شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی جناب سے موٹا کپلی کا ایک خرقہ ملا تھا۔ اور وہ ابھی تک میرے پاس ہے الغرض جب میں اجودھن سے دہلی کی طرف آ رہا تھا تو یہ خرقہ بھی اپنے ساتھ لا رہا تھا۔ بس میں تھا اور میرا ایک ساتھی۔ جب ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں رہزنوں کا اندیشہ تھا تو بارش ہونے لگی۔ میں اور میرا وہ ساتھی ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ اس دوران چند ڈاکو جن کا ہمیں ڈر تھا نمودار ہوئے اور ہمارے سامنے آ گئے۔ میں پیر کی طرف ملتفت ہوا اس کپڑے کے وسیلے سے جو میرے پاس تھا اور دل میں سوچا کہ یہ جامہ شیخ کا عطا کیا ہوا ہے یہ رہزن اس کو مجھ سے نہ چھین سکیں۔ پھر دل میں خیال آیا اگر انہوں نے چھین لیا تو پھر اس کے بعد شہر اور آبادی میں نہیں رہوں گا۔ تھوڑی دیر بعد ان لٹیروں میں سے ایک ایک طرف چلا گیا اور دوسرا دوسری طرف۔ سب بکھر گئے اور چل دیئے ہم سے کچھ بھی نہیں کہا ہم سلامتی کے ساتھ منزل پر پہنچ گئے۔

پھر دنیا کے جمع خرچ کا ذکر نکلا۔ فرمایا کہ دنیا کو جمع نہیں کرنا چاہئے۔ سوائے اس کے جو ضروری ہو۔ جیسے لباس کہ اس سے شرعی طور پر بدن ڈھکا جاتا ہے وہ جائز ہے لیکن زیادتی نہیں ہونی چاہئے۔ اس کے علاوہ جو بھی ملے خرچ کر دیں اور جمع نہ کریں۔ اس وقت یہ شعر زبان مبارک پر لائے۔

زر از بہرہا دن بود اے پر زہر نہا دن چہ سنگ و چہ زر
ترجمہ:- اے فرزند! دولت دینے کے لئے ہوتی ہے۔ رکھ چھوڑنے کو تو پتھر اور سونا برابر ہیں۔

پھر اس شعر کی مناسبت سے یہ شعر پڑھا جو خاقانی نے اسی مفہوم کا کہا ہے

چوں خواجہ نہ خواہد رانداز ہستی خود کامی

آن گنج کہ اودارد پندار کہ من دارم

ترجمہ:- جب امیر اپنی پونجی سے فائدہ نہیں اٹھاتا، لطف نہیں لیتا تو سمجھو کہ جو خزانہ

اس کے پاس ہے وہ میرے پاس ہے!

اس درمیان ایک شخص کو مسواک عطا کی۔ اس کے حسب حال حکایت بیان فرمائی کہ ایک عالم تھے جن کو نور ترک کہتے تھے وہ یہاں سے خانہ کعبہ کی طرف گئے اور وہیں رہ پڑے۔ وہاں جو گھر بنایا اس کے دروازے پر لکھ دیا کہ جو کوئی میرے گھر میں آئے گا اس کے پاس مسواک نہ ہو تو اس کا میرے گھر میں آنا حرام ہے۔

پھر درویشوں کے اچھے اخلاق کے بارے میں گفتگو چلی ارشاد ہوا کہ شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ اور بو علی سینا کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ جب ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو بو علی نے ایک صوفی کو جو شیخ کی خدمت میں ملازم تھا اس بات کے لئے تیار کیا کہ جب میں شیخ کے پاس سے چلا جاؤں تو جو کچھ بھی شیخ میرے بارے میں کہیں وہ مجھے لکھ بھیجنا۔ جب بو علی سینا واپس چلے گئے تو شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا کوئی ذکر زبان سے نہیں کیا۔ نہ نیکی کے ساتھ نہ بدی کے ساتھ۔ جب اس صوفی نے ان کا کوئی ذکر نہ سنا تو ایک روز شیخ سے خود ہی پوچھا کہ بو علی سینا کیسے آدمی ہیں؟ شیخ نے فرمایا وہ دانشور آدمی ہیں اور طبیب ہیں اور بہت علم رکھتے ہیں۔ البتہ اچھے اخلاق نہیں رکھتے۔ صوفی نے یہ ساری کیفیت بو علی سینا کو لکھ بھیجی۔ بو علی نے وہاں سے شیخ کی خدمت میں کچھ لکھ کر بھیجا تو یہ بھی لکھا کہ میں نے اتنی کتابیں مکارم اخلاق کے موضوع پر لکھی ہیں شیخ کے لئے یہ کہاں مناسب ہے کہ کہیں فلاں میں حسن اخلاق نہیں ہے؟ شیخ مسکرائے اور فرمایا کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ بو علی مکارم اخلاق کو جانتے نہیں۔ یہ کہا تھا کہ مکارم اخلاق رکھتے نہیں!

پھر قاضی منہاج الدین کی حکایت نکلی۔ فرمایا میں ہر پیر کو ان کے وعظ میں جایا کرتا تھا۔

چنانچہ ایک روز ان کے وعظ میں تھا کہ انہوں نے یہ رباعی پڑھی۔

لب برب۔ دلبران مہوش کرون و آہنگ سر زلف مشوش کرون
امروز خوشت لیک فردا خوش نیست خود را چو خسی طعمہ آتش کرون

ترجمہ:- چاند سے دلبروں کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھنا اور زلف پریشان کا قصد کرنا۔ آج

marfat.com

Marfat.com

توبت اچھا لگتا ہے۔ لیکن کل اچھا نہیں ہو گا جب خود کو گھاس کی طرح آگ کا لقمہ بنانا ہو گا۔
 خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ جب میں نے یہ شعر سنے تو بے خود سا ہو گیا۔ ہوش
 میں آنے میں خاصا وقت لگا۔ اس کے بعد ان کے حالات میں بیان فرمایا کہ وہ بڑے صاحب
 ذوق آدمی تھے۔ ایک دفعہ انہیں شیخ بدرالدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں بلایا گیا اور
 اس روز پیر کا دن تھا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وعظ سے فارغ ہو کر آجاؤں گا۔ الغرض جب
 وعظ سے فارغ ہو گئے تو وہاں پہنچے اور سماع میں شریک ہوئے اور دستار اور لبادہ جو پہن رکھا
 تھا جھیر جھیر کر دیا۔ اس وقت شیخ بدرالدین غزنوی کی نظم جو انہوں نے ”آتش گرفت“
 ردیف کے ساتھ کہی ہے۔ گوائی جا رہی تھی ایک دو شعر زبان مبارک سے ارشاد فرمائیے یہ
 شعر یاد رہ گیا۔

نوحہ میکرو برمن نوحہ گردد مجمعے

آہ ازیں سوزم برآمد نوحہ گر آتش گرفت

ترجمہ: ایک نوحہ گر لوگوں کے سامنے مجھ پر نوحہ کر رہا تھا۔ آہ اس سے میرا سوز ایسا نکلا
 کہ نوحہ کرنے بھی آگ پکڑ لی۔

اس وقت فرمایا کہ قاضی منہاج الدین شیخ بدرالدین کو سرخ شیر کہا کرتے تھے۔
 اس وعظ کی مناسبت سے شیخ نظام الدین ابوالمؤید رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت نکل آئی۔
 بندے نے عرض کی کہ آپ نے ان کا وعظ سنا ہے؟ ارشاد ہوا کہ ہاں سنا ہے لیکن میں ان
 دنوں بچہ تھا۔ معالیٰ کی سمجھ خاطر خواہ نہیں تھی۔ ایک روز ان کے وعظ میں پہنچا تو انہیں
 دیکھا کہ مسجد میں آئے اور جوتیاں جو پیروں میں پہن رکھی تھیں اتار کر ہاتھ میں لے لیں اور
 مسجد میں آکر دو رکعت نماز پڑھی۔ میں نے کسی کو نماز میں ان کی طرح نہیں دیکھا۔ دور کعتیں
 بڑے آرام سے پڑھیں اور منبر پر تشریف لے گئے۔ ایک قاری تھے جنہیں قاسم کہتے تھے
 اچھا پڑھتے تھے۔ انہوں نے ایک آیت پڑھی اس کے بعد شیخ نظام الدین ابوالمؤید رحمۃ اللہ
 علیہ نے آغاز فرمایا کہ میں اپنے بابا کے ہاتھ کا لکھا دیکھا ہے! ابھی انہوں نے دو سرفقرہ نہیں کہا
 تھا کہ پہلے فقرے ہی کا لوگوں پر ایسا اثر ہوا کہ سب رونے لگے۔ اس وقت انہوں نے یہ دو
 مصرعے پڑھے۔

بر عشق تو دیر تو نظر خواہم کرد جاں در غم تو زبر خواہم کرد
ترجمہ:- میں تو تمہیں اور تمہارے عشق کو دیکھوں گا اور تمہارے غم میں اپنی جان کو
ذیر و زبر کردوں گا۔

انہوں نے اتنا کہا تھا کہ لوگ نعرے لگانے لگے۔ اس کے بعد دو تین مرتبہ یہی مصرعے
پڑھے پھر کہا اے مسلمانو! دوسرے دو مصرعے یاد نہیں آتے کیا کروں؟ یہ بات ایسی عاجزی
سے کہی کہ سارے مجمعے پر اس کا اثر ہوا۔ اس وقت قاری قاسم نے وہ دو مصرعے یاد دلائے۔
شیخ نے یہ رباعی پوری پڑھی اور نیچے اتر آئے۔

شیخ نظام الدین ابوالمؤید رحمۃ اللہ علیہ (۳۰) کی بزرگی کے بارے میں بھی حکایت بیان
فرمائی کہ ایک دفعہ برسات نہیں ہوئی۔ ان سے اصرار کیا گیا کہ بارش کی دعا فرمائیں وہ منبر پر
آئے بارش کی دعا پڑھی اور پھر آسمان کی طرف رخ کر کے کہا ”اے اللہ اگر تو نے بارش نہ
برسائی تو میں آئندہ کسی آبادی میں نہیں رہوں گا“ یہ کہا اور منبر پر سے اتر آئے۔ اللہ تعالیٰ
نے باران رحمت سے نوازا۔ اس کے بعد سید قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ملاقات
کی اور یہ بات کہی کہ ہمارا آپ کے بارے پکا اعتقاد ہے اور ہم جانتے ہیں آپ کو حق تعالیٰ سے
پورا نیاز حاصل ہے۔ لیکن یہ آپ نے کیا کہا کہ اگر تو نے بارش نہ برسائی تو میں آئندہ کسی
آبادی میں نہیں رہوں گا۔ اگر بارش نہ ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ شیخ نظام الدین المؤمنین نے کہا
میں جانتا تھا کہ اللہ بارش برسائے گا بولے ایک دفعہ میرا سید نور الدین مبارک نور اللہ مرقدہ
سے سلطان شمس الدین کے سامنے اونچی جگہ اور نیچی جگہ بیٹھنے پر جھگڑا ہوا تھا۔ میں نے ایسی
باتیں کہی تھیں جس سے ان کو کوفت ہوئی تھی جس وقت مجھ سے بارش کی دعا کے لئے کہا گیا
تو میں ان کے روضہ پر گیا اور کہا کہ مجھ سے بارش کے لئے کہا گیا ہے۔ اور آپ مجھ سے
رنجیدہ ہیں۔ اگر آپ مجھ سے من جائیں تو میں دعا مانگ سکوں گا۔ ان کے روضہ سے آواز
آئی کہ میں نے آپ سے ملاپ کر لیا آپ جائیں اور دعا مانگیں۔

سینتالیسویں مجلس

اسی سال ماہ جماد الاولیٰ کی پانچویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی دولت میسر ہوئی۔ نماز کا
ذکر نکلا۔ بندے نے عرض کی کہ فرض ادا کرنے کے بعد جو جگہ بدلتے ہیں یہ کیسا ہے ارشاد

marfat.com

Marfat.com

ہوا کہ جگہ بدل لینا بہتر ہے۔ اگر امام اپنی جگہ نہ بدلے تو یہ مکروہ ہے۔ البتہ مقتدی جگہ نہ بدلے تو اس میں کراہت نہ ہوگی۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ بدل لے۔ اس موقع پر یہ بھی فرمایا جب جگہ بدلنا چاہیں تو اپنی بائیں جانب ہو جائیں اس طرح کہ قبلہ کی داہنی سمت کے مقابل ہو جائیں۔

اڑتالیسویں مجلس

اسی سال ماہ جماد الاولیٰ کی تیرھویں تاریخ جمعرات کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی۔ ذکر یہ نکلا کہ لوگ درویشوں کے ہاتھ چومتے ہیں۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ مشائخ اور درویش جو ہاتھ چومنے کے لئے دے دیتے ہیں تو ان کی نیت بھی یہ ہوتی ہے کہ شاید کسی مغفور (بخشے ہوئے جنتی) کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں آجائے۔

پھر درویشوں کے منہ سے نکلی ہوئی بات کا ذکر آیا۔ ارشاد ہوا کہ ایک دفعہ خواجہ اجل شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے ایک شخص خواجہ کی خدمت میں آیا اور بولا کہ میرا ایک پڑوسی ہے جس کی نظر میرے گھر میں پڑتی ہے۔ میں اس کو ہر چند منع کرتا ہوں مگر نہیں سنتا اور مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ خواجہ اجل نے فرمایا کہ کیا اسے معلوم ہے تم ہمارے مرید ہو؟ بولا جی ہاں اسے معلوم ہے کہ میں اپنے مخدوم خواجہ کے وابستگان میں سے ہوں۔ خواجہ اجل نے فرمایا کہ پھر کیا وجہ ہے کہ اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ نہیں جاتی۔ جب خواجہ نے اس طرح کی بات کہہ دی تو وہ مرید گھر آیا اور پڑوسی کو گردن کی ہڈی ٹوٹے ہوئے دیکھا پوچھا کہ کہاں سے گر گئے؟ کہنے لگے کہ لکڑی کی کھڑاؤں پہنے ہوئے تھا۔ لڑکھڑا کر گر گیا اور یہ واقعہ پیش آیا۔

پھر مردان حق کی حکایت آئی۔ فرمایا کہ پرانے زمانے میں چار آدمی برہان نامی اوپر کے علاقے سے دہلی میں آئے ان چار برہانوں میں سے ایک برہان بلخی تھے۔ دوسرے برہان شانی۔ دوسرے دو برہانوں کے بارے میں یاد نہیں آتا۔ الغرض ان سب کے درمیان بڑی موافقت تھی کھانا پینا ایک جگہ ہوتا اور تحصیل (علمی یا معاشی) بھی ایک جگہ کرتے۔ ابتدا میں جب دہلی آئے تو اس وقت نصیر کاشانی قاضی شہر تھے۔ انہوں نے برہان کاشانی سے کسی محفل میں مسئلہ پوچھا۔ یہ برہان دبلے پتلے اور چھوٹے قد کے تھے۔ جب انہوں نے نکتے بیان کرنے شروع

کئے تو طالب علم کہنے لگے کہ بھلا یہ ریزہ کیا بول سکے گا۔ ریزہ ان کا عرف ہی ہو گیا۔ کاشانی بیچ میں سے غائب ہو گیا۔ بس برہان ریزہ عرفیت ہو گئی۔ الغرض برہان بڑے اچھے آدمی تھے۔ آخر میں ابدال ہو گئے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے زبان مبارک سے فرمایا کہ میں نے انہیں دیکھا تھا روزانہ صبح گھر سے پیدل باہر نکلتے۔ حالانکہ ان کے پاس دس سے زیادہ گھوڑے تھے۔ اور کسی غلام کو بھی اپنے ساتھ نہ لے جاتے جبکہ ان کے ہاں سو سے زیادہ خدمت گار تھے۔ ان کا ایک لڑکا تھا نور الدین محمد نامی۔ ایک روز یہ لڑکا باپ سے کہنے لگا کہ آپ روزانہ گھر سے باہر جاتے ہیں اور ہمارے دشمن بہت ہیں۔ آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اگر کسی غلام کو ساتھ لے جائیں تو اچھا ہو کہ آپ کی خدمت کرے اور پانی کا کوزہ دے! مولانا برہان الدین نے بیٹے کو جواب دیا اور کہا بابا محمد جہاں میں جاتا ہوں وہاں اگر غلام کا داخلہ ہو سکتا تو پہلے تجھے لے کر جاتا کہ تو میرا بیٹا ہے!

انتالیسویں مجلس

اسی ماہ جماد الاولیٰ کی انتیسویں تاریخ اتوار کو ہاتھ چومنے کی دولت ہاتھ آئی۔ چونکہ رجب کا مہینہ قریب آ گیا تھا۔ بندے نے عرض کی کہ خواجہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے رجب کے مہینے کی تیسری اور چوتھی اور پانچویں تاریخ کے لئے نماز بتائی ہے۔ اور غلام کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ جس بزرگ نے نماز یا دعا بتائی ہے۔ وہ حضرت رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوتی ہے یا صحابہ کرام سے خواجہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے جو یہ نمازیں بتائی ہیں اور سورتوں کا تعین کیا ہے اور دعائیں موسوم کی ہیں یہ کہاں سے کی ہیں؟ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ باتیں الہام سے بھی ہوتی ہیں۔

اس کے بعد یہ حکایت بیان فرمائی کہ اب سے پہلے جب میں وہلی سے شیخ کی خدمت میں اجودھن جاتا تھا تو یہ تین اسمائے گرامی پڑھتا ہوا جاتا تھا۔ یا حافظ، یا ناصر، یا معین۔ اور یہ دعائیں نے کسی سے سنی نہیں تھی۔ شیخ کی خدمت میں اپنی حاضری کی مناسبت اور حق تعالیٰ سے مدد مانگنے کے لئے یہ تین نام پڑھتا تھا۔ پھر مدت بعد ایک دوست نے مجھے یہ دعا لکھ کر دی اور وہ دعا یہ ہے۔ یا حافظ یا ناصر یا معین یا مالک

يَوْمَ الدِّينِ بِحَقِّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔

پھر مشائخ کے احوال کی حکایت آئی۔ بندے نے عرض کی کہ میں نے ایک بات سنی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کلمات خواجہ بایزید سطاوی کے ارشاد کردہ ہیں اور بندے کو ان کلمات کی کوئی تاویل بھی نہیں ملتی اور دل کو اطمینان نہیں ہوتا۔ دریافت فرمایا کہ کیا کلمات ہیں؟ بندے نے عرض کی کہ اس طرح کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ محمد ﷺ اور ان کے علاوہ جو لوگ ہیں قیامت کے دن میرے جھنڈے تلے ہوں گے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا۔ سبحانی ما اعظم شانہ (میں پاک ہوں میری کیا اعلیٰ شان ہے۔) اس کے بعد آخر عمر میں اس سے توبہ کی اور کہا کہ میں نے یہ بات ٹھیک نہیں کہی۔ میں یہودی تھا۔ اب زنا توڑتا ہوں اور نئے سرے سے مسلمان ہوتا اور کہتا ہوں۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ ”میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی خدا نہیں ہے مگر اللہ وہ ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں یہاں سے رسول علیہ السلام کے احوال پاک کا ذکر آیا۔ ارشاد ہوا کہ مشائخ اور مردان حق کو جو حال آتا ہے۔ اس کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ رسول علیہ السلام کو بھی مشغولی کی کیفیات ہوتی تھیں۔ چنانچہ روایت ہے کہ ایک روز رسول علیہ السلام ایک باغ میں تشریف لائے۔ اس باغ میں ایک کنواں تھا۔ رسول علیہ السلام آئے اور اس کنوئیں کے مینڈھ پر تشریف فرما ہو گئے اور کنوئیں میں پاؤں لٹکانے اور مشغول تہی ہو گئے۔ ابو موسیٰ اشعری حضور ﷺ کے ساتھ تھے۔ ان کو حکم ہوا کہ کسی کو میری اجازت کے بغیر اندر نہ آنے دینا۔ اس دوران ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے ابو موسیٰ اشعری رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ابو بکر کے آنے کی اطلاع دی۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں اندر بلا لو اور بہشت کی خوشخبری دو۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ گئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اندر بلا لیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اندر تشریف لائے اور رسول علیہ السلام کی دائیں جانب اسی طرح دونوں پیر کنوئیں میں لٹکا کر بیٹھ گئے۔ پھر عمر خطاب رضی اللہ عنہ آئے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے ان کی تشریف آوری کی خبر بھی دی۔ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کو بھی اسی خوشخبری کے ساتھ اندر بلوایا۔ وہ بھی آئے اور رسول علیہ السلام کی بائیں طرف اسی طرح بیٹھ گئے۔

اس کے بعد عثمانؓ تشریف لائے اور ان کو بھی اندر بلایا گیا۔ اور وہ بھی کس قدر تامل کے بعد رسول علیہ السلام کے سامنے اس ہیئت سے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ تشریف لائے اور اجازت پا کر اندر آئے اور اسی طرح بیٹھ گئے پھر رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح ہم آج ایک جگہ ہیں۔ اسی طرح وفات بھی ایک جگہ ہوگی اور اٹھائے بھی ایک ساتھ جائیں گے۔

جب یہ حکایت پوری ہو چکی تو فقر اور خرقہ کا ذکر آیا۔ خواجہ ذکرہ اللہ باخیر نے فرمایا کہ مصطفیٰ علیہ السلام کو شب معراج میں ایک خرقہ ملا تھا اور اس خرقے کو خرقہ فقر کہتے ہیں اس کے بعد حضور ﷺ نے صحابہؓ کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک خرقہ ملا ہے اور مجھے حکم ہے کہ یہ خرقہ ایک شخص کو عطا کروں اور میں صحابہ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ جو شخص یہ جواب دے اس کو خرقہ عطا کر دینا۔ اور میں اس جواب کو جانتا ہوں (دیکھیں کون یہ جواب دیتا ہے۔ پھر حضور ﷺ نے ابو بکرؓ کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ اگر یہ خرقہ تمہیں دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ ابو بکرؓ نے عرض کی کہ میں سچ کو اختیار کروں گا اور طاعت کروں گا اور داد و دہش اپناؤں گا۔ اس کے بعد عمرؓ سے پوچھا کہ اگر تمہیں یہ خرقہ دوں تو تم کیا کرو گے؟ عمرؓ بولے عدل کروں گا اور انصاف کا خیال رکھوں گا۔ اس کے بعد عثمانؓ سے پوچھا کہ اگر تمہیں یہ خرقہ دوں تو تم کیا کرو گے؟ عثمانؓ نے عرض کی کہ میں خرچ اور بخشش کیا کروں گا۔ پھر علیؓ سے دریافت فرمایا کہ اگر تمہیں یہ خرقہ دوں تو تم کیا کرو گے؟ عرض کی کہ میں پردہ پوشی سے کام لوں گا اور خدا کے بندوں کے عیب چھپاؤں گا! رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ لو یہ خرقہ تم کو دیتا ہوں کیوں کہ مجھے حکم تھا کہ جو یہ جواب دے اسی کو یہ خرقہ دے دینا۔

یہاں سے امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب (اوصاف حمیدہ کی بات آئی) اور ان کے انصاف اور سخاوت کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ ان کی ایک زرہ ان کے پاس سے غائب ہو گئی۔ ایک روز یہ زرہ کسی یہودی کے ہاتھ میں دیکھی تو اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ یہ زرہ میری ہے یہودی بولا کہ اس کا دعویٰ دائر کرو اور ثبوت دے کر لے لو! اس زمانے میں امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے۔ سوچا کہ میں خلیفہ بھی ہوں اور مدعی بھی ہوں یہ دعویٰ کس طرح ثابت ہو گا۔ خیر شرح کے پاس جا کر دعویٰ کی تکمیل کرتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا اس

marfat.com

Marfat.com

وقت شریع حضرت علیؓ کے نائب تھے قصہ مختصر جب شریع کے سامنے گئے اور زرہ کا مقدمہ ہوا تو شریع نے امیر المومنین علیؓ کی طرف رخ کیا اور کہا کہ اگرچہ خلیفہ آپ ہیں لیکن اس وقت نیابت کی وجہ سے حاکم میں ہوں۔ جب آپ فریق مقدمہ ہیں تو اس یہودی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ امیر المومنین علیؓ نے یہی کیا اور یہودی کے برابر کھڑے ہو گئے۔ اور کہا کہ یہ زرہ میری ہے اور اس یہودی کے پاس ناحق ہے۔ شریع نے کہا کہ دعویٰ کا ثبوت پیش کیجئے۔ علیؓ نے پوچھا کہ آپ کیا ثبوت چاہتے ہیں۔ شریع نے کہا گواہ لائیے۔ امیر المومنین علیؓ نے حسن اور قمبر کو گواہی میں پیش کیا۔ شریع نے کہا حسن آپ کے لڑکے ہیں اور قمبر آپ کے غلام ہیں۔ میں ان کی گواہی نہیں سنوں گا۔ امیر المومنین علیؓ نے کہا کہ میرے پاس دوسرے گواہ نہیں ہیں۔ شریع نے یہودی سے کہا کہ زرہ اٹھاؤ اور لے جاؤ۔ جب تک یہ گواہ پیش نہ کریں اس وقت تک اس پر قبضہ رکھو۔ یہودی نے جب یہ معاملہ دیکھا تو اپنے دل میں بڑا حیران ہوا اور اپنے آپ سے کہا کہ محمد ﷺ کا دین ایسا دین ہے! اسی وقت اسلام لے آیا اور وہ زرہ امیر المومنین کو پیش کر دی اور کہا کہ آپ کا حق اور آپ کی ملکیت ہے۔ میرے پاس ناحق تھی۔ امیر المومنین نے وہ زرہ اس کو بخش دی اور ایک عدد گھوڑا بھی عنایت فرمایا۔

اسی مجلس میں مریدوں میں سے ایک شخص آیا اور عرض کی کہ میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے پوچھا کہ کیا نام رکھا ہے؟ بولا خیر (خیر معنی نہیں) میں نام رکھے بغیر آگیا تاکہ مخدوم سے عرض کروں کہ کیا نام رکھیں۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ چونکہ تم نے خیر کہا ہے اس کا نام یہی رہے گا (یعنی خیر نام ہو گا)۔ اس مناسبت سے قصہ سنایا کہ خواجہ خیر نساج رحمتہ اللہ علیہ ایک دفعہ شہر سے باہر نکلے تو ایک بدو نے پکڑ لیا کہ تو میرا غلام ہے۔ خیر نساج کچھ نہ بولے اس کی بات مان لی۔ ایک مدت اس شخص کے گھر میں رہے۔ اس شخص کا ایک باغ تھا ان کو باغبانی پر لگا دیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ شخص اپنے باغ میں آیا اور خواجہ خیر نساج سے کہا کہ میرے لئے ایک بیٹھا اتار لے آؤ۔ خواجہ نساج نے ایک اتار لاکر اس کے ہاتھ میں دے دیا جب اس نے چکھا تو کھٹا تھا۔ بولا میں نے تم سے بیٹھے اتار کے لئے کہا تھا۔ خواجہ نساج پھر گئے اور ایک اتار اور لے آئے اور اس کو تھما دیا۔ یہ اتار بھی کھٹا نکلا۔ باغ کا مالک بولا کہ میں تم سے بیٹھا اتار مانگتا ہوں اور تم کھٹا اتار ہی لے آتے ہو! خواجہ خیر نساج نے

جواب دیا کہ میں کیا جانوں کہ میٹھا کون سا ہے اور کھٹا کون سا ہے۔ اس نے کہا کہ مدت ہو گئی کہ تم اس باغ میں باغبانی کرتے ہو۔ تمہیں میٹھے اور کھٹے انار کی بھی خبر نہیں؟ خواجہ خیر نسان بولے کہ مجھے آپ نے باغبانی کا حکم دیا تھا۔ میں امانت دار ہوں میں آپ کے انار کو چکھتا اور کھاتا تھوڑی ہوں کہ جانوں! باغ کے مالک نے جب یہ حال دیکھا تو ان کو آزاد کر دیا۔ خواجہ خیر نسان کا اس سے پہلے دو سرانام تھا اس شخص نے ان کا نام خیر رکھ دیا تھا۔ جب خواجہ خیر نسان اس غلامی سے آزاد ہوئے تو بولے کہ میرا نام یہی رہے گا جو اس شخص نے رکھا ہے۔

پچاسویں مجلس

اسی سال ماہ رجب کی چھیسویں تاریخ ہفتے کو پاؤں چومنے کی دولت ہاتھ آئی۔ بندے کے دل میں ایک حدیث شریف تھی۔ اس کے بارے میں تحقیق کرنی تھی اور پوچھنا تھا اور وہ حدیث یہ تھی کہ زُذْغِبًا تَزْدَرُ حَبًّا (۳۱) (ایک دن بیچ کر کے آیا کرو اس سے محبت بڑھتی ہے) بندے نے پوچھا کہ کیا یہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حدیث ہے؟ فرمایا ہاں یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمائی تھی۔ اور ایسا تھا کہ وہ ہمیشہ حضرت رسالت ﷺ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ رسول علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ نافع کر کے آیا کرو۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ بخار جو ایک روز آتا ہے۔ اور ایک روز نہیں آتا اس کو غب کہتے ہیں۔ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرما کر غباً یعنی ایک روز آؤ اور ایک روز نہ آؤ۔

پھر ایسے درویشوں کا ذکر آیا جو بال بچوں کے بندھن میں ہوتے ہیں ارشاد ہوا کہ صبر کے تین موقعے ہیں۔ ایک عورتوں سے صبر اس کے بعد عورتوں پر صبر اس کے بعد آگ پر صبر پھر تشریح فرمائی کہ پہلے عورتوں سے صبر کرنا چاہئے کہ آدمی کو بالکل اس کی طرف کشش نہ ہو اور اس کام سے رغبت نہ رکھے تو یہ صبر سب سے اچھا ہے۔ یعنی یہ ہو عورتوں سے صبر۔ اور اگر یہ میسر نہ آئے اور بیوی کرے اور لونڈی خریدے تو چاہئے کہ ان کی آفتوں پر صبر کرے! عورتوں پر صبر یہ ہو گا۔ اور اگر ان مراحل سے آگے بڑھ جائے اور گناہ سرزد ہوں تو وہ دوزخ کی آگ پر صبر ہو گا۔ پس میں نے صبر کی تین قسم پائیں۔ اول عورتوں سے صبر۔ دوسرے عورتوں پر صبر۔ تیسرے آگ پر صبر! والسلام (۳۲)۔

اکیاونویں مجلس

اسی سال ماہ شعبان کی تیرھویں تاریخ منگل کو دست بوسی کی سعادت تک رسائی ہوئی۔ مولانا نور ترک کی حکایت آئی۔ بندے نے عرض کی کہ حضرت (۳۳) دہلی کے بعض علماء نے ان کے مذہب کے بارے میں نکتہ چینی کی ہے۔ ارشاد ہوا کہ نہیں وہ آسمان کے پانی سے بھی زیادہ پاکیزہ تھے۔ بندے نے عرض کی کہ میں نے تاریخ طبقات ناصری میں ایسا ہی لکھا دیکھا ہے کہ وہ علمائے شریعت کو ناصبی اور مرجئی (۳۳) کہتے تھے۔ فرمایا کہ وہ علمائے شہر سے بڑا تعصب رکھتے تھے۔ کیوں کہ ان کو دنیا میں آلودہ دیکھتے تھے اور علماء نے اسی وجہ سے ان کے ساتھ طرح طرح کی باتیں منسوب کر دیں۔ بندے نے پوچھا کہ مرجیان اور ناصیان کون ہیں۔ فرمایا کہ ناصبی رافضی کو کہتے ہیں اور مرجئی اس گروہ کو جو بس رحمت کی بات کرتا ہے۔ اس موضوع پر یہ بھی فرمایا کہ مرجئی دو قسم کے ہیں۔ ایک خالص مرجئی اور ایک غیر خالص مرجئی۔ خالص مرجئی وہ ہے جو صرف رحمت کی بات کرتا ہے۔ اور غیر خالص مرجئی وہ ہے جو رحمت کی بات بھی کرتا ہے اور عذاب کی بات بھی کرتا ہے اور درست مذہب یہی ہے!

اس کے بعد مولانا ترک کا قصہ آیا کہ ان کو ”خن گیرا“ حاصل تھا۔ (ان کی زبان میں تاثیر تھی) لیکن انہوں نے کسی کا ہاتھ نہیں تھاما تھا (کسی کے مرید نہ ہوئے تھے) جو کچھ کہتے علم اور مجاہدے کے بل پر کہتے۔ ایک نداف (دُضیا) ان کا غلام تھا ہر روز ایک درہم مولانا کو دیتا۔ ان کی آمدنی کا ذریعہ بس یہی تھا۔ اس کے بعد حکایت بیان فرمائی کہ جب وہ مکے گئے تو وہیں مقیم ہو گئے۔ یہاں کا ایک آدمی وہاں پہنچا تو وہ دو من چاول ان کے پاس لے گیا۔ انہوں نے لے لئے اور دعا فرمائی۔ اور واقعہ یہ گزر چکا تھا کہ ایک دفعہ سلطانہ رضیہ نے ان کے پاس خالص سونا بھیجا تھا۔ سونے کی اینٹ تھی۔ انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا تھا۔ ہاتھ میں ایک لکڑی تھی۔ یہ لکڑی سونے پر مارتے تھے اور فرماتے تھے ’یہ کیا ہے؟ میرے سامنے سے لے جاؤ! الغرض جب اس آدمی نے وہ دو من چاول مکے میں ان کو لے جا کر دیئے اور انہوں نے لے لئے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یہی وہی بزرگ ہیں جنہوں نے دہلی میں اتنے سونے کو ٹھکرا دیا تھا۔ اور اب اتنے سے چاول قبول کر لئے! مولانا ترک بولے کہ اے خواجہ تم مکے کو دلی پر قیاس نہ کرو۔ اور یہ بھی سوچو کہ اس زمانے میں میں جوان تھا۔ اب وہ طاقت اور تیزی

کہاں رہی ہے۔ اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور یہاں چند دانے بھی غنیمت ہیں! اس کے بعد فرمایا کہ ایک دفعہ یہ بزرگ ہانسی پہنچے اور وعظ فرمایا میں نے شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز سے سنا ہے کہ میں نے ان کا وعظ بہت سنا ہے جب وہ ہانسی پہنچے اور وعظ شروع کیا میں بھی ان کا وعظ سننے گیا اور میرے کپڑے میلے اور جھیر جھیر تھے۔ ہمارے درمیان کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میں جیسے ہی مسجد میں آیا اور ان کی نظر مجھ پر پڑی پکار اٹھے کہ اے مسلمانوں! سخن کا جوہری آگیا ہے! اس کے بعد اس قدر تعریف کی کہ بادشاہوں کی بھی نہیں کی جاتی۔

اس کے بعد تعویذ لکھنے اور دینے کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ شیخ فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز نے ایک دفعہ شیخ الاسلام قطب الدین بختیار نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں عرض کی کہ مخلوق مجھ سے تعویذ مانگتی ہے۔ کیا حکم ہے؟ لکھ کر دے دیا کروں؟ شیخ قطب الدین نے فرمایا کہ کام نہ تمہارے ہاتھ میں ہے نہ میرے ہاتھ میں! تعویذ خدا کا نام اور خدا کا کلام ہے۔ لکھو اور دو! اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ میرے دل میں بہت دفعہ خیال آیا کہ کسی اچھے فرصت کے وقت تعویذ لکھنے کی اجازت مانگوں، چنانچہ ایک دفعہ بدر الدین اسحاق جو حضرت کے تعویذ لکھا کرتے تھے حاضر نہ تھے۔ اور لوگ تعویذ لینے کے لئے آئے ہوئے تھے۔ مجھے اشارہ فرمایا گیا کہ تم لکھو! میں تعویذ لکھنے لگا۔ اور مخلوق کا ہجوم ہو گیا۔ میرے لکھنے کا کام بھی بڑھ گیا اور مخلوق کی مزاحمت بھی بہت ہونے لگی۔ اس درمیان شیخ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا پریشان ہو گئے؟ میں نے عرض کی کہ شیخ پر سب روشن ہے! اس کے بعد فرمایا کہ میں نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تعویذ لکھو اور دو! پھر فرمایا کہ بزرگوں کا ہاتھ سے چھو دینا بھی اثر رکھتا ہے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

باونویں مجلس

اسی سال ماہ رمضان کی گیارہویں تاریخ پیر کو ہاتھ چومنے کی دولت تک رسائی ہوئی۔

marfat.com

Marfat.com

آنے والوں میں سے جو بھی آتا سلامی کے طور پر کوئی چیز لاتا۔ ایک شخص آیا اور کچھ نہ لایا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ اسے کوئی چیز دی جائے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا ہے کہ میرے پاس جو بھی آتا ہے۔ کوئی چیز لاتا ہے اگر کوئی چیز نہ لائے تو مجھے بالکل یاد نہیں کہ رسول علیہ السلام نے رات تک کوئی چیز اپنے پاس رکھی ہو۔ صبح سے لے کر قیلو لے تک جو کچھ ہوتا عطا فرمادیتے اور قیلو لے کے بعد جو کچھ ہوتا رات تقسیم فرمادیتے۔

اس درمیان بندے نے عرض کی کہ اسراف کیا ہے۔ اور اسراف کی حد کیا ہے؟ فرمایا کہ جو چیز بغیر نیت کے دی جائے اور اللہ واسطے نہ دی جائے وہ اسراف ہے اگر ایک دانگ بھی دیں گے تو اسراف ہو گا۔ اور جو کچھ رضائے حق کے لئے دیا جائے چاہے ساری دنیا دے ڈالی جائے وہ اسراف نہ ہو گا۔ اس موقع پر فرمایا کہ شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کا خرچ بہت زیادہ تھا۔ ایک شخص نے یہ حدیث ان کے سامنے پڑھ کر سنائی کہ لَا خَيْرَ فِي الْأَسْرَافِ (اسراف میں خیر نہیں ہے) شیخ ابو سعید نے جواب دیا۔ لَا اسْرَافَ فِي الْخَيْرِ (خیر میں کوئی اسراف نہیں ہے!)

یہاں موضوع گفتگو ہمت ہو گیا۔ فرمایا کہ ہمتیں الگ الگ ہوتی ہیں کوئی بزرگ تھے جن کا ایک لڑکا تھا اور ایک غلام۔ غلام میں بڑی صلاحیت تھی۔ اب بزرگ نے دونوں کو سامنے بٹھایا پہلے بیٹے سے پوچھا تمہاری ہمت (مراد) کیا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ میری ہمت (مراد) ہے کہ میرے پاس گھوڑے ہوں اور بہت سے غلام ہوں۔ پھر غلام سے پوچھا کہ تمہاری ہمت کس بات کی ہے؟ غلام نے جواب دیا کہ میری ہمت یہ ہے کہ میرا جو بھی غلام ہو اس کو آزاد کر دوں اور جو آزاد انسان ہیں انہیں احسان سے اپنا غلام بنا لوں اس موقع پر فرمایا کہ ایک شخص تو یہ ہمت رکھتا ہے کہ دنیا طلب کرے اور ایک کی ہمت یہ ہوتی ہے کہ دنیا اس کے پاس نہ پھٹکے۔ ان دونوں قسموں سے بہتر ہمت یہ ہے کہ اگر ملے تو سبحان اللہ اور نہ ملے تو بھی سبحان اللہ دونوں حال میں مگن رہے پھر فرمایا کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے دنیا نہیں چاہئے۔ اس کا یہ نہ چاہنا بھی چاہنا ہی ہے۔ اللہ کی مرضی پر راضی رہنا چاہئے۔ اگر مل جائے تو خرچ کر دے اور نہ ملے تو صبر کر لے اور خوش رہے۔

اس درمیان بندے کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ صدقہ (عید الفطر کے دن دیا جانے

والا صدقہ) دیتے ہو؟ بندے نے سوال کے طور پر عرض کیا کہ مجھ پر واجب ہے؟ فرمایا کہ اگر نصاب پورا ہو۔ اور بنیادی ضروریات سے زیادہ ہو تو دینا چاہئے مگر لباس اور گھوڑا اور دوسری ضروریات حساب میں نہیں لگتیں لیکن نقد موجود ہو تو دینا چاہئے۔ بندے نے عرض کی کہ اگر نقد رقم موجود نہ ہو تو؟ اس صورت میں کوئی حکم نہیں فرمایا۔ پھر ارشاد ہوا کہ اس وقت تو میرے پاس بہت کچھ ہے۔ لیکن جس وقت میرے پاس ایک پیسہ بھی نہ تھا تو قرض لے کر میں صدقہ فطر ادا کرتا تھا۔ جب حدیث مجھ تک پہنچی کہ رمضان کے روزے صدقہ فطر پر موقوف ہیں تو میں صدقہ فطر دینے لگا۔ بندہ (حسن علاء بجزی) نے سر نیاز جھکایا اور عرض کی میں بھی تیار ہوں۔ آئندہ صدقہ فطر دیا کروں گا۔ ارشاد ہوا کہ اپنا صدقہ دو اور غلاموں اور چھوٹوں کی طرف سے بھی صدقہ دو!

چونکہ بندے کو ایک گزارش کرنی تھی۔ اسی مجلس میں اس کو پیش کر دیا۔ بات یہ تھی کہ بندہ دیوگیر (دولت آباد دکن) میں تھا۔ بلج جو میرا پرانا خدمت گار ہے۔ اس نے پانچ تنکے میں ایک کم عمر کنیز خرید لی۔ جب لشکر شہر کی طرف واپس آنے لگا تو اس کنیز بچی کے ماں باپ کہیں سے نکل آئے اور بڑی عاجزی اور زاری اور بے چارگی کے ساتھ خدمت گار کے پاس دس تنکے لے کر آئے کہ یہ لے لو اور بچی کو ہمیں دے دو۔ بندے کا ان کی آہ و زاری پر کلیجہ کٹ گیا۔ دس تنکے بلج کو اپنے پاس سے دیئے اور کہا کہ تو نے اسے پانچ تنکے میں خریدا تھا۔ دس تنکے میں میرے ہاتھ بیچ دے۔ اس نے بیچ دیا میں نے خریدا لیا۔ اس کے بعد ان کی لڑکی کو ان کے حوالے کر دیا اور جو تنکے وہ لائے تھے وہ بھی انہیں واپس کر دیئے۔ بندے نے یہ کام کیا تھا مخدوم کیا فرماتے ہیں؟ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر آنکھوں میں آنسو بھرائے اور فرمایا بہت اچھا کیا! اس وقت بندے نے عرض کی کہ بندے نے اس کنیز بچی کو جو انہیں واپس کیا تو یہ کام مولانا علاء الدین اصولیؒ کی سنت کی پیروی میں کیا۔ جن کا واقعہ میں نے مخدوم ہی سے سنا تھا۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہوا تھا کہ ان کی ایک بوڑھی لونڈی تھی جس کو بدایوں میں نیا نیا خریدا تھا۔ ایک روز صبح کو مولانا بیدار ہوئے تو وہ لونڈی چکی پیستی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ مولانا نے پوچھا کہ کیوں روتی ہے؟ بولی کہ میں اپنا ایک چھوٹا لڑکا کاٹھیر کے علاقے میں چھوڑ آئی ہوں۔ اس کی جدائی میں روتی ہوں۔ مولانا نے کہا کہ اگر میں تجھے نماز گاہ (غالباً عید گاہ ہے) تک لے جاؤں تو وہاں سے اپنے گھر کا راستہ جانتی ہے؟ اس نے

جواب دیا کہ جی ہاں وہاں سے اپنے گھر کا راستہ جانتی ہوں۔ مولانا علاء الدین نے اسے چند روٹیاں دیں اور کاٹھیر کے راستے پر لے جا کر چھوڑ دیا۔ جب یہ حکایت پوری فرمادی تو ایک مولوی صاحب حاضر تھے وہ بولے کہ جب رسول علیہ السلام نے حاتم طائی کی لڑکی کو قید کیا تو اس لڑکی نے اپنے باپ کی تعریفیں اور خوبیاں بیان کیں۔ رسول علیہ السلام نے جب اس کے باپ کے اوصاف سنے تو اس کو آزاد کر دیا۔

اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ بندہ جو بھی طاعت کرتا ہے۔ چاہے مالی ہو یا بدنی یا اخلاق پاکیزہ میں سے کوئی خلق ہو تو اس میں سے اگر ایک چیز بھی قبول ہو جائے تو بندے کے سارے کام اس کی پناہ میں بن جاتے ہیں۔ اس موقع پر فرمایا کہ سعادت قفل کی بہت سی کنجیاں ہیں۔ نہ معلوم کس کنجی سے کھل جائے۔ پس کوشش ہر کنجی سے کرنی چاہئے کہ اگر ایک کنجی سے نہ کھلے تو دوسری کنجی سے کھل جائے اور اگر اس سے بھی نہ کھلے تو کسی اور سے کھل جائے

ترینویں مجلس

اسی سال ماہ رمضان کی تیسویں تاریخ ہفتے کو ہاتھ چومنے کی سعادت تک رسائی ہوئی۔ احتیاط وضو کا ذکر نکلا۔ فرمایا کہ احتیاط اس قدر ضروری ہے کہ طہارت کرنے والے کا دل مطمئن ہو جائے (۳۵)۔ بعض لوگ چند قدم گن کر چلتے ہیں۔ بعض قینچی بناتے ہیں۔ یہ سب فضول بات ہے۔ اس موقع پر فرمایا کہ مولانا علاء الدین اصولی کا ارشاد ہے کہ یہ بات جگہ سے تعلق نہیں رکھتی۔ وقت سے تعلق رکھتی ہے یعنی یہ جو لوگ گن کر چند قدم چلتے ہیں یہ معتبر نہیں۔ اعتبار کی چیز یہ ہے کہ جس وقت بھی آدمی کا دل مطمئن ہو جائے کافی سمجھے۔

پھر یہ ذکر آیا کہ اگر کسی کو پیشاب کے قطرے آنے کی شکایت ہو یا ہمیشہ نکسیر پھوٹی ہو یا اسی قسم کی کوئی اور شکایت ہو تو وہ کیا کرے؟ ارشاد ہوا کہ ایک عورت حضرت رسالت ﷺ کی خدمت میں آئی اور اپنا حال عرض کیا کہ اس عاجزہ کو ہمیشہ خون جاری رہتا ہے۔ میں کیا تدبیر کروں؟ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نماز کے وقت وضو کر لیا کرو۔ پھر چاہے چٹائی پر خون بہہ نکلے۔

اس کے بعد نماز پر اور نماز میں ہونے والی حضوری پر گفتگو ہونے لگی۔ بندے (حسن

علا بجزیٰ) نے عرض کی کہ سنا ہے شیخ فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز اکثر جس جگہ تشریف فرما ہوتے نماز کے علاوہ بھی بار بار سجدہ کرتے۔ فرمایا ہاں۔ اس موقع پر ارشاد کیا کہ ایک دفعہ شیخ حجرے میں تھے۔ دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ میں نے کسی طرح دیکھا تو نظر آیا کہ بار بار کھڑے ہوتے ہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں اور یہ مصرع پڑھتے ہیں۔

از بہر تو میرم ز برائے تو زیم

ترجمہ:- میں تیرے ہی لئے مروں اور تیرے ہی لئے جیوں۔

اس وقت ان کے انتقال کی حکایت آئی کہ محرم کے مہینے کی پانچویں کو ان کی بیماری کا غلبہ ہوا۔ عشاء کی نماز جماعت سے ادا فرمائی۔ اس کے بعد بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے لئے پھر ہوش میں آئے۔ دریافت فرمایا کہ کیا میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے؟ عرض کیا گیا جی ہاں! ارشاد ہوا کہ ایک دفعہ اور مکرر پڑھ لوں۔ کون جانتا ہے کہ کیا ہو؟ جب دوسری دفعہ نماز ادا کر لی تو پھر بے ہوش ہو گئے۔ اس دفعہ بے ہوشی بہت رہی پھر ہوش میں آئے پوچھا کہ میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے؟ عرض کیا گیا کہ دوہلا پڑھی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ایک بار اور پڑھ لوں کون جانے پھر کیا ہو؟ چنانچہ تیسری دفعہ بھی پڑھی اس کے بعد رحمت حق سے پوست ہو گئے۔ قدس اللہ سرہ العزیز۔

چونویں مجلس

اسی سال ذی قعدہ کے مہینے کی تیرھویں تاریخ اتوار کو قدم بوسی کی دولت میسر آئی پیشہ ور لوگوں اور نوکری کرنے والوں کا ذکر نکلا۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ پیشوں کو حاصل کرنے اور نوکری سے تعلق رکھنے میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آخر میں سلامتی رہے۔

اس موقع پر حکایت بیان فرمائی کہ گزشتہ ایام میں حمید نامی ایک شخص تھے وہ شروع زمانے میں وہلی میں تغزل کے نوکرتھے جو آخر میں لکھنؤ کی کاہشاہ بن بیضا تھا۔ قصہ یہ حمید اس تغزل کے نوکرتھے اور ہمیشہ اس کی خدمت میں رہتے تھے چنانچہ ایک روز اس کے سامنے کھڑے تھے کہ ایک شکل نظر آئی جو کہتی تھی اے حمید تو اس شخص کے سامنے کیوں کھڑا ہے۔ یہ کہا اور غائب ہو گئی۔ خواجہ حمید حیران رہ گئے کہ یہ کیا تھا؟ پھر ایک دفعہ اور اس کے سامنے کھڑے تھے کہ وہی صورت نظر آئی جو کہتی تھی کہ اے حمید تو اس شخص کے سامنے

marfat.com

Marfat.com

کیوں کھڑا ہے؟ حمید بڑے حیران ہوئے۔ یہاں تک تیسری بار پھر اسی صورت کو دیکھا کہ وہی بات کہتی ہے کہ اے خواجہ حمید تو اس شخص کے سامنے کیوں کھڑا ہے۔ اب حمید بولے کہ کیوں نہ کھڑا ہوں میں اس کا نوکر ہوں اور یہ میرا آقا ہے۔ مجھے تنخواہ دیتا ہے۔ میں کھڑا کیسے نہ رہوں۔ یہ صورت بولی کہ تو عالم ہے اور یہ جاہل تو آزاد ہے اور یہ غلام تو نیک ہے اور یہ بدکار۔ یہ کہا اور غائب ہو گئی۔ جب حمید نے یہ بات دیکھی تو اپنے آقا کے پاس گئے اور کہا کہ اگر میرے ذمے کچھ حساب ہو یا لینا دینا ہو تو اس کو چکا لیجئے کیونکہ میں آپ کی نوکری نہیں کرنا چاہتا۔ مالک نے کہا کہ تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو۔ شاید دماغ چل گیا ہے؟ خواجہ حمید بولے نہیں میں آپ کے پاس نہیں رہنا چاہتا مجھے اس سے روکا جا رہا ہے جب خواجہ زکریا اللہ بالخیر یہاں تک پہنچے تو بندے نے عرضداشت کی کہ وہ صورت شاید مردان غیب میں سے کسی کی رہی ہو؟ فرمایا کہ نہیں جس وقت آدمی کا باطن کدورتوں سے صاف ہو جاتا ہے تو ایسی چیزیں بہت دیکھتا ہے۔ ایسے اوصاف ہر آدمی میں بہت ہوتے۔ لیکن آدمی کے برے فعلوں کی وجہ سے اس پر ظاہر نہیں ہوتے چھپے رہتے ہیں۔ جب باطن کی پوری صفائی ہو جاتی ہے تو اس طرح کی بہت چیزیں دیکھتا ہے۔

اس وقت یہ شعر زبان مبارک پر آیا

آں نافہ کہ جستی ہم باتو در گلیم است

تو از یہ گلمی بونے ازاں نداری

ترجمہ: تو جس مشک نائفے کا متلاشی ہے۔ وہ خود تیری کملی میں موجود ہے لیکن تجھے

اپنی کالی کملی کی وجہ سے اس کی خوشبو نہیں آتی!

اس کے بعد خواجہ حمید کی حکایت پھر بیان فرمانے لگے کہ جب وہ اس سردار کی نوکری سے نکلے تو شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مرید ہو گئے میں نے ان کو دیکھا اہل آدمی تھے اور کبھی کبھی وعظ تھے کہتے تھے اور درویشی اور طاعت میں ان کے احوال کو استقامت حاصل ہو گئی تھی چنانچہ ان کو شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز نے حکم دیا کہ تم اندر پت جا کر رہو۔ کیونکہ تم اب ستارے کی طرح ہو گئے ہو اور ستارہ چاند کے سامنے روشنی نہیں دیتا۔ تم اندر پت جا کر رہو۔ خواجہ حمید نے یہ فرمان سنا تو اسی وقت تیار ہو گئے شاید اس رات سات مریدوں نے حج کا ارادہ کیا تھا۔ یہ حمید آئے اور

قدموں میں بیٹھ گئے اور شیخ کی خدمت میں عرض کی کہ میں قدموں میں آگیا ہوں ایک حکم عدولی کر رہا ہوں۔ مخدوم نے مجھے حکم دیا ہے کہ اندر پت میں جا کر رہوں۔ میں نے اندر پت اور کیلو کھری کو بہت دیکھا ہے۔ میرے پیر بھائی حج کو جا رہے ہیں مخدوم مجھے اجازت عطا کریں کہ ان کے ساتھ حج کو چلا جاؤں۔ شیخ نے فرمایا کہ جاؤ۔ القصد ان لوگوں کے ساتھ حج کو گئے۔ اور یہ دولت حاصل کی جب واپس ہوئے تو راستے ہی میں رحمت حق سے جا ملے۔

اس روز ایک جوان نے بیعت کی تجدید کی تھی۔ شاید اس کو اسی زمانے میں کسی طرف سے ایذا پہنچی تھی۔ اس کے بارے میں شعر ارشاد فرمایا۔

ای بسا شیرکاں ترا آہوست
اے بسادرو کاں ترا داروست

ترجمہ: بہت سے شیر ہیں جو تیرے لئے ہرن ہیں اور بہت سے درد ہیں جو تیرے لئے

دوا ہیں۔

پچینویں مجلس

اسی سال ماہ ذی قعدہ کی اکیسویں تاریخ پیر کو دست بوسی کی سعادت تک رسائی ہوئی تو بہ قائم رہنے اور بیعت کی استقامت کا ذکر نکلا۔ فرمایا کہ جو شخص کسی پیر کا ہاتھ پکڑتا ہے اور بیعت کرتا ہے تو یہ خدا سے عہد ہوتا ہے۔ اور چاہئے کہ اس پر ثابت قدم رہے اور اگر اس کو اس سے پریشانی ہوتی ہے تو پھر جیسا ہے ویسا ہی رہے۔ کسی کا ہاتھ کلپے کے لئے پکڑتا ہے؟ اس وقت فرمایا کہ جب میں شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی بارگاہ سے وابستہ ہوا اور بیعت کر لی تو واپسی کے وقت راستے میں پیاس نے غلبہ کیا۔ لو چل رہی تھی اور پانی دور تھا۔ اس دوران ایک سڑک پر پہنچا تو ایک علوی کو دیکھا جنہیں میں پہچانتا تھا۔ ان کو سید عماد کہتے تھے خوش باش آدمی تھے جب میں ان کے پاس پہنچا تو ان سے کہا کہ پانی بھی ہے؟ میں بہت پیاسا ہوں۔ ایک چھاگل ان کے سامنے رکھی تھی۔ بولے خوب آئے۔ یہ چھاگل کھولنے اور پی جائیے۔ اس چھاگل میں شراب یا بھنگ تھی اور مجھے پتہ چل گیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں اس کو ہرگز نہیں چنوں گا۔ اس علوی

marfat.com

Marfat.com

نے کہا کہ یہاں قریب ہیں کہیں بھی پانی نہیں ہے۔ میں نے پانی نہ ملنے کی وجہ سے اس کو ساتھ رکھ لیا ہے اور آگے بھی دور دور پانی نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں پیئیں گے تو پیاس سے ہلاک ہو جائیں گے میں نے کہا کہ نہیں۔ اے خواجہ یہی ہو گا نا کہ میں مرجاؤں گا ہونا ہے ہو جائے میں نے تو شیخ کا ہاتھ تھام لیا ہے اور عمد کر لیا ہے کہ میں اس کو ہرگز نہیں پیوں گا یہ کہا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دور گیا تھا کہ پانی مل گیا اَلْحَمْدُ لِلّٰہ۔

اس کے بعد حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ حمید سوالی شیخ معین الدین کے مرید اور شیخ قطب الدین کے ہم خرقہ تھے۔ رحمتہ اللہ علیہم اجمعین جب وہ تائب ہو گئے اور انہیں خرقہ مل گیا تو ان کے پرانے ساتھی سنی ان کے پاس آئے اور کہا کہ آؤ پھر وہی ذوق حاصل کریں۔ خواجہ حمید بولے کہ اب تو یہ ہرگز نہیں ہو گا۔ انہوں نے پھر اصرار کیا۔ خواجہ حمید بولے کہ جاؤ گھر بیٹھو کیونکہ میں نے اپنا ازار بند ایسی مضبوطی سے باندھا ہے کہ کل قیامت کے دن بہشت کی حوروں پر بھی نہیں کھولوں گا۔ وَاللّٰہُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔

چھپنویں مجلس

اسی سال ماہ ذی الحجہ کی گیارہویں تاریخ ہفتے کو دست بوسی کی سعادت تک رسائی ہوئی۔ بندے نے عرضداشت کی کہ اسی مہینے کی تیرہویں تاریخ کو روزہ چھوڑنا ہو گا۔ ایام تشریق کی وجہ سے (پھر ایام بیض) (۳۷) کے روزے کا کیا رہے گا؟ فرمایا کہ سولہویں تک روزہ رکھ لینا چاہئے۔ اس موقع پر فرمایا کہ امام شافعی نے مسلسل چودھویں پندرہویں اور سولہویں ہی کو ایام بیض قرار دے کر روزے کے لئے فرمایا ہے کہ روزے رکھنے چاہیں انہی کو ایام بیض سمجھا ہے۔ لیکن اس مہینے (بقر عید) میں تو سب کا اہتمام ہے کہ سولہ تک روزے رکھنے چاہئیں۔

اسی درمیان کھانا سامنے لایا گیا۔ چاول بھی تھے۔ بندے نے عرضداشت کی کہ کیا ”الْأَزْمِيْنِي“ (چاول میری طرف سے) حدیث ہے؟ فرمایا کہ ہاں ہوا یہ تھا کہ ایک دفعہ صحابہ نے کھانا تیار کیا۔ ہر شخص نے کوئی چیز اپنے ذمے لی۔ ایک نے کما گوشت میری طرف سے۔ دوسرے نے کما مصالحہ میری جانب سے ہر شخص نے اسی طرح کما۔ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ ”الْأَزْمِيْنِي“۔ چاول میری طرف سے۔

ستاونویں مجلس

اسی سال ماہ ذی الحجہ کی بیسویں تاریخ پھر کو دست بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ کھانا لایا گیا تھا۔ جب کھانا جا چکا تو طشت اور آفتاب لائے۔ اس وقت حضرت سکرانے پورا ارشلو کیا کہ عرب میں طشت اور آفتاب کو جسے کھانے کے بعد لاتے ہیں۔ ابوہلیاس (عمیرہ کلبی) کہتے ہیں یعنی عمیرہ کا سلکنا کیوں کہ اس کے بعد کوئی کھانے کی چیز نہیں کھائی جاتی۔ اس وقت لطفی کے طور پر فرمایا کہ بعد سکن میں پن گویا ابوہلیاس ہے۔ کہیں کہ اس کے بعد کوئی کھانا نہیں لایا جاتا۔ پھر ارشلو ہوا کہ عرب میں پن نہیں ہوتا۔ اسی لئے آخر میں کھانے جانے والے طشت و آفتاب ابوہلیاس کھاتے ہیں۔ اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ وہاں اس (طشت و آفتاب) کو ابوہلیاس کہتے ہیں اور نمک کو ہوا فتح (کھولنے والی) شروع کرنے والی (چ)

اٹھاونویں مجلس

ماہ ذی الحجہ کی ستائیسویں تاریخ پیر کو دست بوسی کے شرف تک رسائی ہوئی۔ کھانے کا ذکر نکلا ارشاد ہوا کہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو کھانا کھائیں متقی پرہیز گار کے ہاں کھائیں اور کسی کو کھانا دیں تو وہ بھی متقی ہونا چاہئے۔ پھر فرمایا کہ جس طرح بھی ہو یہ لحاظ رکھنا چاہئے کہ کھانا متقی کا کھائیں۔ لیکن صرف متقی ہی کو کھانا مشکل کام ہے کیوں کہ دسیوں آدمی مہمان آتے ہیں۔ اب کسی کو کیا خبر کہ ان میں متقی کون ہے؟ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ ایک اور حدیث مشارق میں مجھے ملی ہے۔ اور اس سے بہت گنجائش نکالی جاسکتی ہے اس میں فرمایا گیا ہے کہ کھانا دو چاہے کوئی بھی ہو۔ خواہ اس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو اور سلام کرو جو بھی سامنے آئے چاہے اس سے شناسائی ہو یا نہ ہو۔

اس موقع پر حکایت بیان فرمائی کہ بدایوں میں ایک صاحب تھے ہمیشہ روزے سے رہتے۔ شام (مغرب) کی نماز ہوتے ہی اپنے گھر کی دہلیز پر آکر بیٹھ جاتے اور غلام دروازے کے سامنے کھڑے رہتے آنے جانے والوں میں سے جو بھی گزرتا اس کو اندر بلا کر افطار کراتے۔

اس کے بعد حضرت ابراہیم صلوٰۃ اللہ علیہ و سلمہ کی حکایت بیان فرمائی کہ وہ کسی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ کوئی مشرک ان کا مہمان بنا۔ حضرت ابراہیم نے جب دیکھا کہ یہ غیر ہے تو اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ فرمان وحی پہنچا کہ اے ابراہیم! ہم اس کو جان عطا کر سکتے ہیں اور تم روٹی نہیں دے سکتے!

پھر حکایت بیان فرمائی کہ اس سے پہلے جب میں شہر میں تھا۔ ایک دفعہ کچھ صوفی شیخ بہاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ کچھ مریدوں میں سے تشریف لائے۔ انہی میں سعید قریشی اور علی کھوکھری اور دوسرے طالب علم بھی تھے۔ اچھی مجلس تھی۔ کھانا سامنے لگایا گیا۔ سب رغبت سے شریک ہوئے۔ ایک شخص میزا پر دسی تھا جسے شرف پیادا کہتے تھے۔ وہ بھی آگیا اور کھانے میں شریک ہو گیا۔ اور یہ شرف پیادا مجھ تھا (اس کے سر پر بال تھے) جب وہ آکر کھانا کھانے لگا تو سعید قریشی اور چند دوسرے آدمیوں نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اور ان کو اس کے ساتھ کھانا گوار گزرا۔ سعید قریشی تو مجلس سے باہر چلے گئے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا

کہ میں حیران رہ گیا کہ آخر ان کو ہوا کیا جو کھانا چھوڑ دیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس تفرقے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وجہ یہ ہے کہ جو شخص ہمارے ساتھ کھانا کھانے لگا وہ مجھ (بالوں والا) ہے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ مجھے ہنسی آگئی کہ یہ کہاں آیا ہے کہ مجھ (بالوں والے) کے ساتھ کھانا نہ کھائیں اور یہ کس درجے کی خود پسندی ہے؟ اس درمیان بندے نے عرض کی کہ میں نے سعید قریشی کو آخر زمانے میں دیکھا ہے اور ہم بہت ساتھ رہے ہیں۔ جس حال میں میں نے انہیں دیکھا وہ اس حال جیسا نہیں رہا تھا۔ فرمایا کہ ہاں اس انتہا پسندی کی نحوست کی وجہ سے ہی وہ ایسی چیزوں میں مبتلا ہوئے۔

پھر معراج کا ذکر نکلا۔ ایک عزیز حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کی کہ معراج کی کیا نوعیت تھی؟ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ مکے سے بیت المقدس، اسراء تھا۔ اور بیت المقدس سے پہلے آسمان تک معراج تھی اور پہلے آسمان سے قاب قوسین کے مقام تک اعراج! ان عزیز نے دوبارہ اپنے سوال میں اضافہ کر کے پوچھا کہ کتے ہیں کہ جسم کو بھی معراج ہوئی اور روح کو بھی ہر ایک کو الگ کس طرح ہو سکتی ہے؟ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر یہ مصرع زبان مبارک پر لائے۔

فَظَنَ خَيْرًا وَلَا تَسْتَلُّ عَنِ الْخَبْرِ

یعنی اچھا گمان رکھو اور تحقیق حال میں مت لگو۔ اس موقع پر فرمایا کہ اس پر بھی ایمان رکھنا چاہئے اور زیادہ تحقیق و تفتیش میں نہیں پڑنا چاہئے۔ پھر ان دونوں شعروں کو پورا پڑھا اور فرمایا کہ کسی کا محبوب رات کو آگیا تھا۔ اس نے اس کا حال نظم کیا ہے۔

جَاءَ نِي فِي قَمِيصِ اللَّيْلِ مُسْتَجِرًا

يَقَارِبُ الْخَطْوَاءَ مِنْ خَوْفٍ وَ مِنْ خَذِرٍ

فَكَانَ مَا كَانَ مَعًا لَسْتُ أَنْكُرُهُ

فَظَنَ خَيْرًا وَلَا تَسْتَلُّ عَنِ الْخَبْرِ

ترجمہ:- رات کے (اندھیرے) لباس میں چھپا ہوا۔ خوف و اندیشے سے دبے پاؤں وہ

میرے پاس آیا۔ پھر ہوا جو کچھ ہوا۔ میں اس کا ذکر نہیں کروں گا گمان اچھا رکھو اور کیفیات

مت پوچھ!

marfat.com

Marfat.com

انسٹھویں مجلس

سنہ سات سو انتیس ہجری محرم کی اشعار میں تاریخ پیر کو ہاتھ چومنے کی سعادت تک رسائی ہوئی۔ اس روز بدایوں کے سفر سے واپسی ہوئی تھی اس شہر کے اطراف آرام فرما بزرگوں کا ذکر نکلا۔ بندے نے عرض کی کہ اس دفعہ لشکر میں جو راحت دیکھی۔ وہ ان بزرگوں کی زیارت میں آنے ہی سے تھی جیسے کہ مخدوم کے والد بزرگوار اور مولانا علاء الدین اصولی اور مولانا سراج الدین ترمذی اور خواجہ شاہی موئے تاب اور خواجہ عزیز کرکی اور خواجہ عزیز کوتوال اور خواجہ شادی لکھنوتی اور قاضی جمال ملتانی" بندے نے ان بزرگوں کے نام سنائے۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر آنکھوں میں آنسو بھرائے اور ہر ایک کا نام بڑے احترام سے لیا۔ جب قاضی جمال ملتانی" کا ذکر فرمایا تو ارشاد ہوا کہ ان بزرگ نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ حضرت رسالت ﷺ جیسے بدایوں کے قریب ایک مقام پر تشریف فرما ہیں اور وضو کر رہے ہیں۔ جب بیدار ہوئے تو فوراً اس مقام پر پہنچے اور زمین کو تر (گیلا) دیکھا بولے میری قبر اسی جگہ کھودی جائے! جب ان کی وفات ہوئی تو یہی کیا گیا کہ اسی مقام پر انہیں دفن کیا۔

ساتھویں مجلس

اسی سال ماہ محرم کی پچیسویں تاریخ کو دست بوسی کی دولت تک رسائی ہوئی۔ روزے کی فضیلت اور حدیث کا ذکر نکلا کہ لِيَصْنَعَنَّ فَرْحَتَانِ فَرْحَةً عِنْدَ الْإِفْطَارِ وَ فَرْحَةً عِنْدَ الْفَلَاحِ الْجَبَّارِ روزہ رکھنے والے کے لئے فرحتیں ہیں۔ ایک فرحت افطار کے وقت کی اور دوسری فرحت اللہ ملک الجبار سے ملاقات کے وقت کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ افطار کے وقت روزے دار کی یہ فرحت کھانے پینے کی فرحت نہیں ہے۔ بلکہ روزہ پورا ہونے کی فرحت ہے۔ یعنی جب روزہ پورا ہو جاتا ہے تو اس کو فرحت ہوتی ہے کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مَجْهُدًا مَجْهُدًا مَجْهُدًا اور میں دیدار خداوندی کی نعمت کا امیدوار ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہر طاعت کی ایک جزاء (بدلہ) مقرر ہے۔ چوں کہ روزے کی جزاء دیدار الہی کی نعمت ہے۔ اس لئے روزہ پورا ہونے پر روزہ دار اس نعمت کی امید سے خوش ہوتا ہے۔ اس درمیان اس حدیث کا ذکر آیا کہ اَلصَّوْمُ لِيْ وَ اَنَا لَجَنَّتِيْ بِهٖ (۳۸) (روزہ میرے لئے

ہوتا ہے اور میں ہی اس کی جزاء دیتا ہوں۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہ حدیث اس طرح بھی سنی گئی ہے کہ **الصَّابِرُ لِي**۔ روزے دار میرے لئے ہے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے تبسم فرمایا اور کہا پھر تو **أَنَا جَزِي لَهٗ** (میں ہی اس کا بدلہ ہوں) کہنا چاہئے! اس کے بعد ان صاحب کی بات کی اصلاح فرمائی کہ **أَجْزِي بِهِ** کی بدل کے معنی میں آئی ہے۔

روزے کی مناسبت سے صبر کا ذکر نکلا۔ فرمایا کہ صبر قید کے معنی میں آیا ہے۔ جیسے کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ **إِصْبِرْ وَالْحَصَابِرُ وَاقْتُلُوا الْقَاتِلَ** پکڑنے والے کو قید کرو اور قاتل کو قتل کرو اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اس حدیث کی شان نزول ہے۔ یہ تھا کہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانے میں کوئی شخص تلوار کھینچے کسی شخص کا پیچھا کر رہا تھا۔ اور وہ شخص تلوار کشیدہ آدمی کے سامنے سے بھاگ رہا تھا۔ ایک شخص بڑھا اور اس نے بھاگنے والے کو پکڑ کر کھڑا کر لیا اور تلوار والے آدمی نے آکر بھاگنے والے کو قتل کر دیا۔ یہ خبر رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پہنچائی گئی۔ حکم ہوا کہ جس شخص نے بھاگنے والے کو پکڑ کر روکا تھا۔ اس کو قید کرو اور قاتل کو قتل کر دو اس حکم کو اس عبارت میں ادا فرمایا کہ **إِصْبِرْ وَالْحَصَابِرُ وَاقْتُلُوا الْقَاتِلَ**۔ روکنے والے کو قید کرو اور قاتل کو قتل کرو۔

پھر یہ ذکر آیا کہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بہت جگہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص فلاں کام کرے گا وہ کل بہشت میں میرے ساتھ ایک جگہ ہو گا۔ اور اس حدیث کو بیان کرتے وقت دونوں انگلیوں یعنی انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی کو ملا کر اشارہ فرمایا کہ ایسے! خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ یہ اشارہ اس بات کے لئے کافی نہیں ہے کہ میں اور وہ ایک جگہ ہوں گے جس طرح کہ یہ دو انگلیاں یکجا ہیں۔ یہ اشارہ درجے کے بارے میں ہے یعنی اسی طرح جو درجہ میرے لئے ہو گا اسی طرح کا درجہ اس کو دیا جائے گا۔ کیوں کہ لوگوں کی انگلیوں میں تو درمیان کی انگلی شہادت کی انگلی سے بلند ہوتی ہے لیکن رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی انگشت شہادت اور درمیان کی انگلی دونوں برابر تھیں!

اکسٹھویں مجلس

اسی سال ماہ صفر (اللہ اسے خیر اور کامیابی کے ساتھ اختتام تک پہنچائے) کی تیرہویں

تاریخ جمعرات کو قدم بوسی کی سعادت تک رسائی ہوئی۔ بے گنتی اور توبہ کا ذکر نکلا کہ پیر ہری (حضرت عبداللہ انصاریؓ) نے فرمایا ہے کہ بخشش کی دو چیزیں ہیں اور یہ کم حاصل ہوتی ہیں کہ یا تو شروع میں گناہ سے محفوظ رہے یا آخر میں توبہ نصیب ہوا

یہاں سے توبہ اور تقویٰ کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ متقی وہ ہوتا ہے کہ کسی بھی آلودگی سے آلودہ نہ ہوا ہو اور نائب وہ ہوتا ہے کہ آلودہ ہوا ہو اور پھر توبہ کرے۔ اس بارے میں بہت سی باتیں کہی گئی ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ متقی اور نائب دونوں برابر ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نائب متقی سے بہتر ہے کیوں کہ وہ گناہ کا مزہ چکھ کر نائب ہوتا ہے۔ جو مزہ چکھ چکا ہو اور پھر پلٹ آئے وہ اس سے مضبوط ہو گا جس نے گناہ کا مزہ بالکل ہی نہیں چکھا اور بعض نے کہا ہے کہ متقی توبہ کرنے والے سے افضل ہے اس قول کی صحت کے بارے میں ایک حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ دو آدمیوں میں بحث ہو گئی۔ ایک کہتا تھا کہ نائب سے متقی بہتر ہوتا ہے دو سرا کہتا تھا کہ متقی سے نائب بہتر ہوتا ہے۔ جب یہ گفتگو ان کے درمیان بڑھی تو دونوں اس زمانے کے پیغمبر کے پاس پہنچے اور اس بارے میں فیصلہ چاہا۔ پیغمبر وقت نے کہا کہ میں خود فیصلہ نہیں دے سکتا۔ وحی کا انتظار کرتا ہوں۔ دیکھو کیا حکم آتا ہے۔ اس دوران ان پیغمبر کے پاس حکم آیا کہ ان دونوں کو واپس کر دو اور کہو کہ تم دونوں جاؤ اور آج رات کو ایک جگہ رہو۔ کل جب گھر سے باہر نکلو تو جو شخص سب سے پہلے تمہارے سامنے پڑے۔ اس سے مسئلے کا حل دریافت کرو۔ یہ دونوں آدمی اس فرمان کے مطابق واپس چلے گئے دوسرے روز دونوں گھر سے باہر نکلے تو ایک آدمی سامنے آیا انہوں نے پوچھا کہ اے خواجہ ہم کو ایک مشکل درپیش ہے آپ حل کریں۔ وہ بولا کہ کیا مشکل درپیش ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ معلوم کرنا ہے کہ جس شخص نے کبھی گناہ نہ کیا ہو وہ بہتر ہے یا وہ جس نے گناہ کیا اور توبہ کر لی؟ اس آدمی نے کہا کہ اے خواجگان! میں تو ایک جولاہا ہوں میں نے علم حاصل نہیں کیا ہے میں اس مشکل کو کیسے حل کروں۔ البتہ اس قدر جانتا ہوں کہ جو کپڑا بنتا ہوں۔ اس میں اکثر تار ٹوٹ بھی جاتا ہے میں اس کو جوڑ دیتا ہوں۔ اور یہ بے ٹوٹے کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں واپس آئے اور ان پیغمبر کی خدمت میں پہنچے اور سارا ماجرا کہ سنایا۔ پیغمبر بولے کہ تمہارا جواب یہی تھا۔ پھر دنیا کی اور اس پر خلق کے مغرور ہو جانے کی حکایت آئی۔ اس بارے میں قصہ سنایا کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک عورت کو دیکھا۔

بڑھیا، بد حال، کلی، بد صورت اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ بولی کہ میں دنیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تو نے کتنے شوہر کئے؟ بولی بے حد و بے اندازہ۔ اگر کچھ گنتی اور حد ہو تو بتاؤں بھی! اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ان شوہروں میں سے کسی نے تجھے طلاق بھی دی! کہنے لگی نہیں۔ سب کو میں نے ہی مار ڈالا۔ اس بات کی مناسبت سے فرمایا کہ درویشی مکمل راحت بھی ہے اور ساری آفتوں سے محفوظ بھی۔ درویشی کے کام کی زیادہ سے زیادہ سختی یہ ہے کہ کسی رات اسے فاقہ ہو اور جس رات اسے فاقہ ہو تا ہے اس کے لئے ایک معراج ہوتی ہے۔

پھر مالدار لوگوں اور مال سے ان کی محبت پر گفتگو ہونے لگی۔ اس کے بعد حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ کوئی شخص شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں آیا اور ایک پیر کا حال بیان کیا جو اس زمانے میں تھے۔ اور جن کے پاس بڑا مال تھا۔ کہنے لگا ان شیخ کے پاس بہت مال ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ مجھے مال کو خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز نے جب یہ بات سنی تو مسکرا کر فرمایا کہ یہ سب بہانے ہیں! پھر فرمایا کہ اگر یہ شخص مجھے خرچ کا وکیل بنا دیں تو میں دو تین روز میں ان کا سارا خزانہ خالی کر دوں اور ایک درہم بھی ان کی اجازت کے بغیر نہ دوں!

پھر اس بات کا ذکر نکلا کہ دینے والا خدا ہے۔ جب خدا تعالیٰ کسی کو دیتا ہے تو روک کون سکتا ہے۔ اس درمیان حکایت بیان فرمائی کہ سلطان شمس الدین نے بدایوں میں دو دروازوں کے ساتھ (کھیل کا) ایک میدان تیار کرایا تھا۔ وہاں گیند (چوگان) کھیلتا تھا۔ ایک روز میدان میں گیند کھیل رہا تھا۔ ایک دروازے کے قریب پہنچا تو وہاں ایک کمر جھکے بوڑھے کو دیکھا۔ اس بوڑھے نے کچھ مانگا اور سلطان نے کچھ نہ دیا۔ اس کے بعد دوسرے دروازے پر پہنچا وہاں ایک تندرست و توانا جوان کو دیکھا۔ سلطان شمس الدین کے پاس ایک تھیلی تھی۔ اس کو پلٹ کر کچھ سونے کی اشرفیاں نکالیں اور اس جوان کو دے دیں اور کہا کہ اس بوڑھے نے مجھ سے کچھ مانگا تھا۔ میں نے کچھ نہیں دیا اور اس جوان کو بے مانگے عطا کر دیا۔ اگر مرضی میری چلتی تو اس بوڑھے کو دیتا۔ بس جس کو عطاء کرتا ہے خدا کرتا ہے۔ میں کیا کروں۔

ایک دوسری حکایت اسی سلطان شمس الدین کی بیان فرمائی کہ وہ ایک دفعہ بدایوں میں آیا۔ اس کو چند آم پیش کئے گئے۔ وہاں آم بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ جب اس نے کھائے تو

پوچھا کہ انہیں کیا کہتے ہیں۔ بتایا گیا کہ انہیں ”آنب“ کہتے ہیں۔ شاید ترکی زبان میں آنب کسی بری چیز کو کہتے ہیں۔ سلطان نے کہا کہ اس کو نغزک کہنا چاہئے۔ جب یہ نام اس کی زبان پر آیا تو پھر یہی نام پڑ گیا۔ اس کے بعد اسی کی حکایت بیان فرمائی کہ وہ شیخ شہاب الدین سروردی اور شیخ اوحہ کمانی رحمۃ اللہ علیہما کی خدمت میں حاضر ہو چکا تھا اور ان میں سے کسی ایک نے اس سے کہا تھا کہ تو بادشاہ ہو جائے گا۔

پھر ترک دنیا کی گفتگو نکلی۔ فرمایا کہ کیتھل میں ایک بوڑھے شخص تھے۔ ان کو شیخ صوفی بدھنی کہتے تھے۔ وہ بڑے تارک دنیا تھے۔ یہاں تک ستر عورت بھی نہ تھا (ناف سے گھٹنوں تک بدن ڈھلنا ستر عورت کہلاتا ہے اور مرد کے لئے شرعا ضروری ہے) پھر فرمایا اگر کوئی بھوک مٹانے کے لئے اتنے کھانے کو بھی چھوڑ دے جس سے جسم و جان کا رشتہ قائم رہتا ہے تو ہلاک ہو جائے گا اور سزا پائے گا۔ مگر وہ ایسے تھے کہ ان چیزوں سے بھی دور رہتے! ترک دنیا کی مناسبت سے شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی حکایت بیان فرمائی کہ جو بھی زر نعمت ان کے پاس آتا وہ اس سب کو خرچ کر دیتے۔ یہاں تک کہ ان کے انتقال کے وقت تجمین و تکفین کے سامان سے بھی معذوری تھی۔ چنانچہ کچی اینٹیں جو لحد کے لئے چاہئے ہوتی ہیں وہ بھی نہ تھیں کچی اینٹوں سے جو دروازہ بنایا گیا تھا اس دروازے کو گرا دیا گیا تاکہ اس کی اینٹیں لحد میں استعمال ہوں۔

باشہویں مجلس

اسی سال ربیع الاول کی اٹھائیسویں تاریخ اتوار کو ہاتھ چومنے کی دولت ہاتھ آئی۔ ان بادشاہوں کا قصہ نکلا جن کو شعر سننے کا شوق تھا۔ ارشاد فرمایا کہ سلطان شمس الدین نے ایک دفعہ باریابی عطا کی اور ناصری شاعر نے کلام سنایا ان اشعار کا مطلع یہ تھا۔

اے فتنہ از نیب تو زہار خواست

تج تو مال و پیل ز کفار خواست

ترجمہ:- تیری یورش سے فتنہ پناہ مانگتا ہے اور تیری تلوار کفار سے ہاتھی اور مال کا

خراج مانگتی ہے۔

سلطان یہ شعر سننے کے دوران کسی اور چیز میں مشغول ہو گیا۔ اور اس درمیان ناصر نے چند شعر پڑھ ڈالے سلطان دوبارہ متوجہ ہوا اور ناصر سے کہا۔

اے فتنہ از نہیب تو ز نمار خواست
تج تو مال و پیل ز کفار خواست

یہاں سے دوبارہ پڑھو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی یادداشت اتنی اچھی تھی کہ دوسری مشغولیت کے باوجود اس کو اشعار کا مطلع یاد رہا۔ اس کے بعد اس کے اچھے عقیدے کے بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ وہ راتوں کو جاگتا اور جب بھی نیند سے ہوشیار ہوتا وضو کرتا اور دو رکعت نماز پڑھتا اور پھر سو جاتا کسی اور کو نہ جگاتا۔

ترستھویں مجلس

اسی سال ماہ ربیع الآخر کی سولہویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی دولت میسر آئی۔ روزے اور سحری کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ ایک شخص نے شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ایک شخص روزہ نہیں رکھتا اور سحری کھاتا ہے تو یہ کیسا ہے! شیخ جلال الدین تبریزی نے فرمایا کہ سحری بھی کھائے اور رات کا کھانا بھی کھائے اور دوپہر کا کھانا بھی کھائے البتہ جو وقت اس سے حاصل ہو اس کو خدائے تعالیٰ کی طاعت میں خرچ کرے اور گناہ نہ کرے (۳۹) بندے نے اس مفہوم کے مناسب حال یہ آیت یاد دلائی کہ کُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ پاك چیزیں کھاؤ۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ کُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا پاك چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ ان پاك چیزوں کے بارے میں بندے نے عرض کی کہ اصحاب کف نے جو اڑکی طعمًا (سب سے پاک کھانا) فرمایا تھا اس سے کیا مقصود تھا؟ فرمایا کہ وہ ایسا کھانا چاہتے تھے جو طبیعتوں کو مرغوب ہو۔ پھر زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ بعض لوگوں کے قول کے مطابق اس کھانے سے مراد چاول تھے۔ وَاللَّهِ اعْلَمُ۔

چونٹھویں مجلس

اسی سال ماہ جماد الاولیٰ کی بارہویں تاریخ اتوار کو پیر چومنے کی سعادت ہاتھ آئی۔ ان لوگوں کا ذکر نکلا جو ہمیشہ یاد حق میں مستغرق رہتے ہیں اس کے بعد حکایت بیان فرمائی کہ کسی شخص نے ایک صاحب حال درویش سے درخواست کی کہ جس وقت آپ کو حق تعالیٰ کی حضوری میسر آئے تو مجھے بھی یاد کر کے دعا فرمائیے گا۔ ان درویش نے جواب دیا کہ اس حضوری کے وقت پر افسوس ہے کہ جس میں مجھے تیری یاد آئے۔

اس درمیان خواجہ عزیز کرکیؒ کا ذکر آیا جو بدایوں میں آرام فرما (دفن) ہیں۔ ان کی بزرگی کی بہت زیادہ تعریف فرمائی۔ بندے نے عرض کی کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ زندہ چڑیوں کو نکل جاتے اور پھر کسی اور وقت ایک ایک کر کے اسی طرح زندہ حلق سے باہر نکالتے اور اڑا دیتے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ میں نے خود تو نہیں دیکھا لیکن سنا ہے۔ اس موقع پر فرمایا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سردی کی راتوں میں گرم تنور کے اندر اتر جاتے دوسرے دن صبح باہر نکلتے۔ پھر فرمایا کہ وہ کرک کے رہنے والے تھے۔ شروع زمانے میں وہ فیروزے بیچتے تھے۔ اور بنگری (دست بند) کی قسم سے جو عورتیں پہنتی ہیں فروخت کرتے تھے اور اس دوران بھی مشغول بچ رہتے تھے۔ شاید کرک کے حاکم نے ان کو ستایا اور قید کر دیا۔ اس کے بعد حاکم کو بتایا گیا کہ یہ نیک اور شاغل جوان ہیں تو اس نے حکم دیا کہ انہیں رہا کر دیا جائے۔ جب انہیں بتایا گیا کہ آپ کو حاکم نے رہائی دے دی ہے باہر آجائیے تو بولے میں جب تک اس کے گھربار کو برباد نہ کر لوں ہرگز باہر نہیں آؤں گا۔ القصہ اس حاکم پر کوئی سخت آفت آئی۔ اس وقت یہ اس قید سے باہر نکلے۔

پینسٹھویں مجلس

اسی سال ماہ جماد الاولیٰ کی تیسویں تاریخ جمعرات کو ہاتھ چومنے کی دولت تک رسائی ہوئی۔ سفر حج اور زیارت کعبہ کا ذکر نکلا۔ فرمایا کہ زیارت کعبہ کو جانے والے لوگ جب واپس آتے ہیں تو ہر جگہ اسی کا ذکر کرتے ہیں۔ اور زیادہ تر اسی کی یاد میں رہتے ہیں اور یہ اچھا نہیں ہے۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ حج کے بہتے میں منزل کی سختی اور پانی کی تنگی کی

وجہ سے کبھی کبھی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اس پر خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے حکایت بیان فرمائی کہ لاہور میں ایک واعظ تھے جو وعظ اچھا کرتے۔ ان کی بات میں تاثیر تھی مخلوق کو ان کے بیان میں رقت و راحت حاصل ہوتی تھی۔ پھر وہ حج کو گئے جب واپس آئے تو ان کے کلام میں وہ ذوق و راحت باقی نہ رہے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کی گفتگو میں پہلے جیسی چاشنی نہیں رہی۔ بولے کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ کس نحوست کی وجہ سے (چاشنی نہیں رہی) اس وجہ سے کہ اس سفر کے دوران راستے میں میری دو نمازیں وقت پر نہ ہوئی تھیں۔

چھیا سٹھویں مجلس

اسی سال ماہ جماد الاخر کی پانچویں تاریخ منگل کو ہاتھ چومنے کی دولت تک رسائی ہوئی۔ پیری مریدی کے آداب کا ذکر آیا۔ اور اس بات کا بھی کہ پیر کو مرید سے کسی قسم کا لالچ نہیں کرنا چاہئے۔ اس وقت حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ کسی مرید نے اپنے پیر کی خدمت میں چند خربوزے لا کر پیش کئے۔ پیر نے نہیں لئے اور اس کو واپس کر دیئے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ پیر مرید کا نذرانہ کیوں رد کرے؟ پیر نے جواب دیا کہ جس طرح دین کے کام میں پیر کو مرید کا کسی طرح محتاج نہیں ہونا چاہئے۔ اسی طرح دنیا کے کام میں بھی مرید کا محتاج نہیں ہونا چاہئے۔

پھر اس بات کا ذکر نکلا کہ مخدوم کی خدمت میں مرید آتے ہیں اور سجدہ تعظیم کرتے ہیں۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ میرا جی تو چاہتا ہے کہ لوگوں کو منع کروں لیکن چونکہ میرے شیخ کے سامنے بھی اسی طرح ہوتا تھا۔ اس لئے منع نہیں کرتا۔ خادم نے اس پر عرض کیا کہ جو غلام مخدوم سے وابستہ ہیں اور جو مرید ہوئے ہیں اور بیعت کی ہے ان کی یہ ارادت اور بیعت پیر کے عشق و محبت سے عبارت ہے۔ پس جہاں عشق و محبت کا دخل ہوتا ہے۔ وہاں زمین پر سر رکھنا ایک معمولی سی خدمت ہے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے اس بات کی موافقت میں فرمایا کہ میں نے شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز سے سنا ہے کہ ایک دفعہ شیخ ابو سعید ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ کسی راستے میں سوار جا رہے تھے کہ ایک مرید سامنے آیا اور یہ مرید پیدل تھا اس نے شیخ کے گھٹنے کو چوما۔ شیخ نے فرمایا کہ اور نیچے۔ مرید نے شیخ کے پیر

کو چوما۔ شیخ نے فرمایا اور نیچے۔ مرید نے گھوڑے کے گھٹنے کو بوسہ دیا۔ شیخ نے فرمایا اور نیچے۔ مرید نے گھوڑے کے سم کو بوسہ دیا۔ شیخ نے کہا اور نیچے مرید نے زمیں چومی۔ اس وقت شیخ نے ارشاد کیا کہ یہ جو میں تجھ سے کہتا جاتا تھا اور نیچے نیچے تو اس سے میرا مقصد زمین چومنا نہیں تھا بلکہ یہ تھا کہ تو جتنا جھکتا ہے اتنا ہی تیرا درجہ بلند ہوتا جاتا ہے۔

پھر ان درویشوں کی حکایت آئی جن کو شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز نے خلافت عطا فرمائی تھی۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ ان میں سے ایک درویش تھے جن کو عارف کہتے تھے۔ ان کو سیوستان اور ان حدود کی طرف بھیجا تھا اور بیعت لینے کی اجازت دی تھی اور ایسا ہوا کہ ایک ملک (بادشاہ، حاکم یا نواب) ملتان اور اچہ کی طرف تھا اور یہ عارف اس ملک کے امام تھے۔ یا کسی اور طرح کا تعلق رکھتے تھے الغرض ایک دفعہ اس ملک نے سو تنکے (ایک سکہ) ان عارف کے ہاتھ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں بھیجے انہوں نے اس میں سے پچاس تنکے اپنے پاس رکھ لئے اور پچاس تنکے شیخ کی خدمت میں پیش کئے۔ شیخ مسکرائے اور فرمایا کہ تم نے بھائیوں کی طرح تقسیم کر لیا! یہ عارف شرمندہ ہو گئے۔ فوراً بقیہ پچاس تنکے بھی شیخ کی خدمت میں پیش کر دیئے اور بڑی عاجزی کے ساتھ معافی مانگی اور مرید (۴۰) ہونے کی درخواست کی۔ شیخ نے دست مبارک بیعت کے لئے ان کو دیا اور وہ مخلوق ہوئے (سرمنڈایا) اس کے بعد شیخ کی خدمت میں ایسے پکے ہوئے کہ پوری استقامت حاصل کر لی۔ چنانچہ آخر میں شیخ نے انہیں بیعت کی اجازت عطا فرمائی اور سیوستان کی طرف بھیج دیا۔

سٹرسٹھویں مجلس

اسی سال ماہ رجب کی تیسویں تاریخ پیر کو دست بوسی کی دولت تک رسائی ہوئی غرور کا تذکرہ آیا۔ اور اہل رعونت اور ان لوگوں کا جو اپنے کو کچھ سمجھتے ہیں ارشاد ہوا کہ حضرت عائشہؓ سے پوچھا گیا کہ آدمی برا کب ہوتا ہے فرمایا گیا کہ اس وقت جب وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے۔

اس بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ فرزدق (۴۱) نامی ایک شاعر تھے۔ ایک دفعہ وہ اور

حضرت خواجہ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ اتفاق سے ایک اجتماع میں اکٹھے ہوئے اس اجتماع میں کسی شخص نے بلند آواز سے کہا کہ اس مجمع میں وہ بھی ہے جو سب سے اچھا ہے اور وہ بھی جو سب سے برا ہے اسی وقت فرزدق نے خواجہ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب وہ کر کہا کہ آپ نے سنا یہ شخص کیا کہتا ہے؟ خواجہ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ بولے کہ کیا معلوم بہترین آدمی ان میں سے کون ہے۔ اس کو تو خدا جانتا ہے۔ فرزدق نے کہا کہ اے خواجہ! بہترین آدمی آپ ہیں اور بدترین انسان میں ہوں۔ جب فرزدق نے وفات پائی تو اس کو خواب میں دیکھا گیا اور اس سے حال پوچھا گیا تو فرزدق نے جواب دیا کہ جب مجھے کرسی قضا کے سامنے لے گئے تو میں ڈرنے لگا۔ مگر مجھے حکم ملا کہ ہم نے تجھے اس وقت بخش دیا تھا جب تو نے اپنے آپ کو انسانوں میں بدترین آدمی سمجھا تھا۔

بندے کے دل میں ایک بات تھی اس کو اس روز عرض کر دیا۔ اور وہ بات یہ تھی کہ قبر کا جو تعویذ بناتے ہیں وہ خراب (وختہ) ہو جائے تو کیا اس کا پھر بنانا آیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ نہیں جو قبر خراب ہو جائے اس کی پھر تعمیر نہیں کرنی چاہئے۔ جس قدر فرسودگی زیادہ ہوگی۔ رحمت کی امید بھی زیادہ ہوگی۔

یہاں سے ان لوگوں کا ذکر نکلا جو اپنے دفن کے لئے پیروں اور بزرگوں کے قدموں میں جگہ چاہتے ہیں۔ اس موقع پر حکایت بیان فرمائی کہ بدایوں میں ایک بزرگ مولانا سراج الدین ترمذی نام کے تھے وہ اس ارادے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے کہ اگر قضا کا پیغام آجائے تو ان کا دفن وہیں بنے مگر جب زیارت کعبہ کو گئے تو اس سعادت کو حاصل کرنے کے بعد واپس آگئے اور بدایوں میں سکونت اختیار کر لی۔ ان سے کہا گیا کہ کیا آپ اس نیت سے نہیں گئے تھے کہ مرجائیں تو وہاں آپ کو دفن کریں۔ بولے ہاں! لیکن میں نے ایک رات کو خواب میں دیکھا کہ اطراف سے بہت سے جنازے لائے جا رہے ہیں اور ان جنازوں کے مردوں کو مکے کے آس پاس دفن کر رہے ہیں۔ اور بعض مردے جو مکے کے چاروں طرف ہیں ان کو نکال نکال کر لے جا رہے ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ بتایا گیا کہ وہ گروہ جو اس مقام کی اہلیت رکھتا ہے وہ چاہے یہاں سے دور وفات پائے۔ اس کے لئے حکم ہے کہ ہم یہاں لے آئیں اور جو گروہ اس مقام کے لائق نہیں ہے وہ چاہے یہاں سو رہا ہو۔ اس کے لئے حکم ہے کہ اسے اطراف لے جاؤ۔ مولانا سراج الدین نے فرمایا کہ جب مجھ پر یہ

حقیقت کھل گئی تو دوبارہ بدایوں میں آگیا۔ کیوں کہ اگر میں اس جگہ کے لائق ہوں گا میری غرض اپنے آپ حاصل ہو جائے گی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے کتاب فوائد الفوائد کا چوتھا حصہ مکمل ہو گیا۔

ختم شدائیں صحف صدق و صفا کہ از و جان حسن راست طرب
 درسہ شنبہ دوم از ماہ شوال ہفصد و نوزدہ تاریخ عرب
 یہ صدق و صفا کے صحیفے پورے ہوئے جن سے حسن کی روح کو مسرت ہے۔ تاریخ
 عرب کے سات سو اسیویں برس ماہ شوال کی دوسری تاریخ منگل کو۔

اس وقت سے کہ ان کلمات کو لکھنا شروع کیا گیا تھا آج تک کہ یہ پایہ تکمیل کو پہنچے۔
 پورے بارہ سال ہو گئے۔ اور یہ بارہ سال کا سرمایہ جو کٹھالی کٹھالی (جوڑا گیا) بارہ ماہ کا
 (کھرا) سونا ہے۔ جسے وقت کے صرافوں کے سامنے رکھا گیا ہے امید ہے کہ دلوں کے
 سکے محبت ایمان کی مرلگ کر پورا مول بھی پائیں گے اور انہیں پورا رواج بھی ملے
 گا۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔

فوائد الفوائد
جلد پنجم

پانچویں جلد فوائد القواد

بتیں مجلسیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خاص حضرت صمدیت کی بے حد حمد اور بے حساب ثنا جن کے فضل کے فیض سے سلوک کی لڑی میں عقائد کے موتی پروئے گئے۔ اس وجود کی بدولت جو مکارم اخلاق والا جو بخشش اور نوازش والا ہے۔ جو گہرے رموز کو باہر لاتا اور حقیقتوں کے خزانے کھولتا ہے۔ اولیاء کا سلطان، جہان کا قطب، عارفوں اور مشائخ کا بادشاہ حق کا نظام شرع کا نظام دین کا نظام اللہ اس کی درازگی عمر سے مسلمانوں کو مستفید فرمائے۔ آمین!

مصلیٰ علیہ السلام

یکے ازامت ختم النبیین

شد جزوی کسی ختم المشائخ

ختم النبیین ﷺ کی امت میں سے ایک جس سے سوا ختم المشائخ اور کوئی نہ ہوا۔

بندہ حسن عرض کرتا ہے کہ جب ازلی توفیق اس کمزور کے احوال کے موافق ہوئی اور جب ابدی سعادت نے اس شکستہ کے اوقات کا ساتھ دیا تو قدرت کے اشارے اس کی فکر کے رہنما بنے۔ یہاں تک ان کے جاں پرور کلمات کے ذخیرے جمع کئے جاسکے۔ اس سے پہلے ایک جلد پوری ہو چکی ہے۔ بارہ سال کی لکھی ہوئی اور چار دیباچوں پر مشتمل۔ اب یہ دوسری جلد شروع کی جاتی ہے۔ حق تبارک و تعالیٰ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر کی فرشتوں جیسی صفات رکھنے والی ذات کو خضر کی سی عمر دے تاکہ اس شربت سے جو عین آب حیات ہے، خواص اور عوام سیراب ہوں! امید ہے کہ معافی کے اس جاں بخش جام کا ایک گھونٹ جو ارواح کی شراب ہے سنانے والے کو سننے والے کو اور لکھنے پڑھنے والے کو راحتیں پہنچائے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

پہلی مجلس

کلم ماہ مبارک شعبان ۱۹۷۹ھ اتوار کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی بندے کے دل میں ایک حدیث تھی۔ مخدوم کی خدمت میں اسے پڑھ کر سنایا کہ ”مَنْ أَحَبَّ الْعِلْمَ وَالْعُلَمَاءَ لَمْ يُكْتَبْ خَطِيئَةٌ“ جو شخص علم اور علماء سے محبت کرتا ہے اس کی خطا نہیں لکھی جاتی۔ پھر بندے نے عرض کیا کہ اس حدیث سے امید ہے کہ علم اور علماء کی محبت کے سبب میرے گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔ ارشاد ہوا کہ سچی محبت پیروی ہے۔ جب کوئی شخص ان کا محب ہو جائے گا تو ان کی پیروی بھی ضرور کرے گا۔ اور نامناسب چیزوں سے دور رہے گا۔ اور جب یہ ہو گا تو ظاہر ہے کہ اس کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔ اس وقت فرمایا کہ جب تک حق تعالیٰ کی محبت دل کے غلاف میں رہتی ہے۔ گناہ کا امکان رہتا ہے۔ لیکن جب محبت دل کے مرکز میں داخل ہو جاتی ہے تو پھر گناہ کا امکان نہیں رہتا۔

پھر فرمایا کہ توبہ اور اللہ کی طرف رجوع جوانی کے زمانے میں اچھا ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں توبہ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے! اس وقت دو شعر زبان مبارک پر لائے۔

چوں پیر شدی بر سر انجام آئی - آئی سر حرف خویش ناکام آئی
سازی حق راز تیرہ رانی معشوقہ خود در بے نوانی
جب بوڑھے ہوئے اور انجام کے قریب پہنچے تو ناکامی کے ساتھ اپنے ٹھکانے پر آئے۔
اور کچھ بن نہ پڑا تو حق تعالیٰ ہی کو اپنا محبوب بنا لیا۔

اس کے بعد فرمایا کہ حق تعالیٰ اپنے بندے سے اس کی جوانی کے بارے میں پوچھے گا۔
يَسْأَلُ الْعَزْزَاءُ مِنَ شَبَابِهِ جَوَابَ طَلْبِي هُوَ لِي آدِي سَ اس کی جوانی کی بابت!
اس درمیان ایک دانشمند مولوی آئے اور خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر کے قدموں میں سر رکھ
دیا اور عرض کی کہ میں جو جناب کا مرید ہوا ہوں۔ اس کی وجہ بیان کرنی چاہتا ہوں۔ ہوا یہ کہ
میں ایک دفعہ افغان پور میں دریا کے کنارے پر تھا مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو میں نماز میں
مشغول ہو گیا۔ مجھے آپ کی مبارک صورت نظر آئی۔ نماز ہی میں مجھ پر حیرت طاری ہو گئی
اور اس سے پہلے بندے کو آپ سے ارادت کا تعلق نہیں تھا۔ الغرض جب آپ کا مبارک
چہرہ دیکھا تو قریب تھا کہ نماز ہی میں بے قابو اور بے خود ہو جاؤں مگر پھر جب مغرب کی نماز پڑھ
چکا تو دل میں سوچا کہ مجھے مخدوم عالمیاں کی خدمت میں جانا چاہئے اور غلاموں کی ڈوری میں
بندہ جانا چاہئے۔ اس وقت مخدوم کی خدمت میں آیا اور بیعت کی۔

جب وہ دانشمند عالم یہ حکایت پوری کر چکے تو خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ ایک
دفعہ کوئی شخص دہلی سے روانہ ہوا تا کہ اجودھن جائے اور شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ
سرہ العزیز کے سامنے توبہ کر لے۔ دوران سفر ایک آوارہ گانے والی اس کے ہم راہ ہو گئی۔
اور یہ گانے والی بڑی کوشش میں رہی کہ کسی طرح اس مرد سے تعلق پیدا کر لے۔ یہ مرد
چونکہ سچی نیت رکھتا تھا اس لئے حرام کار کی طرف ذرا راغب نہیں ہوا یہاں تک کہ راستے
کی منزلوں میں سے ایک منزل میں ایسا اتفاق ہوا کہ یہ مرد اور وہ مغنیہ ایک ہی کجاوے میں
سوار ہوئے یہ گانے والی مرد کے پاس آکر بیٹھ گئی۔ اس طرح کہ ان کے درمیان کوئی پردہ اور
رکاوٹ نہیں تھی۔ شاید اس حال میں مرد کا دل کسی قدر مائل ہوا اور اس نے کوئی بات کی یا
ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اتنے میں مرد نے دیکھا کہ کوئی آیا اور اس کے منہ پر طمانچہ مارا۔
اور کہا کہ فلاں کی خدمت میں توبہ کی نیت سے جا رہا ہے پھر یہ کیا ہے؟ وہ شخص فوراً متنبہ ہو
گیا۔ اور پھر عورت کی طرف نہ دیکھا قصہ جب شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز

کی خدمت میں پہنچا تو پہلی بات جو شیخ نے اس سے کہی وہ یہ تھی کہ خدائے تعالیٰ نے اس روز تیری خوب حفاظت فرمائی!

پھر حضرت رسالت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کمال فصاحت کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ صحابیوں میں سے ایک صحابی تھے انہوں نے شاید ایک بھیڑ بیچ دی تھی اور پھر پچھتائے تھے اور رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں آکر اپنا قصہ سنایا تھا۔ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان صاحب کو طلب فرمایا جنہوں نے بھیڑ خرید لی تھی اور ارشاد کیا کہ بھیڑ بیچنے والے صحابی اب پچھتا رہے ہیں۔ تم اسے واپس کر دو ان صحابی کا نام نعیم تھا۔ کہنا یہ ہے کہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس صورت حال کو اس عبارت میں ادا فرمایا۔ نعیم بعتم و بفنم فرد و الیہ یعنی انہوں نے بڑی فصاحت کے ساتھ چار جگہ تعجیفیں (۱) متصل بیان فرمائیں۔ بیع معنی شراء (خرید و فروخت) اور شراء معنی بیع آیا ہے۔

دوسری مجلس

اسی سال ماہ مبارک رمضان کی نویں تاریخ جمعرات کو دست بوسی کے شرف تک رسائی ہوئی۔ سردی کے دن تھے اطراف کی خبروں اور تشویش کا حال دریافت فرمایا۔ عرض کیا گیا کہ ملعونوں (۲) کی وجہ سے جو چو کسی ہو رہی تھی اب کم ہے اس بات کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ شیر خان جو اچھ اور ملتان کا والی تھا۔ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز سے زیادہ اعتقاد نہ رکھتا تھا چنانچہ شیخ الاسلام نے بارہا اس کے بارے میں یہ دو مصرعے فرمائے۔

افسوس کہ از حال منت نیست خبر

وانگہ خبرت شود کی افسوس خوری!

ترجمہ:- افسوس تجھ کو میرے حال کی خبر نہیں ہے۔ اور جس وقت خبر ہوگی کتنا

افسوس کرے گا!

اس کے بعد فرمایا کہ جب شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز دنیا سے تشریف

لے گئے تو اسی سال کافر (منگول) علاقے میں پہنچ گئے۔

marfat.com

Marfat.com

پھر شیخ بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی بزرگی کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ بخارا سے ایک مولوی صاحب بڑے عالم آئے ہوئے تھے۔ وہ شیخ بہاؤ الدین کی زیارت کو گئے شیخ نے انہیں دیکھا کہ دستار باندھے ہوئے ہیں اور اس کی چھوڑ پیچھے لٹکار رکھی ہے اور سر پر چوٹی شیخ نے کہا کہ دو سانپ ساتھ لئے کیا آئے ہو؟ یعنی ایک تو دستار کی چھوڑ اور دوسرے بالوں کی چوٹی! یہ مولوی صاحب فوراً شیخ کے سامنے مخلوق ہو گئے (سر منڈایا)

خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ شیخ بہاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ نفس گیرا (۳) رکھتے تھے۔ دو سراقصہ یہ سنایا کہ ایک شخص بڑے عبادت گزار ملتان میں تھے۔ ان کو سلیمان کہتے تھے۔ شیخ کے سامنے ان کا بہت ذکر ہوا۔ شیخ بہاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ اٹھو دو رکعت نماز پڑھو تاکہ میں تمہیں دیکھوں کہ کس طرح پڑھتے ہو۔ وہ صاحب اٹھے اور دو رکعت نماز ادا کی مگر دونوں قدم اس طرح نہیں رکھے جس طرح طریقہ ہے۔ پیروں کے درمیان فاصلہ کم یا زیادہ رکھا۔ شیخ نے ان سے کہا کہ اتنی جگہ خالی رکھو اس سے زیادہ اور کم نہیں۔ اس کے بعد اس شخص نے پھر نماز شروع کی پھر بھی اس طرح قدم نہیں رکھے جیسا کہ شیخ نے بتایا تھا۔ دوسری دفعہ بھی اس کو سمجھایا۔ الغرض ہر چند اس سے کہا گیا پاؤں اس طرح رکھو۔ مگر اس سے نہ ہو سکا۔ شیخ نے فرمایا جاؤ اچھے میں جا کر نہ ہو۔ چنانچہ وہ اچھے چلے گئے۔

پھر شیخ بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ ایک روز کوئی مرید ایک خط لایا اور شیخ صدر الدین علیہ الرحمۃ والرضوان کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ یہ خط ایک شخص نے دیا ہے اور کہا ہے کہ اسے شیخ بہاؤ الدین کی خدمت میں پہنچا دو۔ شیخ صدر الدین نے جب خط کا عنوان پڑھا تو پریشان ہوئے اور جا کر وہ خط شیخ بہاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ شیخ نے اس خط کو پڑھا تو وہ تڑپنے لگے اور نعرے لگائے۔ اور رات کو شیخ کا واقعہ (انتقال) ہو گیا (۴)۔ رحمۃ اللہ علیہ

اس موقع پر فرمایا کہ وہ زمانہ کیا اچھا زمانہ تھا جب یہ پانچ بزرگ حیات تھے شیخ ابو الغیث یمنی اور شیخ سیف الدین باخرزی اور شیخ سعد الدین حمویہ شیخ بہاؤ الدین زکریا اور شیخ الاسلام فرید الدین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔

یہاں سے شیخ سیف الدین باخرزی کی حکایت شروع فرمائی کہ ان کی عادت تھی کہ جب مغرب کی نماز پڑھ لیتے تو اسی وقت سو جاتے۔ یہاں تک کہ تھائی رات گزرتی۔ جب

تمانی رات گزر جاتی تو اٹھتے امام اور مؤذن حاضر ہوتے۔ عشاء کی نماز پڑھتے اور صبح تک بیدار رہتے۔ ان کی ساری عمر اسی طرح گزری۔ بندے نے پوچھا کہ کیا وہ سماع سنتے تھے؟ فرمایا کہ ہاں مگر اس طرح نہیں۔ جیسے ہم لوگ مجلس مرتب کرتے ہیں اور لوگوں کو بلا تے ہیں اور دعوت کی تقریب سے جمع ہوتے ہیں اور پھر سماع سنتے ہیں۔ ان کے ہاں ایسا نہیں ہوتا تھا وہ بیٹھے ہوتے اور حکایت کہتے اور کوئی نکتہ نکالتے۔ اس درمیان ان کو کیفیت ہو جاتی۔ جب کیفیت سے پر ہو جاتے تو کہتے کوئی ہے جو کوئی چیز گائے۔ اس وقت گلے والا آتا اور کوئی چیز سنانا ان کے سماع کا یہی طریقہ تھا۔

اس کے بعد ان کے انتقال کے بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ بخارا میں کوئی صاحب تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ جلتی ہوئی مشعل بخارا کے دروازے سے باہر لے جا رہے ہیں۔ جب بیدار ہوئے تو ایک بزرگ کی خدمت میں آئے اور اپنا خواب بیان کیا۔ ان بزرگ نے کہا کہ کوئی صاحب نعمت ولی بخارا سے انتقال کرے گا۔ اس کے بعد جلد ہی شیخ سیف الدین نے انتقال کیا۔ ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ اس زمانے میں انہوں نے اپنے پیر کو خواب میں دیکھا کہ وہ ان سے کہتے ہیں کہ اشتیاق بہت ہو گیا ہے۔ آجاؤ۔ جب شیخ سیف الدین نے یہ خواب دیکھا تو اسی ہفتے وعظ فرمایا وعظ میں سارا ذکر جدائی اور رخصتی کا تھا۔ خلق حیران ہوئی کہ ہر بات جدائی کی کہتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے خیر باد کی روئیف کی ایک نظم پڑھی۔

رقم اے یاران بسا مان خیر باد

نیست آسان درد ہجراں خیر باد

ترجمہ:- اے دوستو! میں چلا۔ سامان دنیا کو خیر باد۔ جدائی کا غم اگرچہ آسان نہیں ہے

مگر خیر باد۔

جب شعر پڑھ چکے تو مجمعے کی طرف رخ فرمایا اور کہا اے مسلمانوں! جان لو اور آگاہ ہو

جاؤ کہ میرے پیر نے خواب میں مجھ سے کہا کہ آجاؤ پس میں جاتا ہوں خیر باد!

یہ فرمایا اور منبر سے اتر آئے۔ اس کے بعد جلد ہی انتقال فرما گئے۔ رحمتہ اللہ علیہ۔

تیسری مجلس

marfat.com

Marfat.com

اسی سال ماہ رمضان کی اٹھائیسویں تاریخ منگل کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی۔ الحمد للہ۔ ایک عزیز آئے اور کسی کا سلام پہنچایا۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے انہیں (سلام کہلوانے والے کو) پہچانا نہیں۔ پوچھا وہ کون شخص ہیں؟ آنے والے نے ان کا تعارف کرایا۔ پھر بھی خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر کو یاد نہ آیا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں۔ جب دیکھتا ہوں تو پہچان لیتا ہوں۔ لیکن صرف نام و لقب لینے سے نہیں پہچانتا۔

اس بات کی مناسبت سے یہ حکایت بیان فرمائی کہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کے صاحبزادوں میں سے ایک کا لقب نظام الدین تھا اور حضرت شیخ سب صاحبزادوں سے زیادہ انہیں چاہتے تھے۔ اور وہ فوجی آدمی تھے۔ اور شیخ کی خدمت میں بڑے گستاخ بھی۔ وہ کچھ بھی کہتے حد درجہ چاہت کی وجہ سے شیخ ہنستے اور ان کے کچھ کہنے سے رنجیدہ نہ ہوتے۔ الغرض یہ صاحبزادے ایک دفعہ سفر میں گئے۔ کچھ عرصے بعد کسی کے ذریعہ شیخ الاسلام کو سلام کہلوا بھیجا۔ وہ شخص آیا اور شیخ الاسلام کی خدمت میں ان الفاظ کے ساتھ عرضداشت کی کہ مخدوم زادہ نظام الدین نے سلام کہلوا یا ہے۔ شیخ نے پوچھا کون شخص؟ اس آدمی نے کہا کہ مخدوم زادہ نظام الدین! شیخ نے پھر پوچھا کس کو کہتے ہو؟ اس شخص نے پھر عرض کیا مخدوم زادہ نظام الدین! آپ کے فرزند! اس وقت شیخ نے فرمایا ہاں! وہ کیسا ہے؟ اچھا تو ہے؟ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر ان الفاظ پر پہنچے تو ارشاد کیا کہ دیکھو یاد حق میں کیسے مستغرق رہتے تھے کہ اپنے صاحبزادے کو بھی اس قدر سمجھانے اور تعارف کے بعد پہچانا!

یہاں سے شیخ بہاء الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت شروع فرمائی کہ ایک آدمی ان کی خدمت میں آیا اور کسی شخص کا سلام پہنچایا۔ شیخ بہاء الدین نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے آنے والے نے تعارف کرایا۔ شیخ نہیں سمجھے آنے والا بہت سی نشانیاں بتانے لگا۔ شیخ بہاء الدین نے فرمایا کہ یہ سب کچھ کہنے کی کیا ضرورت ہے کیا اس نے کبھی مجھے دیکھا ہے؟ اس شخص نے کہا جی ہاں وہ آپ کا غلام اور مرید ہے! شیخ بولے بس یہ کافی ہے!

اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے شیخ بہاء الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حکایت بیان فرمائی کہ اگر وہ کسی کو کوئی چیز دیتے تو عمدہ چیز دیتے۔ اساتذہ جو ان کے فرزندوں کو تعلیم دیتے ان پر بڑا کرم فرماتے۔ سونا چاندی ان کے دامن میں ڈالتے۔ پھر حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ والی ملکن کو غلے کی ضرورت ہوئی تو شیخ بہاء الدین سے مانگا۔ شیخ نے فرمایا کہ ایک

رھا (غلے کا) اسے دے دیا جائے۔ والی نے اپنے آدمی بھیجے تاکہ کوشے سے غلہ نکال لیں۔ غلے کے درمیان ایک مٹکا چاندی سے بھرا ہوا نکلا۔ والی کو خبر کی گئی اس نے کہا شیخ نے مجھے غلہ عطا کیا ہے اس چاندی کے لئے نہیں فرمایا تھا۔ اس کو شیخ کے پاس واپس لے جانا چاہئے جب یہ بات شیخ کی خدمت میں عرض کی گئی تو شیخ نے کہلوا بھیجا کہ زکریا کو اس کی خبر تھی تجھ کو وہ غلہ اس چاندی کے ساتھ ہی دیا گیا ہے!

پھر ترک دنیا کا ذکر آیا۔ اس بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی سوتے آدمی کے سرہانے پہنچے انہوں نے اس سونے والے کو پکارا اور کہا اٹھو خدا کی عبادت کرو! اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے خدا کی ایسی عبادت کی ہے جو سب سے اچھی عبادت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کون سی عبادت کی ہے۔ بولا تَرَكَتِ الدُّنْيَا لَا تَبْلِيهَا۔ میں نے دنیا کو دنیا داروں کے لئے چھوڑ دیا ہے۔ اس وقت فرمایا۔ مَنْ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى بِقَلِيلٍ مِّنَ الرِّزْقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِقَلِيلٍ مِّنَ الْعَمَلِ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے کم رزق پر راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے کم عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو بھی دنیا سے جاتا ہے اور کچھ نہیں چھوڑتا۔ لَا يَرْهَمًا وَلَا يَدِينَارًا فَلَئْسَ فِي الْجَنَّةِ أَغْنَىٰ مِنْهُ۔ نہ روپیہ نہ اشرفی تو جنت میں اس سے زیادہ غنی کوئی نہیں ہو گا۔

چوتھی مجلس

اسی سال ماہ شوال کی چوبیسویں تاریخ ہفتے کو ہاتھ چومنے کی سعادت ہاتھ آئی۔ قرآن کی قرات کا ذکر نکلا۔ فرمایا کہ یہ دو فائدے میں نے ایک کتاب میں ایسے دیکھے جو اور کہیں کم دیکھے ہیں۔ ایک اس آیت کے بارے میں وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمَلَكًا كَبِيرًا۔ امیر المومنین علیؑ بِلَا كَبِيرًا (۵) پڑھتے تھے۔ دوسرے اس آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ۔ اس کو بھی مِّنْ أَنْفُسِكُمْ (۶) پڑھا ہے اور یہ أَنْفُسُ أَفْعَلُ (تفصیل) ہے نفیس سے۔

پھر اس بارے میں حکایت آئی کہ کسی عبادت گزار سے درد اور اطاعت چھوٹ جائے

تو وہ گویا موت کے برابر ہے۔ اس وقت فرمایا کہ ایک فوجی شیخ بہاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور بولا کہ میں نے رات کو یہ خواب دیکھا کہ میری نماز قضا ہو گئی ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ تیرا خاتمہ قریب ہے۔ توبہ کر لے! جب وہ اٹھ کر چلا گیا تو ان کی خانقاہ کا ایک صوفی آیا۔ اس نے بھی یہی خواب دیکھا تھا جب اس نے اپنا خواب بیان کیا تو شیخ حیران ہوئے کہ وہ شخص تو فوجی ہے شاید جنگ میں مارا جائے۔ اور یہ صوفی صحیح سلامت ہے۔ اور کوئی اثر (دکھ) بیماری کا نہیں رکھتا اس سے کیا کہوں! اسی الجھن میں تھے کہ خبر لائی گئی کہ وہ فوجی مارا گیا اور اس صوفی کی صبح کو نماز قضا ہو گئی تھی۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر جب اس بات پر پہنچے تو آنکھوں میں آنسو بھرا لائے اور ارشاد کیا کہ دیکھو نماز کے چھوٹنے کو موت کے برابر سمجھا گیا ہے!

پھر اور ادکی پابندی کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی ورد کو اپنے آپ پر لازم کر لے اور کسی دکھ بیماری کی وجہ سے اس کو نہ پڑھ سکے تو اس کو اس ادا شدہ دفتر میں لکھ لیتے ہیں۔ البتہ بعض لوگ (ورد کو) لازم نہیں کرتے بس یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ میسر ہو پڑھ لیں گے۔ اس طرح ورد کو لازم کر لینے والا اچھا رہتا ہے۔ کیونکہ کسی مجبوری کی وجہ سے ورد چھوٹ جائے تب بھی اس کو پڑھا ہوا لکھ لیتے ہیں لیکن جو ورد کو مقرر ہی نہ کرے اس کے لئے کیا لکھیں گے؟

اس درمیان مسبعت عشر (۷) کی بہت فضیلت بیان کی۔ اور فرمایا کہ ایک شخص تھا جو بلاناغہ مسبعت عشر پڑھا کرتا تھا ایک دفعہ اس کا کسی راستے پر گزر ہوا اور لٹیروں کا گروہ اسے ہلاک کرنے کے لئے نکل آیا۔ اس درمیان دس ہتھیار بند سوار ظاہر ہوئے اور اس شخص کو ڈاکوؤں سے رہائی دلائی اور وہ دس سوار ننگے سر تھے۔ اس شخص نے ان سے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ بولے کہ ہم مسبعت عشر ہیں۔ ہم وہ دس دعائیں ہیں جن کو تو ہر روز سات بار پڑھتا ہے! اس پر اس شخص نے پوچھا کہ آپ ننگے سر کیوں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا اس وجہ سے کہ تو دعاؤں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا۔ اس موقع پر بندے نے عرض کی بسم اللہ کہاں پڑھیں ارشاد ہوا ہر سورۃ سے پہلے۔

پھر فرمایا کہ قاضی کمال الدین جعفری بدایوں کے حاکم تھے۔ ان کے اور اد بہت تھے ججی کی اس قدر مصروفیات اور دوسرے کاموں کے باوجود قرآن کی تلاوت بہت کرتے۔ الغرض جب بوڑھے ہوئے تو اتنے وظیفوں سے معذور ہو گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا حال

ہے؟ بولے کہ مسبعت عشر پر اکتفا کر لیا کہ یہ جامع اور اوہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ابراہیم
تھی رحمتہ اللہ علیہ واصلوں میں سے ایک بزرگ تھے۔ ان کو کعبے میں حضرت خضر مل گئے۔
اور انہوں نے حضرت خضر سے بخشش طلب کی۔ حضرت خضر نے انہیں مسبعت عشر سکھائے
اور کہا کہ میں حضرت رسالت ﷺ سے ان کی روایت کرتا ہوں۔

پانچویں مجلس

اسی سال ماہ شوال کی اٹھائیسویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی دولت تک رسائی ہوئی۔
اس بات کا ذکر آیا کہ آدمی کو جو بھی رنج اور مشقت پہنچے اس کو چاہئے کہ سمجھ لے کہ ایسا
کیوں ہوا ہے۔ یعنی آدمی کی خیریت اس میں ہوتی ہے کہ اس مشقت سے چوکننا ہو جائے۔ اور
جو شخص ڈھٹائی سے کام لیتا ہے اس کو کوئی برائی ایسی نہیں پہنچتی جو اسے برائی سے واپس لے
آئے اور یہ اس کی بد نصیبی ہوتی ہے۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهَا (ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے
ہیں) کیوں کہ اس کی رسی دراز کی جاتی ہے اس درمیان حکایت بیان فرمائی کہ ایک نیک اور
بزرگوار خاتون تھیں۔ میں نے ان کو کہتے سنا کہ اگر میرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو میں
جان جاتی ہوں کہ کسی وجہ سے چبھا ہے۔

اس وقت فرمایا کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہا پر وہ تہمت لگائی گئی اور اس کا قصہ طول
طویل ہے تو حضرت عائشہ "مناجات میں فرماتی تھیں کہ الہی میں جانتی ہوں کہ یہ اتمام مجھ پر
کیوں لگا؟ اس وجہ سے کہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام تیری محبت کا دعویٰ فرماتے تھے اور کسی قدر
محبت کا جھکاؤ میری طرف بھی رکھتے تھے۔ اتنی تہمت بھی مجھ پر اسی باعث دھری گئی!

اس درمیان ایک عزیز کچھ پھول لے کر پہنچے۔ اس کی مناسبت سے فرمایا کہ پیغمبر علیہ
السلام نے فرمایا ہے۔ حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ - (۸) الطَّيِّبُ وَالنِّسَاءُ وَقُرَّةُ
عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ میرے لئے محبوب بنائی گئی ہیں تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں۔
خوشبو اور عورت میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو نماز میں ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ یہاں
عورت سے مراد عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں کیوں کہ دوسری بیویوں کی بہ نسبت ان کی جانب رسول
علیہ السلام کا میلان زیادہ تھا۔ اور قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ آنکھوں کی ٹھنڈک جو نماز

میں ہے سے مراد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ جو اس وقت نماز پڑھ رہی تھیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نماز ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر اس سے نماز مراد ہوتی تو نماز کو ان دونوں چیزوں پر مقدم رکھتے۔ پھر ارشاد ہوا کہ خلفائے راشدین جیسے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر خطاب اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی موافقت میں فرمایا ہے کہ ہم بھی تین چیزوں کو عزیز رکھتے ہیں۔ اس موقع پر یہ بھی ارشاد ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے انہوں نے حضرت عزت اللہ تعالیٰ کا فرمان پہنچایا کہ میں بھی تین چیزوں کو پسند کرتا ہوں اور وہ یہ ہیں مَثَابَةٌ تَائِبٌ وَعَيْنٌ بَاكِیَّةٌ وَقَلْبٌ حَاشِیْعٌ۔ توبہ کرنے والا جوان اور رونے والی آنکھ اور عاجزی کرنے اور ڈرنے والا دل!

پھر ذکر اس کا نکلا لوگ بزرگوں کو ہدیہ اور نذرانہ جو دیتے ہیں ان میں کیا چیز بہتر ہے اس بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ ایک شخص نے شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں چاقو کا تحفہ پیش کیا۔ شیخ نے وہ چاقو اس کو واپس دے دیا اور فرمایا کہ میرے پاس چھری مت لاؤ سوئی لاؤ کہ چھری کاٹنے (اور جدا کرنے) کا آلہ ہے اور سوئی جوڑنے کا آلہ ہے۔

پھر یہ بات آئی کہ لوگ ایک دوسرے کو عیب لگاتے ہیں۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی کو کسی عیب کا طعنہ دیتا ہے تو پہلے اس کو سوچنا چاہئے کہ یہ عیب مجھ میں ہے یا نہیں؟ اگر وہ عیب اس میں بھی ہے تو اس کو شرم نہیں آتی کہ جس عیب میں خود مبتلا ہے۔ اس کا طعنہ دوسروں کو دیتا ہے اور اگر وہ عیب اس میں نہیں ہے تو خدائے عزوجل کا شکرانہ ادا کرے کہ اس عیب سے محفوظ رکھا ہے۔ دوسروں کو اس عیب کا طعنہ نہیں دینا چاہئے۔

اس کے بعد سماع کا ذکر نکلا۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ شاید اس وقت حکم ہو گیا ہے کہ مخدوم جب چاہیں سماع سنیں ان کے لئے حلال ہے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا جو چیز حرام ہے کسی کے حکم سے حلال نہیں ہو جاتی اور جو چیز حلال ہے وہ کسی کے حکم سے حرام نہیں ہو سکتی اور اگر ہم ایسے مسئلے پر آئیں جس کے بارے میں اختلاف ہو جیسے کہ یہی سماع کا فتویٰ ہے تو امام شافعیؒ ہمارے علماء کے برخلاف سماع کو دف اور چغانہ کے ساتھ

مباح رکھتے ہیں اب اس اختلاف میں حاکم جس رائے کے مطابق حکم دے ویسا ہی ہو گا۔ حاضرین میں ایک شخص نے کہا انہی دنوں بعض آستانے دار درویشوں نے ایک ایسے مجمع میں جہاں چنگ و رباب اور مزامیر تھے خوب رقص کیا۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا۔ جو چیز غیر شرعی ہے۔ ناپسندیدہ ہے اس کے بعد ایک آدمی نے کہا کہ جب وہ لوگ اس جگہ سے باہر آئے تو ان سے کہا گیا کہ یہ آپ حضرات نے کیا کیا؟ اس محفل میں مزامیر تھے۔ سماع کیوں سنا اور رقص کیوں کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم سماع میں ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ پتہ ہی نہ چلا کہ وہاں مزامیر ہیں یا نہیں خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ یہ جواب بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ بات تو ہر گناہ کے بارے میں لکھی جاسکتی ہے۔ اس درمیان بندے نے عرض کی صاحب مرصاد نے اس مفہوم کی ایک رباعی لکھی ہے اور پھر یہ دو مصرعے پڑھے۔

گفتی کہ بہ نزد من حرامت سماع

گر بر تو حرامت حرامت بادا!

ترجمہ:- تم کہتے ہو کہ میرے نزدیک سماع حرام ہے اگر تم پر حرام ہے تو حرام ہی

رہے۔

خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر یہ پوری رباعی زبان مبارک پر لائے۔

رباعی

دنیا طلبا جہاں بکا مت بادا وایں جیفہ مردار بدامت بادا

گفتی کہ بہ نزد من حرامت سماع گر بر تو حرامت حرامت بادا

ترجمہ:- اے دنیا کے طلبگار دنیا کے مزے تیرے لئے رہیں۔ یہ سزا ہوا مردار تیرے

جال میں رہے تو کہتا ہے کہ میرے نزدیک سماع حرام ہے اگر تجھ پر حرام ہے تو حرام ہی رہے۔

بندے نے دوبارہ عرض کیا کہ اگر علماء اس باب میں بحث کریں اور سماع کی ممانعت

میں کچھ کہیں تو ٹھیک بھی لگے۔ لیکن جو شخص فقیری لباس میں ہو وہ کس طرح منع کرتا ہے۔

اور اگر اس کے نزدیک بھی حرام ہے تو بس اتنا کرے کہ خود نہ سنے لیکن دوسروں سے تو نہ

لڑے اور منکے کہ نہ سنو! اور جھگڑنا درویشوں کی صفت نہیں ہے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے

تبسم فرمایا اور مناسب حال حکایت بیان فرمائی کہ اتنے علماء ہیں وہ تو کچھ کہتے نہیں اور ایک

marfat.com

Marfat.com

تاواقف جھگڑا کرتا ہے۔ ارشاد ہوا ایک دفعہ کوئی طالب علم امامت کر رہا تھا اور علماء کی ایک جماعت اور ایک عام آدمی بھی مقتدی تھے۔ اور وہ نماز چار رکعت کی تھی۔ شاید امام سے پہلے قعدے میں بھول ہوئی۔ دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لئے فوراً کھڑا ہو گیا۔ چونکہ وہ عالم تھا اس لئے جانتا تھا اور اس نے دل میں سوچ لیا تھا کہ اس نماز کو کس طرح پورا کرنا چاہئے۔ علماء جو مقتدی تھے وہ بھی خاموش رہے وہ عام آدمی شور مچانے لگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی دفعہ کہا کہ اپنی نماز باطل کر لی۔ جب امام نے نماز کا سلام پھیرا تو اس عمامی کی طرف رخ کر کے کہا کہ اجی جناب آپ کو کیا ہو گیا تھا۔ اتنے علماء موجود تھے وہ جانتے تھے کہ اس نماز کو کس طرح پورا کیا جانا ہے (اس لئے) انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ آپ کون تھے کہ اتنا غل مچایا۔ اور اپنی نماز خراب کر لی!

بندے نے پھر عرض کیا کہ بندہ اس گروہ کو جو سماع کا منکر ہے۔ خوب جانتا ہے اور ان کے مزاج کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو لوگ جو سماع نہیں سنتے اور کہتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے نہیں سنتے کہ حرام ہے۔ بندہ قسم تو نہیں کھاتا لیکن سچ عرض کرتا ہے کہ اگر سماع حلال ہوتا جب بھی یہ لوگ نہ سنتے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر مسکرائے اور فرمایا ہاں جب ان میں ذوق ہی نہیں ہے تو کیسے سنتے اور کس برتے پر سنتے! واللہ اعلم۔

چھٹی مجلس

اسی سال ذی قعدہ کے مہینے کی دسویں تاریخ پیر کو ہاتھ چومنے کی دولت میسر آئی۔ ایسے لوگوں کا ذکر نکلا جو چاہے بیمار ہی ہوں لیکن ناممکن ہے کہ اپنی مقررہ طاعت (عبادت) کو ادا نہ کریں۔ اس باب میں حکایت بیان فرمائی کہ ایک بزرگ تھے جو پانی کے کنارے رہائش رکھتے تھے۔ ان کو پیٹ کی بیماری کی تکلیف ہوئی ہر دفعہ جب قضائے حاجت کو جاتے تو قضائے حاجت کے بعد پانی میں اترتے اور غسل کرتے اور دو رکعت نماز پڑھتے۔ اس سے تکلیف اور بڑھ گئی۔ مثلاً "بیس دفعہ یا تمیں دفعہ ضرورت ہوتی اور وہ اسی طرح پانی میں اترتے اور غسل کرتے اور دو رکعتیں ادا فرماتے۔ یہاں تک کہ ایک رات کو انہیں ساٹھ دفعہ حاجت ہوئی

اور ساٹھ بار پانی میں اترتے اور غسل کیا اور دو گانہ پڑھا اور آخری دفعہ پانی ہی میں تھے کہ جان اللہ کے حوالے کی! خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر یہاں پہنچ کر آنکھوں میں آنسو بھرا لائے اور ارشاد کیا کہ طاغوت کے کام میں اس پختگی کے کیا کہنے کہ آخری سانس تک اپنے قاعدے سے نہ پھرے۔ اس کے بعد فرمایا کہ آدمی جانتا نہیں، ورنہ بیماری جو اس کو ہوتی ہے وہ اس کی خیر کی دلیل ہے۔

اس موقع پر فرمایا کہ ایک اعرابی (دیہاتی عرب بدو) حضرت رسالت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لے آیا اس کے کچھ عرصے بعد پھر رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور عرض کی یا رسول اللہ جب سے میں ایمان لایا ہوں میرے مال میں بھی نقصان ہوا ہے اور میری جان کو بھی دکھ لگ گیا ہے۔ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مومن کے مال میں کمی واقع ہو اور وہ خود بیمار ہو تو یہ اس کے ایمان کی صحت کی دلیل ہے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن آمناء و صدقنا (جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور جس کی تصدیق کرتے ہیں) فقیروں کا ایسا درجہ ہو گا کہ ساری مخلوق آرزو کرے گی اور کہے گی کہ کاش ہم دنیا میں فقیر ہوتے اور وہ لوگ جو دنیا میں زیادہ تر مریض رہتے ہیں ان کا بھی کل قیامت کے دن ایسا درجہ ہو گا کہ ساری مخلوق تمنا کرے گی کہ اے کاش ہم دنیا میں بیمار ہی رہتے۔
وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

ساتویں مجلس

اسی سال ماہ حج کی دوسری تاریخ پیر کو ہاتھ چومنے کی سعادت ہاتھ آئی۔ ایک جو اتنی (۹) درویش بیٹھا تھا۔ اٹھتے وقت اس نے تکبیر کہی اور اٹھ کر چلا گیا۔ بندے (حسن عطاء بجزی) نے عرض کی کہ درویش لوگ جو تکبیر کہا کرتے ہیں اس کی ابتداء کہاں سے ہے؟ ارشاد ہوا کہ کھانا کھانے کے بعد تو تکبیر آئی ہے۔ اور وہ تکبیر حمد کے طور پر ہے۔ یعنی اس نعمت کے شکرانے میں تکبیر کہتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک دفعہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے

اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ کل قیامت کو جنتیوں میں سے ایک چوتھائی تو تم لوگ ہو گے اور باقی تین چوتھائی دوسری امتیں ہوں گی صحابہ نے اس نعمت کے شکرانے میں تکبیر کہی۔ پھر رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پھر فرمایا جنت والوں میں آدمی تم ہو گے اور آدمی دوسری امتیں صحابہ نے پھر تکبیر کہی۔ اس کے بعد خواجہ ذکریہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ ان موقعوں پر تکبیر کنا حمد کے طور پر ہے۔ لیکن یہ جو بعض درویش ہر دفعہ ہر مصلحت پر کہتے ہیں کہ میں تکبیر کہتا ہوں۔ یہ کہیں نہیں آیا۔ اس کے بعد بندے نے عرض کی کہ وہ ذکر جو بلند آواز سے کیا جاتا ہے۔ یہ مشائخ نے فرمایا ہے؟ ارشاد ہوا کہ فرمایا ہے۔ پھر بندے نے عرض کی کہ اگر ذکر آہستہ کریں تو کیسا ہے؟ فرمایا کہ آہستہ ذکر کرنا بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ صحابہ جو قرآن پڑھتے تھے۔ اس طرح پڑھتے تھے کہ کسی کو معلوم نہ ہوتا تھا۔ جب سجدے کی آیت آتی تو وہ سجدہ فرماتے۔ اس وقت پتہ چلنا کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔

آٹھویں مجلس

اسی سال ماہ حج کی پچیسویں تاریخ جمعرات کو قدم چومنے کی دولت میسر آئی۔ سلام اور جواب کا ذکر نکلا۔ فرمایا کہ جب حضرت آدم کو حق تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ ساٹھ گزان کا قد تھا۔ ان کو حکم ہوا کہ مقرب فرشتوں کو سلام کرو اور سلام کا جواب سنو تاکہ تمہارے فرزندوں کے درمیان سلام اور سلام کا جواب اسی طرح ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سلام کیا۔ السلام علیکم (تم پر سلامتی ہو) فرشتوں نے جواب میں کہا علیک السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ (تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اسکی برکتیں ہوں) تو یہی طریقہ آدم کی اولاد کے لئے ٹھہر گیا اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی آئے اور اس طرح سلام کرے۔ السلام علیک و رحمۃ اللہ و برکاتہ، تجھ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں) تو اس کا جواب کس طرح دینا چاہئے۔ اس کا جواب بھی اسی طرح دیا جائے گا۔ کہ علیک السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ۔

پھر حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ رسول علیہ السلام کے صحابہ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا اور اسی طرح سلام کیا۔؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ (تم سب پر سلامتی ہو اور اللہ

کی رحمتیں اور برکتیں ہوں) حاضرین میں سے کسی نے سلام کا جواب اس طرح دیا کہ علیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرۃ (تجھ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں اور اس کی طرف مغفرت ہو۔) حضرت ابن عباسؓ موجود تھے انہوں نے فرمایا کہ اس طرح نہیں کہنا چاہئے۔ سلام کا جواب برکاتہ سے آگے کچھ نہیں ہے۔ بندے نے عرض کی کہ اگر ایک شخص نفل پڑھ رہا ہے اور کوئی بزرگ آجاتا ہے تو یہ نمازی نماز چھوڑ کر اس کے ساتھ مشغول ہو جائے تو کیسا ہے؟ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کرنی چاہئے۔ بندے نے عرض کی کہ جو شخص نفل نماز ادا کرتا ہے۔ وہ ثواب کے لئے اور سعادت حاصل کرنے کے لئے ایسا کرتا ہے۔ اس دوران اگر اس کا پیر آجائے تو اس کے لئے پیر کی قدم بوسی میں بھی بڑی سعادتیں ہیں اور مریدوں کا اعتقاد ہے کہ یہ دولت اس ثواب سے سو گنی بہتر ہے۔ ارشاد ہوا کہ حکم شرع اسی طرح ہے کہ (نماز پوری کرے) اس موقع پر حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ شیخ بہاء الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کسی پانی کے کنارے پہنچے۔ مریدوں کو دیکھا کہ وضو کر رہے ہیں۔ ان کو جیسے ہی شیخ نظر پڑے سب کے سب تعظیم بجالائے اور آدھے وضو سے کھڑے ہو گئے۔ مگر ایک صوفی نے اپنا وضو پورا کیا اور پھر شیخ کی خدمت میں آیا اور تعظیم کی۔ شیخ نے فرمایا کہ ان سب میں درویش یہی ہے کہ اس نے وضو پورا کیا اور پھر میری تعظیم کی۔ بندے نے عرض کی کہ اگر کوئی نفل نماز چھوڑ دے اور پیر کی تعظیم میں مشغول ہو جائے تو اس کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔

اس وقت بندے کی عرضداشت اور پیر کے لئے مرید کے اعتقاد کی پختگی کی مناسبت سے زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ ایک دفعہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز نے بدرالدین اسحاق کو آواز دی۔ بدرالدین نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز ہی میں انہوں نے جواب دیا اور زور سے کہا لبیک (حاضر ہوں) اس کے بعد حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ رسول علیہ السلام کھانا نوش فرما رہے تھے کہ کسی شخص کو آواز دی۔ وہ صحابی اس وقت نماز پڑھ رہے تھے حاضر ہونے میں دیر لگائی۔ رسول علیہ السلام نے پوچھا کہ جلدی کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے عرض کی کہ نماز پڑھ رہا تھا۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب خدا اور خدا کا رسول ﷺ پکاریں تو فوراً جواب دینا چاہئے۔ اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ شیخ کا فرمان بھی رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فرمان کی طرح ہے۔ اس موقع پر

حکایت بیان فرمائی کہ ایک شخص شبلیؒ کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ میں آپ کا مرید ہوتا ہوں۔ حضرت شبلیؒ نے فرمایا کہ ایک شرط پر تیری ارادت قبول کرتا ہوں کہ میں جو کہوں تو وہی کرنے! مرید بولا میں ایسا ہی کروں گا۔ حضرت شبلیؒ نے پوچھا تو کلمہ طیبہ کس طرح پڑھتا ہے۔ مرید نے جواب دیا کہ میں اس طرح پڑھتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شبلی بولے اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ مرید نے فوراً اسی طرح پڑھ دیا۔ اس کے بعد شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شبلی آنحضرت ﷺ کے ادنیٰ چاکروں میں سے ایک ہے۔ اللہ کے رسول تو وہی ہیں میں تو تیرے اعتقاد کا امتحان کر رہا تھا۔

پھر نماز جمعہ کا ذکر نکلا کہ نماز کونہ جانے کی کوئی تاویل آئی ہے؟ فرمایا کہ کوئی تاویل نہیں ہے۔ سوائے اس کے کہ کوئی غلام ہو یا مسافر ہو یا مریض ہو لیکن جو شخص قدرت رکھتا ہے کہ نماز کو جائے اور پھر نہیں جاتا وہ بہت سخت دل ہے۔ اس وقت ارشاد ہوا کہ اگر کوئی ایک جمعے کونہ جائے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر پڑ جاتا ہے اور اگر دو جمعے کو نہیں جاتا تو دو کالے نقطے پڑ جاتے ہیں اور اگر تین جمعے نہ جائے تو اس کا تمام دل کالا پڑ جاتا ہے۔ نعوذ باللہ منہا

(ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں)

اس درمیان سلطان غیاث الدین بلبن اور ان کی نماز جمعہ اور پانچوں وقت کی پابندی اور اچھے عقیدے کا ذکر نکلا۔ اس وقت فرمایا کہ ایک دفعہ وہ قاضی لشکر سے کہنے لگے کہ کل کی رات بھی کیسی بزرگ (مبارک رات) تھی! قاضی لشکر نے کہا کہ اچھا کیا آپ پر بھی روشن ہو گئی؟ سلطان نے جواب دیا ہاں اس درمیان بندے نے عرض کی کہ شاید وہ شب قدر ہوگی؟ ارشاد ہوا کہ بس ایک بزرگوار (بہت مبارک) رات تھی جو ان کو میسر آئی اور وہ ایک دوسرے کے احوال سے واقف ہو گئے۔

نویں مجلس

سنہ سات سو بیس ہجری ماہ جماد الاولیٰ کی دوسری تاریخ منگل کو دست بوسی کی سعادت میسر آئی۔ نماز کی بات چلی اور یہ ذکر آیا کہ بسم اللہ ہر رکعت کے شروع میں پڑھنی چاہئے یا ہر

سورۃ کے شروع میں ارشاد ہوا کہ امام اعظمؒ نے فرمایا ہے بس پہلی رکعت میں ایک بار بسم اللہ پڑھیں اور بس۔ دوسرے آئمہ کے برخلاف کہ بعض نے ہر رکعت کے شروع میں کہا ہے اور بعض نے ہر سورۃ کے شروع میں۔ اس وقت فرمایا کہ امام اعظمؒ پر سفیان ثوری اور ایک دوسرے بزرگ ساتھی نے کسی قدر اعتراض کیا تھا ایک دفعہ کسی مجمعے میں یہ سب اکٹھے ہو گئے۔ سفیان ثوری (۱۰) اور ان کے دوسرے ساتھی نے امام اعظمؒ سے سوال کیا کہ نمازی بسم اللہ کب کہے۔ ہر رکعت کے شروع میں یا ہر سورۃ کے شروع میں؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر نفی کریں گے کہ نہ پڑھو تو فوراً "بسم اللہ کو منع کرنے پر ان کی پکڑ کر لیں گے۔ الغرض جب انہوں نے سوال کیا کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ بسم اللہ ہر رکعت کے شروع میں پڑھیں یا ہر پڑھی جانے والی سورۃ کے شروع میں؟ کتنی دفعہ پڑھیں؟ امام اعظمؒ میں جو علمی کمال اور ادب کا لحاظ تھا اس کے مطابق فرمایا کہ ایک دفعہ پڑھے! خواجہ ذکریا اللہ بخیر نے ارشاد کیا کہ ان کی مراد اپنے اسی حکم سے تھی اب وہ جس طرح چاہتے تصور کرتے۔ چاہے ہر رکعت کے شروع میں چاہے ہر سورۃ کے شروع میں۔

پھر مشائخ کے نفس (زبان سے نکلی ہوئی بات) اور ان کی دعا کا ذکر آیا۔ اس وقت فرمایا کہ شیخ الاسلام شیخ فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کے مریدوں میں ایک مرید محمد شاہ غوری نامی تھے۔ بڑے صادق اور معتقد آدمی تھے۔ ایک دفعہ وہ ماضی اور پریشان شیخ کی خدمت میں آئے۔ شیخ نے پوچھا کیا حال ہے؟ بولے میرا ایک بھائی ہے۔ بیمار اور اتنا کمزور کہ اس میں زندگی کی بس ذرا سی رمت ہی رہ گئی ہے اس وقت کہ میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں کیا عجب کہ وہ ختم بھی ہو گیا ہو اسی سبب سے میں بھی پریشان اور زیر و زبر ہوں۔ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا کہ جو حالت تیری اس وقت میں ہے۔ میں ساری عمر اسی طرح رہا ہوں۔ لیکن کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ پھر اس سے فرمایا کہ جاؤ تمہارا بھائی صحت پائے گا! محمد شاہ اٹھ کر گھر آ گئے۔ بھائی کو دیکھا کہ بیٹھا کھانا کھا رہا ہے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ۔

دسویں مجلس

اسی سال جماد الاولیٰ کے مہینے کی ساتویں تاریخ اتوار کو قدم بوسی کی دولت تک رسائی ہوئی۔ بندے نے عرض کی کہ یہ جو ایک آدمی پانی پیتا ہے اور دوسرے ہاتھ آگے بڑھائے رکھتے ہیں، یہ سنت ہے؟ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے تامل فرمایا حاضرین میں سے ایک شخص نے چند لفظ پڑھے اور بولا کہ یہ حدیث ہے کہ جو شخص کسی کے پانی پیتے وقت ہاتھ بڑھاتا ہے، وہ ضرور بخشا جائے گا۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے زبان مبارک سے ارشاد کیا کہ یہ حدیث ان کتابوں میں جو مشہور اور معتبر ہیں نہیں آئی ہے۔ ممکن ہے یہ (حدیث ہی) ہو لوگ اگر حدیث سنیں تو یہ نہیں کہنا چاہئے کہ یہ رسول ﷺ کی حدیث نہیں ہے۔ بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن کتابوں میں احادیث جمع کی گئی ہیں اور جنہوں نے اعتبار حاصل کر لیا ہے ان میں یہ حدیث نہیں آئی ہے۔

یہاں سے احادیث کا ذکر نکلا۔ اس موقع پر فرمایا کہ ایک دفعہ قاضی منہاج الدین سراج علیہ الرحمۃ والغفران وعظ فرما رہے تھے۔ وعظ کے دوران انہوں نے کہا کہ چھ حدیثیں متواتر ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے الْغَيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزَّانَا (غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے) دوسری یہ ہے۔ مَنْ شَمَّ الْوَرْدَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ فَقَدْ جَفَانِي (جس شخص نے گلاب یا زعفران کو سونگھا اور مجھ پر درود نہ پڑھا اس نے مجھ پر جفا کی) تیسری یہ ہے الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (دعوے دار کے لئے بیان اور اس کا رد اور انکار کرنے والے کے لئے قسم ہے)۔ اس موقع پر خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے تبسم فرمایا اور کہا کہ قاضی منہاج الدین نے جب یہ تین حدیثیں بیان کیں اور تو اس کے بعد بولے کہ باقی تین حدیثیں مجھے معلوم نہیں۔ اور اگر کوئی مجھے طعنہ دے اور کہے کہ کیوں نہیں معلوم تو میں کہوں گا کہ یہ تین حدیثیں تم نے مجھ سے سیکھی ہیں تم بھی تو نہیں جانتے تھے۔

اس وقت رسول علیہ السلام کی حدیث کی فضیلت کے بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ مولانا رضی الدین نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے اور ان کی بیماری نے طول کھینچا۔ ان کے پڑوس میں ایک عالم رہا کرتے تھے۔ وہ عیادت کے لئے آئے اس وقت مولانا

رضی الدین بحر ان کی حالت میں تھے۔ یہ عالم ان کے سرہانے بیٹھ گئے اور یہ حدیث پڑھی
 قال النبی ﷺ الغیبہ اشد من الزنا (فرمایا نبی ﷺ نے غیبت زنا سے زیادہ سخت
 گناہ ہے) مولانا رضی الدین پر اگرچہ بیماری کا غلبہ تھا مگر انہوں نے ان عالم سے پوچھا کہ یہ
 حدیث بیان کرنے کا کون سا موقع تھا کیونکہ نہ تو اس وقت زنا کا ذکر ہو رہا تھا نہ غیبت کا کس
 وجہ سے یہ حدیث آپ نے پڑھی؟ ان عالم نے جواب دیا کہ میرا مقصد توجیہ اور غیر توجیہ
 نہیں تھا۔ میں نے تو یہ سن رکھا تھا کہ جو کسی بیمار کے سرہانے پیغمبر ﷺ کی صحیح حدیثوں میں
 سے ایک حدیث پڑھے گا وہ مریض صحت پائے گا۔ یہ حدیث جو متواتر ہے اور صحیح ہے آپ
 کی صحت کی نیت سے پڑھی ہے۔ مولانا رضی الدین نے پھر کچھ نہ کہا اور اس بیماری سے
 صحت پائی۔

پھر (اللہ کے حکم پر) راضی رہنے اور تسلیم (اطاعت قبول کر لینے سر جھکا لینے) کا ذکر
 آیا۔ اس وقت یہ حکایت بیان فرمائی کہ کوئی درویش بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مکھی آئی اور ان
 کی ناک پر بیٹھ گئی ان درویش نے اپنی ناک پر سے مکھی کو اڑا دیا مکھی پھر آئی اور ان کی ناک پر
 بیٹھ گئی انہوں نے پھر اڑا دیا وہ پھر آکر بیٹھ گئی انہوں نے پھر اڑا دیا درویش بولے یا خدا میں
 چاہتا ہوں کہ مکھی میری ناک پر نہ بیٹھے اور تو چاہتا ہے کہ بیٹھے میں اپنی مرضی کو چھوڑتا ہوں
 اور جو کچھ تیری مرضی ہو اس کے لئے تیار ہوں اس کے بعد میں اپنی ناک پر سے مکھی نہیں
 اڑاؤں گا جب انہوں نے یہ کہا تو اس کے بعد مکھی ان کی ناک پر نہیں بیٹھی۔

گیارہویں مجلس

اسی سال جماد الاوئی کے مہینے کی بیس تاریخ ہفتے کو قدم بوسی کی دولت تک رسائی
 ہوئی۔ بات یہ نکلی کہ بعض توبہ کرنے والوں سے توبہ کے بعد بھی لغزش ہو جاتی ہے۔
 اگر سعادت باقی ہوتی ہے تو پھر توبہ کی دولت مل جاتی ہے۔ اس حال کی مناسبت سے
 حکایت بیان فرمائی کہ ایک گانے والی قمر نام کی تھی۔ حسن و جمال کمال کا رکھتی تھی۔
 آخر عمر میں توبہ کر لی اور جا کر شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین عمر محمد سروردی قدس اللہ
 سرہ العزیز کی مرید ہو گئی۔ وہاں سے کعبے کی زیارت کو گئی جب واپس ہوئی تو ہمدان

پہنچی۔ ہمدان کے والی حاکم کو اس کے آنے کی خبر لگی تو کسی کو اس کے پاس بھیجا اور کہلوا یا کہ میرے سامنے آکر گاؤ۔ اس عورت نے جواب دیا میں نے اس کام سے توبہ کر لی ہے اور کعبے کی زیارت کر لی ہے۔ آئندہ یہ کام نہیں کروں گی۔ ہمدان کے والی نے ایک نہ سنی اور سختی برتی۔ وہ عورت ناچار شیخ یوسف ہمدانی کی خدمت میں گئی اور صورت حال بیان کی۔ شیخ بولے اچھا اب تو جاؤ۔ میں آج رات کو تمہارے کام کے لئے مشغول ہوں گا اور صبح جواب دے سکوں گا۔ جب صبح ہوئی تو وہ عورت شیخ کی خدمت میں آئی۔ شیخ نے فرمایا کہ تقدیر کے خزانے میں تیرا ایک گناہ اور باقی ہے عورت مجبور ہو کر رہ گئی اور ہمدان کے حاکم کے آدمیوں نے اسے چھوڑا نہیں حاکم کے سامنے لے گئے۔ جب چنگ (باجا) لایا گیا اور اس کو دیا گیا تو عورت نے چنگ کو درست کر کے گانا شروع کیا۔ چند شعر اس نے ایسے گائے کہ سب پر اثر ہوا۔ پہلے حاکم ہمدان نے توبہ کی اس کے بعد مجلس میں جو بھی تھا تائب ہو گیا۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

بارہویں مجلس

اسی سال رجب کے مبارک مہینے کی چھٹی تاریخ منگل کو ہاتھ جوڑنے کی سعادت میسر آئی۔ قاضی قطب الدین کاشانی (۱۱) رحمۃ اللہ علیہ کے علم اور دیانت کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ وہ ملتان میں ہوئے ہیں اور ان کا علیحدہ مدرسہ تھا۔ شیخ بہاء الدین ذکر کیا علیہ الرحمۃ روزانہ صبح وہاں حاضر ہوتے اور نماز وہیں ادا کرتے۔ ایک روز مولانا قطب الدین نے ان سے پوچھا کہ اپنے ہاں سے اتنی دور آکر کیوں میری اقتدا کرتے ہیں؟ شیخ نے جواب دیا کہ میں اس حدیث پر عمل کرتا ہوں۔ مَنْ صَلَّى خَلْفَ عَالِمٍ تَقِيٍّ فَكَأَنَّمَا صَلَّى خَلْفَ نَبِيِّ مَرْسَلٍ (جس نے متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسا ہے جیسے اس نے کسی نبی مرسل کے پیچھے نماز ادا کی) اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ میں نے یہ بھی سنا ہے اور ذمے داری روایت کرنے والے پر ہے کہ ایک روز شیخ بہاء الدین ذکر کیا وہاں حاضر ہوئے۔ قاضی

قطب الدین صبح کی نماز میں امامت کر رہے تھے۔ ایک رکعت پڑھ چکے تھے۔ شیخ دوسری رکعت میں پہنچے اور شریک ہو گئے۔ جب قاضی قطب الدین التیمیات میں بیٹھے تو اس سے پہلے کہ سلام پھیریں شیخ بہاء الدین کھڑے ہو گئے۔ اور اپنی نماز پوری کی جب نماز سے فارغ ہو گئے تو قاضی قطب الدین نے شیخ سے کہا کہ نماز کے سلام سے پہلے کیوں کھڑے ہو گئے۔ ممکن تھا کہ امام سے سو ہوا ہوتا اور وہ سجدہ سو کرنا چاہتا۔ جب آپ سلام سے پہلے ہی کھڑے ہو گئے تو سجدہ سو نہیں کر سکتے تھے۔ شیخ نے فرمایا کہ اگر کسی کو نور باطن سے معلوم ہو جائے کہ امام سے کوئی سوا نہیں ہوا ہے تو اس کا کھڑا ہو جانا جائز ہے۔ قاضی قطب الدین بولے کہ ہر وہ نور جو شرع کے احکام کے موافق نہ ہو وہ ظلمت (اندھیرا) ہے! القصد اس طرح کہا کہ اس کے بعد شیخ وہاں حاضر نہ ہوئے۔

اس طرح یہ حکایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ قاضی قطب الدین سے کہا گیا کہ آپ درویشوں سے اعتقاد نہیں رکھتے بولے جیسے درویش میں نے دیکھے ہیں دوسروں کو ویسا نہیں پاتا۔ پھر فرمایا کہ میں ایک دفعہ کاشغر میں تھا ایک چھوٹی قلم تراش چھری میرے پاس تھی۔ وہ ٹوٹ گئی اس کو بازار میں لے گیا اور چھری بنانے والوں کو دکھایا اور کہا کہ اس چھری کو ویسا ہی بنا دو جیسی پہلے تھی۔ سب نے کہا کہ ویسی تو نہیں ہو سکتی۔ بننے کے بعد تھوڑی سی چھوٹی ہو جائے گی یعنی پیچھے کا حصہ جب آگے لیا جائے گا اور دستے میں بھی استعمال کریں گے تو ایسی صورت میں کچھ کم ہو ہی جائے گی۔ میں نے کہا کہ نہیں جیسی تھی ویسی ہی بنتی ضروری ہے ان سے تو نہ ہو سکا لیکن مجھے پتہ بتا دیا کہ فلاں دکان میں جاؤ۔ وہاں ایک بڑے میاں چھری بنانے والے ہیں بڑے بزرگ اور باصلاحیت آدمی ہیں ان کے پاس لے جاؤ۔ شاید تمہارا مقصد حاصل ہو جائے۔ قاضی قطب الدین نے کہا کہ میں اس پتے پر ان کے پاس پہنچا۔ بڑے میاں کو دیکھا اور چھری کا قصہ سنایا انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو دوسرے دے چکے تھے کہ تھوڑی سی چھوٹی ہو جائے گی۔ میں نے کہا مجھے تو بالکل اسی طرح کی چاہئے جیسی پہلے تھی۔ بڑے میاں نے کچھ تامل کیا اور پھر مجھ سے بولے اچھا آنکھیں بند کر لو۔ قاضی قطب الدین نے فرمایا کہ میں نے آنکھیں بند کر لیں لیکن آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ ان بڑے میاں نے ٹوٹی ہوئی چھری کو اٹھایا اور اپنی داڑھی کے قریب لاکر آسمان کی طرف رخ کیا اور چپکے سے کچھ کہا۔ پھر مجھ سے بولے آنکھیں کھول لو میں نے آنکھیں کھول لیں تو وہ چھری میرے سامنے

ڈال دی۔ بالکل اسی شکل و سائز کی جیسے پہلی تھی درست اور مکمل ہو گئی تھی۔

قاضی قطب الدین کاشانی کی ایک اور حکایت اسی طرح بیان فرمائی کہ جب وہ دہلی آئے تو ایک دفعہ ان کو سلطان شمس الدین کے محل میں بلایا گیا۔ تشریف لے گئے اس وقت سلطان خرم گاہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ سید نور الدین مبارک علیہ الرحمۃ خرم گاہ کے ایک جانب تشریف فرماتے اور قاضی فخرالائمہ دوسری جانب اور وہ دونوں ہی خرم گاہ سے باہر تھے۔ جب قاضی قطب الدین تشریف لائے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں بیٹھیں گے؟ انہوں نے کہا علوی کے ہاتھ کے نیچے۔ قصہ جب سلطان کے قریب پہنچے اور سلام کیا تو سلطان کھڑا ہو گیا اور ان کا ہاتھ تھام کر خرم گاہ کے اندر لے گیا اور اپنے قریب بٹھایا۔

پھر شیخ جلال الدین تبریزی قدس اللہ سرہ العزیز کی حکایت آئی۔ فرمایا کہ جب وہ بدایوں پہنچے تو کچھ عرصے وہاں مقیم رہے شاید ایک روز کسی کام سے قاضی کمال الدین جعفری کے ہاں جو بدایوں کے حاکم تھے تشریف لائے نوکر چاکر جو دروازے کے سامنے بیٹھے تھے۔ بولے کہ قاضی صاحب اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں۔ شیخ مسکرائے اور یہ بات کہی کہ کیا قاضی کو نماز پڑھنی آتی ہے؟ الغرض جب شیخ واپس چلے گئے تو یہ خبر قاضی صاحب کو پہنچائی گئی کہ شیخ نے ایسی ایسی بات کہی ہے۔ دوسرے روز قاضی کمال الدین شیخ کی خدمت میں آئے اور معذرت کرنے لگے اور یہ بات بھی پوچھی کہ آپ نے کیسے فرمادیا کہ قاضی نماز پڑھنی جانتا بھی ہے؟ میں نے تو نماز اور اس کے احکام کے بارے میں کئی کتابیں لکھی ہیں۔ شیخ نے فرمایا کہ ہاں! علماء کی نماز اور ہے اور فقیروں کی نماز اور! قاضی نے پوچھا کیا فقراء رکوع اور سجدے دوسری طرح کرتے ہیں؟ یا قرآن کسی اور طریقے سے پڑھتے ہیں؟ شیخ نے فرمایا کہ نہیں۔ علماء کی نماز اس طرح ہوتی ہے کہ کعبے پر نظر رکھتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں اور اگر کعبہ نظر میں نہیں ہوتا تو چہرہ اس کی طرف کر لیتے ہیں اور اگر ایسی جگہ ہوں جہاں سمت معلوم نہ ہو سکے تو اندازہ کر لیتے ہیں۔ علماء کا قبلہ ان تین چیزوں سے باہر نہیں ہے۔ لیکن فقراء جب تک عرش کو نہیں دیکھ لیتے نماز نہیں پڑھتے۔ قاضی کمال الدین کو اگرچہ یہ بات ناگوار گزری مگر کچھ بولے نہیں وہاں سے واپس آگئے جب رات ہوئی تو قاضی کو خواب میں دکھایا گیا کہ شیخ جلال الدین تبریزی قدس اللہ سرہ العزیز عرش پر مصلاً بچھائے نماز پڑھ رہے ہیں دوسرے دن یہ دونوں بزرگ ایک مجمعے میں موجود تھے۔ شیخ جلال الدین اس طرح گویا ہوئے کہ ارے فلا نے! علماء کا

کام اور مرتبہ تو معلوم ہے کہ ان کی ہمت اور پہنچ درس دینے تک ہے۔ (اور بہت سے بہت یہ) چاہتے ہیں کہ مدرس بن جائیں یا قاضی (جج) ہو جائیں یا صدر جہاں ہو جائیں۔ ان کا مرتبہ اس سے اونچا نہیں ہوتا لیکن درویشوں کے مرتبے بہت ہیں ان سے پہلا درجہ تو وہی ہے جو قاضی کو گذشتہ رات دکھایا گیا! قاضی کمال الدین نے جب یہ بات سنی تو اٹھے اور سامنے آکر بڑی معذرت کی اور شیخ سے معافی چاہی اور اپنے لڑکے کو جس کا برہان الدین لقب تھا شیخ کے قدموں میں ڈال دیا اور مرید کرایا اور شیخ سے کلاہ حاصل کی۔

تیرہویں مجلس

اسی سال رجب کے مبارک مہینے کی دسویں تاریخ ہفتے کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ تحمل (برداشت کا ذکر نکلا) فرمایا کہ خلقت کا معاملہ تین طرح کا ہے پہلی قسم یہ ہے کہ آدمی سے نہ تو کسی کو فائدہ پہنچے نہ نقصان! ایسے لوگوں کا حال جماد (پتھر وغیرہ) جیسا ہے۔ دوسری قسم وہ ہے اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے، نقصان نہیں۔

یہ (ذرا) بہتر ہے۔ تیسری قسم ان دونوں سے اچھی ہے اور وہ ایسے آدمیوں کی ہے جن سے دوسروں کو فائدہ تو پہنچتا ہی ہے لیکن اگر کوئی انہیں نقصان پہنچاتا ہے تو وہ اس کا بدلہ نہیں لیتے اور برداشت سے کام لیتے ہیں اور یہ صدیقوں کا کام ہے۔

چودھویں مجلس

اسی سال شعبان کے مبارک مہینے کی اٹھارویں تاریخ پیر کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ بات یہ نکلی کہ ناموں میں اچھا نام کون سا ہے؟ خواجہ ذکر اللہ باخیر نے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الرَّحْمَنِ اللَّهُ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام عبد اللہ اور عبد الرحمن ہیں اور اس کے بعد فرمایا أَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ الْحَارِثُ۔ سب سے سچا نام حارث ہے۔ اس وقت فرمایا کہ ناموں میں صحیح ترین حارث جو بونے والا اس وجہ سے ہے کہ ہر شخص کچھ نہ کچھ بوتا ہے چاہے طاقت سے چاہے گناہ سے! اس کے بعد فرمایا کہ أَكْذِبُ الْأَسْمَاءِ الْمَالِكُ وَالْحَالِدُ سب سے جھوٹے نام مالک اور

خالد ہیں کیوں کہ مالک تو خداوند تعالیٰ ہے اور خالد (ہمیشہ رہنے والا) جاوید (ہمیشہ رہنے والا) بھی وہی ہے۔

پندرہویں مجلس

اسی سال رمضان المبارک کی پانچویں تاریخ جمعرات کو دست بوسی کی سعادت تک رسائی ہوئی صحبت کے اثر کا ذکر فرمایا کہ ایک دفعہ نصیر نامی کوئی طالب علم شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں آیا اور یہ طالب علم شاید تجارت کی نیت رکھتا تھا۔ القصد جب شیخ کی خدمت میں پہنچا تو ارادت ظاہر کر کے مرید ہوا۔ اور اس نے سر کے بال بڑھا رکھے تھے حتیٰ کہ ایک روز کوئی جوگی آپہنچا۔ یہ طالب علم اس جوگی سے پوچھنے لگا کہ سر کے بال کس چیز سے لمبے ہوتے ہیں؟ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ جب میں نے سنا کہ وہ جوگی سے سر کے بال بڑھانے کے لئے پوچھ رہا ہے اور اس کی دوا مانگتا ہے تو میرے جی میں کراہیت آئی۔ اس وجہ سے کہ جو شخص بیعت کرتا ہے۔ وہ بال بڑھانے کے لئے دوا کا طلب گار کیوں ہوتا ہے اور یہ بھی کہ سر کے بال اتروانے میں غرض یہ ہوتی ہے کہ آدمی میں سے رعونت جاتی رہے۔ پس بالوں کی لمبائی سے کیا حاصل؟ الغرض جب کچھ وقت گزر گیا تو خواجہ معین الدین بجزی رحمۃ اللہ علیہ کے نئے (نواسے یا پوتے) خواجہ وحید الدین شیخ کبیر (حضرت بابا فرید) کی خدمت میں آئے اور ارادت اور بیعت کی اجازت طلب کی۔ اور سر منڈانے کی رسم پر بھی عمل کرنا چاہا شیخ نے فرمایا مجھے یہ نعمت آپ کے گھرانے ہی سی ملی ہے۔ میرے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ کو بیعت کروں۔ خواجہ وحید الدین نے بڑی منت سماجت کی کہ میں تو ضرور مرید بنوں گا۔ چنانچہ حضرت شیخ نے ان کو ہاتھ دیا (مرید کر لیا) اور فرمایا کہ سر منڈاؤ! القصد اس روز جب کہ خواجہ وحید الدین نے سر منڈایا تو ان کی موافقت میں مولانا نصیر الدین نے بھی جو سر کے بال بڑھانے کے لئے دوا مانگ رہے تھے سر منڈا لیا۔

پھر مردوں کے لئے دعا کا ذکر آیا بندے نے عرض کی کہ یہ جو قبروں پر قرآن کی دعائیں لکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ نہیں لکھنا چاہئے اور کفن کے کپڑے پر بھی نہیں لکھنا چاہئے۔

سولھویں مجلس

اسی سال ماہ شوال کے مہینے کی اٹھارویں تاریخ جمعرات کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی۔ مولانا برہان الدین بلخی علیہ الرحمۃ کی بزرگی کا ذکر آیا۔ حکایت بیان فرمائی کہ مولانا برہان الدین بلخی نے بیان کیا ہے کہ میں چھوٹا سا تھا اندازہ پانچ چھ سال یا کچھ کم زیادہ رہا ہوں گا۔ اپنے والد کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ مولانا برہان الدین مرغینانی جنہوں نے کتاب ہدایہ لکھی ہے۔ نمودار ہوئے۔ میرے والد مجھے ایک جگہ چھوڑ کر اور ان سے بچ کر دوسرے کوچے میں چلے گئے۔ جب مولانا برہان الدین مرغینانی کی سواری قریب آئی تو میں سامنے گیا اور سلام کیا انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا اور یہ بات کہی کہ میں اس بچے میں علم کا نور دیکھتا ہوں میں نے ان کا یہ ارشاد سنا اور ان کی سواری سے آگے چلنے لگا۔ انہوں نے پھر فرمایا کہ خدا تعالیٰ مجھ سے یوں کہلواتا ہے کہ یہ بچہ اپنے وقت میں علامہ عصر ہو گا! مولانا برہان الدین بلخی کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات سنی اور اسی طرح آگے چلتا رہا۔ مولانا برہان الدین مرغینانی نے پھر فرمایا کہ خدا تعالیٰ مجھ سے یوں کہلواتا ہے کہ یہ بچہ ایسا بزرگ ہو گا کہ بادشاہ اس کے دروازے پر آئیں گے (۱۲)۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے جب یہ حکایت پوری فرمادی تو زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ مولانا برہان الدین بلخی میں وفور علم کے ساتھ کمال صلاحیت بھی تھا اتنا بار بار فرماتے کہ خدائے عزوجل مجھ سے کسی کبیرہ گناہ کے بارے میں نہیں پوچھے گا پھر خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے مسکرا کر فرمایا کہ مولانا برہان الدین نے جب یہ بات کہی کہ خدائے عزوجل مجھ سے کسی کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ پوچھے گا تو یہ بھی کہا کہ سوائے ایک کبیرہ کے ان سے پوچھا گیا کہ وہ کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ چنگ کا سماع کہ وہ میں نے بہت سنا ہے۔ اور مل جائے تو اب بھی سنوں!

اس حکایت کی مناسبت سے سماع کا تذکرہ آیا۔ ارشاد ہوا کہ اس شہر میں سماع کا سکہ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے چلایا اور قاضی منہاج الدین نے بھی۔ وہ بھی جب قاضی بنے اور صاحب سماع ہوئے تو ان کی وجہ سے اس کام میں استقامت آئی۔ لیکن قاضی حمید الدین ناگوری اس کے باوجود کہ مخالف ان سے دشمنی اور جھگڑا کرتے تھے اپنی بات پر جے رہے۔ چنانچہ ایک دفعہ کوشک سفید (سفید محل) کے پاس کسی مکان میں ان کی دعوت کی گئی۔

شیخ قطب الدین بختیار قدس اللہ سرہ العزیز اور دوسرے بزرگ بھی وہاں تشریف رکھتے تھے۔ مولانا رکن الدین سمرقندی کو خبر لگی کہ یہاں سماع (قوالی) ہے۔ وہ اس کے زبردست مخالف تھے۔ اپنے گھر سے خدمت گاروں اور متعلقین کے ساتھ روانہ ہوئے تاکہ اس گھر میں جائیں اور سماع کو منع کریں۔ قاضی حمید الدین کو صورت حال کی اطلاع دی گئی۔ انہوں نے مالک مکان سے کہا کہ تم کہیں چھپ جاؤ۔ تمہیں کتنا ہی بلائیں تم سامنے مت آنا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد قاضی حمید الدین نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھول دیا گیا اور سماع شروع ہوا۔ مولانا رکن الدین سمرقندی جب اپنے حالی موالیوں کے ساتھ مکان کے دروازے پر پہنچے تو پوچھا کہ مالک مکان کہاں ہے؟ کہا گیا کہ مالک مکان موجود نہیں ہے دوبارہ پوچھا گیا اور بہت کچھ ڈھونڈ بھال کی گئی اور اصرار ہوا کہ گھر والا کہاں ہے مگر یہی بتایا گیا کہ ہمیں کیا خبر کہاں ہے! رکن الدین سمرقندی نے جب مالک مکان کو نہ پایا تو دروازے سے لوٹ گئے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر جب اس بات پر پہنچے تو تبسم فرمایا اور کہا کہ قاضی حمید الدین ناگوری نے اچھی ترکیب کی کہ مالک مکان کو غائب کر دیا۔ کیوں کہ مالک مکان کی اجازت کے بغیر گھر میں داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ اس لئے اگر رکن الدین سمرقندی بے اجازت اندر آتے تو وہ خود پکڑ میں آجاتے۔

اس کے بعد فرمایا کہ بحریوں (۱۳) نے بھی قاضی حمید الدین ناگوری سے جھگڑا کیا تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ مولانا شرف الدین بحری بیمار ہوئے۔ قاضی حمید الدین اس صفائے قلب کی وجہ سے جو درویشوں کی صفت ہے بیمار پرسی کے لئے مولانا شرف الدین کے دروازے پر آئے۔ ان کو خبر کی گئی کہ قاضی حمید الدین ناگوری رحمتہ اللہ علیہ آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا وہی آئے ہیں جو خدا کو معشوق کہتے ہیں۔ میں ان کا منہ نہیں دیکھوں گا۔ القصہ ان کو اندر نہ آنے دیا گیا۔ اس موقع پر بندے نے عرض کی کہ کیا اس (لفظ) معشوق سے محبوب مراد ہے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ اس بارے میں بہت سی باتیں ہیں۔ لوگ اپنی اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کچھ کہہ لے تو اس کے بارے میں کیا کہیں!

اس کے بعد فرمایا کہ ایک دفعہ قاضی حمید الدین ناگوری اور قاضی کبیر اور مولانا برہان الدین بلخی تینوں کہیں ساتھ جا رہے تھے۔ قاضی حمید الدین ناگوری خچر پر سوار تھے۔ اور وہ

لوگ اونچے اونچے گھوڑوں پر۔ القصد اس دوران مولانا کبیر الدین نے قاضی حمید الدین سے کہا کہ مولانا آپ کا مرکب (سواری کا نچرا) بہت صغیر (چھوٹا) ہے خواجہ حمید الدین نے کہا مگر کبیر (بڑے) سے بہتر ہے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے تبسم فرمایا اور کہا دیکھو کیسا جواب دیا کہ اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔

اس کے بعد فرمایا کہ جب قاضی حمید الدین کے سماع کا بہت چرچا ہوا تو اس زمانے کے مخالفین نے بڑے فتوے مانگے اور جواب لئے اور سب نے لکھا کہ سماع حرام ہے ایک قہیہ (مفتی) تھے جن کا قاضی حمید الدین کے یہاں بھی آنا جانا تھا۔ شاید انہوں نے بھی اس فتوے پر کچھ تحریر کیا۔ اس کی خبر قاضی حمید الدین کو پہنچائی گئی اس دوران یہ قہیہ قاضی حمید الدین کی خدمت میں آئے۔ قاضی صاحب نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا تم نے بھی اس کا جواب لکھا ہے۔ قہیہ ذرا شرمندہ سے ہوئے اور بولے جی ہاں لکھا ہے! خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ اس روز قاضی حمید الدین نے بھی اپنا ایک راز ظاہر کر دیا۔ الغرض جب ان قہیہ نے کہا کہ جی ہاں میں نے لکھا ہے قاضی حمید الدین بولے کہ وہ سب مفتی جنہوں نے جواب لکھا ہے میرے نزدیک ابھی ماں کے پیٹ ہی میں ہیں۔ تم پیدا تو ہو گئے ہو لیکن ابھی بچے ہو!

یہاں سے قاضی حمید الدین مار۔ کلی رحمتہ اللہ علیہ کی حکایت آئی۔ فرمایا کہ انہوں نے کہا ہے میں جو اس شہر میں آیا ہوں تو قاضی حمید الدین ناگوری کے اشتیاق میں آیا ہوں لیکن جب میں پہنچا تو وہ پہلے ہی انتقال فرما چکے تھے۔ ایک روز انہوں نے قاضی حمید الدین کے مجموعات (نگارشات) کو اپنے سامنے طلب کیا اور ان کتابوں کا مطالعہ کرنے لگے جو انہوں نے سلوک پر لکھی ہیں۔ مطالعے کے بعد طالب علموں کی طرف جو ان کے اطراف حاضر تھے رخ کر کے بولے کہ تم جو کچھ پڑھتے ہو وہ انہی کاغذات میں موجود ہے۔ اور جو کچھ نہیں پڑھا ہے وہ بھی ان میں ہے اور جو کچھ میں نے نہیں پڑھا وہ بھی ہے۔

سزھویں مجلس

اسی سال ماہ ذی قعدہ کی ساتویں تاریخ منگل کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی۔ اولیاء حق اور لوگوں کے ساتھ ان کے کھرے معاملات اور پھر اس کے نتائج کا ذکر نکلا۔ اس وقت حکایت بیان فرمائی کہ نیشاپور میں ایک بزرگ تھے جنہیں ابو العباس قصاب پکارا جاتا تھا۔ ایک دفعہ ان ابو العباس کے والد کہیں سفر کو گئے۔ گھر میں بہت سی بھیڑیں تھیں۔ ابو العباس سے کہا کہ میرے آنے تک تم ان بھیڑوں کو کاٹ کر ان کا گوشت بیچ دینا اور روپیہ جمع رکھنا قصہ اس کے کچھ عرصے بعد ان کے والد واپس آئے تو ہڈیوں کا ایک ڈھیر دیکھا۔ بیٹے سے پوچھا کہ یہ ہڈیوں کا ڈھیر کیسا ہے؟ ابو العباس نے جواب دیا کہ بھیڑوں کی ہڈیاں ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ ذبح کر دینا اور گوشت بیچ دینا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ ان کے باپ نے کہا کہ ہڈیاں کیوں نہیں بیچیں؟ بولے لوگ میرے پاس گوشت خریدنے آتے ہیں۔ میں ہڈیاں کیسے بیچوں؟ باپ ان کی اس بات سے رنجیدہ ہو گئے اور کہا کہ تم نے یہ کیا غضب کیا۔ میرا روپیہ برباد کر دیا۔ اور اسی طرح کی اور بہت سی باتیں کہیں۔ اسی درمیان ابو العباس نے پوچھا کہ آپ کا کتنے روپے کا نقصان ہوا ہے؟ ان کے والد نے غصے اور حقارت سے کہا کہ تم نے میرے بیس ہزار دینار کم کر دیئے! ابو العباس نے جب یہ بات سنی تو دعا کے لئے ہاتھ اٹھا لئے۔ اسی وقت ایک تھیلی غیب سے ان کے ہاتھ میں آگئی۔ انہوں نے اپنے باپ کے سامنے رکھ دی۔ جب اسے کھولا تو بیس ہزار دینار تھے۔ جب یہ حکایت پوری ہو گئی تو بندے نے عرض کی کہ جلال قصاب مقدمان (پرانے لوگوں) میں سے تھے۔ فرمایا کہ نہیں جلال قصاب متاخران (بعد کے لوگوں) میں سے تھے بندے نے عرض کی کہ یہ شعر

من پور قصابم غنم پوست کشندہ است . من پوست کشم ہر کہ بازار من آید!

ترجمہ:- میں قصابی کا بیٹا ہوں۔ میری بات بھی چھلی چھلائی ہے۔ میرے بازار میں جو بھی آتا ہے میں اس کی کھال کھینچ لیتا ہوں۔

کیا جلال قصاب کا ہے؟ فرمایا ہاں اس وقت فرمایا کہ دہلی میں بھی ایک قصاب تھے۔ اولیائے حق میں سے۔ نوہٹے کے قریب (رہتے تھے)۔ مخلوق ان سے نعمت حاصل کرتی تھی۔

قاضی فخرالدین ناقلہ شروع حال میں ان کے پاس بہت جاتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ ان قصاب نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ قاضی فخرالدین نے کہا کہ میری تمنا ہے کہ قاضی (جج) ہو جاؤں۔ بولے جاؤ۔ قاضی بن جاؤ گے چنانچہ وہ قاضی ہو گئے اس کے بعد فرمایا کہ ایک اور شخص بھی ان قصاب کے پاس آیا اس سے بھی انہوں نے پوچھا کہ کیا تجھے بھی کچھ چاہئے؟ بولا میری تمنا تو یہ ہے کہ امیرداد (۱۳) بن جاؤں۔ اس شخص سے بھی انہوں نے کہا کہ جا امیرداد ہو جائے گا۔ وہ امیرداد ہو گیا۔ اس موقع پر فرمایا کہ مولانا وجیہ الدین حسام کا بھی ابتداء میں ان کے پاس آنا جانا تھا۔ ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہئے؟ مولانا وجیہ نے کہا کہ مجھے علم چاہئے۔ وہ بھی ان کے ارشاد کے مطابق عالم بن گئے۔ ایک اور صاحب سے پوچھا کہ تمہیں کیا درکار ہے؟ ان صاحب نے کہا مجھے تو محبت حق سے تعلق چاہئے۔ یہ بھی واصلان (الہی) میں سے ہو گئے۔ اس وقت خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ میں نے ان قصاب کو دیکھا تھا۔

اٹھارویں مجلس

اسی سال ماہ ذی قعدہ کی بائیسویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ علویوں کا ذکر نکلا۔ بندے کے دل میں عرصے سے ایک بات تھی۔ اس روز اس کو عرض کیا اور وہ بات یہ تھی بعض علویوں سے سنا گیا ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام نے ایک خط تحریر فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر میرے فرزند ان چاہیں تو مسلمانوں کو فروخت بھی کر سکتے ہیں ابو بکر صدیق یا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ خط پھاڑ ڈالا۔ کیا یہ بات سچی ہے؟ فرمایا کہ نہیں۔ یہ ذکر کسی کتاب میں نہیں آیا ہے البتہ ان کو عزیز رکھنا اور فرزند ان رسول علیہ السلام کو بزرگ سمجھنا واجب ہے اس کے بعد فرمایا کہ جو کوئی آل رسول میں سے ہے۔ اس سے کوئی ناشائستہ بات وجود میں نہیں آسکتی اور آتی بھی نہیں!

اس موقع پر حکایت بیان فرمائی کی سمرقند میں ایک صحیح نسب کے علوی سید تھے وہ وہاں کے سید اجل (سب سے بزرگ) سید تھے۔ کتاب نافع انہی کی تصنیف ہے۔ الغرض ان کے گھر میں ایک لونڈی تھی۔ اس لونڈی کے ہاں ایک لڑکا ہوا۔ لڑکا کم و بیش پانچ یا چھ

سال کا ہو گا کہ ایک روز کوئی سقہ مشک بھر کر لایا اس دفعہ مشک میں چھید ہو گیا تھا اور تھوڑا تھوڑا سا پانی ٹپک رہا تھا۔ ان بزرگ سید صاحب نے پوچھا کہ اس مشک کو کیا ہوا؟ سقہ بولا کہ میں اس مشک کو پانی سے بھر کر لارہا تھا آپ کے صاحبزادے نے ایک چھوٹی سی تیر کمان بنائی ہے۔ انہوں نے تیر چلایا تو اس مشک میں ذرا سا سوراخ ہو گیا۔ سید اجل نے جب یہ بات سنی تو گھر کے اندر آئے۔ لونڈی کو پکڑا اور تلواریں کھینچ کر بولے تجھ سے ایک بات پوچھنی چاہتا ہوں۔ اگر سچ سچ نہ بتائے گی تو تجھے مار ڈالوں گا اور وہ بات یہ ہے کہ ٹھیک بتاؤ نے جو لڑکا جنا ہے۔ یہ کس کا ہے؟ لونڈی نے پہلے تو چھپایا مگر پھر ڈر گئی اور بولی کہ یہ لڑکا میں نے فلاں غلام کا جنا ہے۔ سید اجل نے جب یہ بات سنی تو باہر آئے اور اس لڑکے کی جو دو چوٹیاں (۱۵) بنا رکھی تھیں انہیں ایک چوٹی کر دیا۔ الغرض جو پیغمبر علیہ السلام کی آل میں ہوتا ہے اس سے اس طرح کی حرکت سرزد نہیں ہوتی۔

اس کے بعد دوسری حکایت بیان فرمائی کہ بدایوں میں ایک علوی (سید) تھے ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ شاید اس روز چاند (برج) عقرب میں تھا۔ چنانچہ جیسا کہ عوام کی رسم ہے ایسے بچے کی ولادت کو منحوس اور برا سمجھا جاتا ہے۔ اس لئے اسے ایک مہتر کو دے دیا گیا۔ وہ مہتر اسے لے گیا اور پالا پوسا۔ چار پانچ سال کے بعد اس لڑکے میں ایک نور اور جمال پیدا ہوا کسی نے ماں باپ سے آکر کہا کہ ذرا دیکھو تو کہ بیٹا کیسا نکلا ہے۔ ماں باپ اس لڑکے کو پھر اپنے پاس لے آئے۔ قرآن پڑھایا اور علم و ادب سکھایا۔ القصد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ میں نے ان علوی (سید صاحب) کو دیکھا ہے بڑے باوقار اور خوبصورت تھے۔ جب یہ سید متوجہ عالم ہو گئے تو اکثر بدایوں والوں نے ان کی شاکردی اختیار کی۔ بڑی صلاحیت اور ادب کے آدمی تھے۔ چنانچہ جو بھی دیکھتا اس کو پتا چل جاتا کہ یہ آل رسول علیہ السلام سے ہیں۔

پھر مشغول تہجد درویشوں کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ میں نے بدرالدین اسحقؒ سے سنا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کوئی صوفی شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں آیا۔ بڑا عجیب درویش تھا۔ رات دن مشغول تہجد رہتا۔ چنانچہ اس کے کپڑے بہت میلے ہو گئے۔ میں اس سے کہا کہ کپڑے کو دھوئے کیوں نہیں؟ تو کچھ جواب نہ دیا چند روز بعد میں نے پھر کہا کہ کپڑوں کو دھوئے کیوں نہیں؟ اور اس دفعہ سختی سے کہا تو مجھ سے کہنے لگا کہ مجھ کو کٹھن دھونے کی فرصت کہاں ہے؟ اور یہ بات بڑی عاجزی سے کہی۔ اس موقع پر بدرالدین

اسحق نے فرمایا کہ مجھے جب بھی اس کا جواب یاد آتا ہے تو جس بے چارگی سے اس نے کہا تھا کہ مجھے کپڑے دھونے کی فرصت کہاں ہے اسے یاد کر کے مجھ پر بے ہوشی سی طاری ہو جاتی ہے۔

پھر درویشوں کے ذوق و شوق اور سالکوں کے غلبہ اشتیاق کا ذکر آیا۔ اس موقع پر حکایت بیان فرمائی کہ لاہور میں ایک وعظ کہنے والے عالم تھے ان کے بیان میں بڑا اثر تھا ایک روز لاہور کے قاضی کے پاس آئے اور بولے کہ مجھے کعبے کی زیارت کی آرزو ہے۔ جانے کی اجازت دیجئے قاضی نے جواب دیا کہ کہاں جاتے ہیں۔ آپ کے وعظ و نصیحت سے خلق کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ عالم جانے سے رک گئے اور جب دو سراسال آیا تو پھر قاضی کے پاس پہنچے اور اجازت مانگی قاضی نے انہیں کچھ دیا اور کہا کہ کہاں جاتے ہیں! یہ عالم پھر ٹھہر گئے۔ تیسرے سال پھر قاضی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھ پر کعبے کا اشتیاق بہت غالب ہے۔ جانے کی اجازت دیجئے۔ اس دفعہ قاضی نے کہا کہ اجی حضرت اگر آپ پر کعبے کا اشتیاق واقعی غالب ہوتا تو نہ اجازت مانگتے نہ مشورہ کرتے۔ بس چل پڑتے۔ اس موقع پر خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے زبان مبارک سے ارشاد کیا کہ در عشق مشورت نیست۔ عشق میں مشورہ نہیں ہوتا!

انیسویں مجلس

اسی سال ماہ مبارک ذی الحجہ کی گیارہویں تاریخ اتوار کو قدم بوسی کی دولت تک رسائی ہوئی۔ کشف و کرامت کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ اب سے پہلے اندر پت میں ایک خاتون تھیں۔ انہیں بی بی فاطمہ سام کہتے تھے، بڑی صلاحیت والی اور بزرگ بوڑھی ہو گئی تھیں۔ میں نے ان کو دیکھا تھا۔ بڑی بزرگ خاتون تھیں۔ ہر چیز کے حسب حال خوب شعر پڑھتی تھیں۔ ان کے یہ دو مصرعے مجھے یاد ہیں۔

ہم عشق طلب کنی وہم جاں خواہی

ہر دو طلبی ولی میسر نشود

ترجمہ:- عشق کے بھی طلب گار ہو اور جان بھی چاہتے ہو۔ دونوں مانگتے ہو مگر دونوں

marfat.com

Marfat.com

میسر نہ ہوں گے۔

اس موقع پر فرمایا کہ شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کو ان بی بی فاطمہ رحمۃ اللہ علیہا سے بڑی محبت تھی جیسے منہ بولے بھائی بہن میں ہوتی ہے کتنی راتیں گزرتیں کہ شیخ نجیب الدین کو فاقہ ہوتا اور ان کی وجہ سے ان کے گھر والے بھی فاقے سے ہوتے۔ اکثر ایسا ہوا کہ جب فاقے کی رات گزر گئی تو دوسرے روز صبح بی بی فاطمہؑ ایک بڑی روٹی ایک من (۱۶) کی یا آدھے من کی کسی کے ہاتھ جلدی سے شیخ نجیب الدین کے پاس بھجواتی تھیں اور کہتی تھیں کہ رات کو ان کے ہاں فاقہ تھا۔ ایک دفعہ اسی طرح روٹی بھجوائی تھی تو شیخ نجیب الدین نے خوش طبعی کے طور پر کہا تھا کہ اے اللہ جس طرح اس عورت کو ہمارے حال سے آگاہ کرتا ہے۔ شہر کے بادشاہ کو بھی آگاہ کر دے تاکہ وہ کوئی برکت والی (بڑی) چیز بھیجے۔ پھر تبسم فرمایا اور کہا کہ بادشاہوں کو یہ صفائی قلب کہاں میسر کہ انہیں خبر ہو جائے۔

اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ ان بی بی فاطمہ کے سامنے بیٹھا تھا۔ مجھ سے مخاطب ہو کر بولیں کہ ایک شخص ہے اس کی ایک لڑکی ہے اگر تم اس لڑکی کی مانگ رکھو تو اچھا ہو۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ ایک دفعہ میں شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں تھا۔ وہاں ایک جوگی بھی حاضر تھا۔ ذکر نکلا کہ بعض فرزند جو بے ذوق پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ لوگ مباشرت (بیوی سے تعلق رکھنے) کا وقت نہیں جانتے۔ اس کے بعد جوگی نے کہنا شروع کیا کہ مہینے میں تیس دن ہوتے ہیں یا انتیس ہر روز کی ایک خاصیت ہے مثلاً اگر پہلے روز ہم بستری کریں گے تو فرزند ایسا ہو گا اور اگر دوسرے روز ہم بستری کریں گے تو ایسا ہو گا۔ اسی طرح ہر روز کے لئے اس نے ایک حکم متعین کیا۔ جب یہ جوگی اپنی بات پوری کر چکا تو خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر فرماتے ہیں کہ میں اس سے سب دنوں کا اثر پوچھنے لگا اور جوگی ہر روز کی تفصیل بیان کرنے لگا۔ میں نے ان سب دنوں کو یاد کر لیا۔ پھر جوگی سے کہا کہ ذرا دھیان سے سنو اور دیکھو کہ میں نے ٹھیک یاد کیا ہے؟ جب میں نے یہ بات کہی تو شیخ فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز نے میری طرف رخ کر کے فرمایا کہ تم ان چیزوں کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو جو ہرگز تمہارے کام نہیں آئیں گی۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ حکایت بی بی فاطمہ سے کہی تو بولیں کہ میں سمجھ گئی کہ کیا بات ہے۔ پھر فرمایا کہ ہاں تم نے اچھا کیا کہ اس لڑکی کو قبول

نہ کیا۔ میں نے بھی اس شخص کا دل رکھنے کو کہا تھا۔

بیسویں مجلس

اسی سال ماہ ذوالحجہ کی انیسویں تاریخ پیر کو دست بوسی کی سعادت حاصل ہوئی انہی دنوں مخالفوں میں سے ایک شخص نے دشمنی کا دروازہ کھولا تھا۔ اور سماع کی ممانعت میں نامناسب باتیں کہی تھیں اور سخت عداوت ظاہر کی تھی۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے زبان مبارک سے فرمایا کہ خدائے تعالیٰ الدالخصام کو دشمن سمجھتا ہے اور الدالخصام وہ ہوتا ہے جو سخت دشمنی پیدا کرے۔ اس کے بعد سماع کے باب میں یہ فائدہ بیان فرمایا کہ جب چند چیزیں موجود ہوں اسی وقت سماع سنا جاتا ہے۔ اور وہ چند چیزیں کیا ہیں؟ مسیح و مسموع و مستمع اور آلہ سماع۔ اس موقع پر اس تقسیم کی تشریح فرمائی اور ارشاد کیا کہ مسیح گویا ہے وہ ایسا آدمی ہونا چاہئے جو مرد ہو عمر رسیدہ بچہ نہ ہو اور عورت نہ ہو۔ مسموع یہ ہے کہ جو کچھ گایا جائے وہ ہزل اور فحش نہ ہو۔ اور مستمع جو کچھ سنا جائے وہ حق کے لئے سنا جائے۔ اور وہ یاد حق سے مملو (بھرپور) ہو۔ اور آلہ سماع وہ مزامیر (ساز) ہیں جیسے چنگ و رباب..... اور اسی موقع پر فرمایا کہ سماع ایک موزوں آواز ہے۔ یہ حرام کیسے ہو سکتی ہے اور جو کچھ گایا جاتا ہے وہ کلام ہے معنی اور مفہوم رکھنے والا وہ حرام کیوں ہو گا۔ دوسرے قلب (دل) کی تحریک ہے۔ اگر یہ تحریک حق کی یاد میں ہو تو مستحب ہے اور اگر یہ فساد کی طرف مائل ہو تو حرام ہے۔

اکیسویں مجلس

سنہ سات سو اکیس ہجری ماہ محرم کی تیسویں تاریخ اتوار کو قدم بوسی کی دولت میسر آئی۔ درویشوں کے اخلاق اور دشمنوں کی ساتھ ان کے برتاؤ کا ذکر نکلا ارشاد ہوا کہ ایک بادشاہ تھا جس کو تارانی کہتے تھے۔ شاید اس کو کسی ہنگامے میں قتل کر دیا گیا تھا اور اس تارانی کو شیخ سیف الدین باخرزی سے بڑی محبت تھی اس کے قتل ہونے کے بعد کسی اور کو بادشاہ بنایا گیا۔ اس بادشاہ کا جو پہلے بادشاہ کی جگہ بیٹھا تھا ایک چغل خور نجومی مقرب بن گیا اور یہ چغل خود نجومی شیخ سیف الدین سے دشمنی رکھتا تھا اس چغل خور کو جیسے ہی لگائی بھائی کا موقع ملا

marfat.com

Marfat.com

بادشاہ سے بولا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک آپ کے پاس رہے تو شیخ سیف الدین کو راستے سے ہٹا دیجئے کیونکہ کسی کو تبدیل کرنا اور کسی کو ملک کا حاکم بنانا یہ سب وہی کرتے ہیں۔ یہ باتیں سننے کے بعد بادشاہ نے اس چغل خور سے کہا کہ تم ہی جاؤ اور جس طرح مناسب سمجھو شیخ کو لے آؤ۔ چغل خور گیا اور شیخ سیف الدین کو لا کر پیش کر دیا۔ مگر بے ادبی سے لایا۔ ان کی دستار گلے میں ڈالی یا کسی اور طرح تحقیر کی الغرض جب شیخ سیف الدین رحمتہ اللہ علیہ اندر آئے تو جیسے ہی بادشاہ کی نظر ان پر پڑی اس کو معلوم نہیں کیا دکھایا گیا۔ کہ فوراً تخت سے اترا اور بڑی معذرت کے ساتھ شیخ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا۔ گھوڑا اور بہت سی چیزیں (نذر میں) پیش کیں اور معافی مانگی اور کہا کہ میں نے اس طرح آپ کو لانے کے لئے نہیں کہا تھا۔ چنانچہ شیخ بادشاہ کے پاس سے واپس گھر آ گئے۔ دوسرے روز بادشاہ نے اس چغل خور کو خود ہاتھ پاؤں بندھوا کر شیخ کی خدمت میں بھیج دیا اور کہا کہ میں نے حکم کر دیا ہے کہ یہ چغل خور قتل کیا جائے اب اس کو آپ کے پاس بھجوا رہا ہوں کہ جس طرح آپ کو اچھا لگے اسے قتل کریں۔ شیخ نے چغل خور کو دیکھا۔ تو فوراً اس کے ہاتھ پیر کھولے اور جو جامہ خود پہنے ہوئے تھے اسے پہنایا اور کہا آج میرے ساتھ وعظ میں چلو وہ دو شے کا دن تھا۔ شیخ معمول کے مطابق وعظ کے لئے مسجد میں آئے اور اس چغل خور کو بھی اپنے ساتھ لائے پھر منبر پر تشریف لے گئے اور یہ شعر پڑھا۔

آنا نکہ بجای من بدیہا کردند
گردست وہد بجز نکوی نکنم

ترجمہ:- وہ لوگ جنہوں نے میرے ساتھ بڑی برائیاں کی ہیں۔ اگر موقع ملے تو میں ان کے ساتھ صرف نیکی کروں۔

یہ حکایت بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ بندے سے خیر و شر جو کچھ بھی وجود میں آتا ہے اس کا پیدا کرنے والا خداوند تعالیٰ ہے۔ پس جو بھی ہوتا ہے اسی کی طرف سے ہوتا ہے۔ پھر کسی سے رنجیدہ کیوں ہوا جائے۔ اس بات کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ شیخ ابو سعید ابو الخیر قدس اللہ سرہ العزیز کہیں راستہ چل رہے تھے۔ ایک لفظ گالی سے آیا اور ان کی گدی پر ہاتھ مارا شیخ نے سر گھما کر لفظ کو دیکھا لفظ بولا مجھے کیا دیکھتے ہو کیا تم یہ نہیں کہتے کہ ہر خیر و شر (اچھا برا) جو پہنچتا ہے اس خدا کی طرف سے ہے؟ شیخ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے لیکن

میں تو یہ دیکھتا ہوں کس بد بخت کو اس کام کے لئے نامزد کیا گیا ہے!

بائیسویں مجلس

اسی سال ماہ ربیع الاول کی سترہویں تاریخ جمعرات کو قدم بوسی کی دولت ملی۔ روایت (دیدار) خداوندی کا ذکر نکلا۔ بندے نے عرض کی کہ دیدار کی نعمت جس کا وعدہ مومنوں سے ہے کیا یہ نعمت کل قیامت کے دن ملے گی؟ فرمایا ہاں اس پر بندے نے کہا کہ جب مومن اس نعمت کو دیکھ لیں گے تو کیا پھر دوسری نعمتوں کو نہیں دیکھیں گے؟ ارشاد ہوا کہ روایت ہے کہ جب اس نعمت کا مشاہدہ کر لیں گے تو کئی ہزار سال تک حیرت میں رہیں گے۔ اس موقع پر زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ بڑی کم نظری ہوگی کہ اس کے بعد کسی اور چیز کو دیکھیں۔ بندے نے عرض کی شیخ سعدی کا ایک شعر ہے اور وہ یہ ہے۔

افسوس براں دیدہ کہ روی تو ندیدہ است

یادیدہ و بعد از تو بروی نگریدہ است

ترجمہ:- اس آنکھ پر افسوس جس نے تیرے چہرے کو نہیں دیکھا یا دیکھا اور تیرے بعد

پھر کسی اور چہرے کو دیکھا!

خواجہ ذکرہ اللہ بالخير نے اس بات کی بڑی تعریف فرمائی اور کہا اچھا کہا ہے!

تیسویں مجلس

اسی سال ماہ ربیع الآخر کی پچیسویں تاریخ پیر کو قدم بوسی کی دولت تک رسائی ہوئی۔ حضرت امیر المومنین عمرؓ کی صلابت و مہابت (سختی اور دبدبے کا ذکر آیا ارشاد ہوا کہ ایک دفعہ کوئی شخص ان کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ میں نے ایک عورت سے چھ مہینے پہلے شادی کی تھی۔ آج اس نے بچہ جنا ہے۔ اس بارے میں کوئی حکم فرمائیے فَأَمَرَ رَجُلًا مِنْهُمْ أَنْ يَأْتِيَ عَمْرًا فِي الْمَدِينَةِ فَيَقُولُ لَهَا مَا تَقُولُ؟ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ علی نے کہا جب حضرت عزت نے قرآن میں یہ

marfat.com

Marfat.com

فرمایا کہ وَحَمَلُهُ وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا یعنی بچے کے حمل کی مدت اور اس کے دودھ پلانے کی مدت تیس مہینے ارشاد ہوئی ہے۔ پس دو سال کی مدت تو دودھ پلانے کی ہوئی اس لئے یہ بھی درست ہو گا کہ حمل کی مدت چھ مہینے ہو۔ اس کے بعد عمر جو بیٹھنے والے نے وہ حکم منسوخ فرمادیا اور کہا کہ لَوْلَا عَلِيٌّ لَهْلَكَ عَمْرٌ اُگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔

ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ کوئی عورت عمر جو بیٹھنے والے کے سامنے آئی اور بولی اے امیر المومنین مجھے زنا سے حمل ہے۔ عمر جو بیٹھنے والا آتربزہ قمحا (عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی سنگساری کا حکم دے دیا۔) یہاں بھی حکم فرمایا کہ اس عورت کو سنگسار کر دیا جائے۔ امیر المومنین علیؑ اس مجلس میں بھی موجود تھے فرمایا کہ اس حکم پر غور کر لینا چاہئے۔ عمر بولے کیسے؟ علی نے کہا اگر گناہ کیا ہے تو اس عورت نے کیا ہے۔ جو بچہ اس کے پیٹ میں ہے اس نے کون سا گناہ کیا ہے؟ اس کے بعد امیر المومنین عمر جو بیٹھنے والے نے فرمایا کہ اس عورت کی بچہ ہونے تک نگرانی رکھی جائے۔ اس وقت بھی یہی الفاظ زبان مبارک پر لائے کہ لَوْلَا عَلِيٌّ لَهْلَكَ عَمْرٌ۔ علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اس کے بعد اسلام کی نگہبانی کا خیال جو عمرؓ کے دل میں تھا۔ اس کے بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ کسی شاعر نے نظم میں امیر المومنین عمرؓ کی مدح (تعریف) کی تھی اور اس نظم میں وعظ و نصیحت کے طور پر بھی ایک شعر کہا تھا۔ اس کا ایک مصرع یہ ہے

كفأ الشيب والاسلام للمراء ناھيا

ترجمہ:- بڑھاپا اور اسلام آدمی کو گناہوں سے روکنے کے لئے کافی ہیں۔

یعنی کافی ہیں بڑھاپا اور اسلام آدمی کو گناہوں سے باز رکھنے کے لئے۔ جب اس شاعر نے یہ شعر ادا کیا تو امیر المومنین عمرؓ نے کسی صلے کا حکم نہیں فرمایا۔ شاعر بولا کہ میں نے مدح کہی ہے آپ عطیہ کیوں نہیں دیتے؟ عمرؓ نے جواب دیا کہ تو نے بڑھاپے کو اسلام پر مقدم رکھا ہے۔ اگر اسلام کو مقدم رکھتا تو ضرور تجھ کو کوئی چیز دیتا۔

یہاں سے شعر کی حکایت نکلی۔ بندے نے عرضداشت کی کہ زبان مبارک سے بارہا سنا گیا ہے کہ قرآن پڑھنا شعر کہنے پر غالب رہنا چاہئے۔ مخدوم کے فرمان کی برکت سے بندہ روزانہ یہ امید رکھ کر قرآن پڑھتا ہے کہ جو کچھ کلام کہا جا چکا ہے اور جو کلام ہو گا اس سے بھی ان شاء اللہ توبہ کر لی جائے۔ یہ عرض داشت سن کر فرمائی گئی۔ اس موقع پر بندے نے

عرض کی کہ وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاءُ وَقَدْ (گمراہ لوگ شعراء کی پیروی کرتے ہیں) کے معنی بھی یہی ہوں گے کہ شاعروں کی پیروی کرنے والے گمراہ ہیں اور زبان مبارک سے بارہا سنا گیا ہے کہ یہ حدیث شریف ہے إِنَّ مِنَ الشُّعْرَاءِ لِحِكْمَةٍ (بے شک بعض شعروں میں حکمت ہوتی ہے) پس جب اہل شعرا اہل حکمت ہیں تو جو لوگ ان کی پیروی کریں وہ گمراہ کیوں ہوں؟ ارشاد ہوا کہ جو ہزل اور حشو (بے ہودہ اور فضول) اور ہجو کہلاتے ہیں ان کی پیروی کرنے والے کے لئے کیا حکم ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے شعر کہے ہیں جیسے کہ امیرالمومنین علیؑ اور دوسروں نے بھی شعر کہے ہیں اس وقت امیرالمومنین علیؑ کے ہونے دو شعر زبان مبارک پر آئے۔ جن کے معنی یہ تھے کہ جب عورتیں گھوڑوں پر سوار ہوں گی تو دجال کے خروج (ظاہر ہونے) کا اندیشہ ہو گا۔ ایک قافیہ سروج تھا و سراج خروج تیسرا عروج۔ پہلا مصرع یہ تھا۔

اذا ركب الفروج على السروج

ترجمہ:- جب عورتیں گھوڑوں پر سوار ہوں۔

بندے نے عرض کی شعر میں جو مبالغہ کیا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہیں گے ارشاد ہوا کہ ایک مشہور کتاب میں دیکھا ہے کہ جھوٹ گناہ ہے۔ لیکن وہ جھوٹ جو شعر میں ہو گناہ نہیں ہے۔

چوبیسویں مجلس

اسی سال ماہ جماد الاول کی سترہویں تاریخ پیر کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی۔ حسد کا ذکر آیا۔ ارشاد ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے کہ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مَحْسُوتًا وَلَا تَجْعَلْنِي حَاسِدًا اے اللہ مجھے محسود (جس سے حسد کیا جائے) بنا حاسد (حسد کرنے والا) نہ بنا اس موقع پر فرمایا کہ حسد ہوتا ہے اور غبطہ (رشک) ہوتا ہے حسد تو یہ ہے کہ کوئی کسی کے پاس نعمت دیکھے اور اس نعمت کا زوال چاہے یہ حسد ہے البتہ غبطہ یہ ہے کہ کوئی کسی کی نعمت دیکھے اور خود اپنے لئے بھی ایسی نعمت چاہے۔ یہ غبطہ ہے۔ پس حسد حرام ہے اور غبطہ (حرام) نہیں ہے۔

marfat.com

Marfat.com

پچیسویں مجلس

اسی سال ماہ مبارک رمضان کی ساتویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی سعادت ہاتھ آئی۔ حیدر زاویہ (۱۷) کے احوال کا ذکر آیا۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ سو سال کے بعد ان پر ایک دروازہ کھولا گیا (۱۸)۔ بندے نے سر زمین پر رکھا اور عرض کی کہ یہ تو بڑی امید بندھانے والی بات ہے۔ ارشاد ہوا ہاں!

پھر شیخ قطب الدین بختیار قدس اللہ سرہ العزیز کے بارے میں تذکرہ آیا ارشاد ہوا کہ ایک بار عید کا دن تھا شیخ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ عید گاہ سے واپسی میں اس جگہ تشریف لائے جہاں آج کل حضرت کاروضہ مبارک ہے۔ (اس زمانے میں) یہ زمین جنگل تھی اور کوئی قبر اور گنبد وہاں نہ تھا۔ حضرت شیخ تشریف لائے اور کھڑے ہو کر کچھ سوچنے لگے۔ احباب جو ساتھ تھے انہوں نے عرض کی کہ آج عید کا دن ہے اور لوگ منتظر ہیں کہ مخدوم گھر میں آکر کھانا نوش فرمائیں۔ حضور یہاں تاخیر کیوں فرما رہے ہیں۔ شیخ نے فرمایا کہ مجھے اس زمین سے دلوں کی خوشبو آتی ہے! اسی وقت اس زمین کے مالک کو طلب کیا گیا۔ شیخ نے اس زمین کو اپنے ذاتی مال سے خرید لیا اور وہاں اپنے دفن ہونے کا حکم فرمایا۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر جب اس بات پر پہنچے تو آنکھوں میں آنسو بھرا لائے اور کہا کہ یہ جو فرمایا ہے کہ یہاں سے دلوں کی خوشبو آتی ہے تو دیکھو کہ وہاں کون کون سو رہا ہے!

پھر شیخ محمود موئینہ دوز (پوستین ساز) رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت آئی۔ ارشاد ہوا کہ ان کے زمانے میں جس کسی کا (لونڈی) غلام بھاگ جاتا اس (لونڈی غلام) کا مالک شیخ محمود کی خدمت میں آتا اور عرض کرتا کہ میرا بردہ بھاگ گیا ہے۔ شیخ محمود اس بھگوڑے کا نام پوچھتے اور کچھ دیر تامل فرمانے کے بعد مالک سے کہتے کہ مل جائے گا اس کے بعد اتنا اور کہتے کہ جب مل جائے تو مجھے خبر کرو۔ الغرض ایک دفعہ کوئی شخص آیا اور عرض کی کہ میرا غلام بھاگ گیا ہے۔ شیخ نے اس کا نام پوچھا اور کچھ دیر سوچا اور ارشاد کیا مل جائے گا۔ البتہ جب مل جائے تو مجھے بتا دینا۔ یہ شخص گھر چلا گیا چند دن بعد وہ غلام اس کو مل گیا۔ لیکن اس نے آکر شیخ کو خبر نہ کی۔ جب کچھ دن گزر گئے تو وہ غلام پھر بھاگ گیا۔ اس کا مالک آیا اور شیخ محمود کو کیفیت سنائی۔ شیخ محمود نے فرمایا کہ یہ جو میں کہتا ہوں کہ آکر مجھے غلام ملنے کی خبر کر دو تو اس وجہ سے نہیں

کہتا کہ میں تم سے کسی چیز کا طلب گار ہوں۔ میں تو اس وجہ سے لہتا ہوں جب مجھے خبر کر دی جاتی ہے کہ غلام مل گیا تو میرے دل پر سے بوجھ اتر جاتا ہے۔ اب تم جانو اور تمہارا کام! خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر جب اس بات پر پہنچے تو تبسم فرمایا اور ارشاد کیا کہ شیخ محمود نے غلام کے مالک سے کہا کہ جب تم کو غلام مل گیا تھا اور تم نے وعدہ کیا تھا کہ مل جائے گا تو خبر کروں گا پھر بھی خبر نہ کی۔ اس دفعہ جو بھاگا ہے تو ملے گا نہیں۔

پھر شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی حکایت آئی فرمایا کہ ایک دفعہ پانچ درویش شیخ کی خدمت میں پہنچے۔ وہ بڑے سخت اور بد مزاج درویش تھے۔ جب شیخ کے پاس سے اٹھے تو بولے کہ ہم اتنی جگہ پھرتے پھرتے کہیں ہمیں درویشی نہیں ملی شیخ فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا کہ بیٹھو تاکہ میں تمہیں درویشی دکھاؤں انہوں نے ہٹ دھرمی سے کام لیا۔ اور روانہ ہو گئے۔ شیخ نے فرمایا کہ جاتے تو ہو مگر بیابان کے راستے نہ جانا۔ دوسرے راستے سے جانا۔ انہوں نے شیخ کے ارشاد کے خلاف کیا اور بیابان کی راہ لی۔ شیخ نے کسی کو ان کے پیچھے دوڑایا کہ تفتیش کرو کہ وہ کون سے راستے گئے ہیں۔ خبر لائی گئی کہ وہ بیابان کے راستے گئے ہیں۔ شیخ نے جب یہ سنا تو ہائے ہائے کر کے اس طرح رونے لگے جیسے کوئی کسی کا ماتم کرتا ہے۔ اس کے کچھ دیر بعد خبر آئی کہ ان پانچوں کو بادِ سموم (لوا لگی)۔ چار آدمی تو اسی جگہ ہلاک ہو گئے۔ ایک شخص کسی کنوئیں تک پہنچ گیا اور بہت پانی پی گیا وہاں ہلاک ہوا۔ اس درمیان خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے جو پلنگ پر تشریف فرما تھے حاضرین سے معذرت فرمائی اور کہا کہ مجھے ذرا پیر کی تکلیف ہے۔ اسی سبب سے چار پانی پر بیٹھا ہوں۔ آپ لوگ برا نہ مانئے گا۔ سب حاضرین نے دعا کی اور کہا کہ آپ سلامت رہیں کیونکہ ہماری زندگی بھی آپ کی زندگی سے متعلق ہے۔ بندے کو یہ شعر یاد آیا۔ عرض کیا۔

جانِ جہانیاں توی دشمنِ جانِ بود کسی

اے ہمہ دشمنان تو دشمنِ جانِ خوشن

ترجمہ:- تم سارے جہان کی جان ہو اور دشمنِ جان بھی ہو۔ تمہارے سارے دشمن

اپنی جان کے دشمن ہیں۔

خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر کو اس قصیدے کا مطلع یاد تھا وہ زبان مبارک پر آیا۔

دوشِ صبحی بزدِ بلبلِ مستِ درِ چمن

marfat.com

Marfat.com

از خوشی صومیش گل بدرید پیر ہن

ترجمہ:- گل مست بلبل نے صبوحی (صبح کی شراب یہاں مراد بلبل کی راگنی) کو چھیڑا اور اس کی صبوحی سے کھل کر گلاب کے پھول نے اپنا پیرا ہن چاک کر دیا۔ (کلی کھل کر پھول ہو گئی)

پھر خواجہ فرید الدین عطار کی حکایت آئی کہ شیخ جلال الدین تبریزی طیب اللہ ثراہ نے خواجہ فرید الدین عطار کو نیشاپور میں دیکھا تھا شاید انہوں نے کبھی شیخ بہاء الدین زکریا سے بیان کیا کہ میں نے خواجہ فرید الدین عطار کو نیشاپور میں دیکھا تھا انہوں نے مجھ سے کہا کہ کسی مرد خدا کا پتا بتاؤ۔ میں کسی کا پتا (نشان) نہ بتا سکا۔ شیخ بہاء الدین نے جب یہ سنا تو کہا کہ اس موقع پر تم نے شیخ شہاب الدین کا پتا کیوں نہ بتایا؟ شیخ جلال الدین نے کہا کہ میں نے جو مشغولی (۱۹) خواجہ فرید الدین عطار میں دیکھی دوسروں کی مشغولی اس کے مقابلے میں معزولی (بیکاری) ہے۔ اس درمیان خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ میں نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا اس نے کہا کہ میں نے خواجہ فرید الدین عطار کو دیکھا تھا وہ شروع میں بڑے پریشان قدم (آوارہ گرد) تھے۔ اس موقع پر خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا جب عنایت حق کا عمل دخل ہو جاتا ہے تو پھر ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں اس کے بعد ان کے انتقال کے بارے میں حکایت بیان فرمائی اور کہا کہ وہ شہید ہوئے اور ایسا ہوا کہ کفار (تاتاری) نیشاپور پہنچ گئے تھے اور حضرت سترہ مریدوں کے ساتھ قیلے کے سامنے اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ کافر آکر انہیں شہید کر دیں۔ اسی دوران کافر آہنچے اور تلوار چلانے اور ان کو مارنے لگے۔ اس وقت خواجہ فرید الدین عطار نے جب یہ دیکھا کہ ان کے مریدوں کو قتل کیا جا رہا ہے تو بولے کہ یہ کیسی قہاری کی تلوار ہے اور کیسی جباری کی تلوار ہے! لیکن جب خود ان کو مارنے لگے تو اس وقت ارشاد ہوا کہ یہ کیسا کرم ہے اور یہ کیسی نوازش ہے اور یہ کیسا احسان ہے!

پھر خواجہ حکیم سنائی طیب اللہ ثراہ کی حکایت نکلی۔ فرمایا کہ شیخ سیف الدین باخرزی نور اللہ مرقدہ بارہا فرماتے ہیں کہ میں سنائی کے ایک قصیدے کا مسلمان کیا ہوا ہوں ایک عزیز حاضر تھے انہوں نے ان کے ایک قصیدے میں سے ایک شعر پڑھا اور ایسا ظاہر کیا جیسے یہ شعر اسی قصیدے کا ہے۔ جو شعر ان عزیز نے پڑھا یہ تھا۔

بر سر طور ہونا ظنور شہوت می زنی

marfat.com

Marfat.com

عشق مردن ترانی را بدیں خواری مجو

ترجمہ:- خواہشات کے کوہ طور پر بیٹھے نفسانیت کا طنبورہ بجا رہے ہولن ترانی والے مرد (حضرت موسیٰ) کے سے عشق کی طلب گاری ایسی خواری سے نہ کرو۔
اس کے بعد خواجہ ذکریہ اللہ بالخیر نے زبان مبارک سے فرمایا کہ یہ شعر اس شعر سے متصل ہے۔

خار پائے راہ عیاران این درگاہ را

در کف دست عروس مہد عماری مجو

ترجمہ:- اس درگاہ کے تیز رفتار رہروں کے پیر کا کاٹنا عماری کے گوارے میں بیٹھی دلہن کی ہتھیلی میں نہ ڈھونڈنا! بندے نے عرض کی کہ یہ عماری کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ جس چیز کو لوگ عماری (۲۰) کہتے ہیں۔ اس کی نسبت عمار نامی ایک شخص سے ہے۔ یہ عماری اس کی بنائی ہوئی ہے۔ لوگ اس عماری کو عسباری کہتے ہیں۔ ان اشعار کی مناسبت سے جنہیں پڑھا گیا فرمایا کہ شیخ سیف الدین باخرزی رحمۃ اللہ علیہ بارہا فرماتے کہ اے کاش ہوا مجھے وہاں اڑا کر لے جائے جہاں سنائی کی خاک ہے یا سنائی کی خاک اڑالائے کہ میں اس کو سرمہ بناؤں۔

پچھیسویں مجلس

- اسی سال ماہ مبارک رمضان کی چودھویں تاریخ بدھ کو ہاتھ چومنے کی دولت ہاتھ آئی۔ قاضی منہاج سراج علیہ الرحمۃ والرضوان اور ان کے وعظ کی لذت کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ میں ہر پیر کو ان کے وعظ میں نانہ کئے بغیر جاتا تھا۔ کیوں کہ ان کے وعظ میں بڑی راحت ہوتی تھی! ارشاد ہوا کہ ان کی تقریر کے بارے میں اور ان کے قاریوں کے بارے میں گویا کان زبان حال سے یوں کہتے تھے کہ:

تو زلب سخن کشادی ہمہ خلق بے زباں شد

تو برہ خرام کردی ہمہ دیدہ ہا رواں شد

ترجمہ:- بات تمہارے ہونٹوں سے نکلی اور ساری مخلوق بے زبان (گنگ) ہو کر رہ گئی

تم کسی راہ چلے اور ساری نگاہیں بھی (ساتھ ساتھ) اٹھنے لگیں۔

marfat.com

Marfat.com

اس موقع پر فرمایا کہ ایک روز میں ان کے وعظ میں ذوق کے مارے ایسا بے خود ہوا گویا میں مردہ ہوں یا کیا ہو گیا ہے اس سے پہلے میں نے اپنے آپ کو کسی سماع (قوالی) میں یا حال کے دوران ایسا نہیں پایا تھا۔ اور یہ بات اس سے پہلے کی ہے کہ میں شیخ کی جناب سے وابستہ ہوا تھا (شیخ سے مرید ہوا تھا) اس کے بعد فرمایا کہ ایک دوست نے ان سے کہا تھا کہ تم قضاء (ججی) کے لائق نہیں ہو تم تو اس لائق ہو کہ شیخ الاسلام بنو!

اس کے بعد اولیاء اور ابدال اور اوتاد کا ذکر آیا۔ بندے نے عرض کی کہ میں نے ابھی ایک صوفی وضع شخص سے ایسی بات سنی ہے۔ جس سے میرے دل پر بڑا بوجھ ہے۔ ارشاد ہوا کہ کیا بات ہے؟ بندے نے عرض کی کہ اس شخص نے یہ کہا کہ عالم قائم ہے کل مخلوق میں برکت سے قطب کی جو ایک ہے اور اوتاد کی جگہ جو چار فرد ہیں اور ابدال کی جو چالیس ہیں اور اولیاء کی جو چار سو افراد ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب قطب مرجاتا ہے تو اوتاد میں سے ایک شخص اس کی جگہ بیٹھ جاتا ہے اور ابدال میں سے ایک اوتاد کی جگہ اور جو اولیاء ہیں ان میں سے ایک ابدال کی جگہ اور عام لوگوں میں سے ایک شخص اولیاء کی جگہ لے لیتا ہے فرمایا یہ بات اس طرح نہیں ہے۔ اس طرح ہے کہ جب ان چار سو اشخاص میں سے جو اولیاء ہیں ایک شخص کم ہو جاتا ہے تو پھر کسی اور کو داخلہ نہیں ملتا۔ وہ تین سو نناوے افراد رہ جاتے ہیں اور اگر ان میں سے بھی ایک کم ہو جاتا ہے تو تین سو اٹھانوے اشخاص رہ جاتے ہیں۔ یہ امکان نہیں ہوتا کہ کوئی اس کے بعد ان چار سو افراد میں داخل ہو جائے جو اولیاء ہیں کیوں کہ ولایت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ جب خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے یہ بات سنی تو فرمایا نہیں! ولایت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ولایت ایمان اور دوسری ولایت احسان۔ ولایت ایمان تو یہ ہے کہ جو بھی مومن ہے وہ ولی ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر یہ آیت یاد دلائی۔ اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ۔ (اللہ ان لوگوں کا ولی دوست ہے جو ایمان لائے اللہ انہیں اندھیروں سے نکال کر نور (روشنی) کی طرف لاتا ہے۔ البتہ ولایت احسان یہ ہے کہ کسی کو کوئی کشف اور کرامت اور عالی مرتبہ حاصل ہو جائے

ستائیسویں مجلس

بدھ ماہ صفر کی چوتھی تاریخ سنہ سات سو بائیس ہجری دست بوسی کا شرف حاصل ہوا۔
مشائخ کا ذکر فرما رہے تھے۔ بندے نے عرض کی کہ سیدی احمد کیسے آدمی تھے؟ ارشاد ہوا کہ
بڑے بزرگ آدمی تھے۔ وہ عرب کے رہنے والے تھے اور عرب کی رسم ہے کہ کسی کا بزرگی
سے تذکرہ کرتے ہیں تو اسے سیدی (میرے آقا) کہتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ شیخ حسین
منصور علاج کے زمانے میں تھے۔ رحمتہ اللہ علیہا۔ جب حسین منصور کو جلایا گیا اور ان کی
راکھ دریائے دجلہ کے پانی میں بہائی گئی تو سیدی احمد نے اس میں سے تھوڑا سا پانی جس میں
راکھ موجود تھی بطور تبرک لیا اور پی گئے۔ وہ ساری برکتیں اس وجہ سے تھیں۔

اٹھائیسویں مجلس

اسی سال ماہ صفر کی سترھویں تاریخ منگل کو دست بوسی کی دولت میسر آئی۔ درویشوں
کے اعلیٰ اور اچھے اخلاق کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ ایک رات کوئی چور شیخ احمد نروالی علیہ
الرحمتہ والرضوان کے گھر میں گھس آیا۔ اور یہ شیخ احمد جو لاپے تھے۔ چور سارے گھر میں پھرا
مگر اسے کچھ نہ ملا۔ واپس جانا چاہتا تھا کہ شیخ احمد نے آواز دی اور قسم دی کہ ذرا ٹھہر جاؤ پھر
اپنے کھے میں ہاتھ ڈالا اور جو دھاگہ تانے پانے میں تھا اس سے سات گز کپڑا بنا چکا تھا۔ وہ
سات گز کپڑا دھاگے سے الگ کیا اور چور کی طرف پھینک کر کہا کہ لے جاؤ۔ چور نے کپڑا اٹھا
اور چلا گیا۔ دوسرے روز وہ چور اور اس کی ماں اور اس کا باپ سب آئے اور سر شیخ احمد کے
پیروں میں رکھ دیئے اور اس کام سے توبہ کی!

انتیسویں مجلس

اسی سال ماہ مبارک ربیع الاول کی چھٹی تاریخ اتوار کو قدم بوسی کی سعادت ہاتھ آئی۔
اس روز بندہ اپنے اقرباء میں سے ایک چھوٹے بچے کو ساتھ لے گیا تھا کیونکہ اس بچے کو کبھی
کبھی ایک خیال ستاتا تھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آسیب پری تھا یا کوئی اور چیز۔ اس کو بندہ خواجہ
ذکرہ اللہ بالخیر کی خدمت میں لے گیا اور ساری کیفیت سنائی۔ خواجہ نے مہربانی کی نظر سے اس
کو دیکھا اور زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ اچھا ہو جائے گا۔

اس بات کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ بخارا میں ایک بچہ تھا۔ جس کو پر یوں کا گروہ یا کوئی جن ستایا کرتا تھا۔ ہر شام کی نماز کے وقت بچے کو اس جگہ سے اٹھا کر لے جاتے اور ان کے گھر میں ایک درخت تھا۔ اس بچے کو اس درخت پر بٹھاتے اور چلے جاتے۔ اس پر ماں باپ اس بچے کی حفاظت احتیاط سے کرنے لگے۔ اس کو حجرے (کمرے) میں چھپا دیتے اور حجرے کے دروازے پر قفل ڈال دیتے۔ جب مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو اس بچے کو پھر اسی درخت پر دیکھا۔ جب وہ بہت عاجز و پریشان ہو گئے تو اس کو شیخ سیف الدین باخرزی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے گئے۔ اور سارا حال کہہ سنایا۔ شیخ کے حکم پر اس بچے کا سر مونڈ دیا گیا اور ایک کلاہ (ٹوپی) اس کے سر پر رکھ دی اور اس کو تلقین کی کہ اگر دوبارہ یہ گروہ آئے تو کہہ دیجو کہ میں شیخ کا مرید ہو گیا ہوں اور مخلوق ہو گیا ہوں (سر منڈا لیا ہے) اور ٹوپی دکھا کر کہو کہ یہ کلاہ مجھے شیخ سے ملی ہے۔ جب اس بچے کو اس کے گھر میں لائے تو وہ گروہ آیا۔ بچے نے جیسا شیخ نے فرمایا تھا کہہ دیا کہ میں شیخ کے سامنے مخلوق ہو گیا ہوں اور کلاہ (ٹوپی) دکھائی وہ آپس میں کہنے لگے کہ کون بد نصیب اسے شیخ کے پاس لے گیا تھا یہ کہا اور چلے گئے پھر نہیں آئے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر جب اس بات پر پہنچے تو آنکھوں میں آنسو بھرائے اور حاضرین بھی رونے لگے کیونکہ (بڑا) اچھا وقت تھا۔ **الْحَقْدُ لِلَّهِ**

اس کے بعد شیخ سیف الدین باخرزی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت بیان فرمائی کہ شروع زمانے میں جبکہ وہ جوان تھے۔ مشائخ اور اہل فقر کے بڑے دشمن تھے۔ وعظ کہتے اور وعظ میں اس گروہ کو بہت برا بھلا کہتے۔ چنانچہ یہ خبر شیخ نجم الدین کبریٰ قدس اللہ سرہ العزیز کو پہنچائی گئی۔ شیخ نجم الدین نے فرمایا کہ مجھے ان کے وعظ میں لے چلو۔ خدمت گار جو حاضر تھے انہوں نے عرض کی کہ ان کے وعظ میں جانا مصلحت کے خلاف ہے۔ وہ درویشوں اور مشائخ کو بہت برا کہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ شیخ کے سامنے بھی کوئی بد تمیزی کریں۔ ہر چند اس بارے میں بہت کچھ کہا گیا مگر شیخ نجم الدین نے فرمایا کہ نہیں مجھے ان کے وعظ میں ضرور لے چلو۔

جب بہت تقاضا کیا گیا تو انہیں شیخ سیف الدین کے وعظ میں لے آئے۔ شیخ نجم الدین کبریٰ مجلس میں آکر بیٹھ گئے۔ شیخ سیف الدین نے جب شیخ نجم الدین کو دیکھا تو جو برا (بھلا) اور زیادہ کہنا شروع کیا۔ ہر چند وہ نامناسب باتیں کہتے شیخ نجم الدین سر ہلاتے اور آہستہ سے کہتے سبحان اللہ یہ جو ان کیسی قابلیت رکھتا ہے۔ القصد جب شیخ سیف الدین منبر پر سے اترے تو شیخ نجم الدین بھی (مجلس) وعظ میں سے اٹھے اور باہر آنے لگے۔ جب مسجد کے دروازے کے قریب پہنچے تو سر گھمایا اور کہا کہ ابھی تک یہ صوفی نہیں آیا! اسی وقت شیخ سیف الدین خلقت میں سے نعرے مارتے اور کپڑے پھاڑتے آئے اور شیخ نجم الدین کے پیروں میں گر پڑے۔ شیخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی مجمعے میں موجود تھے وہ آئے اور شیخ نجم الدین کے قدموں میں گر پڑے۔ پھر دونوں شیخ نجم الدین کے مرید ہو گئے کہتے ہیں کہ جب شیخ نجم الدین اللہ قدس اللہ سرہ المبارک مسجد سے گھر چلے تو شیخ سیف الدین پیدل دائیں طرف چل رہے تھے اور شیخ شہاب الدین بائیں طرف الغرض اس روز ان دونوں نے شیخ نجم الدین کبریٰ سے بیعت کی اور مخلوق ہوئے (سرمنڈایا) اس وقت شیخ نجم الدین نے شیخ سیف الدین سے کہا کہ تمہارے نصیب میں دنیا کا حصہ پورا ہو گا اور آخرت میں اس سے بھی زیادہ۔ اور شیخ شہاب الدین سے کہا کہ تم کو بھی دنیا و آخرت میں راحت ملے گی۔ لیکن شیخ سیف الدین کا حصہ زیادہ ہو گا۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ جب شیخ نجم الدین مسجد سے گھر روانہ ہوئے تو شیخ سیف الدین نے شیخ کے دائیں پاؤں سے موزہ اتارا اور شیخ شہاب الدین نے بائیں پاؤں سے اور یہ مشائخ کا ایک اشارہ ہے اس کے بعد شیخ سیف الدین سے کہا تم بخارا جاؤ اور وہاں رہو تم کو بخارا کی ولایت دی۔

شیخ سیف الدین نے عرض کی کہ وہاں علماء بہت ہیں اور ان کا اہل معرفت اہل فقر کے ساتھ تعصب اور مخالفت معلوم (ہی) ہے۔ میرا کیا حال ہو گا؟ شیخ نجم الدین نے کہا تمہارا کام جانا ہے۔ باقی ہم جانیں!۔

تیسویں مجلس

اسی سال ماہ ربیع الاخر کی چھٹی تاریخ منگل کو دست بوسی کی دولت میسر آئی۔ شیخ احمد

marfat.com

Marfat.com

ابو اسحاق گزرونی (۲۱) کی حکایت نکلی۔ فرمایا کہ ان کا نام شریار تھا اور ابو اسحاق کنیت (لقب)۔ پھر ان کی کیفیت بیان فرمائی کہ وہ جلا ہے تھے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ شاید ایک دفعہ بچپن کے دنوں میں سوت مان رہے تھے۔ شیخ عبداللہ خفیف قدس اللہ سرہ العزیز ان کے پاس سے گزرے اور نگاہ ڈالی تو معلوم نہیں ان کی پیشانی میں کیا دیکھا کہ ابو اسحاق سے بولے آؤ میرے مرید ہو جاؤ۔ ابو اسحاق حیران رہ گئے اور کہا کہ میں کیا جانوں مرید کس طرح ہوتے ہیں؟ شیخ عبداللہ نے کہا کہ تم میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھو اور کہو کہ میں آپ کا مرید ہوتا ہوں۔ ابو اسحاق نے ایسا ہی کیا۔ شیخ کا ہاتھ تھاما اور مرید ہو گئے۔ پھر پوچھا کہ میں کیا کروں؟ شیخ عبداللہ نے فرمایا کہ جو کچھ کھاؤ اس میں دوسروں کا بھی کچھ حصہ رکھو۔ ابو اسحاق نے اس بات کو مان لیا اس کے بعد جو کھانا بھی ملتا اس میں سے کچھ کسی اور کو بھی دیتے یہاں تک کہ ایک روز تین درویش اس گاؤں میں پہنچے اور ان کے سامنے سے گزرنے لگے۔ وہ اپنے آپ سے بولے کہ یہ تین درویش اس گاؤں میں آئے ہیں اور ٹھہرے نہیں جا رہے ہیں مجھے ان کی کچھ خدمت کرنی چاہئے۔ اس وقت ان کے پاس تین روٹیاں تھیں۔ انہی کو لیا اور دوڑے اور پیچھے سے نہیں آئے کہ بے ادبی ہوگی سامنے سے آئے اور وہ تین روٹیاں ان تینوں حضرات کے سامنے رکھیں۔ وہ تینوں کے تینوں صاحب دل تھے۔ انہوں نے وہ روٹیاں لے کر کھالیں اور ایک دوسرے سے بولے کہ اس بچے نے تو اپنی طرف سے ایک کام کر لیا ہمیں بھی اس کا بدلہ کرنا چاہئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں دنیا بخشتا ہوں۔ دوسرے نے کہا دنیا کی وجہ سے وہ فتنے (امتحان) میں پڑے گا۔ میں عقبی (آخرت) دیتا ہوں یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ تیسرے نے کہا درویش جواں مرد ہوتے ہیں ہم اسے دنیا بھی بخشتے ہیں اور عقبی بھی! اس موقع پر خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ یہ ابو اسحاق ایک ایسے کامل حال شیخ ہو گئے کہ بیان نہیں کیا جاسکتا۔ وہ انتقال کر چکے ہیں مگر آج تک ان کے روضے میں ایسی نعمت اور راحت ہے جس کی انتہا نہیں۔ ایک جھگھٹا اور سونا اور چاندی اور طرح طرح کی نعمتیں بے اندازہ موجود ہیں۔

پھر شیخ احمد معشوق علیہ الرحمۃ والرضوان کی حکایت آئی۔ ارشاد ہوا کہ وہ ایک دفعہ عین چلے کے جاڑے میں آدمی رات کو اپنے گھر سے باہر نکلے اور بتے پانی میں جو ہلاکت کی جگہ تھی ٹھہر گئے اور کہنے لگے اے اللہ میں یہاں سے باہر نہیں نکلوں جب تک تو یہ نہ فرمائے کہ میں کون ہوں! انہوں نے ایک آواز سنی کہ تو وہ ہے کہ کل قیامت کے دن بہت سے

لوگ تیری شفاعت کے ذریعے دوزخ سے رہائی پائیں گے! شیخ احمد بولے میں اس پر بس نہیں کروں گا دوبارہ آواز سنی کہ تو وہ ہے کہ کل قیامت میں بہت سے لوگ تیری عنایت سے جنت میں جائیں گے۔ شیخ بولے کہ میں اس پر بھی قناعت نہیں کروں گا۔ مجھے بتایا جائے کہ میں کون ہوں۔ اس وقت ایک آواز سنی کہ ہم نے حکم کر رکھا ہے کہ درویش اور عارف ہمارے عاشق ہیں تو ہمارا معشوق ہو گا! پھر جب خواجہ احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے باہر نکلے اور شہر میں گئے تو جو بھی سامنے سے آتا کھتا تھا اے شیخ احمد معشوق السلام علیک! خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر! جب اس بات پر پہنچے تو بہت روئے۔ حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ فرمایا کہ ہاں جب ان سے بہت کہا جاتا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے کہتے نماز پڑھوں گا مگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھوں گا۔ کہا جاتا وہ کیسی نماز جس میں فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ جب بہت اصرار کیا گیا تو بولے اچھا فاتحہ پڑھوں گا مگر ایسا کہ نعبد و ایسا کہ نستعین نہیں پڑھوں گا۔ پھر کہا گیا کہ یہ آیت بھی پڑھو۔ القصہ بہت کچھ کہنے سننے کے بعد نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور فاتحہ پڑھنے لگے جب اس جگہ پہنچے کہ ایسا کہ نعبد و ایسا کہ نستعین تو ان کے مبارک اعضاء کے ہر رونگٹے کی جڑ سے خون جاری ہو گیا۔ اس وقت حاضرین کی طرف رخ کر کے بولے میں حیض والی عورت ہوں۔ میرے لئے نماز جائز نہیں ہے!

اکتیسویں مجلس

اسی سال ماہ مبارک رجب کی گیارہویں تاریخ منگل کو قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان دنوں بارش کی کمی تھی۔ اس وقت کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ دہلی میں قحط کی شروعات تھی۔ سب نے اتفاق (سے طے) کیا کہ شیخ نظام الدین ابوالمؤید بارش کی دعا کریں شہر کی ساری خلقت باہر نکلی شیخ نظام الدین ابوالمؤید منبر پر تشریف لے گئے اور وعظ کے دوران ہاتھ آستین میں ڈالا اور ایک کپڑا باہر نکالا اور آسمان کی طرف منہ کر کے ہونٹ ہلانے لگے۔ بارش کی بوندیں گرنے لگیں تو پھر اپنی تقریر میں لگ گئے۔ بارش تھم گئی۔ تو دوبارہ شیخ نظام الدین ابوالمؤید نے وہ کپڑا آستین سے باہر نکالا اور آسمان کی طرف رخ کیا۔ بارش خوب زور سے برسی غرضیکہ جب گھر میں آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ وہ کپڑا کیا تھا۔

بولے میری ماں کا دامن تھا!

ان کی بزرگی کے بارے میں ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ ان کے چچا زاد یا کسی اور رشتے کے بھائی تھے کبھی کبھی صلہ رحمی (رشتے داروں) کا خیال رکھنے کی خاطر ان کے پاس تشریف لے جاتے اور وہ خوش طبع تھے۔ ہر ایک سے خوب مذاق کرتے۔ ایک بار شیخ نظام الدین ابوالمنوید رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گئے وہ مزاح آمیز باتیں کرنے لگے۔ شیخ نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو تو اچھا ہے کہ کچھ دیر تمہارے برابر بیٹھ جاؤں یا آوارہ اور بد راہ اور روسیہ چلا جاؤں! یہ بات ایسی عاجزی سے کہی کہ وہ بھی رونے لگے۔

تیسویں مجلس

اسی سال ماہ مبارک شعبان کی بیسویں تاریخ پیر کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی۔ ایک دفعہ حضرت سے شیخ احمد معشوق کی حکایت سنی تھی اکثر لوگوں سے اس طرح سنا گیا کہ ان کو محمد معشوق کہتے ہیں چنانچہ اس روز یہ معلوم کیا گیا کہ ان کو محمد معشوق کہتے ہیں یا احمد معشوق؟ ارشاد ہوا کہ احمد محمد معشوق! ان کا نام احمد تھا اور ان کے والد کا محمد۔

یہ تھی روحانی لوگوں کے سونگھنے کی مشک جو تین سال کی مدت میں جمع کی گئی۔ ان پہلے فوائد کی ترتیب کے بعد جنہیں بارہ سال کی مدت میں پورا گیا تھا۔ یہ دونوں نسخے پندرہ سال کا مجموعہ ہیں۔ اگر اس کے بعد جان کے موتی کو سینے کی سپی میں کچھ دیر قرار ملا تو اس دریائے رحم سے ہاتھ آنے والے موتیوں کو قلم کی لڑی میں پرو دیا جائے گا۔ اور بندہ ان جو اہر سے مالا مال ہو گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

چوں ہنمند فزود بست و دو سال ہستم روز از مہ شعبان
از اشارات خواجہ جمع آمد این بشارت و فتوح جہاں
شیخ ما چو محمد آمد نام حسن اندر ثنائے اوحسان
جب سات سو بائیس سال بڑھ گئے تو شعبان کے مہینے کی بیسویں تاریخ خواجہ کے ارشادات میں سے جمع کئے گئے یہ ملفوظات جو سارے جہاں کی کشود کی خوشخبری ہیں۔ چونکہ میرے شیخ (میرے پیر) کا نام محمد ہے حسن ان کی ثناء کرنے میں حسان ہے (۲۲)۔

تمام شد

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ

